

# خلافت نوکریت

تاریخی و شرعی حثیثت

تألیف:

صلاح الدین یوسف

المکتبہ السنفیہ

شیش محل رفلہ ۲۰۵۰

# محدث الابریئی

کتاب و سنت کی دینی پیشگوی ہائے ولی، حادثی اپنے لامبے سے بڑے مدد ملک

## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر مستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلسِ حقیقۃ النہایۃ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجائزت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشر ہن سے خرید کر تبلیغ دین کی  
کاؤشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے  
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ✉ KitaboSunnat@gmail.com
- 🌐 www.KitaboSunnat.com

# خلافت و تکویرت

تاریخی و شرعی حیثیت

تألیف

صلاح الدین یوسف

مقدمہ  
پیش لفظ

مولانا محمد یوسف بوری  
مولانا محمد عطاء اللہ صیفی

سول ایجنسٹ

امکنستہ بہہ انتہیہ  
شیعیش علی روڈ ۰۶۷۰

جعفر محقق محفوظ !

24888  
لے آئیں

ناشر — صلاح الدین یوسف  
مطبع — گیم بریج پر شاہک پرسلا ہرہ  
تاریخ اشاعت — رمضان ۱۴۲۹ھ نومبر ۱۹۰۷ء

النکتبہ الرحمانیہ  
10/- آیہ ۱۵۸/۱۲

... ۱۱۔ مدد  
07461

مصنف کا پستہ :-

حافظ صلاح الدین یوسف  
جامع مسجد الہی مدینہ مصطفیٰ آباد - ہرہ

## فہرست مضمایں

### مرغی مصنف

- ۱۳۔ مشیش لفظ موصول نام محمد مطلاع الدین خیف
- ۱۴۔ مقدار میرہ موصول نام محمد یوسف بنوری
- ۲۰۔ باب اول، در چند بیانیاتی نکات کی دھناعت  
بگاڑ کے چند بنیادی اسہاب
- ۲۵۔ چند بیانیاتی علطاں
- ۳۰۔ سائل کی اہمیت، حقیقت اور تفاہے
- ۳۶۔ باب دوم، در چند بیانیاتی مباحث اور ان کی تیقین
- ۴۱۔ پائیے چوپیں سخت بئے تیکیں بود
- ۴۸۔ بلند پانگب دعاوی ا بر عکس عمل
- ۵۵۔ طلباء کی مشکلات انا تمام عمل
- ۵۸۔ جرأت کا استعمال، ایک عطر جاک درجت
- ۹۱۔ تینی سوالی لوران کا جواب
- ۹۳۔ ۱۔ تبدیل، طریقہ کاریاں اصول یوں مقاصد میں۔  
۲۔ اسلام کا اصل فتح حکومت کرنے ساہے؟  
۳۔ دلائل حکومتوں میں مسلمانوں کا یکسان طرز عمل۔
- ۹۷۔ خلافت راشدہ میں زوال کا آغاز

- |    |   |
|----|---|
| ۷۵ | پرچم یا جھوٹ، اس سے کیا کیتے؟                 |
| ۷۶ | ہماری باتیں۔                                  |
| ۷۷ | حصار میں دعا بیات، اسناد اور تحقیقی کمی۔      |
| ۷۸ | حکومت صحابہ کی بحث۔                           |
| ۷۹ | حکومت کا متداول مفہوم۔                        |
| ۸۰ | کیتے کی بنیاد۔                                |
| ۸۱ | مشغلوں یا ضرورت، قیمتیں کون کرے؟              |
| ۸۲ | وامن ترکن ہشیار باش۔                          |
| ۸۳ | صحابہ کرام سے متعلق تاریخی روایات الیکٹریکیہ۔ |
| ۸۴ | ڈگرڈ، کیتے کی صحت کے دلائل۔                   |
| ۸۵ | ابن کثیر کا طرزِ عمل۔                         |
| ۸۶ | ایں گناہ ہے است کہ دہ فہر فتحانیز کندہ۔       |
| ۸۷ | خطوط بحث                                      |
| ۸۸ | خطاطی یا عظیم ترین خطاطیاں۔                   |
| ۸۹ | غوث شگوار باتیں، ناخوشگوار طرزِ عمل۔          |
| ۹۰ | سوہنیم خطرات۔                                 |
| ۹۱ | صحابہ میں فرقہ مرتاب۔                         |
| ۹۲ | حضرت معاویہ رضا ادالہ کے عقیم کا رہنا ہے؟     |
| ۹۳ | ماگنٹن کی بحث۔                                |
| ۹۴ | ۱۔ رواۃ تاریخ کا علمی و اخلاقی مقام۔          |
| ۹۵ | ۲۔ تاریخ نگاری میں اور ہمین کا طرزِ عمل۔      |
| ۹۶ | ابن سعد رج                                    |
| ۹۷ | البیہجیہ طبری رج                              |

- ابن عبدالبر رح  
ابن الاشیر رح  
ابن کثیر رح  
تھنڈاد کی چند تایاں مثالیں۔  
ہمارا طریقہ عمل کیا ہونا چاہیئے۔  
مغالطہ انگریزی  
دہی خلطہ بحث۔  
چدیاتی اور غیر مقول اندانی بیان۔  
برقد و تبیول کا معیار؟  
ابو بکرؓ دعویٰ کی سیرت کیوں محفوظ رہی؟  
بچکانہ باتیں  
حدیث اور تاریخ میں فرق اور اس کی حقیقت۔  
تاریخی روایات میں تنقید حدیث کے اصول کا استعمال  
غیر احکامی روایات میں محمد بن کاظمؑ عمل  
غیر احکامی روایات میں تنقید و تحقیق کی ضرورت  
خلافہ بحث  
امدیشہ ہائے دور دراز  
محروم راوی کیا صرف حدیث میں متروک ہیں؟  
غیر احکامی روایات میں محروم راویوں کے صنف کی صراحت  
استشہاد اور اعتماد میں باہمی فرق  
تفہاریا اعتراف شکست  
عجاں سی پوچھنگڑے کی حقیقت و تو عیت  
مولانا مودودی کا ایک اور اچھوٹا نقشہ

۱۸۷	حضرت علی کی بے جا وکالت
۱۸۸	وکالت بے جا کا دوسرا نمونہ
۱۸۹	لیکن اس نمونہ
۱۹۰	باب سوم خلافت راشدہ اساس کی خصوصیات
۱۹۱	خلافت اساس کی خصوصیات۔
۱۹۲	خلافت احادیث یہ کے اخلاق کی نویت
۱۹۳	اخلاق بیان برداشت
۱۹۴	اخلاق عمر رضا
۱۹۵	اخلاق عثمان رضا
۱۹۶	اخلاق علی رضا
۱۹۷	اخلاق حسن رضا
۲۱۳	باب چہارم
۲۱۵	فصل اول احضرت عثمان رضا احترامات کی حقیقت۔
۲۱۶	احترامات کا پس منظر اور ان کی نویت
۲۲۱	عمر فاروق رضا کی نویت؟
۲۲۲	حضرت عثمان رضا کی اقربیار تواریخ پالیسی؟
۲۲۳	عہدوں فاروقی کے عالی
۲۲۴	کوفہ
۲۲۵	سعیل بر طرفی احمد ولید رضا بن عقبہ کی تقری
۲۲۶	ولید کے خلاف سازش
۲۲۷	کو شہر رسید بن العاص کی تقری
۲۲۸	بھرو
۲۲۹	صر

## شام

- ۷۳۵ مردیں نہ حضرت خانہ کے سیکھی۔
- ۷۳۶ اسیاں دو بڑے سے اعراض
- ۷۳۷ مرکز انتیارات، ایک ہم خانہ؟
- ۷۳۸ تعلیٰ احترام، شخصی رہایات۔
- ۷۳۹ مروان کو ملی قسم دینے کی حقیقت
- ۷۴۰ ناخوشگار رہنے مل
- ۷۴۱ نیالی مشق
- ۷۴۲ فہرست عالی غمانی
- ۷۴۳ ۱۔ طناد، سیشیٹ عالی حکومت
- ۷۴۴ تعلیٰ بیوی صاحب اللہ علیہ وسلم۔
- ۷۴۵ عالی ابریکرہ
- ۷۴۶ عالی عمرہ
- ۷۴۷ ۲۔ سیرت و گھاسکی تلب مائیت۔
- ۷۴۸ حکم بنا بیان الحادیں کی جزو دفعہ سے مکمل استنبال۔
- ۷۴۹ ۳۔ برے کردار کا ظہور؟
- ۷۵۰ دلیدڑ کے متعلق ایک تفسیری روایت احمد اسنی کی استادی تحقیق
- ۷۵۱ روایت کے مختلف طریق
- ۷۵۲ دلیلشکی شراب فرشی کا واقعہ
- ۷۵۳ حضرت ملرہ اور ان کے عالی کاظمی مل۔
- ۷۵۴ عاذ من در بیوی میں ہی
- ۷۵۵ ۴۔ حضور مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق قدر امداد
- ۷۵۶ ۵۔ حضرت مروان رضی کی سکریٹری شپ

- ۳۸۹ مردان کی طرف نسب نخط اور اس کی حقیقت  
سازش اور نزدیکی اشورش کے حقیقی اسباب  
دوسرے امر حملہ اشورش و بخاوردہ  
الوامات اور ادائی کے محققی بحثات  
فصل دوہم، سعیرت علی روزگار کی خلافت —  
تیسرا مرحلہ
- ۳۹۰ خلافت علی روزگار کا انعقاد  
خلافت کی راہ میں تین رشتے  
سعیرت علی کی خلافت پر صدم اتفاق کے درجہ  
اکابر صحابہ، جامیت ولانا فونیت کی راہ پر...!  
سعیرت حاکمہ روزگار کی طبقے ہے؟  
خوبی عثمان روزگار کا مطلب ہے، بھیتیت گورنر شام؟  
فصل سوم، جنگ بجلی۔
- ۳۹۱ چوتھا مرحلہ  
مقصدِ اجتماع  
سامعیٰ صلح  
آغاز جنگ، اسبائیوں کی شرارت  
واقعات کی نحط تصویر کشی  
جنگ سے کناہ کشی نصوصی شرعیہ کی بتا پرستی۔  
موہوم سہماسمے پر ایک نحط دعویے  
حضرات طلبر روزگار کی کناہ کشی  
حضرات طلبر روزگار کا قاتل؟  
اول کھا غسلہ تاریخ

۳۵۲	فصل چارم، جنگ میقین
۳۵۳	پاچھوں امرحلہ
۳۵۹	خلیفہ کی اطاعت سے نہیں اختلاف کی آئینہ جیشیت سے انکار
۳۶۰	خونِ عثمان رہ کام طالبہ، حضرت معاویہ رہ کا نقطہ نظر
۳۶۳	بے دلیل و کالت
۳۶۷	دنیا سے اسلام کا خیالی نقشہ
۳۶۸	حضرت معاویہ رضوی مرد و بن الحاصن پر ایک گھاؤ نام الوام
۳۷۰	محبوبؑ گواہ یا جسٹی رہایت؟
۳۷۴	فرات کے پانی پر قبضہ، ایک اور افسانہ
۳۷۵	حضرت معاویہ رہ کا جواب نقل کرنے میں تما انصافی
۳۷۶	تل عمار حق دباطل کے لیے نعمت صریح
۳۷۹	بانی گروہ کا حصہ؟
۳۸۱	حق و باطل کی علمت؟
۳۸۲	علماء کے اقوال سے خلط و استبدال
۳۸۵	شاہزادتِ صحابہ اور عقیدۃ الہست
۳۸۹	جگل چال یا امت کی نیرخواہی؟
۳۹۳	شاثشوں کا تقریب
۳۹۵	فصل پنجم، معاهدہ تحریک
۳۹۵	چھٹا امرحلہ
۳۹۶	معاہدہ سے کی عمارت اور اس کی خاص دفعات
۴۰۲	فیصلہ کی تفصیلات
۴۰۳	حضرت علی رضی کی طرف محسوب تقریبیں؟
۴۰۵	— خلیفۃ المسینیں کی بے دست و پائی کا نقشہ —

- حضرت معاویہ احمدان کے اصحاب کو حضرت علی رضا کا خراج تھیں  
حضرت علی رضا کا ساتھ دیش پر انہما بِ افسوس؟
- ابو عبید البر کے بیان کی حقیقت  
حقیقت پسندی یا کھلی حقیقت؟
- عہدیت کے مزید شواہد  
نصیل ششم، اخلاف معاویہ رضا اور علی محمدی
- آخری مرحلہ  
ایک دچکپ تھا
- دلویتِ محمد  
شرمنی حیثیت
- قیصرت و کسر و قیمت  
ابن حمدون کا نقطہ نظر
- تصویر کا مسخ شدہ رنج  
صحیح روایات اتصویر کا دوسرا رنج
- بخاری کی ایک افسوسیات  
صحیح مسلم کی رعایت
- بخاری الحنفیت کی رعایت  
شہری خالوں کا آغاز
- باب بیجمہ میں خلافت و ملوکیت کافری اور سفرت معاویہ رضا  
پر اعتراضات کی حقیقت  
خلافت اور طوکریت کافری  
۔ تقریرو خیلہ کے دستور میں تبدیل؟
- صلیحہ برحق یا استغیث

۳۴۴	عام الجماعت اور مولانا کے جنبات
۳۴۵	حضرت معاویہ رضی کی یاک تقریریہ
۳۴۶	طریقہ دل عمدی، العامل انت
۳۴۷	نسبہ خلافت کا سچھ طریقہ
۳۴۸	اسلام کی یاک ہدایت کا مختصر مضمون
۳۴۹	۲۔ خلفاء کے طرزِ زندگی میں تبدیلی؟
۳۵۰	حقیقت حال
۳۵۱	۱۔ بیت المال کی جیشیت میں تبدیلی؟
۳۵۲	۲۔ آزادی انہما برداشت کا خاتمہ؟
۳۵۳	دودی طریکت میں تنقید اور انہما برداشت کی آزادی
۳۵۴	حضرت معاویہ رضی کے قدیم
۳۵۵	ادوار پابھر میں
۳۵۶	جگریکی عدی کا واقعہ قتل اور اس کی حقیقت
۳۵۷	چند اور واقعات اہدان کی حقیقت
۳۵۸	۵۔ عدیہ کی آزادی کا خاتمہ
۳۵۹	۶۔ شور وی حکومت کا خاتمہ
۳۶۰	۷۔ نسلی اور قومی حصیتیں کا خاتمہ۔
۳۶۱	۸۔ تاریخ کی بالآخری کا خاتمہ
۳۶۲	حقیقت حال
۳۶۳	۱۔ کافر اور مسلمان کی حداشت
۳۶۴	۲۔ مسلمان اور معابرہ کی دریافت
۳۶۵	۳۔ حضرت علیؓ پر سب و کشم
۳۶۶	۴۔ مالِ فہیمت کی تقسیم میں تبدیلی

- ۵۳۸ - استلاقِ زیاد
- ۵۳۹ - گورنمن، تائفون سے بالاتر
- ۵۴۰ - قطعی یہ کی مزرا
- ۵۴۱ - بُسری ارتھا کے ظالماء افعال
- ۵۴۲ - لا فون کے ساتھ غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک
- ۵۴۳ - حضرت معاویہؓ کے بعد
- ۵۴۴ - حضرت معاویہؓ رحمۃ اللہ علیہ اوری، علائیہ امت کے تبصرے
- ۵۴۵ - عبیدِ علاؤیہ رحمۃ اللہ علیہ داشدہ میں فرقی کی فوجیت
- ۵۴۶ - فصل دهم، سوالات اور جوابات -
- تیسرا، چوتھا اور چھٹا سوال
- ۲۵۹۱۱
- ۵۴۷ - پانچواں سوال
- ۵۴۸ - ساتواں سوال
- ۵۴۹ - آٹھواں سوال
- ۵۵۰ - ہمارا نقطہ نظر اور اس کے ثمرات تو حصہ
- ۵۵۱ - درخلافت و ملکیت ہا اور اس کے نتائج
- ۵۵۲ - ایک ضروری وضاحت

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### عِرْضٌ مُصْنَفٌ

#### حَامِدًاً وَ مُصْلِيًّا

کوئی بہبود و لانا سید ابوالعلاء عین سعدی صاحب کی کتابت خلافت مولویت ہے، عرصہ ہے اطیع ہوئی تھی۔  
اوپر اپنے بالا قضا طور پر لانا کے ذائقی سماں سے ہا نام و نز جان المقرئون، یہیں خدا گئے ہوئیں اس کے بعد ملک کا بھل  
یہیں شایخ کو یاد گیا ہوا لانا کی اس کتب کا موضوع تاریخ اسلام کا ایک ایسا انتہائی تاریخ درود را دروس کی ایم  
ٹھنڈیت ہے جس کے متعلق اپنی مستندت کے ہاتھ پر موضوع یا تو تاریخی سمجھا جاتا ہے یا پھر کسی صراحت سے  
نیا ہو منزک تجوہ لانا نہیں ہے موضوع پر استاذ ای ہدیج کے ایک خاص درویش پھیری اور ستم غریب یہ ہوئی الگو  
حدوث کے بعد یہ کتب محروم و بجود نہیں آئی۔

۱۔ اس کے پیشے پر افراد ملکی علی یاد ہی مقصود تقدیم کر اس نکار کے اعتبار سے ایک خاص سیاست  
وزارت اس کا سبب ہے۔ اکبرت کا دیوبندی ایک عرصہ ہے جو پاکستان پر مسلط تھا اور قائم مولانا اس سے  
نہ رکھتا اور اس کے قاب و احتساب کا خاص نشانہ تھے تبیخ اس سیاسی طور پر ایک سیاسی فہن  
میں بدل کر مدنظر تھا لیکن اسی کی وجہ پر کھنکی تحریک ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ سیاسی  
کوئی ای تجوہ اور باقنوں کے مقابلے میں، میدان جنگ کی طرح، کوچیش کے سیاسی شکیب و فرزان اور اس میں  
اپنے طوفہ و حمل کی کامیابی کی طرف زیادہ بددول ہوتی ہے اس نکار کو سمجھنے کے لیے بطور مثال پاکستانہ  
ماقفلہ انہیں ہے مولانا۔ وہی صاحب کے ۲۱ میں نشانہ کو دیوم شوکت اسلام، ممتاز کی اپیل کی اس تاریخ  
کے قبیلہ پریل کو دیوم میلاد مختار ہے۔ مولانا کے ملک کو اپنے اعتبار سے دیوالی کا یہ طور طرق چوہار سے ملکی  
ملکی ہے جو اپنے خدا مختار ہے۔ یہیں اس سے سیاسی مزدورت اور سیاسی ذہن کی کارروائی نہیں تو اور یہ  
کہیں جو کہ مولانا نے اس دنخدا، یو ہیلاد، کے جلوس کے جو نوکی حصہ اس سے گناہک نکالی گئی جس  
خالیت کی صورت میں اس کی زبان کے اعلان کردہ یہم شوکت اسلام، کے جلوس پر پڑھا گئے اور

”سیاست“ کی نامسلانی سے فریاد

یہ وہ سیاسی ذہن ہے جو متعدد و مرتقبہ مولانا کی اسلامی فلک کو ملک را ہوئی پر ڈالنے کا بھث ہے اسی  
اسی حقیقت کا اندر ایک مرتقبہ مولانا کے ایک اور مقام اور نامور فاضل جناب ڈاکٹر سید عبداللہ سالم  
پر پہنچ اور متعجب کالیخواہ ہبھور نے مولانا کے متعلق لیتھا انہوں نے ایک اخباری نامہ نگار کو مولانا کا ہے متعلق  
ایک سوال ہا جواب دیتے ہوئے کہ فرمایا تھا۔

وہ سیاست کے لئے بوجدہ تصورات اور مدلل ہی پہاڑیوں سیاست یعنی پیدا ہو گئی ہے ان (۱۹۰۰ء) کا اسلامی نکار ہی بگردست گریسا سیاست ہے رکت اللہ اسلامی نکار اگر ہم خواہ نے اگر تو ایقتضائی شد.

۲۔ مولانا کے نکار نکار کا نادیر اس ایک حصہ پہلو (ارت) پر اس طرح مرکوز ہو گیا کہ دوسرے نہام ہم لوگوں کی نظریوں سے او جعل ہو گئے اور ایسا ہونا یعنی قدرتی تھا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ شی کے لیے ہمارے ہم لوگوں کو مرکز نظر نہیں لیا گئے اس کے درستے پہلو نظر کی گرفت سے وہ جانتے ہیں۔ مولانا کے ساختہ یعنی حادثہ ہوا صرف تکریت کا برلن کی نکار و نظر کا مرکز بن گئی ہے، ان کی نظر اس فرق پر گئی ہو گیا۔

خود ساختہ نیٹ ہڈی شلکی تحریت اور ایک جلیل اعقر صاحبی کی دلکشیت، میں ہے نہ ان تھا منوں کی طرف ہو اس موضع کے لیے ضروری ہیں۔ جھاپڑا کام کی ذات اور ان سے مشتعل قلعہ داد میں بھج تاریخی دواد کو ہی طلب برائی کے لیے جس طرح یہاں استعمال کریا اس سے قطع نظر کا سطح اس عقیدہ دوڑا جا کیا جائے گا جس کے پہنچت سالم چلے کر ہیں۔

حیا کو اپنی موجودگی طیبا نیوں سے کام کشتنی کی پار لگے یا وہ میاں ہے  
جس ملک کے نسل کا حادثہ ہم مولوی نکار ہے جو خدا نے کا باعث بن گیا ہے مولانا سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں احمد یخنڈلی تھوڑے و برتری کا احساس چار سے تھک میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ ایک عالی حصے کا حاضر ہے وہ دستدار مسٹر یخنڈلی نہ تھوڑی تک سب شوری یا غیر شوری ہو رہا اس کا ذرا دا کے اسی پروجاتے ہیں اس پر ستم یا کھدا ہی سید حضرات، بھی تک اس گردی سبیت کے حصار میں مقید ہیں۔ جو اسلام کے قرنِ اقل میں بعض سیاسی دجوہات کی پیداوار ہتھی وہ صناند لگیا وہ سیاسی مناقشات نہ تنہ پوچھ کے آن تدرج بنا کیا داکن سالی صناند لیکن ان حضرات نے وہ وقتی سیاسی نشانہ کی یاد کو خیال پایا کہ طرح دلکشی و دعائی پر مستظر کے اپنے آپ کو یہی کو تھبیت جا پڑیں پہنچا کر کھا ہے تھہر پر یہ خاندانی وہ ہمیں حصار انہیں حق کی طرف آئے یا اس پر ہو رہ کر نہیں بانجھیں جھاپڑے ہیں کیون ملکی نہیں اگر مولانا ہمیں خروج سے اس راغب سبیت کے اسبر پڑھے تو ہیں اسکا اندھہ مولانا کے ہم خروج سے کیا جاسکتا ہے جو اچانک خسال قابلِ انتہا میں ہے اعزوقان، لکھتو کے شاہ ولی اللہ غفاری میں رخص تجھیں حقیقت اعناء ریخ تجھیں ہیں شاہ ولی اللہ کا مقام ہے کہ عزوقان سچھا تھا جس میں حضرت معاویہ سبیت نہیں نہ امیر، کہ متعلق سخت اتنا مناسب رائے کا احصار کیا گیا تھا۔ اب یہ صورت تجدید و احیائے دین کے نام سے لکھاں شکل میں مطبوع ہے غالب ہی وجہ ہے کہ بعض موقوں پر شید حضرات نے مولانا کو تقرر کے لیے اپنی خاص بحاس میں دعویٰ کیا۔ پہنچا ہے کہ ہم کا نظر نہیں میں اپنی سمت کے علا، کوید ہو گکر لینا کوئی خاص بحاس نہیں ایسا مل ماؤچتا ہی رہتا ہے اصل پہلو جسکی طرف راقم تاجر الالم ہے وہ مفترم کی وہ خاص بحاس میں جسیں جسیں شیعہ کی طرف شہید کو دعویٰ نہیں کرتے اپنی سے شرمنہ مولانا مولودی صاحب کو حاصل ہو جائے کہ انہیں حرم کی خاص بحاس میں ایک شید ریشد کے لئے مخصوص کیا گیا ہو لانا نہ وہاں جو تقرر کی گئی۔ وہ

و شہادت امام حسین علیہ السلام سے مطبوع ہے اس طبقہ کا ذکر ہے وہ ضمیم صفات نہ ہو بلکہ پھر مرتبہ بسبب تقدیر  
تہیات جلد سوم یہ شائع ہوئی تو اس پر بایں الفاظ اور شعرا۔

وہی دراصل ایک تقریر ہے جو صفت نہ فرم نہ ساختہ میں لا جو کہ دیکھیا یا شد کو کمان پر منعقدہ

میک پیس میں کی جاتی دریکھ تہیات صفت سوم طبع قول، مارج قول، ایک بیان کی عقی جو ماہنامہ ترجمان الفرقہ ان

پر تقریر لاحر میں شیدہ سی صورت کی ایک خصیت کی شستہ میں یہی کی عقی جو ماہنامہ ترجمان الفرقہ ان

لاہوری اشاعت مار جولائی ۱۹۷۰ء میں شائع ہوئی تھی دیکھت مشاہد اسی پر بحث کریں

اس تبدیلی کی وجہت کیوں محسوس ہوئی اسکو ہر شخص سمجھ سکتے ہیں اور سال بعد میں ایک شیعوں کے طالب پڑا شام

کے لیے ایران پہنچا گیا اور دیکھت ہے کہ اکام اور نقطہ نظر میں ۳۲ طبع و سیر (۱۹۷۸ء) کو خلافت مذکوہت میں یہ

رشت آنحضرت کی ساختہ الگی ہے کہ حقیقت و صفات نہیں سچی کہ شیدہ صورت تک نہ مولانا کی اس تفہید کو حاصل کرنا

پڑبت وشم قدر یا یہ دیکھتے اس کتاب کا مفتراء اور مکمل جامیں گئے دعا رملقا توہین میں تلاہ پر ہے کہ ان ساختہ

کچھیں تقریرات بکار ہیں اور غیر جانبدار اور تہییت میں نظر ہو جاتی ہے پھر اس کتاب میں کوچھیں ہے وہ عالم اکٹھا کر

ووجہ ہے کہ اسی تفصیل کا درست امنہیں ہو لائی گئی طرف سے جبکہ سلسہ صفتون شیعوں ہو اخراج قلم نے اسی نام

میں مولانا کے ان افکار پر سرسرا لود بجزوی تہییتیں ہیں جسے اہل علم نے سراہ الدین افہم کی وسائل افرادی کی اس

حد شوق تھیں اور دوسری تہییتیں ہیں جسے اہل علم نے سراہ الدین افہم کی وسائل افرادی کی اس

کوہہ میانات اور نہیں بھاگی ہو جائی موندوں کے شیانیں شاندار مولانا کے دین و سیاسی مقام پر کچھیں تقریر فرمودیں تھے

ابتدی حضرت مولانا اظہار عاصی عثمانی ناد مولانا محمد تقی شاہی مدیرہ اصلاح وہی تہیید اس سے مستخط ہیں۔

علاوه پر اس ان کتابوں پر تہییدوں میں بہت سے وہ اہم پہلو تشریف پھر ہو دیتے گئے جو انتہا مزدوری سے اور

ان سکیعیرت میں تہیید نا عمل ہیں اور اس کا اہم سر اور اس کے سلسلہ تم نے بھی شروع کیا تھا اس

اسے پاہنچنے تک بھی پہنچاؤ ان سب باقاعدہ کی پیش نظر افہم پری ملی ہے بعض اعلیٰ اور مکنتر کی تاریخی کے بارہ گیج مرحلت

میں بھی کچھی نہیں زیاد کھا پڑتی اور اس کا لاؤ تسلسل کے ساقی پر حوصلہ اتم نہیں سہار دیا گیں کیونکہ بھے و سلطنتی ٹپے

بڑا ہاہی و صحت ہو موضع کی زیست اور علی اکبر کے فتح ان نے ارجمند بھی تقدیر ڈالی میکن اشتد تعالیٰ نے بہر سالہ ۱۵۶۶ء

کرنا تھا جو اس کی توتین خاص صفات میں ایک ایسا نام و مختار افغان مردوں کو اس کو اس سے ہے کہ یہ کتاب بھی ہمارے

کھوئیں ہے اس میں بھی اسی پہنچنے کے شیئیں تاہم اتنا مزور ہے کہ خاصوں کے بدوجو یہ لذاب اس مخصوص کو کیا

گھیں تمام اتباووں میں شیدہ پوچھو اخزو دیت کی حاصل ہو اس میں غریب کارکا ایک نیا توہینیں بیانیں کو ساختہ کر کے

کو اس موضع کا مزید تحقیق کیا جا سکتی ہے اور تمام اہم بیانات کو زیر بحث کیا جائے جو اسے جو معلوم اس اتباوے کے درستے

نادین سے کیوں نظر انداز کر کے سالانہ ان پر تقدیر کی جائیں خود کی تھا کان کی وجہ سے خواہ و خواہ میں کیا ہے

پڑی تقدیر و شیدہ میں انہوں کا شکار ہے ہر محل راجحہ نے اس امر کی پوری کاشش کی ہے کہ خلافت مذکوہت میں بوجو

علم انسانی ہیں رہی ہے یا چیل سکتی ہے اس کا ازالہ کیا جسکے اس کاوشش میں کمان تک کامیابی ہوئی اس کا بھی پورا احساس

ہے اسی علم و فکر کی آزادی کے لئے اسکا میمع اذرا نہیں بھر اتم کو ایڈ ہے کہ اپنے علم و فکر کی فضیلی خامیوں کو لے کر تابیوں سے

## مذکور اکہدہ مذہبیں ۲۔

۲

موجودہ حالات میں اس تدبیکی اشاعت پر اندر میں کی جا سکتے ہے رانگ لاؤ جو دھرمی اسی مددات کو احتفاظ کرنے والے  
کوپر اس اس سے بے ہیں دین کے آپس ہیں پر سکلا جو سے لادائیوں کی انگوڑو اور لادائیوں کی صورت میں ہر جگہ یہی اس  
خواجہ کی وجہ سے راقم نے اپنے تک اس کو جبارات میں پھیلانے سے لارڈ کی دنیوں کو حفظ کرنے والے حالات میں ہونا کے خلاف جبار  
اس مسجدیہ شریعت چھا پتھر تجارتی تقدیر نظر سے جو ہر جز تعمیق شریعت میں سلسلہ تحریص میں ہے مذہبی سلسلہ  
اس کے پیش نظر قدر سے شریعہ جبل اس طرز تقدیر کا کندہ پیچا نامناسب نہیں بھاگا اب وہ بھٹکا مذہبیہ میں استھنیک  
کم ہو گئی پھر احمدیت میں نہ کوئی سکون اور طرفیہ اپنی پھر احمدیت میں کے طرز میں سمجھا ہوئی ہے یہاں بالآخر  
کافم مذہبیت و مذہبیت پیلی تجیہ شایع ہوئی اسلامیت اسلامی تقدیر اور افسوس یا اور اسلامیہ قسطروں میں پر ا  
تفصیلی بر اس کا مردمانہ سور و دی صاحب کو بچانے کی سیلائی اور اس سلطنت میں وہ قسم راذھد صراحت گیا جو زمان  
حالات کے حوالے سے جماعت اسلامی کے ہم لوگوں کو کوئی تکمیل اور صورت کا تھیں یہ کہ ہر یہیں آنکھوں اور ناموں وہی کھڑا تھا افکار پر چھوڑو  
اور علم تجیہ سے کوئی نہ اسماں پر اپنے سکے یہی بحث تمام باتیں وکیل صفائی میں خدمات حاصل کی یہیں کی اسلامی سلطنت میں  
کریتام و عذہ و فرود میں یہیں پھر جماعت اسلامی کا ایہ تھا یہ تقدیر و مشتری ہے کہ ہونا اور وہی مذہبیہ کی صحت  
پر اپنے خدا نے دی جائے اگر جماعت اسلامی میں اور ناموں وہی صاحب کے ساتھ ہو تو یہی احسان ہے اس معاشریں وہ کسی  
پر اپنے خدا نے دی جائے اگر جماعت اسلامی میں اور ناموں وہی صاحب کے ساتھ ہو کہ تسلیم حکمیت کیا ہو تو یہی مذہبیہ کا  
ہدایت ہے۔ مذہبیہ مذہبیت میں ہی ہونا اور وہی صاحب کی ذات کو پہنچا فرض ہے تو حکم بر کام پر کمی تجیہی وضاحت ہے ایہ  
ہدایت ہے جو ہر یہیں سلطنتیہ کیا تھیں میں بھرپور اسلامیت اور اسلامیتی تحریکیں جو جس سے میں خدا رحمت  
مذہبیہ کر دیا ہے۔

### مرجام اذن بر وقت بلا

تری آزاد نکتے اور مد یغہ

مذہبیہ بھی راقم نے ہر دو کاوش کی ہے لتجیہ سمجھیں اور علمیہ مددوں سے تجادہ نہ کر سکے اس یہہ مذہبیہ کی نہیں  
پھر اور علمیہ مددوں کی صاحب کے خاتمین پر کوئی خدا نہیں ہے جس سے خدا یہیں پیدا ہوں جیسی ہی اس تدبیکی مذہبیت  
کے کمی پر کا خطرہ و خوبیں یہیں طریقہ کیا تھیہ ہے جس طرح مذہبیہ اور مذہبیہ ایجاد خپر بار بھول کیا ہے  
اکٹھنی اس سماں میں ہونا کے کی ہے کہ صاحب کی تجیہ و خیال کی اجنبیت کے کمی نہ کرے دل میں اس بات کا احساس کیا ہوئیں جو کاری  
یونیورسٹی لارگی میں حالات میں کیوں تھیہ رہ گئی ہے تاکہ جو اس کے کمی نہ کرے کہ جس اس کی اشتافت پر جس جیسے ہو جو کا  
اصح طریقہ تھیں ہے اس سلطنتیہ کیا تھیں جو پھر مذہبیہ کا جو اسی مذہبیہ کا جو اسی مذہبیہ کا جو اسی مذہبیہ کا  
حکم نہادوں اور ایسا ہی صورت ملے ہو گئی ہے کہ ہر طرف اپنے ایجاد کو جماعت اسلامی اور وہی صاحب کی طرف ضرور کر دیا جائے  
جس کی اسلامیہ اور صورت میں ہے تو اس طرف اپنے ایجاد کی خاتمی و ایجاد کی افتخار و ایجاد کی ایجاد کی افتخار و ایجاد کی ایجاد کی ایجاد  
کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد کی ایجاد  
بیجھتیہ کا کشکہ نہ جوں جس میں یہہ قسمی سطحیات اسلامی کا ہو جو خاص بُرکا طرح بتلاہ ہو چکے ہیں جو ایک کسی طرف سیکھنے

دیتے گوئا مسودہ دی صاحب سے لمحیں فکر و نظر کوئی چوک بھی جوئی پس خلافت ملوکیت کی حادثت میں ایسا بیان ہے کہ درود سے علاوہ نہیں  
بھی ان فکار و نظریات کا اقبال دیکھا جسکا انہوں کتب بھی کیا تھیں ہے لیکن اول ایسا ملک فلسفی و مدرسے کی فلسفی کوچہ را کی یہ مسند نہیں ہے لیکن  
مولانا کے اذای بیان اور دروسے علاوہ کے بیان نیز بھی بہت قرقی ہے دروسے علاوہ کے بیان ہی بھی جیزین ایسیں کیسٹ اعضا بالکل غیر مشیا کا کل  
پس بجرا کو مولانا کے ہاں بیجا بالکل غیر مشیا اور دوسرے شکل ہی رہے تا اس تھار کو تقدیر کیا جائے اور خلافت قسم کے سیاق پر بھگا  
ہوئیں ہیں جس سے اور دون طبقہ مونا اکشنا بھی جسی دوسرے سے ایسی صورت مصروف کیا ہے تیکن مولانا مسودہ دی صاحب کا ہمہ نامہ ہے کہ اس دو  
مولانا کو صرف پھانتچھا شکست اور سنتیب خوش ہیٹھیں اور بنالنیون کی خوبی کے ساتھ پڑھنا شکل ہیں متوسط درجے کے دو لوگوں کا ساختہ کو کہا ہے  
بلکہ ان اضطرابات کا مولانا اس گھن ارجح اور بیندازی کے ساتھ پڑھنا ہے لیکن سے کہ علم اور صدود مطالعہ کے صالوں میں خوش ہوئے ہیں  
لیکن گمن و حجہات مسعود و مولانا کے اطراف تک روشنیت نہیں دی جاسکتی جو دیگر حاصلیں ہیں متناسب کی تباہیں ہیں جو بلکہ بیان کیشیتیہ ہے اور اسی  
جس اولیٰ ملکی شاعر نے قری خوبی سے ادا کیا ہے۔ ۴

### ابنک شفیقی بھجے اور بھے ہوئے گھری تم آئے تو گھبے سرو سامان نظر آیا

حیثیت ہے اکتوبر ۱۹۵۱ء اس کتاب سے صادر کی قصر نیجیں جو تقبیل کی پھر اس پر پڑی سے جڑی و کامن مخالفی کی پیدا ہیں  
لئے بالخصوص صورت شہزاد معاویہ کو جو کلمہ اراس کتب بھی ہیں کیا لیا ہے اس پر وہی ملکہ پر مولانا سے خلاف بر کی کامن ہے۔  
تم سلامت پوکس شوق سے ہمچاری لاش تم ذا آئے تو یہ و فتن شیر سامان ہوتا

آخرین دفعہ خود فوجی افسوس صورت مولانا مسعود احمد صاحب حنفیہ دامت بھائیتھم کا انتقال ہکلر اسچین جو جیزین اور  
انہا صلی ہیں بالکل انسان پچھمیں لکھنو نے صرف پانچ تک منانہ سماستفادہ کی جائیدادیں بلکہ انتقطوں ہو جو کہ علاقہ کا ایسا درود  
مجھ پر پیس رکھنے کی وجہ سے صورت مرتکب ہوا اور بوقت نزولت پہنچانی بھی کرتے ہے سعادت اخیریں پورے متعدد پر فراز غزالی اور عزیز  
کارکھانیہ دو افریقیہ ہے اور نکتہ تفاذن سارہنائی اور حوصلہ افزائی کیفیت کام باشیکل کیمیں پرستی سکھتا ہے اور لذت قمر ہر چشم بند پہنچانے پر ایک  
حضرت مولانا حمیدوس ساحب بوزری دامت بیوی نہیں جیسا قدرت مونن پیش کرہوئے تے پس ازان قد مصنون کو صورت مقداری ایک  
شال کر کنلی بیانت عنایت فراہم کی جیسا بس نسلک فدائی علی صاحب مصونوں پر جو کچھ لکھنے کا فنا نہیں ہے لیکن اول تکانی از خدمت  
پکلہی بہت بھگی ہے دروسے سو قدرتک بیرونی مختار چند مقات پر کیا ووٹ دیئے جا سکھیں تیریں سکھاں ۱)

حیثیت مولانا مسعود احمد صاحب کو کل مخالفی کی پھاد را سکھتھاں تو مولانا صاحب کی فیصلہ ہے کہ توکل مصالی کے خروجیات مخالفی  
یعنی مخالفہ کر کر ایسیں بر قائم اپر اپر اپر اپر متعجب منکر کا صیغہ استعمال کیا جیسے کیا جیسا بطلکی مخالفی نہ اشکل پیچھوے خدا شمشیریں دیتے دیانت ۲)  
خلافن لکھتے ہے بالکل کھوئی اچا بس جیسی یہ کرمت بآجودی اس کتاب کو خلافت ملوکیت کے جواب میں ضید اور اسکے لئے  
کوئی مدد نہیں تو اکاروں سے لکھے اس کتاب کو زیادہ سے نیا دیجیسا نے کیا کو اکشش کری تا کہ خلف افسیان دور اولاد صحیح شکر  
سے لوگ اشتہاروں اس کتاب کے لکھنے سے لکھنے کو زیادہ سے نیا دیجیسا نے کیا کو اکشش کری تا کہ خلف افسیان دور اولاد صحیح شکر  
لکھنے کام سے عالمی خواہ ہے تقدیر بہر حال تقدیر ہے وہ مدحت نکاری نہیں مقصود مرا بہرحال مولانا کی تعمیق دیا ہاتھ نہیں ہو افق  
صرف افلاج ہے کہ نہ کسی کی طرف نہ تھی کوئی جیزی سے کی طرف اور ہدایت کوئی نکری تھا ترقی ملکوں کر کے تو پھر کو دل رکھو اور صدر  
ہوتا ہے یہ تاباہی دکھ اور صدر کا ایک اہم ہے اسند تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل میں اخلاص ہونے۔ ۳)

صلاح الدین یوسف مصطفیٰ آباد۔ لاءہر

## پیش لفظ

### حضرت مولانا محمد عطاء اللہ حنفی بلاہور

اگریات بھی سے کہہ صفت اسمیاں و صفت ہیں تازہ تو تابہے تو جناب محترم مولانا ابوالعلاء مودودی صاحب مودودی کا انتیازی تصنیفی و صفت تقدیر ہے یوں سمجھے کہ آپ اس کے باڈشاہ ہیں مغربی تدبیب پر تقدیر تکمیل جدید صفت یعنی معاشرہ مسائل تقدیر کا ٹکریں دے کے درود درج ہے تقدیر مسلم تیک پر تقدیر مان دنوں سے میں تینیوں کے پیشوں پر تقدیر کئے نہ ہوں پر وگاریوں اور دیگریوں پر تقدیر جماعت اہل حدیث پر تقدیر مذکوریں کرام پر تقدیر حتیٰ کہ سمع بخاری کے معیار صحت پر تقدیر و گھم جبراً سعیادوں نے ترمیمہ بن

چہڑا زندہ میں اور راشد ان کے طرزِ تعلیف سے بہت نامہ بھی ہوا۔ اسی کی بیویات وہ جدید مسائل کی تفہیق و تحقیق  
بیوی پر ختم معاصر صفتین پر فوتیت ملکہ تپریں پھانپر سد اور پردہ احمدان جیسے بعض دوسرے مسلسلوں پر اپنی تلبیہات شاہ کامل تھیں اور اس سلسلے میں پھیلے ہوئے مخالفوں کا حضرت مولانا تک تقدیرات نے خوب بوبہ تکلاند پوسٹ مارٹر کے ان مسائل میں اسلام کی خاص تعلیمات کی تائید کی کاہت متنبہ تھی  
اور کوئی دیا ہے انش تعالیٰ اس پر ان کو جو اسے جیز عطا تباہی عیوب کے جلد یقینی پھر شیز کوئی حق کھلتا ہے  
اور بہرول حاجی چند گوری بھی امر واقعہ ہے کہ پیسوں صدی سیکھی تربیع اول میں سارے عالم اسلام پر انگلی  
کا حصہ اور بطور معاشرہ صلیب استیوار تھا وہ مولانا صوفیت کا تقدیر کی نہ میں نہیں آسکا جبلہ علیہ  
حکومتیں کی تھیں اور نہ ملکیں اور سید جمال الدین القاعده اور بعد میں مولانا ابوالعلاء ازاد کے سیاسی  
تکفیریات اور ان کی تقدیرات دھانی ہوئے اور انہی کا بھت اخروۃ الواقع اور علی الذر کے مجلات الہلیان  
اور اپدیخ و خیر ماس پر شاپرے ہیں۔ اسی طرح سیاست بھی بطور مذہب مولانا مصروف کے موضوع تقدیر سے  
حصار حربی مالک کر تھے ہبندوستان کی ایم ٹھیٹھی میتوں نے در و مندی سے اس ہم تلسی پر بدل سیاسی بھی اسی  
کی طرف ہمارا ہی توجہت ہندوں رجھیں اس سلسلے میں مولانا رحمت احمد کی ایزوی خاطفوں اور مسلمان  
تہذیب امر تحریکی (ف ۱۹۵۸ء) کے اسماۓ گرامی بطریشان میں یکجا سکھتے ہیں اور جماعت اہل حدیث کے  
فاضل بزرگ حضرت مولانا احمد الدین صاحب مدظلہ العالی تعالیٰ اس میں سرگرم عمل ہیں۔  
مولانا مودودی صاحب بالقابلی ذات خلافت میکیت تدریصل ائمہ مسلم ہائے تقدیر ہی کی یا یا حکم  
آثار اکٹھے ہے جو کوئی انوں نے یا وہ بخیری سادہ پاکستان محاں گھایب خال صاحب کے ثواب حکومت کے دنوں  
نزرت ہب دیا اس شائع فنیا اعماق اکابری صورت میں آئے ہے پہلے جب شمسہ کے رسالت جان القرآن میں ملکی اشتافت

شروع کی تھی توانیں دلوں بحافت اہل حدیث کے ترجیحات الاختصار، لاهور نے اپنادینی ورکسلی مدرسہ محمد اکرم حضور نے محتاط و تفہیم کی جائے، شائع کیا تھا اب جو مولانا ساختہ مدرسہ یوسف صاحب آن کوایی نے تحریر کیا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کیہہ ممتاز ہے اس وقت صفت ہے کہ یوسف صاحب آن کوایی ساختہ مدرسہ تھے الاختصار مکمل ہے۔ شاہقون ۲۲ دسمبر ۱۹۶۵ء سے ۱۰ جون ۱۹۷۶ء تک چلاتا ہوا درستانت سعیہ میں ٹھاراگیر خیالات اور عین مباحث کی مدت کے سبب ملے ملقوں میں بست پسندیدگی کی نظر رکھدی تھی ایسا تھا، مالم جملہ، میں داخل حقیقتی والی بحث سوزن مولانا فخر اسلامی صاحب نے جو ان دلوں برکتی بحیث اہل حدیث مذکوری پاکستان کے ایران خصوصاً نے مونا بہت پسند کر رکھا تھا بلکہ فرمائے کہ طبق اس کو ایک جا شائی کرنے کی بھی تجویز درخواز کی تھی اجتنمیں ترجیح اقترون کا خوار مصالح بھی تھی آن بان اور بہت سے اہم اضافوں کے ساتھ خلافت ملکیت نام سے کتاب خلیل مخصوص شود پر جلوہ مل رہا ہے۔

اس نامہ میں کاشکر عالم پر آنکھ کار مسلمت کے افریقا پر اور شیعہ حضرات اور بعض دوسرے صفوتوں پر اس کو اپنے لفظ یا بودھوئی کی مدت میں پڑوں کی تعداد میں کتاب فروخت ہوئی۔ جس پر قلمباز ہر الفاظ کا تکمیل نہ کیا۔ اس کو اپنے کتب کے پہلی صفاتیت گردان تھے افلازوں کے سبب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اپنے اس کتاب کو اس منہ رکھ کر اپنا مقام انسانیت سے ستر ب کیا شروع کر دیا جس میں طبع شدہ مکابین مظلوم ہوئی تھی مخالف اکرمی بھروس سے جو بدل تحریر کیا گیا اور اس کا پتہ تھیں سلامات کے جمیع مخلوقوں بجا ب دیکھ لے گئے ہیں یوں اس کتاب پر بھروس وقت آپکے سخن پر گوس مخنوں پر متعدد تکمیلیں ہو رہیں شائع ہو چکے ہیں میں محتاط صلاح الدین یوسف صاحب کی کتابوں میں جیہیں سعد الغزواتی کی حامل ہے اس پاٹھ پر بعض جگہ اور اس کی شیوه مدرس ہوئے ہیں وہاں کی تحریر ہے۔ بنویں مکمل حافظ صاحب اس کتاب میں اٹھایا گیا کہ یہ کہ سعد احمد کی بعض مکاتبوں میں بینہ تبدیلیوں کا سبب ہوتا تھا میں تھی اور اس ملکیت ملکہ کا ایک بدن بند میں ہے جو خبریں مسئلہ اہل مکر کے زیری و ذرخراستی کے موجودہ مددی کے سیاسی زخماء نے فائدہ اٹھایا تھا اسی استبلدو سے شدید تاثر کے تحت ہیں جیاںکی شکل میں تبدیلیت مکوپش کیا ہے، کیا واقعہ دعا یہی ہے اور کیا "جمهوریت" ملکت احمد سے سب دکھوں کا علاج ہے سستک کو خالص طی اور واقعاتی تباہ میں از مردگانیت کی مزدودت ہے اس طرح کی اور بھی بعض تحریریں اس کتاب میں شوٹ ہیں ای اشتغالی سب تو مقصود ہو رہا بندوں کی سے بچائے جو لو جن کی بحیثیت سمجھئے اور اس پر عملی تلویث محفوظ رہے عزیز رکرمودا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے جا ہوئے۔ شد نوجوان ہیں، دینی سبز پر مسلکی محبت اور ملی ذوقی میں ہر زید ترقی مرحمت فرمائے۔ آئین

نظام الحدیث والہ

خاکسار محمد عطا را اشد عجیف بصیر جانی خلجم الاختصار لاهور

۱۵ جادی الثانیہ ۱۳۹۰ھ

۱۹۶۰ء اکتوبر

## مقدمہ

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بخاری

بانی و مبتکم مدرسہ عویشہ نیو ٹاؤن کراچی

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم البیانین ہوتے، اور منصبِ رسالت و نبوت کی سیادت کرنے سے مشرف ہوتے اور اپنی شریعت کو آخرتی شریعت اور قیامت نک آئنے والی نام نہیں اور رسولوں کے لیے آخرتی قانون بنایا گیا تو اس کے پیشے پھر وہیں کی ضرورت نہیں، یا کہ یہ آسمانی تاریخ قیامت نک جوں کا توں محفوظ رہے۔ ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے اس کی حفاظت کی جائے۔ الحافظ کی صحیح و معتبر تحریکیں بھی کیجوں لا افادہ کی حفاظت ہو اور مسافر کی حفاظت نہ ہو تو یہ حفاظت بالکل بے معنی ہے۔ دوسری یہ کہ جس طرح ملی حفاظت ہو اسی طرح ملی حفاظت بھی ہو، اسلام مخصوص چند اصول و نظریات اور علم و افکار کا بخوبی نہیں بلکہ وہ اپنے بُلوں ایک نظام مل سے کچلتا ہے وہ جوں زندگی کے ہر شخص میں اصول و قواعد پیش کرتا ہے دنیا ایک ایک بزمیں کمی ملی تخلیل بھی کرتا ہے، اس یہ یہ غروری خدا کو فربیت نہیں (علی صاحبہا الف الف صلوات و سلام اکی علی وعلی مدفن پھلوؤں سے حفاظت کی جائیں اور قیامت تک) لکھ لیک ایسی جماعت کا سلسلہ قائم رہے ہے جو شریعت مطابق کے علم و عمل کی حامل ہائیں ہوں جوں تک لئے دین بھر کی دلوؤں طرح حفاظت فراہی اعلیٰ بھی احمد علی بھی۔

حفاظت کے خلاف میں صحابہ کرام (رضویہن اللہ علیہم اجمعین) کی جماعت سرفہرست ہے اور حضرات نے براہ راست صاحبِ وحی صفات اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا، دین پر عمل کیا، اور اپنے بعد آئنے والی فتنہ تک دین کو من و محن پہنچایا، انہوں نے اپنے کے زیر تربیت رہ کر انتقام و اعمال کو شیک خشائی خدا و مدد کے مطابق درست کیا، سیرت و کیجاوہ کی کائنات میں حاصل کی، تمام باطن نظریات سے کفار کش ہو کر حقائیق حقائق اختیار کیے۔ سعفانیتِ الہی کے لیے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پھرادر کر دیا، اسی کے کسی طرزِ عملیں نہ دعا خامی

نکرائیں تو فدا ختنی جل جده نہ اس کی اصلاح فراہی۔ الفرض حضرات صحابہ کرامؓ کی حاجت اس پر بندی کا شکار میں وہ خوش قسمت جماعت ہے جو کی تیکم و نبیت اور تصفیہ و تزکیہ کے لیے سرور رکنات محدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مددیم و مفرکی اعماق استاذ دانایتیں پر کیا گی۔ اس انعام حظ و نعمتی پر وہ جتنا شکر کریں کم ہے، جتنا خورکیں بجاہے۔

<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْأَمْوَالِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَقَرْئَاتِهِ مُهَمَّةٌ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَهُ فَضَلَّلُوهُ مُؤْمِنُونَ - (آل عمران ۱۴)</p>	<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْأَمْوَالِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَقَرْئَاتِهِ مُهَمَّةٌ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَهُ فَضَلَّلُوهُ مُؤْمِنُونَ - (آل عمران ۱۴)</p>
---	---

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عملی میراث اور آسمانی امانت ہونکہ ان حضرات کے پرد کی جانبی تھی، اس سے یہ ضروری تھا یہ حضرات آئینہ نسلوں کے لیے قابل اعتماد ہوں، چنانچہ قرآن و حدیث میں جا بجا ان کے مقابل و مانا تسبیبیان کئے گئے۔ چنانچہ

الف- وَحْنَ حَمَادَةُ نَسْنَةُ الْأَنْ كَلْمَيْنَ كَلْمَيْنَ كَلْمَيْنَ كَلْمَيْنَ كَلْمَيْنَ  
وَدِيَ الْمَدَادَ تَسْبِيْنَ يِرْتَبَيْهَ بِلَدَرَهَ كَرَانَ كَرَانَ سَالَتَتَهَ كَرَانَ (علی ما ہبہ االله الصلوۃ وسلم)  
کے عامل کو ابھوں کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔

<p>مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّ أَرْجُلَ الْكُفَّارِ رَحْمَانٌ بِهِمْ رَءَا هُمْ لَكُمْ سُجَّدًا إِنَّهُمْ فَضَلَّلُوْنَ اللَّهَ وَرَضِيَّوْنَ إِنَّهُمْ فِي فَجُوْهِهِمْ مِنْ أَثْرَ السُّجُودِ (الفتح ۲۷)</p>	<p>مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَّ أَرْجُلَ الْكُفَّارِ رَحْمَانٌ بِهِمْ رَءَا هُمْ لَكُمْ سُجَّدًا إِنَّهُمْ فَضَلَّلُوْنَ اللَّهَ وَرَضِيَّوْنَ إِنَّهُمْ فِي فَجُوْهِهِمْ مِنْ أَثْرَ السُّجُودِ (الفتح ۲۷)</p>
---	---

گویا یہاں حصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک دوسری ہے نہ اس کے ثبوتی

بر حضرات صحابہ کرامہ کی سیرت و کوادر کی بیش کیا گیا ہے کہ جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات  
میں فلک دشیبہ ہوا اسے آپ کے ساتھیوں کی پائیزو زندگی کا ایک نظر مطابق کرنے کے بعد خوبیاتی  
ضیر سے یہ فیصلہ لینا چاہیئے کہ جس کے مقام اتنے بلند سیرت اور پاکیاز ہوں وہ خود صدقہ حداقتی  
کے لئے اونچے مقام پر فائز ہوں گے ۶

کیاظر تعالیٰ جس نے مردوں کو مسیح اکر دیا

ب) بر حضرات صحابہ کے ایمان کو «عیار حق» قرار دیتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو اس کا  
نحویہ پیش کرنے کی دعوت میں گئی۔ بلکہ ان حضرات کے ہمارے میں لہبِ اشتافیٰ کرنے  
والوں پر نفاذ و سنا صحت کی وہی مہربنت کردی گئی۔

<p>وَإِذَا أَقِيلَ لَهُمْ أَمْسَاكَمَا هُجِبَ إِنَّ رَبَّهُمْ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَمْنَ النَّاسِ - قَالُوا أَنْدُونَ كَمَا يَكْبَرُونَ الْأَوْيُسْلَادُ مِنْ سَرَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ كُلُّ هُنَّا بِهِ وَقَوْلُ جِئْنَا إِنَّا لَنَا لَيْسَ بِمَنْ رَكْوَرْ خُودُهُ بِسْقَنْزِينْ مَرْتِیںْ ہانتے۔</p>	<p>عَجَبَ إِنْ (مَنْقُونَ) سَے کجا جائے تھم جی ایسا أَمْنَ النَّاسِ - قَالُوا أَنْدُونَ كَمَا يَكْبَرُونَ الْأَوْيُسْلَادُ مِنْ سَرَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ كُلُّ هُنَّا بِهِ وَقَوْلُ السَّفَهَاءُ - أَلَا إِنَّهُمْ هُنَّ جِئْنَا إِنَّا لَنَا لَيْسَ بِمَنْ رَكْوَرْ خُودُهُ بِسْقَنْزِينْ -</p>
---	--

(البقرة ۲)

ج) بر حضرات صحابہ کرامہ کو بار بار مرضی اللہ عنہم و حفا احمدہ (اللہ علیہ سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے)  
کی بیوادرت دی گئی، اور امت کے ساتھی یہ اس شدت و فرث سے دہرا یا گیا کہ صحابہ کرام کا یہ لقب  
آفت کا نکیہ کھوم جن گیا، کسی بھی کام گرامی آپس علیہ اسلام کے بغیر نہیں لے سکتے، اور کسی محال  
رسول دلصی اللہ علیہ السلام کا ہماہنگی «رضی اللہ عنہ» کے بغیر مسلمان کی بنیان پر چاری ہنپیں ہو سکتے۔ علا ہر ہے  
کہ اتر تھا لے صرف غلط ہاہ کو دیکھ کر راضی نہیں ہوا، وہ صرف ان کے ہوئے ہوئے کارنا مون کو دیکھ رہا ان کے  
ظاہر ہو یا ان مددھان مددھان مستقبل کو دیکھ کر ان سے راضی ہو رہے، یہ گویا اس بات کی خاتمت ہے کہ آخر دم  
تم اس سے رضاۓ یہی کے تلاف کچھ مادر نہیں ہو گا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس سے نہدا راضی  
ہو چکے مولا کے بندوں کو بھی اس سے راضی ہو جانا چاہئے، کسی اور کے بارے میں تو غلطی و  
تھیکیوں سے کجا سکتا ہے کہ تھا اس سے راضی ہے یا نہیں؟ مگر صحابہ کرام رضی کے بارے میں  
تلعقِ وجہ ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ان سے راضی نہیں ہوتا تو گویا اسے اللہ تعالیٰ سے

اختلاف ہے۔ اور پھر صرف اتنی بات کو کافی نہیں سمجھا گی کہ «اللہ تعالیٰ ان سحر اُنہی چوڑا و بکر اُسی کے ساختہ رہ جیتا یا گیا ہے کہ وہ امیر سُدرا ضی ہوئے، یہ اُن حضرات کی حوصلت افسر اُنہی کی انتہا ہے۔

درست حضرات صحابہ کرام کے سلک کو «میاہی راستہ» قریب دیتے ہوئے اس کی مخالفت کو بلا و راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ہم معنی قرار دیا گی۔ لہذا ان کی مخالفت کرنے والوں کو دعید سنانی گئی۔

اور جو شخص مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتیعت  
و علم کی، جب کہ اُنہی کے سامنے ہدایت حکمی امور  
چند مومنوں کی راہ پھوڑ کر، ہم اسے پھر دین کے  
جس طرف پھرتا ہے،

وَمَنْ يُشَاطِقِ الرَّسُولَ مِنْ  
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَكْتُبْ  
غَيْرَ سَيِّئِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا  
تَوَلَّ (النساء ۱۲)

ایت میں «المُؤْمِنِينَ» کا اولین صدق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت ہے۔  
رسوی اللہ عنہم۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اتباع نبوی کی صحیح شکل صحابہ کرامؐ کی سیرت و کی راہ لد  
ان کے اخلاق و اعمال کی پیر وی میں مختصر ہے۔ اور یہ جسمی ملکن ہے جب کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت کو علم  
کے اعلیٰ معیار پر تکمیل کیا جائے۔

لہ۔ اور سب سے اگری بات یہ کہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں بکر  
کی ہر عذالت سے سرفراز کرنے اور ہر ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنے کا اعلان  
فریایا گیا۔

جس دن درسمانیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بنی کو یہ دیجو  
موسیٰ ہوئے آپ کے سامنے، ان کا فوتوٹا ہو گا  
جیسیں آئی دیہم و ما مِمَّا فَهِمْ۔

يَوْمَ لَا يُخْنِزِي اللَّهُ النَّاسَ  
وَالَّذِينَ أَهْنَوْا مَعْهَهُ نُورُهُمْ دِيْنُ  
جَبَّانُ آئِيهِمْ وَمَا يَمَادِهِمْ۔

اس تصمیم کی تسلیم نہیں سیکھ دیں آیات میں صحابہ کرامؐ کے فضل و مناقب مختلف عروادت سے  
بریان فراشے گئے ہیں۔ اور اس سے برحقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دین کے سلسلہ سلسلکی پہلی  
کٹی اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یا فرست حضرات کی جماعت۔ محاوا اللہ تعالیٰ فابعلیعہ

ٹا بھدھ ہو۔ ان کے اختلافی و احوال میں خرابی نکالی جائے اور ان کے بارے میں یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ دین کی علمی و عملی تفسیر نہیں کر سکے تو دین اسلام کا سارا اٹھا پھر ہیں جانا ہے۔ اور۔۔۔ عالم بدھن رسالت محمدؐ محدود ہو جاتی ہے۔

دنیا کا ایک معروف قائد ہے کہ اگر کسی خبر کو تذکرنا ہو تو اس کے راویوں کو جسروج و تمدح کا نشانہ بناؤ۔ ان کی سیرت و کردار کو بلوٹ کرو۔ بعد ازاں کی ثقاہت و عدالت کو ملکوں شاہراہ کو صاحبہ کرام رہنپوں کو دین محمدؐ کے سب سے پہلے رادی ہیں۔ اسیلے چالاک عقائد پر داندن نے جب دین اسلام کے تصور ساز شش کی امداد دی ہے تو گوں کو بدلن کرنا چاہا تو ان کا سب سے پہلا ہدف صحابہ کرامؐ تھے۔ چنانچہ فرقہ باطلہ اپنے نظریاتی اختلاف کے باوجود جماعت ہجاء کو ہدف تنقید بناتے میں متفق نظر آتے ہیں۔ ان کی سیرت و کردار کو داعمار بنانے اداان کی شخصیت کو نہایت گھناؤ فے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے اخلاقی ہواں پر تقیدیں کی گئیں۔ ان پر مال و جماہ کی حرص میں احکام خداوندی سے پہلوتی کرنے کے اولادات درسے گئے۔ ان پر عیانت، خصوب اور کنیر پروردی واقر را نوالنی کی تھیں نکالی گئیں۔ اور غلو و انتہا پسندی کی حسد ہے کہ جو پاکیزہ ہستیوں کے ایمان کو حقیقتاً نے «معیار» قرار دے کر ان جیسا ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت ہی تھی۔ آئینوں کی کائنات انسان کے ایمان و کفر کا مستلزم زیر بحث کیا گی۔ اور تکفیر و تفسین تکمیل نوبت پہنچا دی گئی۔ جن جوانانوں نے دین اسلام کا اپنے خون سے سیراپ کیا تھا۔ انہی کے بارے میں پیغام پیغمبر کو کہا جائے لگا کر دہ اسلام کے اعلیٰ معیار پر فائم نہیں رہے سکتے۔ جن مردان خدا کے صدقہ و امانت کی خدا تعالیٰ نے گوہی دی تھی۔

<p>بِرَدَهِ دُمْرُوٰءٍ يَمْبُولُونَ نَفَرَ كُوْكَيَا يَوْعَدَهُمُونَ نَفَرَهُ اللَّهُ سَبَقَهُمْ بَانِهِمْ - بَعْضَهُمْ تَوْحِيدُهُمْ عَزِيزُكَ الْأَمْيَ لَا سَتْمَدِيْنَ دَسَّهُ - اَوْدَ بَعْضَهُمْ بَيْسِيْجِيْمِيْسَهُ، اَسَ لَكَشْتَپِيْنَ - اَوْرَانَ کَمْ وَاسْتَقْلَلَ مِنْ خَلْقِيْنَ شِينَ بَهْلَنَ -</p>	<p>يَجَاجٌ حَدَّ قَوَاماً عَاهَدَهُ دُعا اللَّهُ عَلَيْكِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْمَدُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَأَ لَوْا سَبَدَ يُلَأَّ -</p>
--	---

انجی کے حق میں بتایا جائے لگا کہ نہ وہ صدق و امانت سے موصوف تھے۔ داخل صویں وایمان کی دولت انہیں نصیب تھی۔ جن مخصوصوں نے اپنے بیوی پچوں کو اپنے گھر بارگو، اپنے عزیزو اقارب کو اپنے دوست احباب کو، اپنی ہر لذت و کمالش کو، اپنے جذبات و خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضاکے لیے..... اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کو دیا تھا۔ انہی کو یہ طمع دیا گیا کہ وہ عرض حرم وہا کے علم تھے۔ اور اپنے مقابله میں خدا و رسول کے احکام کی اتنیں کوئی پڑھا نہیں سکتی۔ **لقد حشم شيئاً**

ظاہر ہے کہ اگر است کامحمد اخوبے چند نظریات کی وجہ میں کوئی کلیات اور ایک بار بھی صحابہ کرام ہمامت کی حد السعید میں بجروج تواریخ تواریخ کی پوری حمارت دیکھاتی۔ قرآن کریم اور احادیث بیوی سے امان امداد جاتا اور یہ دین ہو قیامت تک بہنسے کے لیے آیا تھا۔ ایک قدم اگر دہن سکتا۔ مگر یہ سارے نتائج بوجد میں پیدا ہوتے داٹے تھے علم الہی سے اور جمل دین سے۔ اس کا اعلانیہ تھا۔

**وَاللَّهُ مُتَّسِهٌ فَوْدِيْهٌ وَلَكُوْنُ  
كَيْرَةُ الْكَافِرُوْنَ**

یحود یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بار بار مختلف پہلوؤں سے صحابہ کرام رہ کا تو یہ فرمایا۔ ان کی تثیت و تفصیل فرمائی اور قیامت تک لکھی یہ یہ اعلان فرمادیا۔

**أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ  
الْإِيمَانُ وَآيَاتُهُمْ بِرُوْجٍ مِنْهُ**

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے کہ دیا ان کے دل میں ایمان اور بعدہ ان کو اپنی خاص رسمت ہے۔ اور یہ کام میں اثر طیبہ سلم نے اپنے صحابہ کرام میں کے نئے نئے فضائل بیان فرمائے بالخصوص خلائق نے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر حضرت عثمان بن عفی اللہ علیہ السلام حضرت علیہ الرحمۃ رضوان اللہ علیہم الجمیع کے فضائل کی تواتر لکھ دی۔ جس کثرت و شدت اور فوائد و مسلسل کے ساتھ حضرت مسیح امیر المؤمنین کے فضائل کی تواتر لکھ دی۔ کامیابی و خصوصیات اور ان کے اندرونی احساس و مکالمات کو بیان فرمایا اس سے واضح ہوتا ہے۔ کہ ان حضرت مسیح امیر المؤمنین کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ انہیں عام اخواز اور امتیاز پر قیاس کیتے

کی عطا دیکی جائے۔ ان سترات کا تعلق پوچھ کر براہ راست ائمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمۃ الرسل سے ہے، اس لیے ان کی محبت عین محبت رسول ہے۔ اور ان کے حق میں ادنیٰ الہ کشائی ساقی معاافی ہرم فرمایا ہے۔

اللہ سے فرد۔ اللہ سے فدویں سے صحابہ کے محلہ میں ساری کہناں ہوں اللہ سے فرد۔ اللہ سے فدویں سے صحابہ کے محلہ میں ساریں کویں سے بعده فتحید کی تقدیم درخواست کرو۔ کوئی کوئی جس نے ان سے محبت کی تو وہی محبت کی خاطر پڑھے اور جس نے ان سے بدغصہ کی تو وہی سے بدغصہ کر لیں۔ ..... کبھی بھی جس خلاف کیلئے دیا جائے تو بھی اپنے اپنے دوستوں نے اس نے اللہ کی بیاناتی دوستوں نے اللہ کو ایذا دی اس نے تو قسمیب ہے کہ ملاتے اسے پڑھ لے۔

اللہ اللہ فی اصحابی۔ اللہ اللہ  
فی اصحابی۔ لَا تَتَّخِذُ وَهْمَ  
عَرَجَنَا مِنْ تَعْدِیٰ فَمَنْ  
أَحْبَبْنَمْ فَيَحْتَیٰ أَحْبَبْنَمْ  
وَمَنْ أَبْغَضْنَمْ فَيَمْنَعْنَمْ لَهُ  
وَمَنْ أَذْأَحْدَنَمْ فَقَدْ آذَی  
اللَّهَ وَمَنْ أَذَى اللَّهَ  
فَيُؤْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

(ترجمہ)

این کو اس بات سے جو بالکل فرمایا گیا کہ تمہیں سے اعلیٰ فرد کی بڑی سے بڑی کیلئے اتنا  
صحابہ کی چھوٹی سی چھوٹی بھی کامیابیوں کی سختی ماسن ہے اور پر لباہی تشقیع فداز کرنے کا حق  
مت کے کہنوں کو شامل نہیں لے شاید ہے:-  
( لَا تَسْبِبُ اصحابی، فلَوْ  
أَنَّ أَحَدَ كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ  
أَمْدُدْ ذَهَبًا مَا بَلَّغَ مُدْ  
أَحْدِيْهِمْ وَلَا لَفْتَيْقَةً۔  
(ریجادی و مسلم)

تمہارے صحابی کی زندگی اس سے بیرون کر اونکی بھی سختی ہے کہ اس بات کا پابند کیا گی۔

کان کی حیب جوئی کرنے والوں کو نہ صرف خون و مردود سمجھیں بلکہ اس کا الحمد  
کریں۔ فرمایا۔

جس تم ان لوگوں کو بیکھر جو میرے صاحب ہو جو  
بسو گئے اور اسیں ہوتی تقدیر بناتے ہیں  
تو ان سے کوئی میں سے دینی صلب اعلیٰ اور  
صلبیں سے، جو پہاڑا اس پر لٹکتی ہے۔

إِذَا رَأَيْتُمُ الْأَنْوَارَ  
بِسَبَبِهِنَّ أَصْنَعَتَاهُنَّ فَقُولُّهُنَّ  
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُهُنَّ  
(قرآنی)

یہاں تمام احادیث کا استعمال مقصود ہے کہ کامیابی کا کام ہے کہ اپنے قسر آفی دینوں شہادتوں  
کے بعد جو اگر کوئی شخص حضرت صاحبہ کلام نہ ہے، حیب نکالنے کی کوشش کرے تو اس بات  
سے تطلع نظر کا کام کا یہ عمل قسر آفی کیم کے نصوص تغیر اور خواہات نبوت کے ان کام کے  
ترادف ہے۔ یہ لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ نے بھی کیا ہے اور میہدم سلم پر ہو فرانش بیشیت  
منصب پرورت کے مانند کیے ہے اور جن میں اعلیٰ درج منصب تزکیہ کووس کا انتہا۔ گریا حضرت  
رسالت پناہ حملۃ العزیز مسلم اپنے فرض منصبی کی بجائ� کوئی مستحق تھا اور یہ تزکیہ دی کر کے  
لئے یہ قرائیہ کیم کی صریح تکذیب ہے۔ حق تعالیٰ کے تزکیہ کی ترقیت ہوئے اور ہم فہیں  
بودھ کرنے میں صروف رہیں۔ اور حب بندگی کیم صیادۃ طیہہ سلم ان کے تاریخی مرتبتے تعالیٰ ہے تو  
گویا حق تعالیٰ نے اپنے کا انتخاب سمجھ نہیں فرمایا تھا تعالیٰ نہ۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ  
جاتی ہے۔ اور حب انتہا تعالیٰ کے انتخاب میں تصور نہ کلا۔ تعالیٰ تعالیٰ کا حکم خلاصہ ہوا۔ فروذ بالقدر  
کی اخواتیہ والسفہتہ پنا پندرہ ایک ایجاد کی جویی جاہد کی کامیابی ہے کہ تعالیٰ تعالیٰ کو دیکھا۔ ہم نے  
ہے یعنی اسے بہت سی کمپنیزیں پر پستے معلوم نہیں تھیں۔ بعد میں مسلم ہمچلی ہیں، اور اس کا پہلا علم نکل  
لے جاتا ہے۔ جس لوگوں کا انتہا تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور ہوا رسول اور بنی اسرائیل کے بعد صاحب بندگیم  
کان کے تزکیہ کیا کہ مدد ہے گا۔؟

اقرئن صاحبہ کلام پر تقدیر کرنے، ان کی محلیں کو اچھا لئے اور انہیں مدد لازم بنانے کا قصر  
صرف انہیں نکل مدد نہیں رہتا، بلکہ خدا در رسول، اکتاب و سنت اور پیغمبر دینی ماں کی پیٹتی میں

آہتا ہے، اور دین کی ساری حالت مندم ہو جاتی ہے۔ بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں جو اور نقی کیا گیا ہے، اسی بات کی طرف اخراج فرمایا ہے۔

مَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُؤْمِنُ مِثْكُ أَنْ يَأْخُذَكَ	جس نے ان کو ایذا دیا اس نے مجھے بیان کی لکھ جس نے مجھے ایذا دیا اس نے انتقام کیا کہ ایذا دیا، اللہ جس نے اللہ کو ایذا دی تقویہ ہے کر اقتدا سمجھ کر لے۔
--	---

اور یہی درجہ ہے کہ تمام ایکنی باطل کے مقابلہ نہیں اہل حق کا امتیازی نہان صحابہ کرام کی علمت و محبت ہے۔ تمام اہل حق نے اپنے مقائد میں اس بات کو جامی طور پر شامل کیا ہے کہ:-

وَنَكْفُ عن ذِكْرِ الصَّحَابَةِ كُنْتُ مُحَمَّدًا بِذِكْرِهِ لَا أَطْرَاحُ الْأَجْنِيْرَ -	بعدہ تم صحابہ کا ذکر بدل لے کے سماں کی احمد طرح کرنے سننا یا یہندہ کہو گے۔
--	---

گویا اہل حق اہل باطل کے درمیان امتیاز کا سیار صحابہ کرام بخواہ ذکر کر لیجئے ہے جو شخصی ان حضرات کی ملطیاں چھاپتے ہو، ان کو صد و لاوم تراویح کہہ لھان پرستگین اعتمادات کی فرم جنمہاند کہا جمعہ اہل حق میں شامل نہیں ہے۔

جو حضرات اپنے خالی میں بڑی نیکی بیتی، اعلماں اور بقول ان کے وقت کے اہم ترین تقاویل کو پیدا کرنے کے لیے تباہی صحابہ کو ایک سرت سفر کی سکون میں پیش کرتے ہیں اہد اے حقیقت کا نہ دیتے ہیں، انہیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو لیکن واقعیہ ہے کہ اس ترمید اندلائی کا الجام اس کے حکم پر نہیں کر جدید نسل کو دین کے لام پر دین سے بیزار کر دیا جاتے۔ اور ہر ایرے سے غیرے کو حبک کم پر ترقی کی کھلی چھپی دے دیا جاتے، جنہیں رہ علم و عقل و فہم نہ فراست۔

ادمیہ نہ اندیشیتیں نہ فیضیں بلکہ محلی اٹکھوں اسی کامنا ہے ہو نے لگا ہے۔ اہل الفتن کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ ساموا موارد جو رحمۃ، ہمارا تصویر رفتہ یہ ہے کہ ہم نے اسے جمع کر دیا ہے، اسیں سے کوئی عذر میں کرتے ہوئے بہت سی مصلی اور بیاندی باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے صندوق ایصال میں واضح یو جاتا کہ صرف اتنا مدد طبعی صحابہ کی دلیل

سے بچنے کے لیے کافی نہیں، اور درود اتنی بات کہ کربلہ والہ ہو سکتے ہیں۔

اولاً: قسم کیم کے نصرتی تطعییں، احادیث خاتمۃ الہدایہ میں حق کا اجماع، صحابہ کی میب چینی کی مانعست پر مستحق ہیں، ان تعلیمات کے مقابلہ میں ان تاریخی قصہ کامنہوں کا سرے سے کوئی فتنہ ہی نہیں۔ تاریخ کا موضع ہی ایسا ہے کہ اس میں تمام رطب دیا جس دستیم پر ہر یہی جمع کی جاتی ہیں، الحدث کا جو معیار حدیث ہے، میں قائم رکھا گیا ہے، تاریخ میں وہ معیار نہ قائم رہ سکتا تھا زمانے سے ہم رکھنے کی کوشش کی گئی، اس لیے حضرات محدثین نے ان کی محنت کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ حافظ عراقی مدح فرماتے ہیں۔

### وَلِيَعْلَمُ الطَّالِبُ أَنَّ اللَّهِ يَسِيرُ بِمَا يَشَاءُ مَا قَدْ حَمَّهُ وَمَا قَدْ نَكَرَ

یعنی علم تاریخ دیکھ رکھنے اور مکمل سب کو جمع لیتا ہے۔

اب یوسف علیہ السلام کی خاص دعا کو غائب کرنے کے لیے چار یعنی مواد کو مکمل کرتا ہیں بعدیات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اسے عقل و شرمع کے تمام تفاوتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف یہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے کہ یہ روایت خلاف ٹھوں تاریخ میں لکھی ہے۔ بلکہ جس طرح وہ سوتا ہے کہ یہ روایت عالیٰ کے مقصود ہے اسے لیے فائدہ ہے یا نہیں؟ اسی طرح اسے اس پر بھی نظر کر لینا چاہیے کہ کیا یہ روایت ثابت یا عقل سے مقصود ہے؟ اس باصولی کی وضاحت کے لیے یہاں صرف یہک شان پاہیں کافی ہو گا۔

اپنے خلیفہ راشدؑ اسے کہتے ہیں یہ ملکیت شیک منہاج بورت پر قائم ہوا اور اس کا کوئی حل اور کوئی نیسلہ منہاج بورت کے اعلیٰ معیار سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ اب اپنے ایک صحابی رہنگو خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہوئے اس پر بہزادا نام ملک کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کی استحقاق کے مالی خیریت کا پہلا حصہ (۵ لاکھ دینار) اپنے خلیفہ راشد شاہزادگو خشن دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ مخلافتِ راشدؑ اور منہاج بورت ہیں ہے جس کی تصور زماں اضافے میں دکھائی گئی ہے؟ اور اس کے باحدل میں اس نے خیریت کو من و میں تسلیم کرنے سے کیا ہے ذہنیں بننے کا کردار قوتِ راشدؑ کا معیار بھی اس کے باہر مکاروں سے کچھ زیادہ بلند نہیں ہو گا جو اپنے راشد شاہزادگو کو دعوٰ پر مدد اور امداد و انس رحمت فرما تھیں؛ اسی پہلو بعد سرے الزامات کرتیاں اس کو پہنچئے جو طریقہ شانِ تحقیق سے

عندلک شے گئے ہیں۔

ثانیاً۔ یہ تاریخی روایات آج یا یک ہیں ابھرائی ہیں، بلکہ اکابر اہل حق کے سامنے یہ سلام مولود برپا رہے ہیں، اور وہ اس کو مناسب تاویں و قوییر کر چکے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ان تاریخی واقعات کو بڑی اہلی سے کسی اپنے محل پر محول کیا جاسکتا ہے، اب ایک شخص اہلی ہے اور وہ بے دل تحقیق، کے شوق میں ان کے ایسے محل تلاش کرتا ہے جس سے صاحبہ کرامہ کی مردی تحقیق اور ان کی سیرت و کہانی کو اپنے مفہوم بھلی ہے تو کیا اس کے بارے میں یہ سُنْ نَهْ رکھا جائے کہ صاحبِ الامم کے بارے میں وہ "حسنِ فلاح" رکھتا ہے؟

اول مجیب بات یہ کہ جب دس کے سامنے اکابر اہل حق کے طرز تحقیق کا سوال دیا جاتا ہے تو ان حضرات کو وکیل مفتانی "کہ کہ ان کی تحقیقات کو ہابن الفلاح نہیں سمجھتا، غالباً یہ وہی اکی نفل مغلات ہے جو ہمیں وکیل استغاثہ کے بیان پر میکھل رہ فیصلہ دیا جائے اور وہ وکیل مفتانی" کے بیانات کی ان درمیں نظر انداز کر دیا جائے کہ کسی مظلوم کی طرف سے مفتانی کا وکیل بن جو کبود کرنا چاہیا ہے،

اپنے قرآن و سنت کے جو نصوص کا سارا لذت دیا گیا، اہل اہل حق کے جس اجتماعی نیصلہ کا وکیل کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مفتان خدا یعنی تجسس اور تبلہ عذر نہیں ہے تو یہیں، بلکہ اس انصاری اور پھر امتحان کے وکیل مفتانی کے وکیل مفتانی ہے، یہیں اب یہ نیصلہ کتاب ہر شخص کی اپنی محدودیت پرست و قوف ہے کہ وہ وکیل مفتانی کی صفت میں شانی ہو رہا پسند کرتا ہے یا وکیل استغاثہ کی صفت میں۔

مثالًا: ان تاریخی روایات کے تفرقی جملی واقعات کوچھ چن کر جمع کرنا، انہیں ایک مردوں نسلت پشاوری کا، جزویات سے کلیات اخذ کر لینا اور ان پر ایسے جلی اور پستھتے ہوئے عنوانات جھلانا جنیں آج کل جو حصیں صدی کا فاستن سے فاسنی بھی اپنی طرف مسووب کرنا پسند نہیں کرے گا، یہ تو یہی دلت کی کوئی نہست ہے دا سے اسلامی تاریخ کا مسیح مسلمانوں کو جا سکتا ہے، الجزاۓ "کتاب میخ سازی" کتنا بجا ہو گا۔ بقول سعدیؑ

و لیکن قلم در کفِ دشمنِ است

یہ پڑھنا ہوئے کیا کہ اپنے مسلمان ہائپنے بارے میں یہ سننا پسند کرے گا کہ اس نے معلم  
دستور کو بدل فالا؟ اس نے بیت المال کو گھر کی لونڈی بنایا ہے اس نے مسلمان سماں معروف  
لدنی جو انکر کی آزادی سلب کر لی؟ اس نے حل و فصل کی مشکل پیدا کر لی؟ اس نے دینہ و  
داشتہ نعمتیں تطہیر سے سرتباہی کی ہے اس نے خدا تعالیٰ کی بالاتری کام فاتحہ کر دیا اور ہمارے  
اقرای پھر دخولیش خوازی کے مدعاہدوں کی حق تسلیم کی؟

کیا کوئی معمولی قسم کا منقی افسوس ہے یہ زکار کوئی ان جگہ پاٹ اتنا ہاتھ کو شکست سے بول سبھ راغب  
کرے گا؟ اگر نہیں۔ اور یقیناً نہیں۔ تو یہ صابر کرام ہم نہ لٹکوں سے بھی گئے گندے ہو گئے  
کرایک دن نہیں، بلکہ مثالیب و تباخ اور اخلاقی گروہ کی ایک طیل فرستہ ان کے ہم بڑوں ہجاتے  
پھر بے لگ تحقیق کے نام سے اسے اچھا جانتے، اللہ کوئے احمد تو کئے کے  
باد جو داس پر اصرار کیجا جائے۔

کیا صحابہ کرام کی حرمت و حوصلہ ہے؟ کیا اسی کا نام صحابہ کا مدد ذکر بالغہ ہے؟ کیا  
رسول اللہ علیہ وسلم کے موزع صحابہ بغدا سی احترام کے سختی ہیں؟ کیا ریاضتی خیرت کا  
یعنی تعلماً ہے؟ کیا مسلمانوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کا پادر شاد بھول جانا چاہیے:-

جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بجد لکھتے ہیں تکالیف کے جواب  
میں یہ کہو: تم میں سے (یعنی صحابہ کرام اور ان کے تاریخی میں سے) بھروسہ اور  
اسنے باللہ کی الحستا " (ترفہ)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بعد کی اصط کیلیے حق دباطن کا معیار ہیں، انہیں  
معیت بجوئی کا بھوکش فر حاصل ہوا، اس کے مقابلہ میں کئی بڑی سیدھی خفیت ایک بھوکھیلہ  
بھی نہیں، کسی بڑی سے سے بڑے دل اور قلب کمان کی خاک پا بننے کا شرف حاصل ہو جاتے  
تو اس کے پیلے یا یہ صد اقتدار ہے، اس یہے انت کے کسی فرد کا۔ خواہ دا اپنی جگہ جیسا  
اور علامہ موزع ماں ہی کھلتا ہو۔ ان پر تقدیر کرنا قبلی زیست کی حوصلہ ہے۔

ایاز احمد خوش بشنا اس

یہ دنیا حق و باطل کی آماجگاہ ہے ایمان باخل، حق کا لبادہ اوٹھ کر لاتا ہے، بسا ادھارتیک  
اویں اپنے خلط نظر پرست کو صحیح سمجھ کر کان سے چٹا رہتا ہے ابس سے رفتہ رفتہ اس کے فہریں میں  
کبھی آجائی ہے، اور بالآخر اس سے صحیح کو صحیح اور خلط کو خلط سمجھنے کی استعداد ہی سلب ہو جاتی ہے  
لہوری پڑھنے شطرناک بات ہے۔ اہل حق و تحقیقیں کی یہ شان نہیں کرو دے ۔ یہ میں یہ سمجھا ہوں ۔ کوئی رخود  
خلط فہمی میں بتلا ہوں اور جب انہیں انداز دنیورخا ہی سے تنبیہ کی جائے تو تاریخات کا "ضیرہ"  
لکھنے میڈ جائیں ۔ اہل حق کی شان تو یہ ہے کہ الگان کے قلم فنیان سے کوئی نامناسب خلط انکل  
جائے تو تنبیہ کے بعد فوراً حق کی طرف پڑھ آئیں ۔ حق تعلیمے جزو کے ۱۰ میں انہوں بارے تمام  
سلام بھائیوں کو ہزار بیغ و مصلح سے محفوظ فرمائے، اور ایسا یعنی حق کی توفیق پختے۔

دیننا لا تزعم قلوبنا بعد اذ هدیتنا، و هب لذامن  
لدنك رحمة اذك انت الوهاب . وصلى الله تعالى  
على أخير خلقه صفوة البرية محمد وعلى  
الله وأصحابه وأتباعه أجمعين - امين

## باب اول

# چند پیشایدی زکات کی صاحبت



## بگاڑ کے چند پہیا دی اسیاب

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ دنیا میں ہمیشہ صلاح و انقلاب کے علمبردار، پیغمبر اور مصلح پیدا ہوتے رہے ہیں اتنا تھے افرینش سے یہ سلسلہ قائم ہے اور تاقیامت قائم ہے گا، انسیاء در محل اور مصلحین و مجیدین کا یہ طویل و آبدی سلسلہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مخصوص حضرات اپنے اپنے دوسرے میں تجدید و اصلاح کے جو عظیم الشان کارنا نے سرانجام دیتے رہے ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اپنے عرصہ گزند جانے پر ان کی تعلیمات اور انہی اصلاحی کوششوں پر گردشِ ایام کی دسیرت ہیں جنم جاتی رہی ہیں اور ان کے افکار و فطریات کو طاقت نیاں بنادیا جاتا رہا ہے، زماں فترت کی یہی روشنی ہے ایک دوسرے داعی حق، مصلح پا یا گامبر کی تنقاضی ہوتی رہیں، عروج و رواں کے اس قانون سے نہ کوئی مصلح و مجدد مستثنے ہے نہ کوئی یعنی درسُوں پہلے انسیاء علیم السلام کے حالات دیکھ لجھے کہ ان کے بعد خداون کے نام لیوائیں میں کسی کسی فکری، اعتقادی اور علمی مگر ایساں اور سکردو ریاں پیدا ہوتی رہیں میں انسیاء در محل کے اس طویل سلسلہ کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اگرچہ محض کسی مخصوص دور و مخصوص قبیلے یا کسی مخصوص ملک کے لئے معموت ہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کی ذات کرہ ارضی کی پوری نوع انسانی کے لئے ہادی و رہمنا کریں یعنی کسی تھی یا نیز آپ کے بعد سلسلہ نبوت و دحی بھی منقطع کر دیا جانا تھا اس لئے اگرچہ آپ کی تعلیمات جو قرآن اور احادیثِ عیجم کی شکل میں موجود ہیں کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے اس قیامت تک وہ تعلیمات نوع انسانی کو امن دہدایت اور فلاحِ آبدی کا راستہ مکھاتی رہیں گی، لیکن پاس ہے آپ کی تعلیمات بھی یا یہ طور مذکورہ قانون فترت سے متاثر نہیں تھیں دی یہ تکمیل

کران پر مُردہ ایام اور زوال کا مطلقاً کوئی اثر نہ پڑ سکے گا۔

تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ بنی اسرائیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرہ بحیثیت مجموعی اخطاۃ وزوال نبیر ہے اور ان کے ملنے والوں کی ایمانی و قلبی تھیفت بھی اسی حساب سے تبدیل یعنی تغیرت پڑ جائے یہ ایسی واضح حقیقت ہے جس سے مجال انکار نہیں، اس زوال کے اثرات دو حصہ سے ہی نمایاں ہونے شروع ہو گئے اس کا مطالعہ آپ اس طرح کر کے دیکھیں کہ جو دور زمانہ نبوت سے جتنا متصل ہے اسی حساب سے اس میں یا عبارت ادوار مابعد خیر و بُرکت بھی زیادہ اور فزدیں تر ہے اور جو دور زمانہ نبوت سے جس قدر فوکس ہے اسی قدر اس میں خیر و بُرکت میں کم کی پیدا ہوتی چلتی ہے، اسی چیز کو خوبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا فرمایا:-

**خَيْرُ الْقَرْوَانِ قَرْنَى شَهَادَتِنَ يَلْوَنُهُمْ كَمَ الْذِيَّانَ يَلْوَنُهُمْ (الحدیث)**

کسب سے بہتر میرا در ہے اور سرے نمبر پر پُر جاس کے بعد اور میرے دور سے متصل ہے، تیرے نمبر پر پُر جاس کے بعد ہے۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادوار مابعد رسالت پر نظر ڈالیئے کہ ابو بکر صدیقؓ کا دو خلافت زمانہ رسالت سے بالکل متصل ہے اس بنا پر وہی دو رفیوں دُبَرِ کاتِ الْهَمَّہ کا سب سے زیادہ منظہ اور عام معاشرہ صحبت نبوی کے ہے۔ گیراثات میں پختہ تر ہے جس کی وجہ سے خلافت ستدیقی میں ذیل کی خصوصیات نمایاں ہیں:-

• تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور کامل یکاگرگت ہے، حاکم و محکوم، ایسی در عیا اور ایسی و غریب سب اشاعتِ اسلام اور استیصال کفر کے جذبہ سے سرشار ہیں۔

• دینی مسائل و احکام میں مسلمانوں میں باہم کوئی قابل ذکر نزاع پیدا نہیں ہوا حتیٰ اکر سیاست میں بھی شدتِ اختلاف کی کوئی نمایاں مثال نہیں ملتی۔

— دنیا سے بے رغبی اور فکری آخوت کا کم و بیش وہی حال ہے جو خود دور رہتا  
آب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔

— صحبت نبوی کے قریب اور زمانہ رسالت کے اتصال ہی کا ایک پتہ تواریخ تھا  
کہ خود خلیفۃ الرسول ابو یکر صدیق رضی اللہ عنہ سیاسی و دینی اجتہادات میں خطا  
سے سب سے زیادہ محفوظ رہے، گواہ لا حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عنہ اجتہاد  
اور سیاسی آراء میں بعض حضرات نے اختلاف اور توقف کیا لیکن بالآخر  
انھوں نے بھی بعد میں ان کے توقف کی تایید و تصریح کی۔

— ملک دعاشرہ داعلی انتشار، شرپنڈ غناصر اور سازشی گروہ کی آماجھ  
بننے سے تحفظ اور ان کی دسیسہ کاریوں سے نامون رہا۔

### دُورِ فاروقی میں :

ذکورہ حالات میں اگرچہ کوئی نمایاں فرق واقع نہیں ہوا تاہم وہ یقین  
نہ ہری جو دو دو صدیقی میں تھی، زمانہ رسالت کے بعد کے تناسب سے حالات میں  
ضرور کچھ تغیر آیا گو بوجوہ دُہ زیادہ نمایاں نہ ہو سکا۔

### دُورِ عثمانی میں :

عوامی اتحاد میں کسی حد تک رختہ اور نیادی چیزوں میں ایک گونہ رعنیت  
اور دینی و سیاسی مسائل کے نزاع میں قدر سے شدت ظہور پذیر ہو گئی اور جہادی  
و سیاسی آراء میں حضرت عثمان امکان خطا سے اپنے پیشوں، ابو بکر و عمرؓ  
کی طرح محفوظ رہ سکے۔

سب سے بڑھ کر ملک دعاشرہ شرپنڈ غناصر اور سازشی گروہ کی دسیسہ کاریوں  
سے غیر محفوظ ہو گیا۔

### دُورِ علیؓ میں :

زمانہ رسالت کے مزید بعد کی وجہ سے تغیرات نمایاں اور واضح ہو کر سائنس آگئے  
— اتحاد و تفاق کی جگہ باہمی فانہ جتنی کی وجہ سے اشاعتِ اسلام اور سلسلہ جہاد

منقطع ہو گیا۔

— دنی و سیاسی سائل و آرائے کے اختلاف میں پُردی شدت اُبصراً ہی جس کی نمایاں شایلی جگہ تحلیل و صیفیں اور بینگہ ہڑوان ہے۔

— دنیا اور خارف دنیا میں اضافہ اور سیاسی حساب سے فکر اخترت میں مزید کی پیدا ہو گئی  
— حضرت علیؑ نے اچھیا دات اور سیاسی تلاشی میں اُس حد تک غیر محفوظ نہ رہے جو ان کے پیش رو خلفاء رہے، اگر ایسا ہوتا تو تاریخ اسلام عمل و صیفیں جیسے واقعات سے خالی ہوتی۔

### دور معاویہ میں :-

۱۔ نظم حکومت اور عام معاشرہ میں دینی گرفت پھٹلے ادوار کی نسبت کچھ ڈھنڈی پڑجاتی ہے اور نیوت کے عظیم درود حافی اثرات تبدیل کم ہوتے نظر آتے ہیں، وہ قلم جراہ حضرت معاویہؓ کے عہد اقتداء، سنتِ حکم، سیاسی اعتبار سے صحابہ کرام کی محکانی لا دوڑ ہے یعنی جس میں محکمان اعلیٰ (خلیفہ) صرف کوئی نہ کوئی صحابی ہے بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی ذکری اعتبار سے دیگر اصحاب رسول میں متاز اور خصوصی صفات کا حامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جمل القدم حضرات، اسلامی معاشروں میں پیدا ہوتے ہوئے بھائیوں کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے، دراں حالیکد عھابہ کرام سے بڑھ کر اصلاح اور بگارگور کرنے کا جذبہ چھپا دتا اور کسی میں نہیں ہو سکتا، اخراج میں وجہ کیلے؟ اور وہ کون سے ایسے حقیقی اسباب میں جن کی بنابر خود خلفاء راشدین رعنائی وعلیٰ پڑے وہیں اسلام کے نظام اجتماعی میں بھاڑکو دلتے کام موقع لی گیا؟

یہ بات ایک حد تک مسلم ہے کہ صحابہ کرام پیرت و کردار، هزار و مطرار اور انتظامی دیاسی صلاحیتوں میں باہم تنقادت تھے، اس اعتبار سے اس حقیقت سے انکار نا ممکن ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ نے پیرت و کردار کی جس سختگی اور سیاسی و انتظامی معاملات میں جس پیدا رخی کا ثبوت دیا، عثمانؓ و معاویہؓ ہوں یا حضرت علیؑ ان میں ہیں اس کا سار اربع نہیں ہوا، لیکن ایک چیز میں تسلیم کرنی چاہیے کہ معروف کی اشاعت، مکر کا استیصال اور بھاڑکو دلتے ہو جنسے بے پایاں ان تمام حضرات

میں بالخصوص اور دیگر اصحاب رسول میں بالعموم ایک قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے ہیں یہ امر تسلیم کرنے میں سخت تالیم ہے کہ عثمانؓ و معاویہؓ نے خود عدالت اسلام نے عمل اختصار کیا ہے جس سے بھاڑک کو تقویت پہنچی ہو یا جس سے اسلام کے تفاسیر مجدد اور عوام کی حق تھی پہنچی ہے۔ بنابریں عمومی بیکار کے سباب کا صلح اور دیانت دارانہ تحریر یہ ہے کہ زمانہ رسالت کے بعد اس کے باطنی درود حادثی فیوض و برکات میں تبدیلی کی کی وجہ سے بعض ایسے خارجی اہل بیہا ہو گئے تھے جن میں چند اہم تر اسباب یہ تھے۔

اولاً خود اسلامی معاشرہ کے مزاج میں آنحضرت کے مقابلہ میں دنیا داری کا بھان پیدا ہوا شروع ہو گیا۔

ثانیاً آنحضرتؐ کی تفویحات کے باعث مال و دولت کی فراہد انی جو بھائے خود بہت سے فتوؤں اور حشر سایمنوں کا پیش خیسہ بن گئی۔

ثالثاً۔ تفویحاتؐ کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد میں نو مسلم و عجمی رعایا کی اسلامی قلمروں میں شامل ہو گئی جس نے الگ چرخی زبان سے کلمہ لا إله إلا الله پڑھ دیا تھا انکی انکو اسلامی ہنچ پڑھا پہنچ افکار و جاہلیت کی تطہیر اور سیرت و کردار کی تحریر و تربیت کے زیادہ موافع میسر رہ آئئے تھے، اس نیا پر مسلمان ہونے کے باوجود ان کے اندر رہا پہنچنے والے علاقوں، ماحل اور جاہلی تملک کی خوبی موجود ہی اور ان کی سن وصیہ تدوین میں تو پہنچنے والے غیر اسلامی اشوات بالکلیہ ختم نہ ہو سکتے۔

رابعاً۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا بواب طاقت سے دینے کی کسی کے انسب سخت شہری ترقیہ و دنخاری کے ایک گروہ نے ظاہری طور پر اسلام کا ایادہ اور حکمرانی کا ایادہ احتیار کیا، اور نو مسلم و عجمی رعایا میں سے کمزور عناصر کو اپنے ساتھ لے کر اسلامی علاقوں میں اپنی انتشار برپا کرنے کی کوشش کی۔

خامساً۔ نئے مسلمانوں کی اتنی عظیم تعداد کے مقابلہ میں اسلامی حکمرانوں کا وہ صلح و خدا حضر جو شرف صحابیت سے بہرہ دادہ سیرت و کردار کی اعلیٰ اخصوصیات کا حامل تھا، بہت کم رہ گیا تھا۔

یہ اور ان چیزیں دیکھ رہا باب مذکورہ عظیم و بیل اصحاب رسول کے پسندیدہ عوام کے بڑے کام  
لانے میں مزاحم ہو گئے اور وہ بگاڑ کو پوری طرح روکنے میں کامیاب تھے کہ اور حالات و  
ظروف کے لحاظ سے وہ اس پر قادر بھی نہ تھے کہ بگاڑ کو بالکلیہ روک دیں ان کا یہی کام نامہ  
ان کی عظمت کے لئے کافی ہے کہ انھوں نے بگاڑ کے اس قدر تی سیالب کو روکنے اور اس کو  
بھم کرنے کے لئے ممکنہ حد تک کوئی دقیقہ اٹھانے رکھا۔)

فجز احمد، اہلہ احسن الجزاء عرضی اللہ عنہم و سخواعنه

## چند بنیادی غلطیاں

جو ہو گہد دور کے بعض وہ افاضل جھنوں نے قرن یادل کے حالات و واقعات پر خاصہ  
فرسانی کی ہے، یہیں افسوس ہے کہ انھوں نے اس دور پر بحث کرتے ہوئے ان بزرگ صحابیوں  
کے ساتھ انصاف تھیں کیا اور بہت حد تک سطحیت کا منظاہرہ کیا ہے ان میں ایک طرف داکٹر  
لطھ جین حصری چیزیں آزاد خال حقیق (؟) ہیں تو دوسری طرف علامہ رشید رضا صحری، سید  
قطب شہید اور مولانا مودودی چیزیں بالغ نظر افاضل، ان سب کے درمیان قدیم مشترک  
بھیوریت اور باوشاہت کی بحث ہے، یہ سب بیچارے اس عالم میں ہلکاں ہوتے جا رہے  
ہیں کہ عثمان نے کچھ ایسا ناماسب طرز عمل اختیار کیا جس نے خلافت کی بنیادیں ہاکر رکھے  
ویں اور معادیہ نے اُسے کمل باوشاہت میں تبدیل کر دیا، علامہ رشید رضا صحری کی  
”الخلاف فتنۃ الخطیبی“ ہے اس میں حضرت معادیہ نے خلاف ”گھناؤ نے جراہم“ کی ایک فہرست  
ہے، سید قطب شہید کی ”العدالت الاجتماعیة فی الاسلام“ میں حضرت عثمانؓ کے تعلق ناگوار  
تاثرات کا انہمار کیا گیا ہے۔ ائمہ حسین بنیادی طور پر غیر اسلامی زمین و مزارج کا حافظ ہے اس کے  
یہ ایمید ہی نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ صحابیہ کے ساتھ ادب و احترام کا برداشت کرے گا، اس نے  
اپنے مزارج و سرث کے مطالیق پرستے بے باکا نہ اندازی میں حضرت عثمانؓ و حضرت امدادیہ اور  
دیگر علیم العقول اصحاب رسول پر تنقید کی ہے۔ انہی افکار کی صدائے بازگشت اب اُردو  
میں ”خلافت و ملوکت“ میں شائی دیتی ہے۔

ان حضرات کی اولین بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ قلن اور زمانہ آن کے  
بیان کوئی واضح خطا اختیار نہیں کیا، اور یہ فرض کر لیا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما  
سماشہ کے بھو حالات تھے یعنی وسی حالات دو ری معاویہ میں تھے ان میں سرحدوں کی فرق  
نہیں آیا، اس لئے ابو بکر و عمر اور عثمانؓؑ و علیؓؑ نظام حکومت کا جزو ہا اچھا قائم کر لے تھے  
حضرت معاویہ دعیزہ کو ان میں تبدیل کا ذرا بھی حق نہ تھا، حالانکہ یہ طرزِ فکر بنیادی طور  
 پر غلط ہے، حضرت ابو بکر و عمرؓؑ کے دور میں جو حالات تھے وہ بتدریج تغیر پذیر ہے  
عثمانؓؑ و علیؓؑ کے دور میں وہ حالات کافی حد تک بدل پڑتے تھے، ان کے دور میں حالات  
کا وہار اخطر ناک رُجح اختیار کر گیا تھا، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان ناک حالات  
میں نظم حکومت کا وہ ڈھانچہ عملاً قائم رکھنا جبے حضرت ابو بکر و عمر قائم کر گئے رکھتے از بس  
مشکل بلکہ ناممکن سایہ گیا تھا، اسے سمجھنے کے لئے آپ ان اشارات کو ایک بار پھر پڑھ  
لیجئے جس کی شروع میں ہم نے نشانہ ہی کی ہے، دوسرا آپ شاہ ولی اللہ کا یہ نقطہ نظر  
سلسلے رکھیں جو انہوں نے زمانہ قلن اور زمانہ آمن کے متعلق اختیار کیا ہے آپ کو خفیقت کا سلیغ  
لکھنے میں آسانی ہو گی۔

شاہ ولی اللہ جو کے تذکرہ شہادت عثمانؓؑ کا دوڑا زمانہ آمن اور اس کے بعد  
کا دوڑا زمانہ قلن ہے اسی لئے انہوں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خیر انقدر  
قریٰ شدَّ الْذِي هُنَّ تَلَوَّنُهُمْ .. کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس میں جو قین قرن بیان کئے  
گئے ہیں، ان میں اول قرن خود زمانہ رسالت ہے دوسرا قرن ابو بکرؓؑ کی خلافت ہے  
لے کر عمر فاروقؓؑ کی شہادت، اور تیسرا قرن حضرت عثمانؓؑ کی شہادت تک ہے، اس کے  
بعد خیر القرden اور اس کی بہریت ختم ہو گیں۔ اس بنا پر وہ حضرت علیؓؑ کے دو درجہ میں ظہ  
راشندہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں تاہم ان کی خلافت کو وہ اس طرح خلافتِ خاصہ نہ سمجھتے ہیں  
طرح سابق خلفائے شاہنشاہ کی خلافت تھی مسند و احادیث سے انہوں نے اپنے اس نظریہ کا اثبات کیا ہے  
کہ خیر و رکعت، دو امن کا دوڑا عثمانؓؑ پر تم تبریگی، اس کے بعد خیر و رکعت اٹھائی گئی اور زمانہ قلن شروع  
ہو گیا، شاہ صاحب کے اس نظریہ سے اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن اس قضیت سے انکا مشکل ہے کہ

کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ساتھ ہی امن اور خیر و برکت کا ہدود نہ تھم برکر دو رفاقت شرع ہو گیا، شاہ صاحبؒ کے اس نظریہ کو یہاں بیان کرنے سے ہمارا اصل مقصد اسی حقیقت کا اثبات ہے۔

اب دیکھئے ایک طرف یہ حضرات پڑھے زور شور سے یہ وعظ کرتے ہیں کہ اسلام ایک متحکم، جاندار اور لمحک دار مذہب ہے جو ہر دوسرے حالات سے عمدہ برآئی ہوتے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسلام میں حکمت علی کا بھی ایک مقام ہے جس کی رو سے قائد تحریک، حالات کی رُنگات کے پیش نظر، اسلامی احکامات میں سے آنفع اور اہون آبلین اتنے کے اختیار کرنے کا حق رکھتا ہے اور پہنچنے لئے اس اصول کے استعمال کو انہوں نے رد ابھی رکھا ہے، مولانا محمد وردی صاحب نے اسی اصول کے پیش نظر صدارتی انتخاب میں ایک مرد کے مقابلے میں ایک دین نما آشتہ اعورت کی حمایت کی اور اس کے لئے تن ہن مص کی قربانی کو اسلامی لحاظ سے ضروری سمجھا، لیکن اس کا حق یہ ایک صحابی رسول حضرت معاویہؓ کو نہیں بیت دیاں حالیکہ تراجمی حالات کی وجہ دلیل جس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں، حضرت معاویہؓ کے دو درمیں بھی پانی جاتی ہے، دل ددماغ کی بھی وجہ بھی ہے جس نے غیر شعوری طور پر ان حضرات کے اور حضرت معاویہؓ کے خلاف خیطتو خنکتے ہیں بات بھر دئے ہیں اور وہ حضرت معاویہؓ کے ساتھ انصاف نہ کو سکا اگر ہماری بیان کو تصریحات کو پیش نظر رکھا جائے تو کوئی دعیہ نہیں کہ ان کی روشنی میں حضرت معاویہؓ وغیرہ کے امور اس کی کوئی مناسب و صحیح ترجیح نہ کی جاسکے۔

اُن حضرات کی دوسری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کے نقطہ نظر سے بگاڑھ سیاست (نظام حکومت) میں آیا ہے، باقی اخلاقیات، معاملات اور خیارات کے ہم شعبے بدستور اسی ذریعہ پر تھے جس پر ایو یکیہ وغیرہ کے دوسرے میں تھے، یہ نقطہ نظر بھی بنیادی طور پر غلط ہے۔

وآخری ہے کہ اُن لامبا گام معاشرتی حالات، معاملات، اخلاقیات اور افراد اسکے رو جوانہ ہے لیکن آپ سے سیاست، اخلاقیات، غلائقیات ہی کا ایک شعبہ ہے اس بنیاد پر مذکور شرعاً

کا جو عمومی مزاج ہو گا یہ ناممکن ہے کہ حکومت کا مزاج اس سے مختلف ہو، اسی سیاست نظام حکومت کا خمیر بھیشہ اپنے ملک کے مزاج و کردار سے اٹھتا ہے، اگر افراد ملک کا مزاج و کردار فاسقا نہ ہو گا تو اس سے جو نظام حکومت جنم لیگا وہ غیر صالح ہو گا، صالح کبھی نہیں ہو سکت، کافراں مزاج کے معاشرے سے مشکل ہونے والا نظام حکومت بھیشہ کا فرات مزاج کا حال ہو گا، تاریخ میں اس کی مثالیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے باہر سے حملہ کر کے کسی غیر اسلامی ملک کو مفتور کر کے دہان اسلامی حکومت قائم کر لی موبیکن ایسی کوئی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی کہ کسی غیر اسلامی ملک و معاشرہ سے اُن خود کسی صالح اسلامی نظام حکومت نے جنم لے لیا ہو گریا۔ نظام حکومت کے مزاج کو بنانے میں ملک و معاشرہ کا مزاج، اصل کردار ادا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنے مالک بھی فتح کئے اور دہان اسلامی نظام حکومت نافذ کیا تھا، اس مفتور ملک کے افراد بادی جو دقبوں اسلام کے چونکا اُس معاشرہ کے افراد کی طرح نئے جس معاشرہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیبیت یافتہ صحابہ رضویوں پر تھی، اس لئے دہان کا نظام حکومت بھی با دجور اسلامی ہونے کے بعد اس اسلامی نظام حکومت کے مغلیں نہ ہو سکا جسے حلت اپنے پردہ غیر نئے کی دین معاشروں میں نافذ کیا تھا، تمام مالک مفتوروں میں قائم کردہ اسلامی نظام حکومت کے انہی پہنچے اپنے ماحول، معاشرہ کے مزاج اور دہان کے مخصوص رجحانات کے کچھ نہ کچھ غیر اسلامی اثرات نہ زور پائے جاتے ہیں لہ

---

لہ ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ کھٹک پیدا ہوگا اس بھروسے معاشرے میں عمر بن عبد العزیز کے ہاتھوں پھر کس طرح معاشرتی بُرا یا اصلاح پذیر ہوئیں اور ایک سلسلہ نظام حکومت اپنے آیا ہے سمجھنے کے لئے آپ ہماری ابتدی تمہید کو پھر پڑھیں اس کا تعلق اس اصلاح و تجدید سے ہے جس کا ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اسٹھام کرتا ہے، پہلے یہ کام ایک بھی کے بعد دوسرا بھی اُگر سرانجام دیتا تھا لیکن سلسلہ بتوت کے بعد ہو جانے کے بعد عام افراد میں سے اللہ تعالیٰ ایسے افراد غاصن حالات میں پیدا کرتا ہے کاجن سے یہ تجویدی کام سرانجام پاتا کریں گے، مگر یا اس کا تعلق از تسمیہ محروم یا ایک گونہ یہ اسلام کا اعجاز ہے اور دُنیا کا یہ کار خانہ مسیرات پر نہیں عام طبعی قانون کے تحت چل رہا ہے، اسی کے مطابق ہی کی گفتگو کر رہے ہیں ۴

اس نقطہ نظر سے بھی دور معاویہؓ کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھنا جائے تو معلوم ہو گا، کہ جس طرح اسلامی معاشرہ میں تبدیلیح زوال کے اثرات عبادات، معاملات، حدیث و تقدیم اور اخلاقیت، دعیزہ پر ظاہر ہوئے، اور ایات حدیث میں متعدد ایسے واقعات ملتے ہیں، زوال کے اس اثر سے سیاسیات نظام حکومت (کاندھیوں متأثر ہونا ایک لازمی و طبعی امر تباہی سے روکنا کسی کے بس میں نہ تھا، زندگی کے دوسرا سے شبھے جس طرح بگاڑ کی لپیٹ میں آئے اسی تناسب سے نظام حکومت میں بھی کچھ خامیاں ظہو۔ پذیر ہو گئیں، اس میں حضرت معاویہؓ کے عمل درگر حارسے کہیں نیادہ دخل بگاڑ کے، اس قدر تی عمل کا تھا جو تبدیلیح اسلامی معاشرہ میں پیدا ہوا تھا اور تمام شبھے اس سے متاثر ہو رہے تھے، حضرت معاویہؓ نے حتی الامکان اسے روکنے ہی کی کوشش کی ہے، اس میں اضافہ کا سبب نہیں بنتے ہیں۔

ان دونوں بُنیادی حقیقوتوں کو نظر انداز کرنے ہی کے تجویں یہ تھرات ایک احمد غلطی کاشکار ہو گئے اور وہ یہ کہ اس دور کے حالات پر بحث کرتے ہوئے یہ حضرات اس مدد کے سیاسی، ملکی اور معاشرتی حالات کا اس بالع نظری اور حقیقت پسندی سے جائز نہیں لیتے جس کافی الواقع وہ مستحق ہے اور تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے کھٹ سے معاویہؓ کو گروہ زدنی قرار دیتے ہیں اور تبدیلی کی ساری ذمہ داری ایک فرد داحد پر ڈال دیتے ہیں حالانکہ اس دور کے سیاسی، ملکی اور معاشرتی حالات کا بغور جائزہ لے کر حضرت معاویہؓ کے اقدام دلی عہدہ کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہو گا، حضرت معاویہؓ کا یہ اقدام خلافت راشدہ کے مقابلہ تھا اسی ایسا نہ تھا کہ خلافت راشدہ کے دوبارہ قیام کا امکان ہو چلا ہو اور وہ عوامل جنہوں نے خلافت راشدہ کے نظام کو تلبیٹ کر کے رکھ دیا تھا، پسی سوت مر چکے ہوں اور ملکی سے خطرات کے بادل چھٹ پکے ہوں لیکن حضرت مسیح یہ نہیں اس کے باوجود لپٹے اقدام دلی عہدہ کو برداشتے کار لاگر خلافت راشدہ کے امداد کو ختم کر دیا ہو، حضرت معاویہؓ کا یہ اقدام اس نوعیت کا نہ تھا، اگر ایسا ہوتا پھر تو وہ اسی میں تھے، لیکن ان کا یہ اقدام تو پیغ و پیغ، گوناگون اور ہولناک خطرات کے مقابلہ مدد کے لئے تھا جن کی وجہ سے ملکت صرف ایک دو مرتبہ خانہ بن گئی کے ہوں گا تاچ بھگت پکا تھا بلکہ

خانہ جنگل اور بطور ائمۃ الملوکی کا پے دپے مزید اندریشہ تھا، حضرت معاویہؓ یہ دیکھ رہے تھے کہ اب اسلامی معاشرہ کی دُو گیفیت نہیں رہی جو دری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت شیخین شیخین تھی بلکہ اب حالات اس نفع پر آگئے ہیں کہ حضرت علیؓ جسے حلیل القدر اور عبقری صحابیؓ کی خلافت بھی خانہ جنتگیوں سے محظوظ نہ رہ سکی، اس دور کے یہ مخصوص حالات اس بات کے مقاصنی میں کہ حضرت معاویہؓ کے ساتھ حسنؓ نے رکھا جائے اور ان پر ذاتی مفادات کے گھناؤ نے الرازات عالمہ اکبر کے بذریبائی اور بے لکھی کا مظاہرہ کیا جائے ایک اور چوتھی پیزی ان محققین کے درمیان قدمشترک کی طرح پائی جاتی ہے کہ چہلے ان سب حضرات نے حضرت علیؓ کی "پاک دامنی" اور حضرت عثمانؓ معاویہؓ کی "تردا منی" کا ایک تصویر اپنے ذہنوں میں قائم کر لیا، اس کے بعد کتب تاریخ کی ورق گردانی شروع کی، اور اپنے ذہنی تصویر کے مطابق مجرد حدمتہم دردغ نگور ادبوں کی تمام وہ گری پڑی روایات تو قبول کر لی ہیں جن سے عثمانؓ معاویہؓ مروانؓ، ولید بن عقبہ، میزہ بن شعبہ اور عمر دین بن العاص وغیرہ اصحاب رسولؓ کا کہدار، مجرم صح اور انہی روایات تقدیس تارتار ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف تاریخ و حدیث کی دو روایات جن سے حضرت علیؓ کا کہدار مجرم دردغ ہوتا نظر آتا ہے ان کی یاد کرنی توجیہ کرنے کی کوشش ناقابل کی ہے یا پھر ان روایات کو یہ کہہ کر کہ ناقابل اعتبار قرار دے دیا ہے کہ یہ روایات حضرت علیؓ کے جموعی طرز عمل سے ممتاز نہیں رکھیں، آپؓ ڈالٹر طحسین کی آشنا "الفتنۃ الکبیری" اور "علی و بنوہ" سید قطب شہیدؓ کی "العدالت الاجتماعیة فی الاسلام" اور مولانا مودودی کی "خلافت و ملوکیت" دیکھ جائیے سب میں یہ چیز نہیں طور پر ملے گی، حالانکہ حضرت علیؓ کی طرح حضرت عثمانؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عمر دین بن العاص وغیرہ بھی حلیل القدر اصحاب رسولؓ میں اور سب حسنؓ کے متین ہیں، اگر حضرت علیؓ کی روایت کی وجہ سے ایک خاص کمیر بکیر کے حامل ہیں اور تاریخ و سیر کی دو روایات، جو ایک صحابیؓ رسولؓ کی عظمتِ کردار سے متصادم ہیں، لائن روایات میں اس سب توجیہ کی مقاصنی میں تو عثمانؓ معاویہؓ اور عمر دین بن العاص وغیرہ بھی توصیف

صحابت کی وجہ سے اس بات کے متعلق ہیں کہ ان کے فعل کی بھی کوئی مناسب و معقول تو سبھ کی جائے اور ان روایات کو ناقابل اعتبار قرار دیا جاتے جو ان کے مجموعی طرز عمل سے متصادم یا ان کی عظمت کردار کے منافی ہیں۔

پانچویں خامی ان حضرات کی یہ ہے کہ انہوں نے جرم دسرا کے تناصیب کو لکھا ہنس رکھا، عثمان، شہوں یا معاویہ یہ سب ۲ خواہی مشتبہ فاک سے بنے ہوتے انہاں سچے جن کے خیر میں خطاب و تسیان کا مادہ شامل ہے، اس لئے ان سے کوتاہیاں ممکن تھیں اور ان سے کمزوریاں اور کوتاہیاں ہٹھی بھی ہیں لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے جس اندماز کی کوتاہی مسزند ہوتی ہے، اُس کو اسی تناصب سے سزا کا مستحق اور جرم گردانا جاتے یہ نہیں ہوتا چاہیے کہ ایک غلطی کی سزا سوئی کی چین ہو لیکن وہاں عذتی کی بعد نشرت اس کے رگ دپے میں اُتار دے جائیں تعریز کے متحقق جرم کو حوالہ فار و رسن کرو دیا جائے، معمولی کوتاہی کو خوفناک اور بھی انکا اندماز میش کر کے اس کی داھی قباحت کو نہ لے گئے گئے بلکہ کمیش کیا جاتے، اجتہادی تعلیمات کی غلطیوں کو اسلام کی تباہی وہلاکت سے تعبیر کیا جاتے، ہمیں افسوس ہے کہ ان حضرات نے حضرت معاویہ و عزرا کے ساتھیہ ظلم اور انصافی بھی داکھلی ہے اس حالیہ بالخصوص مولانا مودودی صاحب سب سے سبقت لے گئے ہیں۔ ”خلافت و ملوکیت“ کے باب پنج میں حضرت معاویہؓ کے کمروہ جرام کو دیکھ لیجئے دہل مولانا نے ہی جاہاڑ و ش اختیار کی ہے ایک معمولی و جزئی واقعہ کو مولانا اس عنیتی اندماز سے پیش کر کے ہم جیسے معاویہ کی قیمتے ہے اقدار میں اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، یا بچکار کو زیماں کر نکسے لئے ایک جزئی اور غیر ایم داقع کو بنیاد بننا کرایے بھیاںک اور مکرورہ تلقیخ زکاں کر سامنے رکھ دیتے ہیں کہ معاویہ کے ۲۰ سالہ عہد اقتداء میں سوائے تاریکی کے روشنی کی کوئی کرن نظری ہیں آتی۔

یہ چند بیاناتی خامیاں اور غلطیاں ہیں جن ہیں آج کل کے ”جموریت پسند“ زعماً و مغلکوں مبتلا ہیں، انہیں کسی چیز سے غرض نہیں، ان کا اصل مطبع نظر صرف یہ ہے کہ کسی طرح ”ملوکیت“ کے معائب و نقاصل اور اس کی ہلاکت خیزیوں کو ابھار کر جمورویت کا ”الحرما“ تعمیر کیا جاسکے، یہی وہ خذہ پہلی ہے جس نے اپنی ہر طرف کے انہیں بند کر لیئے پر مجبور کر دیا ہے، وہ انہیں

گھوستے ہیں تو صرف اسی پر دقت جب، انکو فتنات و معاویہ میں کروار میں کوئی واضح نظر آئے اور جن سے ملوکیت کی کوئی خراپی نہیں بیجا کے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور انکھوں کے دیکھتے ہیں، نہ کافوں سے سُنْتَهُمْ، نہ زبانوں سے فوٹے ہیں اور سندل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ پَهَاوْلَهُمْ أَغْيِنُ لَا يُصْوِرُونَ بِهَاوْلَهُمْ أَذَانُ لَا يَسْعَوْنَ بِهَا ۝

## مسائل کی اہمیت؟ حقیقت اور تقاضے

مزید برآں آج کل جمہوریت و ملوکیت کی بحث کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ”خلافت و ملوکیت“ کا محور بھی یہی بحث ہے خود مولانا نبی کتاب کے ضمیمے میں اس کی اہمیت پہنچانے کا دریا ہے۔ اس سلسلے میں یہی تین بنیادی حقیقتیں ذہن لشین رہنی چاہیں۔

**اولاً:** مسائل کی اہمیت کے لئے معیار، ایک مسلمان کے نزدیک کیا ہوا چاہئے اور ان حدیث اور تعامل صحابہ یا زمان و مکان کا عصری و وقتي ذہن در حجاج؟ اس سوال کا جواب ایک مسلمان کے لئے بالکل واضح ہے کہ کسی چیز کی اہمیت وغیرہ اہمیت معلوم کرنے کے لئے معیار قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ ہے، قرآن و حدیث نے نہانہ نازکوکہ۔ جہاں مکارم اخلاقی، امر بالمعروف و نهى عن المنکر تصویر آخرت و عزیزہ جیسے مسائل کی جواہمیت بیان کی ہے اور دوسری صحاہیہ میں جس پر اہمیت کا تعامل رہا ہے، قیامت تک ہر دو دین میں ان کی اہمیت مستلم ہے۔ اس کے علاوہ وہ مسائل جن کے متعلق قرآن و حدیث میں واضح اشارات نہیں ہوتے، یا ملتہ ہیں لیکن اتنی اہمیت کے ساتھ نہیں جتنا اہمیت ان کو کسی دو دین بعض مخصوص بھی جاتا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان مسائل کی اہمیت جو کچھ بھی ہے وہ حقیقی نہیں، امنا فی ہے، جواہوں و نکروں، انت نے تقاضوں اور مختلف افراد کے نکردنظر کے اعتبار سے گھشتی پر وضتی ہتھی ہے بلکہ فہری مختلف فیہ مسائل کی بھی مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے نزدیک یہی حیثیت ہے، اس قاع الدین

آئین بالیہم، فاتحہ خلف الامام اور تسویۃ الصدقوں وغیرہ مسائل کو جواہمیت، جماعت الحدیث اپنے جمیعتہ ایثار عربستان کی بنیاء پر درستی ہے، مولانا اور ان کے رفقاء ان مسائل کو اتنی اہمیت نہیں دینے اور ان حالیکاں مسائل کے باسے میں احادیث صریحہ و قویہ موجود ہیں، جو ان کی

اہمیت کے لئے کافی ہیں، اس معیار کی روشنی میں مولانا مودودی صاحب کے بیان کردہ مسائل کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی اصل اہمیت کتنی ہے اور ان کو اہمیت دینے میں موجودہ عصری ذمہ کتنا دخل ہے؟

ثانیاً۔ ان مسائل کی جو فرضی اہمیت بتائی جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لئے اُسے سمجھ تیلم کو لیا جائے نہ بھی سوال یہ ہے کہ اہمیت موضوع کے بھی کچھ تقاضے ہیں یا نہیں؟ جو مسئلہ جتنا اہم ہو گا، اس کے تقاضے بھی اہم تر ہوں گے، افسانہ دناول نویسی کی ایک اہمیت ہے لیکن ایک اور قلم کا رتفہ و علمی مسائل پر سمجھ کر تناچا ہتا ہے، ظاہر ہے موضوع کی اہمیت کے اعتبارے اس کی قدم داری اول الذکر قلم کار سے زیادہ ہے، ایک شخص دیوان غائب کی تشریع توضیح کرتا ہے دوسرا شخص کلام اللہ یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تغیر و تشریح کرنے کا ارادہ کرتا ہے ظاہر ہے اس دوسرے شخص کے موظف ع کی جو اہمیت ہے اس کے تقاضے بھی اول الذکر کی نسبت اہم تر ہوں گے، مولانا کی کتاب جن مسائل و مباحث پر مشتمل ہے ان کی اہمیت وغیرہ اہمیت سے صرف نظر کر کے یہ دیکھئے کہ ان مباحث میں کونسی ذوات و شخصیات پر سمجھتے ہیں، یا ان کا تعلق کوئی کوئی شخصیات کے ساتھ ہے؟ وہ عام انسانوں کی طرح عام تریخ انسانیت نے بھی واقعاتی طور پر تسلیم کر دیتے ہیں کہ ایسی شخصیات کے حامل گزدہ دوبارہ چشم فلک نہیں دیکھا، اس پلے سے قرآن و حدیث کی بیان کردہ اس گروہ کی شخصیات زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ یا وہ مباحث اہم تریں جن سے یہ شخصیات محروم ہوتی ہیں؟ یا ان مباحث و مسائل کے اثبات کا یہ کوئی صحیح طریقہ کھلا سکتا ہے کہ اس گزدہ کی قرآنی شخصیات تو شایدی اور غیر اہم بن کر رہ جائیں اور وہ رجحانات، جو عصری ذمہ کے پیداوار میں آفرینش دے اہمیت کا درجہ حاصل کر لیں؟

ثالثاً۔ عصری رجحانات ضروری نہیں کہ ہر جگہ ان کی اہمیت کا انکار ہی کرو یا بذاتے ہیں ممکن ہے کہ بعض اہم عصری رجحانات بوجوہ اسلامی نقط نظر سے بھی اہمیت کے عامل ہوں

دلان ہائیکہ اس سے پچھا ان کی یہ اہمیت تسلیم نہ کی جاتی رہی ہو، لیکن اس موقع پر یہ خیال ہزورہ  
رہنا پڑھلے گئے کہ یہ مسائل صرف دُو ہموں کے جو انفرادی یا جماعتی صورت و نزعیت کھٹکے ہو گئے دُو ہموں کی  
سوالات کا براہ راست ان سے کوئی تعلق نہ ہوا گا، مثال کے طور پر آج کل معاشری نظام کے  
سئلہ میں اشتراکیت اور سرمایہ داری کی کوئی نجی پوری یا دنیا میں سنائی دے۔ یہ ہے،  
اس کے جواب میں مسلم مفکرین نظریاتی طور پر اسلام کے نظام میں مشتمل دو قصص کو پیش  
کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک مختصر اور اہم عصری ضرورت ہے حالانکہ اس قسم  
کی کوششوں کی ضرورت آج سے چند صدیاں قبل نہیں محسوس کی گئی تھی کیونکہ اس وقت  
اس کے بال مقابل دُوسرے رجحانات دنظام ہائے حیات اتنی ثابت کے ساتھ ابھر کر سائے  
نہ آتے تھے لیکن آج کے تقاضوں نے اس چیز کو بڑی اہمیت دے دی ہے اس لئے  
اس کی اہمیت سے نہ انکار کیا جاسکتا ہے احمد بن حنبل کے جواب میں علمی طور پر کام کرنے  
والوں کی کوششوں کو غیر مستحسن یا غیر یکم کہہ سکتے ہیں، لیکن زیرِ بحث مسئلہ اسلام کا  
نظام حکومت، حقیقت میں جھپوڑی ہے یا باوشاہی؟ یہ انفرادی یا جماعتی نزعیت کا حال  
نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ براہ راست کتی دینی سوالات بھی متعلق ہیں، مثلاً موجودہ جماعت  
تے تاریخوں کم کہیں کہ "ملوکیت" مناد کا معنی ہے رچا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے آج  
کل کی جھپوڑیت سے ہزار درجہ بہتر ہے، احمد اس ملوکیت نے شہزادگان، چند سان  
کے نقصرے عرصہ میں، اسلامی حکومت کی تمام اعیازی خصوصیات کو مٹا کر کہ دیا تو  
معاً چند سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ اس "ملوکیت" کا بانی کون ہے؟ اور مسئلہ  
میں کون شخص صاحب اقتدار رہا؟ جس نے اپنے دور میں انسان برا جرم کیا کہ اسلامی حکومت  
کی ایک ایک خصوصیت کو مٹا کر کھو دیا۔ جب اُسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا بانی بھی ایک ملیل القدر  
صحابی رسول ہے اور جو صرف ایک صحابی ہی نہیں بلکہ دُو ہم کتاب (وحی یعنی تھا)، اور اس ہو طا  
tron، عدم کام تکب بھی یہی شخص ہے، نیز اُسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ۔ ملوکیت کی دوسریں  
ذالۃ وقت سنیکڑوں، اصحابِ رسول بھی موجود تھے لیکن شرط فرق رکی ازاں، سیادت تھے  
بھی کوئی قابل ذکر اتحاد کی آدا نہ اٹھتی اور صحابیہ کی موجودگی میں ہمارے ۱۰ سوکے پہنچتے سنیکڑوں

اس کے پورے بُرگ دبار بھی اس صورت میں ظاہر ہو گئے کہ اسلامی حکومت اپنی تمام حصوں پر  
سے عاری ہو گئی، تب بھی کوئی کلمۃ احتجاج و اعلان برآت اس کے خلاف نہیں سنائی دیتا  
آخری کیا بات ہے؟ ہم ایسے صحابی رسول جس نے اس "عظیم ترین" جرم کا اتنا کتاب لکھا  
اور دیگر ان بہت سے جملی التقدیر اصحاب کے متعلق جن کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا، کیا رام  
قاہم کریں؟ اس وقت کے اسلامی معاشرہ کو کیا کہیں؟ قرآن و حدیث نے صحابہ کرام کے عموم کا  
مزاج و سیرت کی جو تصویر کشی کی ہے اُس کو ادا راس کردار کے مامن تبلیغ کی صورت کیا  
ہو، اور جب "ملوکیت" ہی تمام فضاد کا بنیع ہے تو پوری امت کے علاوہ کے متعلق ہم کی  
راتے قائم کریں؛ جو دو دُو اُنمی سے لے کر سرودہ میں ٹھیک لیکن کسی نے بھی محض "ملوکیت" کو  
ہم نبیع فضاد قرار نہ دیا، بادشاہوں کو دُوہ ضرور ٹوکتے رہے، ان کی غلطیوں کی نشانہ ہی اعلان پر  
تنقید کرتے رہے لیکن بیانات خود ملوکیت کی آنکھوں نے کبھی مندقت نہ کی۔

ظاہر ہے بحث کا یہ اذان کو ایک گروہ مجتہد سے کہی دُوسری گروہ میں لگ جائیں، مستحق نہیں،  
عصری روحانیات کے ساتھ اسلامی اصولوں کی تبلیغ کی واحد صورت یہ ہے کہ گفتگی کو اس اذان  
کے سلسلہ میں کوشش کی جائے کہ اس سے مزید گھصیاں نہ پیدا ہوں، ایک سوال کے حل کی  
صورت میں دیگر سوالات کا خوفناک جنگل ہمارے ساتھ نہ آکھڑا اسرا در ذہن کی ایک پوچھیگی  
کو اس اذان سے دفعہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ اس کے بعد دل و دماغ ذہنی انتشار نہ لے  
کے ۲۴ جگہ بن کر رہ جائیں۔

ان بیانی اذنات کو زہن نہیں کرنے کے بعد اپ "خلافت و ماؤکیت" پر بونقد  
ہم نے کیا ہے اسے بغور ملاحظہ فرمائی، یہ اذنات آپ کو سر جگہ رہنمای اور بیانیاد کا حام دیا گی  
اصل کتاب پر تنقید یہ ہے ہم کتاب تکے اُس حصہ بونقد کرتے ہیں جو بطور غنیمہ کتاب کے آخر  
میں مختلف سوالات کی توضیح کے طور پر شامل کتاب کیا گیا ہے۔ کتاب کا یہ حصہ ظاہر ایک  
ضمیمہ ہے لیکن درحقیقت وہ بیانیہ میں باحث کا حال ہے، اس میں اگرچہ دلائل کچھ ہیں لیکن  
مخالطہ کی وہ فنی تکنیک اور تفصیل اُرائی ضرور ہے جس کا اہم ہر کمزور مقدمہ کے فافل و کھلی  
کو کرنا ہے۔

## باب دوم

چند بُنیادی مباحث

— اور —

اُن کی تفہیق



## پائے چومن سخت بے تکمیں بود :-

ذکر کردہ حقائق کو ذہن نیشن کر لیئے کے بعد اب ہماری اصل تقید لاحظہ فرمائیں، یہ ہر جگہ کوشش کریں گے کہ پہلے خود مولانا کی جبارت ان کے اپنے الفاظ میں نقل کردی جائے اور چھواس برقد و تبصرہ کیا جائے اس طرح کچھ طوالت ضرور ہو جائے گی، لیکن اس طرح کسی کو یہ کچھ کی تکمیل کی جائے باقی نہ رہے گی کہ عبارت کو سیاق و سبق سے کاٹ کر غلط مفہوم پہنچ کر کوشش کی جائی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:-

دھوتاری میں مواد اس بحث میں پیش کیا گیا ہے دہ تایخ اسلام کی مستندترین کتابوں سے مخذل ہے، جتنے واقعات میں نے نقل کئے ہیں ان کے پورے پورے حوالے درج کر دیئے ہیں اور کوئی بات بلاحالہ بیان نہیں کی ہے اصحاب علم خود میں کتاب سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ (خلافت و ملوکیت ص ۱۹۹)

کہ بات ٹوپی کیا صرف حوالہ دے دینا اس بات کی کافی صفات ہے کہ ناقلوں مدد و راہیت کی اس کتاب کے ساتھ نقل کی ہو گئی جو مفہوم دہ روایت اپنے سیاق و سبق میں ہے رہی ہو گئی؟ کیا یہ ممکن ہیں کہ تابیہ کا حوالہ تو شیک ہو لیکن اس سے استدلال غلط کیا گیا ہے یا اس کو اس کے سیاق سے کاٹ کر کچھ کا کچھ بنا دیا گیا ہو؟ ایسا حشر یا رلوگوں نے خود قرآن و احادیث کے ساتھ کیا ہے، کتب تواریخ کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ دہ تو پہلے ہی عجیب و غریب تضادات کا مجموع ہے، شیخہ بھی اپنا بیشتر مواد ان ہی مستند کتب تواریخ سے لیتے ہیں لیکن ذہن و استدلال کی کچھ اس میں ایک ایسا مخصوص رنگ بھروسی ہے جو اسی سنت کملے کیکسر ناقابل قبول ہے۔ اسے چل کر آپ کو معلوم ہو گا کہ خود مولانا کے کچھ زاویہ تحریر نے بھی استدلال داشت اس کے ایسے ہی شہ کا تصنیف کئے ہیں، حقی کر کی مقامات پر صریح طور پر روایت کو اس کے اصل سیاق سے کاٹ کر اس کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے:-

"یہ تایخ کہیں چھپی ٹوپی ہمیں پڑی تھی ہے میں لیکاٹ لکال کر منتظر عام پر لے آیا ہوں۔ یہ تو صدیوں سے دُنیا میں چل رہی ہے اور طباعت و اشاعت

کے جدید انتہا اس نے اسے لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچا دیا ہے؛ اسے کافر دوسن اور دوست دوشن سب پڑھتے ہیں اور یہ صرف عربی دلنوں تک بھی محدود نہیں ہے بلکہ تمام مشرقی زبانوں میں منتشر قرآن نے اہمیت رکھی اپنی زبان میں ترجیح و تالیف کرنے والوں نے اسے پڑھتے پہنچانے پر شائق کر دیا ہے، اب نہ لئے ہم چھپا سکتے، نہ لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تاریخ اسلام کے اس دوسرے مطالعہ نہ کردا اور تخلق خدا کو اس پر کلام کرنے سے روک سکتے ہیں ॥ (خلافت و طویحت ص ۳)

یہ استدلال ہے یا الفاظ کی میانا کاری۔ ۲ یہ اعتراض کب کسی نے کیا ہے کہ ایک چیز کو منظر عام پر لے آیا گیا ہے؟ یہ کتابیں تو صدیوں ساہل علم میں منتقل ہیں اور ہر یہی میں لیکن وسیع اور عام ہو جانے کے معنی کبھی سے ہوئے ہیں کہ اب لاکھوں اور کروڑوں پڑھنے والے دوست دوشن سب سو فی صد ہی دیانت دار اور فکر و استدلال کے لحاظ سے صفات ہی ہوں گے، ان میں دو چار بھی ایسے نہ ہوں گے جو ردیات کو سیاق سے کاٹ کر فرمایا تھے کے یا زادیت نکل کی کجی کی بنابر غلط استدلال و استدلال کے مرتکب نہ ہوں گے دیکھا قرآن اور احادیث کے تجوہوں کو مشرقی زبانوں میں اور ہماری اپنی زبان میں ترجیح و تالیف کرنے والوں نے پڑھتے پہنچانے پر شائق نہیں کر دیا ہے، کیا انہیں لاکھوں اور کروڑوں انسان نہیں ٹھہرے کیا پھر اس چیز نے لوگوں کو قرآن و احادیث کے ساتھ بد دیانتی یا کام ات کام ان کو ان کے ساتھ غلط استدلال کرنے سے باز رکھا ہے؟ پھر کتب تواریخ کے عام ہو جانے کے معنی کب ہو سکتے کہ اب جو شخص بھی ان کا حوالہ دے کر بات کرے گا وہ لا ریب صحیحہ آسانی کی طرح حرفاً بحروف حق اور صحیح ہوگی، اس میں نہ نکل و نظر اور استدلال و استدلال کی غلطی سوچ لانہ قلب دماغ کی دو کجھی ہو گئی جو اچھے بھلے انسان کو بھی گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے۔

هم خلق خدا کو اس کے مطالعہ کرنے اور اس پر کلام کرنے سے ہیں روک سکتے، شہیک ہے لیکن جو شخص اپنے مخصوص بُر جوان اور حِزبِ تعصّب کی بنابر ان کے مواد سے اس غلط استدلال کرے جیسا کہ بہت سے گمراہ فرقوں نے خود قرآن سے کیا ہے تو کیا پھر

ہم اس کی نہست اور اصل حقیقت کی دضاحت نہ کریں گے اور محقق اس بنا پر فاموش ہو جائے گا کہ غلط خدا کو اس کے مطالعے اور اس پر کلام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ آخریہ کیا اتنا لالا ہے۔

## بلند پانگ دعاوی، برک عمل :-

اس کے بعد مولانا نے کچھ ایسے دعوے کئے ہیں جن سے خود ان کی کتاب بجا کر سکتے ہیں۔

خالی ہے، چنانچہ لکھتھیں:-

اگر ہم صحتِ نقل اور مسقول و مدقیل اور متوازن طریقے سے اس تاریخ کو خود بیان نہ کریں گے اور اس سے صحیح نتیجہ نکال کر مرتب طریقے سے دنیا کے ساتھ پیش نہ کریں گے تو مسلمی مبشرین اور غیر محدثین ذہن و مذاج رکھنے والے مسلمان مصنفین، جو اسے نہایت غلط رہنگ میں پیش کرتے رہے ہیں اور کوچ بھی میں کو رہے ہیں، مسلمانوں کی نتیجہ نسل کے راست میں اسلامی تاریخ ہی کا ہنسی بلکہ اسلامی حکومت ناہر اسلامی نظام زندگی کا بھی بالکل غلط تصور و تبادیں گے ہوں۔

یہ خدا ہم شہری نیک ہے، کاش مولانا کا عمل بھی اس آمد و کے مطابق ہوتا ہے یہ دیکھ کر دو کھنڈ ہو گئے کہ مذکورہ عبارت میں جلد دعوے کئے گئے ہیں مولانا کی کتاب اس کے بالکل بر عکس ہے۔

اس میں نہ صحتِ نقل کا اہم ایجاد کیا گیا ہے نہ مسقول و متوازن طریقے کا، اس کی تفصیلات آگئے چل کر معلوم ہوں گی۔

صحیح تاریخ کا تصور ہی اس وقت تک خارج از امکان ہے جب تک پہلی بحث نقل اور مسقول و متوازن طریقے کا اہم نہ کیا جائے۔

اسلامی تاریخ کے صحیح تصور کے پیش کرنے کا دعویٰ بھی۔

سے عزیزین مختار و ہم ملتا کار طھلان تمام خواہشہ کا آئینہ دار ہے۔

صریح یہ آں یہاں کئی اور پہلو قابل خود ہیں۔

اول یہ کہ مولانا نے اپنا سارا تاریخی مواد جن کتب تو ایسے اخذ فرمایا ہے،  
مشرقیں اور جن کو «غیر متعال ذہن و حزاج» کا عالی قرار دیا گیا ہے، وہ سب اپنا مواد  
اپنی تکابوں سے اخذ کرتے ہیں لیکن تاریخ دونوں کے مختلف ہیں اب کس کی کوشش کو  
صحیح تاریخ کا عالی اور اس کے پیش کردہ تاریخی مواد کو اسلامی تاریخ کا صحیح تصور قرار  
دیا جائے؟ جب کہ مولانا ان کتابوں کو تاریخ اسلام کی مستندیں کہا ہیں، مانند ہیں  
جس کا مفہوم بھی مولانا کے نزدیک یہ ہے کہ ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہدایات صحیح ہے۔ اب  
کیا بیک وقت دونوں مصنفوں شایع کا صحیح مقصود رکھتے ہیں؟

دوسری یہ کہ تاریخ کا صحیح تصور کہہ دے جس کی تائید نصوص قرآن و حدیث اور اہل فہر  
صحابت بھی جس سے محفوظ رہے یادہ ہے جو قرآن و حدیث کی تصریحات سے متفاہم  
اور عظمتِ صحابہ کے منافی ہے؟ الگ اول اللہ کرتاریخ کا صحیح تصور ہے تو یہ حقیقت  
نافذ تروید ہے کہ «خلافت ملوکیت» قطعاً اس میامی پر ہی نہیں اترتی۔ ثانی اونچ کو  
کو کوئی مسلمان بھی اسلامی تاریخ کا صحیح تصور نہیں قرار دے سکتا، لیکن مولانا امان  
رنقاء کا اصرار ہے کہ اسے اسلامی تاریخ کا صحیح تصور سمجھا جائے، حال رہے «خلافت  
ملوکیت» میں اسلامی تاریخ کا ثانی اللہ کرتصور ہی پیش کیا گیا ہے۔

تیسرا یہ کہ مغربی مشرقیں اور مسلمان مصنفوں دونوں کو مولانا نے ایک ہی صفت  
کھدا کر رہی ہے حالانکہ دونوں کے اندازِ غلکریں مقصود اور تاریخ کے اعتبار سے بُعد المشرقین  
ہے، مغربی مشرقیں کا تو مقصود اسلامی تاریخ ہی نہیں خدا اسلام کو بھی سمجھ کرتا ہے، جبکہ  
مسلمان مصنفوں اپنے اندر یہ جذبہ صادر کر سکتے ہیں کہ تاریخ کی بہت سی غیر معتبر روایات کو  
رُو سے جلیل القدر صحابہ کرام کی سیرت و کفار کے داغدار ہو جانے سے قرآن و حدیث  
کی تصریحات کی جو نفعی لازم آتی ہے، کسی طرح اس گھنی کو اس طرح سلب ہیا جائے کہ  
اس کو زد سے کم از کم قرآن و حدیث تو محفوظ ہو جائیں، ان میں آج کے مسلمان مصنفوں  
ہی پیش نہیں، ان میں صرف اول کے کئی جلیل القدر احمد بھی شامل ہیں جیسے شیخ الاسلام  
تیمیہ، تقا صنی ابو بکر ابن البری علام ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ و فہرستم آج جیسیں

میرتدل ذہن دھڑائی کا حال بتلا رہے ہیں مولانا اور ان کے رفقاء سن کیس کو ان حضرت کا سب سے بڑا خدا القرآن و حدیث کے بعد اپنی مذکورہ احمد کے اوال و افکار میں۔ پوچھای کہ مغربی مستشرقین تابع اسلام کو کس طرح پس کھرتے ہیں، یہ بات بہت کم اور دو دو ان حضرات کو معلوم ہے اور نہ حقیقت یہ ہے کہ مغربی مستشرقین کے نظریات میں اور خلافت و طویلت کے بیان کردہ نتائج میں کوئی فرق نہیں اور ایک اور دشمن کے بقول کیفیت یہ ہے کہ:-

۵۔ اُن ہی کی محفل سنوار تاہمیں، چسراخ میرا ہے رات اُن کی اُن ہی کے مطلب کی کہہ رہا ہیں، نیاں میرا ہے یا ت اُن کی مغربی مستشرقین سارا نعم قلم دُنیا کو یہ باور کرنے پر صرف کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حکر اُن کی اہلیت نہیں رکھتی، ناس کے پاس ایسا نظام حکومت ہے جس کو مدد حاصل کرو دیں بروزے کار لایا جاسکے۔ اسلام نے جو نظام حکومت دیا تھا وہ صرف تین سال چل کر نیل ہو گیا نیزدہ رہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوتے جس نظام حکومت کو خود اُن کے اپنے تربیت یا فتح اصحاب و رفقاء نہ چلا کے تو اب آخر کون ایسا شخص ہے جو اس نظام حکومت کو دُنیا میں چلا سکے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام خلفاء بنو اُمیہ کی حکومت اور ان کے طرز عمل کو سراسر غیر اسلامی تزاد دیتے ہیں۔

مولانا کی کتاب پڑھ کر دیکھ دیجئے، اسی نظریہ کی صدائے بازگشت اس میں بھی نتائی درتی ہے، حضرت عثمانؓ کے دُو «غلط افادات»، جنہیں مولانا نے طویلت اور تغیرت کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے، پھر حضرت معاویہؓ کے «مکروہ جرم»، کی دُو فہرست جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دُو حصہ تک اپنے ۲۰ سالہ عہدِ انتشار میں اسلامی حکومت کو تمام امتیازی خصوصیات کو شمار کر دیا، کوئی اسلامی نظام حکومت خدا اصحاب رسول کے ہاتھوں نصف صدی کے انسانوں ہی ڈانتا میٹھ ہو کر رہ گیا۔ مغربی مستشرقین اور لانا کے انداز بیان اور تعبیر میں فرق ضرور ہے لیکن مفہوم اور نتیجے کے اعتبار سے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟

علاوہ اذیں یہ بات بھی ناقابلِ قسم ہے کہ مستشرقین ہماری تاریخ کو بنیاد بنا کر اسلامی تاریخ کے ساتھ کس طرح اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی کا بھی بالکل خلاطِ تصویر مسلمانوں کی فتویٰ فضل کے ذمہوں میں بھاولیں گے؟ اسلام اپنی تمام تتفصیلات کے ساتھ، ایک بالکل الگ پیروز ہے جس کا مأخذ قرآن دادِ احادیث صیحہ کے مجموعے ہے، اور مسلمان پہنچنے والی عمل و کوہدار کے لحاظ سے ایک بالکل علیحدہ ہے، کسی مسلمان کا پیکر کو دار اگر شیک اُس سائچے میں دھلاک ہو گا جو قرآن نے بتایا ہے تو یہی کہا جاتے ہو گا کہ اس شخص کا اب وجود اسلام کا بہترین مظہر ہے، لیکن کوئی مسلمان اگر بدِ اخلاق و بدِ کرد اس جو تو کون ہوش مندوں میں سے شخص کے قابوں علی کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام نے اخلاقی و کوہدار کا یہی نظام پیش کیا ہے، کوئی اس قسم کی حافظت کرے جو بھی ترکون شخص اس کی تائید و تفصیل کرے گا؟ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی کی تتفصیلات کا مأخذ کتب تاریخ نہیں قرآن و حدیث ہیں، اسلامی تاریخ میں اگر مسلمانوں کی بہت سی کتابیں جدوجہد نہیں تھیں تو اس کے مبنی یہیں ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کے لئے ایسا ہی نظام بھوت دنیا میں تبلیغ کیا ہے، وہ ان کلائی کو تاریخ اور علمیاتیں ہیں جسے اسلام نے ناپسندیہ قرار دیا ہے، اسلام مسلمانوں کے طرزِ عمل و طرزِ فکر کا نام نہیں بلکہ ایک بالکل الگ شی ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے، اجنبی شخص بھی ان دونوں چیزوں کو گلہٹ مذکور کے دعوے دیتے ہیں تو شمشیر سے چکا، وہ خدا اپنی نادِ فرش مندی کا ثبوت پیش کرے گا :

### طلباء کی مشکلات، ناتمام حل!

مولانا مازن الدشتاد فرماتے ہیں :-

“کوئی پاکستان میں تھہڑا نی سکھیں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علم اسلامی تاریخ بعد علم سیاست کے متعلق اسلامی نظریات پیش کر رہے ہیں، ابھی کچھ بہت پہلے جواب پیغامبر مسیح کے ایم اے سی سیاہیات کے امتحان میں یہ سوالات آئتے تھے کہ قرآن نے سیاست کے متعلق کیا اصول بیان کئے ہیں، یہودی سالت میں ان اصولوں کو کس طرح علی چارہ پہنچایا گیا، فلافت کیا ہے تھی اور یہ ادارہ بادشاہی میں کیسے اور کیوں تبدیل ہوا اب کیا معتبرین حضرات یہ جا ہے ہیں کہ مسلمان طلباء ان سوالات کے دو چہار باتوں میں

جو مغربی مصنفین نے مرتے ہیں؟ یا ان کافی مطالعہ کے ساتھ الٹی سیدھی راستے قائم ہیں؟  
یا ان لوگوں سے دعوکر گھایاں جتنا یقینی کو نہیں، اسلام کے تصور و خلافت تکمیل کو  
سچ کر رہے ہیں؟ صفحہ ۳۰۰

لیکن مشکل یہ ہے کہ ان مشکلات کا جو حل خود بولا انسنے میں کیا ہے فوجیاتے خود بخت گمراہ  
کون ہے خلافت کی آڑ میں صحابہ کرام کی سیرت و کردار کا جو مسئلہ «خلافت و ملوکیت» میں  
کیا گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کتاب کو بھی کس طرح مسلمان طلبہ کی مشکلات کا پیغمبær حل  
تسلیم کریا جاسکتا ہے؛ صحابہ کرام کے ساتھ ایسی دشمنی تو ان مغربی مصنفین نے بھی نہیں کی جن  
سچے ہے کی مولانا اکیلہ کہے ہیں نیز خداوس کتاب سے شعوری یا فیر شعوری طور پر بخوبی  
مصنفین ہی کے مقاصد پورے ہوتے ہیں جیسا کہ اس کی طرف ہم پہلا شارہ کر آئتے ہیں، پھر  
اس کتاب کے لکھنے سے سوائے نقسان کے اور کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس کا فائدہ الگ گھومنا  
بھی نیا جاتے تب بھی وہ لا حالہ اشتمہ اکابر میں نفعیہ کا مصلحت ہے اجس سے احتساب  
ہی لازم تھا۔

باقی رہا ان سائل کا حل، سو آج سے بہت قبل کئی علماء نے اس پر درا در تحقیق  
دی ہے، اوسا ہنوں نے اسے اس طرح حل کرنے کی نوشش کی ہے جس سے ڈہا گھنی پیش  
نہیں آتیں جو مد خلافت و ملوکیت، کے پیش کردہ حل سے آتی ہیں، شاہ ولی اللہ حمد و شکر  
نے ازالۃ الخطاویں اور شاہ اسماعیل شہید نے منصب امامت میں خلافت اور اس کی حضوری  
پر پڑے عدہ طریق سے بحث کی ہے، اسی طرح خلافت کا ادارہ با ادارہ با ادارہ ہی میں کیا ہے اور کیوں  
تبادلہ ہوا؟ اس بادشاہت فی نفسه کیا ہے؟ اسلام بھر ان لوگوں کی بادشاہت کی نزعیت کیا ہے؟  
اس پر علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ تایخ میں بڑی علاحدہ بحث کی ہے، آج تک بڑی  
صیبیت یہ ہے کہ عملی مذکور یا قطب پورے عالم پر مذکور اور اس کے انکار چھلتے ہوئے ہیں  
اوہ بعض افراد کا صہاس نے اس شدت کے ساتھ چھوٹا ہے کہ جس سے بعضاً چھاپے لگ  
بھی تباش ہو گئے، ان میں ایک جمہوریت کا نام ہے، یہ تھیک ہے کہ آج محل جن چیزوں کو  
جمہوری حقوق کہا جاتا ہے اسلام نے ان کو اس کے جمہوریت نواز مغرب سے زیادہ بہتر طریقے پر

کیا ہے، لیکن خلفاء والشہریں کے انتخاب کی نواعت کی باللطف ایسی دفاعت کرنا کہ جو سے یہ مترش  
ہو رک رکھا بالکل اسی طرح حرام کی ۲۰ زاداً امامت ساتے ہے جس طرح آنحضرت  
مختفی جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، ایک ایسی کوشش ہے جس کو تائیج سے ثابت نہیں کیا جاتا  
خلافت کو بالکل موجودہ "جمہوریت" کے ہم معنی سمجھ لینا مفتری نظریات کی تاریخ پریسی کا نتیجہ ہے  
مولانا مکے بیان کردہ حل میں یہ تأثیر پذیری صاف جھلکتی ہے، جس کا وجہ سے انہوں نے  
خلافت کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ بالکل صحیح نہیں، ان میں پہلی خصوصیت درآمد شدہ ہے  
جسے، سلامی ثابت کرنے کے لئے مولانا کو یہست سے تاریخی حقائق کو منسخ کنایا ہے، اس کی  
دفاعت آگے آرہی ہے۔ اسی طرح اس کے بال مقابل، مولانا نے موجودہ دور کی آخریں  
کو سلسلے رکھ کر ایہ نظری اپنے طور پر بھردا کہ حضرت معاویہؓ کا دور حکومت بھی ایسا ہی  
"ملوکیت" کا دور ہے جیسا مصر میں جمال عبدالناصر کی "ملوکیت" کا اندھہ پاکستان میں الیوب  
صاحب کی "ملوکیت" کا ہے، اور ان حالیکاری کی "ملوکیت" اور حضرت معاویہؓ کی "ملوکیت"  
یہ نہیں آسمان کا فرق ہے، حضرت معاویہؓ کی "ملوکیت" اتنی جمہوریت سے مقابی کو انجام  
کی خالص جمہوری حکومت بھی اس کے مقابلے میں سچ ہے، اس دادیہ فکر کی کمی کا نتیجہ  
یہ نکیا کہ مولانا نے چون چون کہ ایسی مایہی روایات تو قبول کر لیں جن سے ان کے نقطہ نظر  
کی تائیج ہوتی ہے۔ کیسی صریح طور پر حقائق کو جھشتالایا اور کمی مقامات پر رواست کو اس  
کے سیاق سے کاٹ کر اس کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ صحیح  
تائیجی مواد فقطاً نظر انداز کر دیا جن سے یا تو حضرت معاویہؓ کی صفائی کا پہلو نکلتا ہے  
یا پھر سر سے وہ اعتراضات ہی لازم نہیں آتے جو "ملوکیت" کی مفروضہ خرابیوں  
کے گذشتے کے شوق میں مولانا نے جادو بیجا حضرت معاویہؓ پر کئے ہیں۔ اس کی تعقیل  
ہمامی کتاب کے باب پنجم میں لاحظہ فرمائی، بہر حال یہ موضع ایسی کسی انصاف پسند  
صاحب علم کی ویدہ ودی کامزید مکار ہے مولانا نے اس پر جو کچھ فارسی کی ہے،  
وہ بالیغ نظری اصابت راستے اور حقائق کے صحیح بجزیے سے خالی ہے۔

## ”جرأت“ کا استعمال ایک خطرناک دعوت ہے۔

ذکر کردہ سوالات کا بحادہ کرتے ہوئے ملانا رام طراز ہیں:-  
 ۱۰) ان کیوں نہ ہم جرأت کے ساتھ اپنی تاریخ کے ان ملاقات کا سامنہ  
 کریں؟ اس کیوں نہ بے لائل طریقے سے ان کا جائزہ لے کر شیک ٹھیک پیش  
 کروں کہ خلافتِ اصل میں کیا چیز ہے، اس کے انتیازی ادھان کیا ہیں، اس  
 میں انصباب و شاہی میں اصول ایسا فرق ہے، اس سے باوشاہی کی طرف اتفاق ہے اسے  
 ہاں کیوں اندھی کیسے ہوا، اس کی جگہ باوشاہی آنے سے ہماری اجتماعی زندگی میں  
 فی الواقع کیا فرق ماقع ہوا، افسوس فرق کے نقصانات سے حفاظت رہنے یا  
 ان کو کم کرنے کے لئے ہماہرامت نے کیا کام کیا؟ جب تک ہم ان سوالات کا  
 صاف اور مدلل و مرتب جواب نہیں گے، اذ ہنوں کی الجھن دُور نہ ہوں گی۔

(خلافت و ملوکیت ص ۴۰۰-۳۵۰)

ٹھیک ہے، ان سوالات کے صاف اور مدلل و مرتب جواب دے کر ذہنوں کی الجھن دُور کرنے  
 چاہئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خلافت و ملوکیت ”سے“ الجھن دُور ہو گئی ہیں؟ ہمارا ناشاید  
 ایسا ہی سمجھتے ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا تو ملک کے تمام مذہبی طبقوں میں،  
 ماسوائے شیعہ، اس کتاب کے خلاف اتنا اضطراب نہ پایا جاتا جو اس کتاب کے متوقع و  
 متوقع شائع سے ان کے انہوں پیدا ہوا ہے۔

نیزان سالی کو حل کرنے کے لئے ”جرأت“ کا کیا مطلب؟ اگر میں کا مطلب ہے کہ اس موصوع پر گفتگو کرتے وقت صحابہ کرامؓ کے شرف و احترام کی بدلائی پیش  
 کر رکھ دینی چاہیے، جس طرح خود مولانا کیا ہے، اور اسی ”جرأت“ مثلاً ”کم تغییب  
 مولانا دوسروں کو بھی دے لیجئے ہیں، لیکن پھر اجھن یہ پیش آئے گی کہ مولانا اس ”جرأت“ کا  
 استعمال حضرت علیؓ و حضرت مولیٰ مفتی اللہ عہدہ کے لئے کرتے ہیں، اس کے جواب کے من میں دوسرے حضرات اس جرأت کا استعمال حضرت علیؓ و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے  
 حق میں کرتے ہیں، جس لیگ بخوبی حقائق کے نام پر حضرت علیؓ و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے شرف و  
 احترام کو خاطر میں لایا جائے، حضرت علیؓ و حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی محبوبت کو پرواہ کے جانے

تو سوچئے اس می حراثت کا تیجو، جس کی طرف مولانا دعوت دے رہے ہیں، اُس سکے سوا کیا نکلے چاکر «تحقیق» کی بھی کے ان دپاؤں میں، صحابیت کے ساتھ عقیدت و آخرت کے جو جذبات متعلق ہیں، وہ سب پس کرہ جائیں اور فرقیین کی بائیکی کشاکش خود صحابیت کی روائت تقدیس کوتار تار کر کے رکھ دے، یہ مفروضہ نہیں ایک حقیقت ہے، ہماری کان جرأتوں کافی الواقع ہی تجوہ نکل رہا ہے، مولانا نے حضرت عثمانؓ و حضرت معاویہؓ، میرہ بن شعبہ اور حضرت عمر بن العاص و حضرت عائشہؓ و عیزیم کی صحابیت کے ساتھ ایسا حشر کیا ہے اور دوسراستے گردہ نے ہی حشر حضرت علیؓ و حضرت حمیدؓ کے ساتھ کیا ہے، اس جبارت میں خود راقم صھی شامل ہے، کوہل کے بہلانے کوہل دماغ کے گوشوں میں یہ خند ضرور پایا جاتا ہے کہ میں مجبور آیا ناخوشگوار فرضیہ سرخام دینا پڑا ہے، اب یہ آگے جا کر یہ پتہ چلے گا کہ بارہ ماہ و ایک سال میں یہ عذر سموع بھی ہوتا ہے یا نہیں۔؟

دوسری الجھن، اس مظاہرہ جوأت سے یہ پیش آتی ہے کہ قرآن نے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کا جو نقشہ پیش کیا ہے «خلافت دملوکیت» لئے جرأتوں نے اس کا حلیہ بچکاڑ دیا ہے، اگر صحابہ کلام کا وہ کردار بالکل صحیح ہے جو ان مباحثت کے عنوان میں کتب تواریخ سے «خلافت دملوکیت»، میں پیش کیا گیا ہے تو یہ کردار صریحاً اُس کردار کے معنی لات ہے..... جو کردار ان کا قرآن اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اصل کردار کون ہے؟ یا کیا بیک وقت دونوں کردار صحیح ہو سکتے ہیں؟

ذکورہ سوالات کے صحیح جوابات کیا ہیں اس پر کتاب کے آخر میں یہ منحصر گزارشات پیش کی ہیں دہاں ملاحظہ کر لی جائیں، یہاں ہم موجودہ دور کے تحقیقیں سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ان مباحثت پر دو تحقیق رہتے وفت ان دونوں کو ضرور پیش نظر کھا جائے، جو کو شش بھی ذکورہ نکلوں کو نظر انداز کر کے کی جائے گی وہ ایسی ہی گمراہ کن ہو گی صیغی زیر بحث کتاب «خلافت و ملوکیت» ہے۔

## تین سوال اور ان کا جواب :

اس کے بعد مولانا مزید تین سوال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”آج جو لوگ ہی علم سیاست کے سلسلے میں اسلامی نظریہ سیاست کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک طرف وہ نظام حکومت آتھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں قائم تھا، اور دوسری طرف وہ بادشاہی نظام آتھے جو بعد کے اور ارمنی ہمارے ہاں چلتا رہا۔ دو فوٹ کے درمیان اصول، مقاصد، طریق کا مادر درج و مزاج کا نیایا فرق وہ محسوس کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان دونوں کی بیکار اطاعت کی ہے، دونوں کے تحت جہاد پوتا ہا ہے، قاضی احکام شریعت ناذر کرتے رہے ہیں اور نہ ہی وہندی ناذری کے ساتھ سختے اپنی طرک پڑھتے رہے ہیں، اس سے لازماً سیاست کے ہر طالب علم کے ذمیں میں لازماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل اسلامی نظریہ سیاست کیا ہے؟ کیا یہ دونوں بیک وقت اور یکسان اسلامی نظام ہیں؟ یا اسلامی نقطہ نظر سے ان کے درمیان فرق ہے؟ اور اگر فرق ہے تو ان دونوں کے تحت مسلمانوں نے بنظاہر ایک ساطر اعلیٰ اختیار کیا ہے اس کی کیا توجیہ ہے؟ میں ہیں سمجھتا کہ ماخون کو ان سوالات پر سوچنے کیسے، دکا جاسکتا ہے اذ ان کا جواب آخر کیوں نہ دیا جائے۔ ص ۲۳

و ماغریں کو ان سوالات پر سوچنے اور ان کے جواب دینے نے کوئی نہیں بعد تھا، لیکن یہ جواب ان حقائق کو نظر انداز کر کے نہیں دینا چاہیے جس کی نشانہ ہی اس سے اور ارادہ مسائل کی اہمیت و حقیقت اور تقاضے کے زیر عنوان کی گئی ہے، کیونکہ ایسی کوشش سے وہ چند سالی تو بیناہر حل ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن اس سے متعلق دوسرے مسائل پچیدہ تر ہو جاتے ہیں، جیسے «خلافت و ملوکیت»، سے صحابیہ کرام کی عدالت کا مسئلہ اور اس ضمن میں دارود شدہ قرآن و حدیث کی تصریحات اور تاریخ کے بیانات میں تطابق کا مسئلہ پچیدہ ہو گیا ہے۔

اب یک نظر ہم اُن سوالات پر ڈالتے ہیں جو ممانے یہاں اٹھاتے ہیں۔  
 جہاں تک مولانا کے پہلے دعوے کا متعلق ہے کہ خلاف راشدہ کے بعد جو نظام  
 بادشاہی ہمارے ہاں چلتا رہا، اس کے اور خلاف راشدہ کے میان اصول و مقاصد  
 طریق کار اور درج دمڑاج کا نیا یا فرق ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دعویٰ کافی ہے  
 تک مبالغہ اور عروج دن وال کے اُس اجدی و فطری قانون سے اختلاف برقرار یعنی  
 کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ابتدائیں سمجھ کر چنینیا دی اس باب مگر عنوان میں کی ہے۔

### ۱۔ تبیدیلی، طریق کار یا اصول و مقاصد میں؟

اس سلطے میں اولاً یہ چیز حل طلب ہے کہ اسلامی حکومت کے اصول و مقاصد کیا  
 ہیں؟ بیرونی طور پر خلاف اسلام طاقتوں کا مقابلہ ادا کرنے سے چہاد، اور اندر ہلنے ملک  
 نہ سبی و تقدی زندگی کے تمام شعبوں میں احکام شریعت کا نفاذ، کیا یہ اسلامی حکومت  
 کے مقاصد نہیں؟ اس کے علاوہ آخر اور وہ کون سے مقاصد میں جو اسلامی حکومت کو  
 مطلوب ہوں؟ مولانا کی عبارت غور سے پڑھئے اس میں مولانا یہ اعتراف کرتے ہیں  
 کہ یہ سب مقاصد اس نظام بادشاہی میں بھی پورے طور پر اسی طرح قائم رہے جس نے  
 طرح خلاف راشدہ میں تھے، تو چھر سوال یہ ہے کہ یہ اصول و مقاصد نہیں تو آخر کیا ہیں؟  
 اس حقیقت کو ہم کس نام سے پکاریں؟ ہمارے نزدیک تو اسلامی حکومت کی یہی حل  
 و مقاصد ہیں، اور یہ مقاصد جس طرح خلاف راشدہ میں پائے جلتے ہیں اسی طرح اس  
 نظام حکومت میں بھی پائے جلتے ہیں جس کو مولانا «بادشاہت» سے تعریف کرتے ہیں، جس کا  
 اعتراف مولانا کو بھی ہے، فرق دراصل دونوں نظاموں کے اصول و مقاصد میں نہیں بلکہ  
 ان کے ماتحت حکمرانوں کے مقاصد میں ہے یا یہاں کہہ لیجئے کہ فرق «حکمرانی» کے ہوں  
 و مقاصد میں نہیں بلکہ «حکمرانوں» کے مقاصد میں ہے، خلاف راشدہ میں اسلامی نظام  
 حکومت کے مقاصد تو بھی طاغوتی طاقتوں کا استیصال اور تنقیہ شریعت تھا لیکن اس کے  
 علاوہ خود ان حکمرانوں کے کوئی مقاصد اس قسم کے نہ تھے کہ جن سے یہ سطوم ہو کر انہوں  
 نے اپنے اقتدار کی خفاظت، اس کو مطلوب دینے یا اس کو اپنے بعد اپنے ہی کسی عنی کو اقتدار

متقل کرنے کے لئے اور نکو شش بھی کی ہو، حضرت ابو بکر و عمرؓ کا کرداد اس معاملہ میں بالآخر واضح ہے، اس کے بعد حضرت عثمانؓ کا یہ کرداد تھے کہ شرپند عناصر کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لیتے ہیں لیکن حفاظت امداد کے لئے نہ خود ہمیصار اٹھاتے ہیں نہ اس کی اجازت اپنے دفادر اور عامی گروہ کو دیتے ہیں، بلکہ اگر بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطحہ ڈیا یا نہ ہوتی تو حضرت عثمانؓ تو عہدہ خلافت تکمیل کے دست بردار ہوئے کے لئے مبتار تھے، حالانکہ اس گروہ کی فتنہ کوئی کے لئے اگر وہ ہمیصار بھی اٹھا لیتے تو بھی تاجارہ اقدام کا در تکاب نہ کرتے بلکہ اسلام ہی کے ایک صحیح تقاضے کو پورا کرتے، بعد کے آدھار میں جس حساب سے معاشروں میں منتظر ہتھیاری اسی حساب سے عوام کا طرح خود ہمکراووں کے ذہن بھی اس سے متاثر ہوئے اور قوم دنیا داری کے اس بیان سے اپنے آپ کو نہ بجا کے، اور اس مسئلہ میں ان سے بعض ایسی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں جنہیں مستحق نہیں کیا جاسکتا، یہی دونوں قسم کے ہمکراووں کے مقاصد میں فرق ہے جس کو مولانا نے نفس حکما فی تکے مقاصد کا فرق قرار دے دیا ہے۔

دوسری چیز اس سلطے میں یہ دیکھئے کہ ہے کہ «بادشاہیت» کے دو ریسی یعنی معاشرتی اور راشدی حالات کیا ہے یہ تھے جیسے خلافت راشدی میں تھے؟ یا ان میں اہم فرق پیا سو گیا تھا؟ اس کی دضاحت کے لئے ایک مرتبہ نظر پڑھ لیجئے آپ خلافت راشد کے دو رہنمائی، خلافت راشد کے نصف اول میں معاشرتی و سیاسی حالات پورے طور پر قابل اطمینان تھے اور کوئی سازشی گروہ بھی اس وقت تک پیدا نہ ہوا تھا، اس لئے حضرت ابرکمؓ و عمرؓ کو نہ اپنی ذاتی حفاظت کے لئے باڑی کا درذ کی ضرورت محسوس ہوئی اور رہ شرپند عناصر کی فتنہ کوئی کے لئے سخت احتسابی و تحریزی قوانین کی — خلافت راشدہ کے نصف آخر میں حالات کے دگر گوں ہو جانے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کے لئے وجہ جوانہ پیدا ہو گئی تھی لیکن اس کا اساس نہیں کیا گیا یا اس کی گیا ملکوں خاطر خواہ انتظام نہ کیا گیا، اس کا جزو تیجہ دو خلیفہ راشد بلکہ تن خلفاء کے قبیل کی صورت میں ظاہر ہوا اس نے ان حفاظتی اقدامات کے احساس کو شدید تراویر ان کے جواز کو وجوب کے درجہ میں

تبدیل کر دیا، خلافتِ راشدہ کے بعد اجتماعی زندگی کے تبدیلیج پڑھتے ہوئے تشریف میں، مزید تشریف اور شرپنڈ عناصر کی قوت و تعداد میں، مزید اضافہ ہو گیا، جیسا کہ پہلے تقسیماً اگذہ چکا ہے، ان حالات میں اسلامی حکومت کے استحکام اور فتنہ انگریز عناصر کی قوت کو کچھنے کے لئے، خاطری اقدامات کے طور پر سخت احتسابی و تصریری قوانین کو بروائے کار لایا گیا اور خود خلیفہ کو اپنی حفاظت کے لئے دریانِ دعیرہ رکھنے پڑے، اور بعض وقت دار و گیر کا وہ سلسلہ بھی چلا جس کی کوئی واضح شال خلافتِ راشدہ میں نہیں ہلتی، سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے اصول و مقاصد یارِ درج و مراجِ کوتا فرقی واضح ہو گیا؟ ایک مثال سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، فرض کیجیے، پاکستان میں صحیح مصنفوں میں اسلامی نظام حکومت قائم کیا جاتا ہے اب کیا اس کے اصول و مقاصد اور درج و مراجِ کوتا فرقی واضح ہو گی جائے گی کہ پاکستان کا داد امیر المؤمنین و خلیفۃ المسیمین "نشاہی ہوس لہو بیوی Bodyguard" کا انتظام کرے از کسی امتیازی محل کا بندوبست اور پھر اس پر پروادوں کا انتظام کرے نہ ہو جو وہ دور کے مطابق میش قیمت بیاس زیب اتنی کرے اس سی۔ آئی۔ ذی بسم اخیان کرے نہ ایشلی جیسی قسم کا کوئی محکمہ نہ شرپنڈ و فتنہ انگریز عناصر کی سکونی کے لئے سخت احتسابی و تصریری قوانین نافذ کرے اور نمک کے استحکام و بقا کے لئے گورنمنٹ کے اختیارات میں توسع، کیونکہ آئینہ اسلامی حکومت رخلافتِ راشدہ میں ان چیزوں کی شاملیں ہیں نہیں ملیں کیا یہ امدادی فکری صحیح ہے؟

اس سے بھی واضح تر مثال خود جاعت، اسلامی کی پالیسی کی ہے تقسیمِ لذک سے پہلے جات اسلامی کے لئے مولانا مودودی صاحب نے جو اصول و مقاصد مقرر کئے تھے، پاکستان کے معرضِ وجود میں آجائے کے بعد ..... مولانا نے ان اصولوں کو نظر انداز کر کے یہاں کے احوالِ دن و نیوں کے مطابق جماعت کے لئے ایک جدید پالیسی وضع کی اور طبق کا یہی سیاست بنیادی تبلیغ کر دیا، اس پر جماعتِ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک گروہ یہ سمجھنے لگا کہ جماعت اپنے اصول و مقاصد سے مخفف ہوا ایک بلند پایہ اسلامی جماعت کی بجائے حض

۷۔ خداوہ دن لائے بب یہ مضر و هر ایک حقیقت بن جائے

ایک " قومی دسیا سی جماعت " بن کر رہ گئی ہے اور جماعت کے پچھلے دور اور موجودہ دور کے درمیان رُوح و مزاج کا نیاں فرق داقع ہو گیا ہے، لیکن دوسرا گروہ پرستور سی مجھے رہا جس میں خود مولانا بھی شامل ہیں اکیدا اصول و مقاصد یا روح و مزاج کی تبدیلی ہنس بکھرے حالات کے مطابق طرق کار کی تبدیلی ہے اقل اللہ کر گروہ نے مولانا احمد ان کے حامیوں کو بہت کھڑ سمجھا ہے کی تو شش کی ادر مولانا وغیرہ نے اس گروہ کو یہ باد کرانے کی قوری کوشش کی کرتے ہوا خیال غلط ہے، یہ صرف طرف کار کی تبدیلی ہے اد نوں گروہ ایک دوسرا کو مطمئن نہ کرنے سے بالآخر اول لذکر گروہ علیحدہ شخص پر مجبور ہو گیا۔

اب سوچئے، مولانا کا ضمیر اکارا ہی جس پالیسی پرطمثن ہے اد ناس کو ڈھ طرف کار کی تبدیلی سے ہی تعمیر کرتے ہیں تو کیا اس سے کہیں زیادہ یقین کی بات یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے اسلامی نظام حکومت میں جو کچھ تبدیلیاں کی تھیں وہ ایمان و ضمیر کے تقاضوں کو دبا کر نہیں بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ یہی سمجھتے ہوئے کی تھیں کہ مجھن خلافات کی تذکرے مطابق طرق کار کی تبدیلیاں میں اصول و مقاصد یا رُوح و مزاج کا ان سے کوئی نیا اس فرق داقع نہیں ہو گا، اور نہ ہوا اور مولانا کے مقابلین جس طرح ان اصول و مقاصد کی تبدیلی کا الزام لگانے میں غلطی پریں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ خود مولانا حضرت عاصیہ پریہ الزام لگانے میں غلطی پریں کہ انھوں نے اپنے دور اقدار میں اسلامی حکومت کے اصول و مقاصد اور روح و مزاج کو بدل کر مجھ دیا اسلامی حکومت کی تمام خصوصیات کو مشا کر اس کو تمام تر خالص دنیاوی حکومت میں بدل دیا، اور اسلام کی تخلیط خود مولانا کے اس اعتراف سے بھی ہو جاتی ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے ایں حکومتوں کے ساتھ بالکل دیسا ی طرز عمل اختیار کئے رکھا جو طرز عمل خلافت رائٹیو کے ساتھ مسلمانوں کا تھا۔

۲۔ اسلام کا اصل نظام حکومت کو نہیں ہے؟  
دوسرے سوال کا اصل اسلامی نظریہ سیاست کیا ہے؟ دو نوں پہنچ و قوت اور  
اسلامی نظام ہیں یا اسلامی نقطہ نظر سے ان سے درمیان فرق ہے؟ اس سوال کا بنیج بھی

در اصل دی گلط فہمی ہے جس کی طرف پہلے ہم اشارہ کر رہے ہیں، اس گلط فہمی کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد اس سوال کی قدر و قیمت آپ سے آپ تنہ بُر کر رہ جاتی ہے ایک چیز نی نفسہ بری ہے اور اس کے ارتکاب کے ساتھی اس کے پرے نیجوں کا نہیں ایسا ہی یقینی ہے جیسے داد دو کا نتیجہ چار۔ مثلاً زیر ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہلاکت ہے۔ اس کے بال مقابل ایک دوسرا چیز ہے جو بجا تے خود فی نفسہ بحراہ بسری نہیں ہے میکن یعنی دفعہ اس کا طریق استعمال اس کو مُضراً اور ہلاکت آفرین بنا دیتا ہے، دو دفعہ ایک ناقہ اور فی ذات اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر دے لے یا وہ شخص جو پہلے ہی دست و ہمیشہ کی بیماری میں مبتلا ہے اسی دو دفعہ بیک وقت نوش جان کر جاستے، ایک صحیح جریبایہ گلط استعمال اس کو نفع بخش کی بجا تے فر رسانی بنا دے گا، اب کیا یہ صحیح سوچ کو کہ ہم دو دفعہ کے اس گلط طریق استعمال کو نظر انداز کر کے صرف گلط نتیجہ کو نبیاد بن کر دو دفعہ کی افادیت کا انکار کر کے اس دو دفعہ کی کوئی ناقہ ہلک قرار دے دیں؟

اس مثال کو سامنے رکھ کر "خلافت" اور "ملوکیت" دو نوع نظام حکومت کو دیکھئے۔ خلافت کی جو سات خصوصیات مولانا نے گنانی میں، وہ نہ قرآن میں میں نہ احادیث میں بلکہ خلفاء راشین کا جو عمومی طرز عمل تھا، اس سے دو مستفادہ ہیں اسی طرح "ملوکیت" کی جو خرابیاں مولانا نے گنانی میں اس کے متعلق بھی قرآن و حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ اس ملوکیت کے سیی لازمی نتائج نہیں کے بلکہ یہ تمام خرابیاں (؟) ان خلفاء کے طرز عمل سے اخذ کر دہیں جو اس نظام با اشاعت کے تحت حکمرانی کرتے رہے اس کے صاف معنی یہ میں کہ خلافت کی انتیازی خصوصیات یا ملوکیت کی انتیازی خرابیاں نفس خلافت دل ملوکیت کی ماہیت میں داخل نہیں ہیں بلکہ یہ منظہر اور نتیجہ ہیں ان خلفاء دلوك کے طرز عمل کا جو ان دونوں نظام حکومت کے تحت حکمرانی کرتے رہے، تو صحیح کے لئے ایک شال سامنے رکھئے، ملوکیت کے نتیجہ میں جو تبدیلیاں آئیں ان میں سے ایک اہم تبدیلی مولانے یگنانی ہے کہ بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی ہو گئی، بیت المال کا اسلامی تصور یہ تھا کہ غیفار اس کو

اپنے من مانے طریقے سے خرچ نہیں کر سکتا وہ اس کی ایک پانی کی آمد اور خرچ کے لئے جواب دے تھا، لیکن ملکوکتیت میں یہ تصور ختم ہو گیا اور بیت المال کو خلفاء نے اپنے من مانے طریقے سے خرچ کرنا شروع کر دیا، اب سوال یہ ہے کہ یہ خرابی خود نظام بادشاہ، کالازمی نتیجہ ہے یا اس کے تحت حکمرانوں کے غلط طرز عمل کا نتیجہ؟ اگر ہم اس خرابی کو، حکمرانوں کے غلط طرز عمل کے نتیجہ کی وجہ سے، خود نظام ملکوکتیت کا نتیجہ قرار دیں تو تو دو الگین پیش آتی ہیں، پہلی یہ کہ بیت المال کی حیثیت میں یہ تبدیلی خلافت راشدہ میں بھی پانی جاتی ہے، خود مولانا نے حضرت عثمان پر تایخ کا بیان صحیح سمجھ کر یہ الزام لگایا ہے کہ حضرت عثمان نے بیت المال کی رقم میں سے ۵ لاکھ دینار کی خیری رقم مروان کو عطا کر دی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے حضرت عثمان پر اعتراض کیا، اب پہاں اس چیز کو ہم حضرت عثمان کے غلط طرز عمل سے تعبیر کریں یا اس خرابی کو خود نظام خلافت کا نتیجہ قرار دیں۔؟ دوسرا اب ہم آگے چل کر خود دور ملکوکتیت میں آتی ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز سر بر آرائے خلافت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ بقول مولا نا بیت المال کی مہی حیثیت بحال کر دیتے ہیں جو خلافت راشدہ میں تھی، یہ خیال رہے کہ عمر بن عبد العزیز بھی ملکوکتیت کے اسی طریقہ والی عہدی سے تحت خلافت پسیجھے تھے جس کو مولا نامودودی صاحب حشرمہ نداد سمجھتے ہیں۔

اب اس کے متعلق ہم کیا کہیں؟ کہ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے نیک طرز عمل کا نتیجہ ہے؟ یا یہ بھی س ملکوکتیت، کاسی طرح لازمی و طبعی نتیجہ ہے جس طرح بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی اس کالازمی نتیجہ تھا؟

ظاہر ہات ہے کہ ان دونوں جھگھوں پر ہم یہ کہیں کہ یہ خود «نظام حکومت» کا طبعی نتیجہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نظام خلافت کو بھی آئندیل نہیں کرہ سکتے، ایکوں کو خلافت کے درمیں بھی کچھ خرابیاں پانی جاتی ہیں، دوسری شال میں ملکوکتیت من وجد ایک آئندیل

---

۱۰ حضرت عثمان نے متعلق اس قسم کے تصرفات کی کئی شاپیں سخت تایخ سے اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں

نظام حکومت بن جاتا ہے، اس لئے اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ فی نفسہ تخلافت بری ہے زمینوں کی طبیعت اصل چیز خود تخلیف یا بادشاہ کی سیرت اور اس کا کردار و عمل ہے اگر نظام تخلافت میں کوئی تخلیف اس سیاسی تدبیر اور اس بے دار کام نظائرہ نہیں کرتا تو ایک تخلیف سے متوقع ہے تو یعنی ممکن ہے کہ یہ چیز خود نظام تخلافت کو تلپٹ کر کے رکھ دے، اس کی نمایاں شال، اگر وہ تمام صلح ہے خود تخلافت و ملوکتیت اُن کی وجہ تفصیل ہے جو مولانا نے حضرت شانش کے دورِ تخلافت کے متعلق دی ہے۔ اس کے مقابل ایک "بادشاہ" جو اتحادی فریب سے نہیں بلکہ اسی موروثی طریقے سے منصب اقتدار پر فائز ہوتا ہے، جس کو خرابیں کی جڑ بادشاہ کا یا باہ رہا ہے۔ لیکن وہ بادشاہ حقیقی سیرت، حقیقی تدبیر، اور عدل و حسلم سے بہرہ وہ ہے تو یعنی ممکن ہے کہ اس سے وہ تمام خرامیاں اصلاح پذیر ہو جائیں جو بھی بادشاہوں کے غلط طرزِ عمل کی وجہ سے حکومت و معاشرہ میں عام ہو گئی ہوں، اس کی واضح مثال خود مولانا نے حضرت عمر بن عبد العفس رضی اللہ عنہ کی سپیش کی ہے۔ اس نکتہ کی مزید وضاحت آگے بھی کی گئی ہے۔

مولانا کی بنیادی عاطی یہی ہے کہ فوکریت کے دور میں خلفاء کے طرزِ عمل ہیں جو خرابیں زمانہ رسالت کے بعد اور معاشرے کے بچھتے ہوئے مزاج کے نتیجیں، ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، ان کو اس نظام حکومت کا لازمی تیج قرار دے کر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہل اسلام کا نظریہ حکمرانی کیا ہے؟ وہ ہے جو تخلافت راشدہ میں علتار ہے یا وہ جہاں کے بعد کے امور میں جلتا رہا ہے؟ حالانکہ نظریہ حکمرانی دو ٹوں جگہ ایک یعنی اسلام ہے درہل سوال یوں کرنا چاہیے کہ ان دو ٹوں نظام کے تحت حکمرانی کرنے والوں کے طرزِ عمل میں کچھ ترقی ہے یا نہیں؟ اور طرزِ عمل میں اگر فرقہ سے تواریخ دو ٹوں میں سے کون سا طرزِ عمل زیادہ صحیح اور اسلامی نقطہ نظر سے مطلوب ہے؟ اسی سوال کے جواباً میں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اسلام ایک حکمرانی سے جس سیرت دکھانے اور طرزِ عمل کا معاملہ کرتا ہے وہ یہی ہے جس کے داخل نقوش میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ملکہ ہیں، دو ٹوں کے خلفاء سے جو کوئی ہیں

ہمیں احمد بن کوتاہیوں سے خود خلافت راشدہ کا نصف آخوندی محفوظ نہیں کیا جاسکتا، وہ اسلام کی نظر میں نامطلوب دنایا شدیدہ ہیں لیکن یا ان بزرگوں پر بڑائی علم ہو گا کہ ہم یہ تھی فصل کر کے کیا بزرگ اصل اسلامی نظریہ سیاست یہی سے سخرف ہو گئے تھے، یہ سوال داعیوں کی یہ دو قوں نظام بیک وقت اور بیکان اسلامی نظام ہیں یا ان میں فرق ہے؟ اس طرح تو محل کو یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ اصل اسلامی نظام حکومت وہ ہے جو خلافت راشدہ کی نصف اول، ابو بکر و عمرؓ کے دو میں چلتا رہا ہے، یا وہ ہے جو خلافت راشدہ کی نصف آخر عنوانِ ذہنی کے دو میں چلتا رہا ہے؟ کیونکہ دونوں کے مابین تباہی فرق پایا جا سکے ہے خلاصہ کے آزمیں انتشار و پذیرشی، مسلمانوں کے بیت، امال میں اساس ذہن والی کاغذات کی خلیفہ کا اپنے عزیزہ مقام دیکھ کو ہمہ منصب میں ترجیح دینا اور باہمی خانہ جنگی، اس قسم کی جو خواجہ پانی جاتی ہیں خلافت کے نصف اول میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، کیا اس سوال کے جواب میں خلافت راشدہ کے محمد و دو درو کو حضرت ابو بکر و عمرؓ، امریڈ محمدؓ کر دیا جائے گا؟ ہا ہو جو ایک مذہبی جواب لنا

مزید سی آں ایک منظریہ "عمل و آمد کے وقت احوال و ظروف، اور زمان و مکان کے تفاوت داخلات کے لحاظ سے طریق کار کی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے،" جمہوریت ایک نظریہ ہے لیکن واقعات کی دنیا میں جہاں جہاں یہ نظریہ روپ عمل ہے وہاں آپ دیکھنے کا اس ایک نظریہ سے ہر ہندگہ طریق کار اور وسائل و فرائض کی کسی کسی مختلف و متفاہ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، امریکی اندمازگی میں و ایڈ زمان و مکان کی بعض نگزیر تبدیلیوں کی وجہ سے طریق کا کے اس تفاوت کو نظر انداز کی کیتی یہ سوال اٹھانی صبح ہو گا کہ مل نظریہ جمہوریت ایں یہ کوئی نہیں۔

جماعت اسلامی کے لئے غیر مقصوم نہ دستان میں جو حالات تھے اس کے مقابلے اس نے اپنے اصول و مقاصد اور نسبت العین متنیں کئے ہوتے تھے، پاکستان بن جانے کے بعد ایڈ زمان کی تبدیلی کی وجہ سے مولا نامنے ان اصول و مقاصد کو چھپر مکار اس کے لئے نئے اصول و مقاصد و صنع کئے جس کو مولا نامنے طریق کار کی تبدیلی کا خواہ دیا، کیا یہ مولانے سے پچھہ

سکتے من کہ جماعتِ اسلامی کے اصل مقاصد اور اس کا اصل نسب العین کیا ہے؟ تفہیم ملک سے پہلے کے اصول یا تفہیم ملک کے بعد کے اصول؟ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق ہے تو جماعتِ اسلامی کا اصل نظریہ سیاست کیا ہے؟ الگ اس مقام پر مولانا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل نصب العین تو دونوں بجگہ ایک ہی ہے یہ تو صرف طریق کارکر کی تبدیلی ہے تو پھر یہ سوال آخر حضرت معاویہؓ غیرہ کے لئے کیوں اختیار یافتات ہے؟ ان کو بھی قواعوال و نظر و ف کے مطابق طریق کارکر میں تبدیلیوں کا حق ہے، ان تبدیلیوں کو اصول و مقاصد کی تبدیلی کیوں کیا جاتے؟ اور ان کے نظام حکمرانی کے متعلق اصل یا ہیر اصل کا سوال اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟

### ۳۔ دونوں حکومتوں میں مسلمانوں کا یکساں طرز عمل؟

تیسرا سوال کہ اگر ان کے درمیان فرق ہے تو ان دونوں کے تحت مسلمانوں نے جو بظاہر ایک ساطر ز محل اختیار کئے رکھا اس کی کیا توجیہ ہے؟

ہم نے اور پہلی فرقی کی نشان دہی کی ہے، اسی سے اس سوال کی بھی توضیح ہو جاتی ہے کہ مولانائے نبیظاًؒ کے لفظ سے جو تاثر دینے کی کوشش کی ہے، کران کے طرز عمل کی پہنچیں تفاصلتے مصلحت کا شاخناہ تھی یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں مسلمان کی یہ صفت فاد مزید میں نہ مدل جاتے، ادھرات کا صحیح توجیہ نہیں، اس کی شیک شیک توجیہ یہ ہے کہ مذکورہ حالت تام قریب ملکا میں، ان کی نزعیت اور اجتماعی زندگی کے بکار کے حقیقی اسباب، ان تمام چیزوں سے وہ پوری طرح واقف تھے، اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ اگرچہ خلافت راشدہ کی بعض خصوصیات دھنند لاگئی ہیں اور اس کے مقابلے میں بعد کی حکومتوں میں کچھ بکار ضرور پیدا ہو گیا ہے لیکن یہ بکار اتنا ہمہ گیر یا اصولی ہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خلافت راشدہ کے مابعد کی حکومتیں تمام اسلامی خصوصیات سے عاری ہو کر، محض ایک دنیاوی یا جاگی حکومت بن کر رہ گئی ہوں، جس طرح مولانا کاد عورت ہے بله

۴۔ خیال رہے "ستحریگ تجدید و احیائے دین" میں مولانا نے صاف طور پر نو ایمید کے درمیں حکومت کو، حضرت معاویہؓ کے دور حکومت محیتِ تعالیٰ حکومت "سُلْطَانِ عَرَبٍ" کیا ہے تو کیفیت من وہ

یہی وجہ ہے کہ ان حکومتوں کے خلاف بجز دو گروہوں کے کسی نے اسلامی رہنمائی کی تحریکیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور جن دو گروہوں نے علم خلافت بلند کیا عوام و خواہیں سے کسی نے ان کے ساتھ قطعاً تعاون نہیں کیا، ان میں سے پہلاً اگر وہ تو فرمی خوارج کا تھا جو حضرت علیؓ جیسے خلیفہ راشد کے دور حکومت میں شورش برپا کرتے رہے، اس لئے جب وہ اس دور میں اپنی حرکات شیعہ سے باز نہ آئے تو ان سے یہ امید کہ کی جاسکتی تھی کہ بعد کے خلفاء کے ساتھ وہ تعاون کی وسیع نتیجا کر سکیں گے، دوسرا لوگ وہ ان حضرات پرشیل تھا جو اپنے کو خلافت کا زیادہ حق وار تصور کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں تمام کار آبادی سے تو مکن ہے بچوتے ہوئے حالات کو سبھا لادیا جائے سکے، لیکن فی الواقع بکار کے باوجود جو جسمودت حال تھی دو اتنی اضطراب، بیکھڑتے تھی کہ جو لوگ اپنے کو خلافت کے لئے اپنے اخلاق سمجھتے تھے اور اس کے لئے بعض نے حقیقی قدم صی اٹھایا، ایکس کوئی معاون و مساننگا کا حصہ نہیں جاتی، اس لئے وہ بھی اپنے منش اور عوام کو اپنے ساتھ آمادہ عمل کرنے میں ہاکم ہے پھر یہ پہلو مزید قابل غورہ و غلر ہے کہ جب حضرت عثمانؓ جیسے خلیفہ راشد کے خلاف ایک گروہ شورش برپا کرنے کا امادہ کرتا ہے تو دو تین ہزار افراد ان کے ساتھ کافی نہ ہوں گے اور اپنے تپاک منصوبے میں آنھوں نے ایک گونہ کامیابی بھی حاصل کر لی، لیکن جن حکومتوں کے متعلق یہ بامداد کرایا جا رہا ہے کہ ان کے حکمران بڑے مظالم و جایزت کے اور جھوپوں نے اپنے دورِ اقتدار میں اسلامی نظام حکومت کی تمام خصوصیات کو ختم کر کے بنس دنیاوی خصوصیات کے مطابق نظام حکومت کو ڈھال لیا تھا، ان کے خلاف اسلامی قدم اٹھانے والے حضرات اپنے ساتھ اپنے افراد بھی نہ ملا سکے،

خلافت راشدہ میں زوال کا آغاز :

اس کے آگے مولانا پھر اسی چیز کی تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسی طرح جو لوگ اسلامی تابع کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سامنے واقع کا نقشہ آتا ہے کہ ۳۳۰ھ تک خلافت راشدہ اسلامی حکومت کی بہرنا خصوصیات کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر اس پر زوال ۲۳۰ھ شروع ہوتا ہے۔“

یہاں مولانا نے اعتراف کر لیا ہے کہ خلافت راشدہ کی خصوصیات پر زوال خود خلافت راشدہ (۳-۴ صفحہ بعد) کے دور میں ہی آنا شروع ہو گی، مولانا کے اس بیان سے دو بیانیں واضح ہو جاتی ہیں :-

اول یہ کہ اجتماعی زندگی میں بکار آؤنے والے خلافت کی خصوصیات پر زوال الحضن "ملوکت" کا نتیجہ نہیں، جس طرح کرمولانا با حکما ناچاہد رہے ہیں، بلکہ دیگرانہ عالم کا نتیجہ ہے جن کی وجہ سے خود خلافت راشدہ کا دور بھی بکار آؤنے والے محفوظ نہ رہ سکا، اگر زوال الحضن "ملوکت" کا نتیجہ ہوتا تو کم سے کم خلافت راشدہ کے دور کو تو اس زوال - الحضن محفوظ رہنا چاہئے تھا؟ دوسرا یہ کہ عام معاشرتی و اجتماعی بکار کے اثرات جس طرح حرام پر پڑے انجمنی بھی اس سے اپنا دامن نہ چاکے اور جس طرح عبادات، اخلاقیات اور معاملات وغیرہ معاشرہ ہوئے، سیاست کا مشعبہ بھی یقیناً معاشرہ سکتا ہے بکار سیاست میں بھی واضح طور پر داخل ہو گیا، حضرت عثمان رضی پا پیغمبر امام اس سے میلانہ شورش و بغاوت کی لہر در دور علی ہمیں باہمی خاتہ جنگیاں، یہ سب کچھ سیاست کے بکار ہیں لیکن ایک گورنر شکل میں، اس لئے سیاست میں بکار کی، خلفاء، دلوك کے نامناسب اور غلط طرز عمل کا نتیجہ تو کہہ سکتے ہیں جس طرح مولانا مودودی صاحب نے حضرت عثمانؓ کی سیاسی پالیسیوں کو نامناسب کہا ہے یا جس طرح بعض حضرات دوسرے علی ہمیں باہمی خاتہ جنگیوں کو حضرت علیؓ کے عدم تدبیر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، یا جس طرح بعض لوگوں نے دوسرے معاویہ کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں کچھ ضرایبیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس سیاسی زوال کے متعلق کہنا یکسر غیر صحیح ہے کہ یہ سب کچھ نتیجہ تھا اس بات کا کہ انھوں نے سیاست (نظام حکومت) کو دین سے الگ کر دیا تھا، حکومت کے انتظامی معاملات میں انھوں نے وینی احکام دیدیا ایس کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی احمد مہار اصل اسلامی نظریہ سیاست ہی سے مخرج ہو گئے تھے (جس طرح کرمولانا نے حضرت معاویہ وغیرہ کے لئے کہا ہے) یعنی کہ اس خیال کو صحیح مان لینے کا مطلب یہ ہو گا کہ اس اخراج سے عثمان رضی کا دامن بھی غیر محفوظ ہے، اس لئے صحیح بات یہی ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ اصل نظام حکمرانی تباہ خلافت راشدہ اور اس کے بعد

ادوار، دو نوں میں ایک ہی معنی اسلام ہے، خرابیاں جو پھر بھی پیدا ہوئیں وہ خود خلفاء دُمک کے طرز عمل کی نامدیری اور عملی کا نتیجہ ہیں، اور یہ چیز جس طرح دوبارہ ملکیت میں پانی جاتی ہے، خود مولانا کی تصریحات کے مقابلہ اس کے نشانات خلافت راشدہ میں بھی مشتبیہ پسخ یا چھوٹ، اسے کیا کہیے؟

آنکھ لختے ہیں:-

”یہاں تک کہ ۶۰ مہ تک پہنچتے پہنچتے وہ ساری خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دینی حکومت کی امتیازی خصوصیات خرابیاں سو جاتی ہیں، جب تک بیعت، مورثی بادشاہی، تیصّر و کسری کا ساطر تیز ملگی، رائیوں کا رعایا سے احتساب، بیت المال کے معلملے میں احسان ذمہ داری کا فقدان سیاست کا شرعاً کی پابندی سے آزاد ہو جائے۔ امر بالمعروف و نهی عن المنکر کی آنذادی سے سُلمانوں کی محرومی، شوّری کے طریقہ کا خاتم، عرض وہ تمام چیزیں جو ایک دینی حکومت کو ایک دینی حکومت سے محیز کر لے ہیں وہ ۶۰ کے بعد سے ایک سبق بیاری کی طرح سُلمانوں کی حکومت کو الجی ٹوپی نظر آتی ہیں“<sup>۱۳</sup>

اگر یہ پورا بیان صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصحاب رسول کی موجودگی میں خود ایک جلیل الفضل صاحبی رسول کے اپنے دوسرے اقتدار میں اسلامی حکومت کو مستحکم اور اس کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کی بیکاری سے اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات کو مناکر، نظام حکومت کا ڈھانچو خالص دینی حکومت کے انداز خصوصیت کے مقابلے مرتب کر لیا، یکون کہ ۶۰ حد تک حضرت معاویہؓ کا اعتماد اقتدار ہے اور اس دوران میں ہزاروں اصحاب رسول بھی موجود تھے جن میں کبھی جلیل القدر ہستیاں بھی تھیں، ان میں وہ حضرت حیثیت بھی تھے جن کی باطل کے مقابلے میں حق گوئی دہان فرقی کی ماستانیں مولانا مودودی بھی بعینہ صبح سمجھتے ہیں، لیکن تجھب ہے کسی نے ان تبلیغوں پر کلمہ احتجاج بلند نہ کیا، اور خاموشی اور خوشی کے ساتھ اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات کو شے ہوئے گواہ اکر لیا، اور چند اوازیں اٹھیں بھی تو اس وقت جب حضرت معاویہؓ

کے اقتدار کا دم، واپسی تھا اور وہ بھی) معرف ایسا سلسلہ یزید کی ولی محمدی کے سلسلیں اس کے علاوہ بکل سکوت اور نشانہ ہے، نہ کہیں انطراب و شورش ہے اور نہ کہیں غفرت و احتجاج کی صدی۔

اب روہی ٹھوڑتین میں یا تو خود مولانا کا یہ بیان کذب و مبالغہ پر مبنی ہے اور فی الواقع تبدیلیاں اس انداز کی نہ تھیں کہ جنہیں ہم "عظم و نہایت نایاں تغیرات کہہ سکیں یا جنکی وجہ سے اسلامی حکومت کی انتیازی تحدی و صیات ہی ختم ہو کر رہ گئی ہوں۔

یا پھر مولانا کا بیان بالکل صحیح ہے، تمام اصحاب رسول نے ہی جو رات و حق کوئی کی بجا سے مصلحت و بندوقی کی روشن اختیار کر کے یہ سب کچھ خاموش تملکتی کی طرح شتر لیا اس دوسری توجیہ پر اگر کسی کا دل ریکھتا ہے تو بے شائی سمجھے ہمارے نے یہ دوسری صورت کسی طرح بھی قابل قبول نہیں، اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اس کی بنا مخصوص جدیبات پر نہیں بلکہ فی الواقع ایسے دلائل موجود ہیں جن سے مولانا کے مذکورہ بیان کی پیشتر تفصیلات محل نظر قرار پاتی ہیں۔ جن کی چند مثالیں پڑھنے لگنے پکی ہیں اور اس پر مفصل بحث اپنے مقام پر آئے گی، وہاں آپ یہیں سمجھ کر ان تغیرات کی صلیقیتے گیا ہے

**ہوا نی باقی :-**

**مزید لکھتے ہیں :-**

"ایسا اس عظیم تغیر اور نہایت نایاں تغیر کے متعلق ہم کیا کہیں؟ کہ یہ اچاک کسی سبب کے بغیر و نہ ہو گیا۔ یا یہ کہیں کہ اس دوہمی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے اس لئے ہم سنیں کہہ سکتے ہی کیسے ہو گیا؟ یا یہ کہیں کہ اس دوہم کی تاریخ تو موجود ہے، مگر اس کا ہر واقعہ جو اس تغیر کے مابین کی نشان دی کرتا ہے ناقابل اعتماد ہے، اگرچہ اپنی موڑیں کی۔ وایا اس سے پہنچے اور اس کے بعد کے ادوار کے متعلق قابل اعتماد ہیں؟ یا یہ کہیں کہ اس دوہم کی تاریخ کی طرف سے انکیس بندرگانی چاہیں اور اس سوالات پر غور، سمجھت، سکاہم، سمجھنے کینا چاہیئے اکیونکل اس ۲۶-۴۲

سال کے زمانے میں جو حالات ان نتائج کے بوجب ہوئے تھی ذرثیاری بعض صحابہ پر عامل ہو جانے کا خطرہ ہے؛ ان میں سے کوئی بات آخر ہم صحت اور معقولیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بوتایخ پڑھنے والے کسی ہمارے  
شخص کو مطمئن کر دے؟، ص ۲۳۴

ٹھیک ہے ان چاروں باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی صحیح اور معقول ہنسی جائیک عالم شخص کو مطمئن کر دے لیکن سوال یہ ہے کہ ان چاروں باتوں میں کسی بھی بات کا اظہار ہم نے کیا کب ہے؟ یہ فرضی قیاس ہذا تیار مولانا کو اس وقت زیرِ بحث میں جب ہماری طرف سے اس قسم کی باتیں کا اظہار کیا جاتا۔

ہمارے نزدیک اس دوسری کی قابل اعتماد تیار بھی موجود ہے، البتہ قابل اعتماد کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں ہمارے اور مولانا کے درمیان اختلاف ہے، جس کی تفصیل آگئے آمدی ہے۔

تفیر کے اسباب کیم نے خود بھی اس سے پہلے نشانہ ہی کی ہے، اس نے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ اب کچھ اچھاک بغیر کسی سعید کے روتا ہو گیا۔ البتہ تفیر کے اسباب و حوالی کی نشانہ ہی میں ہمارے اور مولانا کے درمیان بہت کچھ فرق ہے اور مولانا نے حقیقی اسباب کو نظر انداز کر کے، طرف کار کی تبدیلی کو، اصول و مقداد کی تبدیلی اور معنوی نوعیت کے بیکار کو، عظیم و نہایت نیاں تقریباً شمار کر دیا ہے، میر تفیر کی ساری ذریداری فردوں اور پردازے کی سمعی ناکامی کی ہے، اور ہم نے تفیر کی نوعیت و تحقیقت اور اس کے حقیقی و خالی اسباب و حوالی کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بھی ہم نے نہیں کیا ہے کہ چونکہ ان نتائج کی ذرثی داری بعض صحابہ پر عامل ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لئے اس دوسری کی تیاری ہی سے انہیں بند کر لینی حرام ہے، اور سو سے سے اس موضع پر غرور و بحث ہی ہنسی کرنا چاہیے، اسے یہ ضرور کہا اور اس پر میں اصرار ہے کہ ان بندگوں کی طرف جن "جرائم" کی نسبت کی جلتے اس کا واقعی ثبوت ہوتا چاہیے ایسی و مستند مثالیں کے ساتھ جو اذمات بھی ان بندگوں پر لکھنے جائیں اپنے وہ تحقیقت کے اعتبار سے کہتے ہی ٹپے ہوں، ایکی اس کی صحت سے

انکار نہیں ہے کہ کینڈکھ ہمارے نزدیک دو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مقصود یا فرشتہ نہیں،  
بپر صورت انسان ہیں جن سے غلطی کا صد و رنا ممکن نہیں، ممکن ہے۔

**تاریخی روایات، اسناد اور تحقیق کی بھی  
مولانا تلخی ہی ہے:-**

”اس میں شک نہیں کہ تاریخ کے معاملے میں پھان بین، اسناد اور تحقیق کا  
دو اہتمام نہیں ہوا ہے جو احادیث کے معاملے میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا  
بھی تو مشکل ہے کہ ابن سعد، ابن عبد البر، ابن جریر ایں حجر ایں کثیر اور ابن  
اشیر جیسے لوگوں نے دو احلاف کے حالات ”ظلل“ کرنے میں اتنی سہل انکار کی  
اور بے احتیاطی برستی ہے کہ بالکل بے محل باقی اپنی کتابوں میں صحابہ کی طرف  
نشوب کر دیں، کیا وہ ان باقی کو بیان کرتے وقت اس بات سے بفرط  
کہ ہم کون بننے کوں کی طرف یہ واقعات متسوب کر رہے ہیں۔ ۶ صفحہ ۳۰۲

سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا کویہ جنباتی انداز بیان کیوں اختیار کرنے کی ضرورت پڑی  
آرہی ہے؟ ایک طرف مولانا اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخ کے معاملے میں  
چنان بین اور تحقیق کا اہتمام نہیں ہوا، پھر اس اعتراف تحقیقت کا جوازی نتیجہ نکلا ہے  
اس سے انکار کرنے جنبات کی پناہ گاہ ”مونڈن“ نے لگ جاتے ہیں، حالانکہ سید می  
سی بات ہے کہ جب یہ تسلیم ہے کہ تاریخی روایات کی چنان میں نہیں ہوئی اور ملن مذکور  
بنرگوں نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا بلکہ اسی طرح تاریخی روایات کا ذخیرہ جمع کر دیا ہے  
اور اس کے ساتھ ہی انھوں نے اپنے اس کام کی نوعیت و تحقیقت بھی واضح کر دیا ہے  
نیز انھوں نے یہ سہل انکار کی صرف تاریخی روایات ہی میں نہیں برستی، فضائل، منابع  
زمید و اخلاق، ثواب و عقاب اور تفسیر، اس نوع کی تمام روایات میں ان بنرگوں نے  
اسی سہل انکار کی اور بے احتیاطی سے کام لیا ہے، کیا اس لحاظ سے یہ تمام ذخیرہ ہے؟  
تحقیقت و ترجیح اور چنان میں کے بغیر قابل اعتماد سمجھ لیا جاتے ہے؟

اس سے یہ اپنی طرح سمجھ لیجئے کہ نقل معایات میں بے احتیاطی کام فہروم یہیں

کو وہ ان کا انتساب بھی ضرور ان کی طرف کر رہے ہیں، آگرہ۔ ذیخیرہ روایات اس صورت سے ساتھ جمع کرتے گئے سب روایات بالکل صحیح ہیں پھر تو یہ کہنا صحیح ہو سکتا تھا کہ وہ ان الٰہا کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہیں ورنہ بصورت دیگران روایات کا ان کی کتابوں میں بار بار جزو کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کی صحبت کے معرفت اور ان میں بیان کردہ چیزوں سے متفق بھی ہیں اگر نقل روایات کالازمی مفہوم یہ ہو کہ وہ ان میں بیان کردہ چیزوں سے بھی متفق ہیں تو اس کی وجہیہ کی جائتے گی کہ انھوں نے بیشتر مقامات پر ایک شخص کے سقط متصادویات نقل کئے ہیں، کیا وہ عقل وہوش سے اتنے ہی عاری تھے کہ ہر مقام پر شخصِ واحد کی طرف دو متصاد چیزوں کی نسبت کر جاتے رہے۔ چند ایک مقامات پر ایسا ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن اکثر مقامات پر ایسے تصادو کا مظاہرہ کہ نا اس کے علاوہ اور کیا معنی رکھتے ہے کہ ماقعۃ انھوں نے نقل روایات میں بے اختیاطی اور بکیر غیر جاہل داری برقرار ہے اور روایات کے پر کھنے کا کام دوسروں پر چھوڑ دیا ہے، اس پر مفصل بحث اپنے مقام پر آ رہی ہے۔

#### عدالت صحابہ کی بحث :-

مولانا مودودی صاحب نے علامے اہل سنت کے اس اعتراض کے جواب میں کہ «خلافت و ملوکیت» کے معاوی اور اس کے نتائج سے صحابہ کی پوزیشن مجرد ہوتی ہے اور اس اعتقاد میں فرق آتا ہے جو مسلمانوں کو ان پر ہونا چاہیے، اعادت صحابہ کا جو مفہوم بیان کیا ہے، وہ بھی اپنے اندیز میں نیا ہے فرماتے ہیں :-

”صحابہ کرام کے متعلق میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محدثین و فقیہاء عادہ علامتے امنت کا عقیدہ ہے کہ «کلہم عدول» ظاہر ہے کہ ہم تھے یہ  
پہنچنے کا ذریعہ وہی ہیں اگر ان کی عدالت میں ذرہ برا بھی شبہ میداہیو جانتے تو دین ہی مشتبہ ہو جاتا ہے لیکن میں «الصحابۃ کلہم عدول» (صحابہ  
لست باز ہیں) کا مطلب یہ نہیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطا تھے اور ان میں کا ہر ایک ہر قسم کی لیشری کمزوریوں سے بالاتر تھا، اور ان میں سے کسی نے

بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ مسوں اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے، یا آپ کی طرف ناظر بات نسب  
محنے میں کسی صحابی نے تجویز رسمی سے تجویز نہیں کیا ہے ۱۴۲۳  
اس سلسلے میں اولاً گذارش یہ ہے کہ عدالت کا جو مفہوم مولانے اہل امت  
کی طرف نسب کرنے کی کوشش کی ہے، محمد شین و فقیاء اور علماء امت میں سے  
کس نے اسے بیان کیا ہے؟ مولانے کسی حدیث و فقیہ کا کام نہیں تبلیغ کیا، اگر محمد شین و  
فقیاء میں سے کسی نے یہ مطلب بیان نہیں کیا جو مولانا بیان کر رہے ہیں تو اس کے بعد  
مولانا کا یہ کہنا کہ میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محمد شین و فقیاء اور علمائے امت  
کا عقیدہ ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ ایک مذہبی کہنے کے ختم توبت کے متعلق میرا بھی  
وہی عقیدہ ہے جو عام محمد شین و فقیاء اور علمائے امت کا ہے یا ایک پروٹوپیشیا، کا  
آدمی کہنے کہ میرا حدیث کے متعلق وہی عقیدہ ہے جو علمائے امت کا ہے وہاں کی  
ختم توبت اور تحقق حدیث کا ایک ایسا ہے یہ مفہوم یہ دونوں اپنے ذہنوں میں کھنچے  
ہوں جو عام محمد شین و فقیاء اور علمائے امت کے مفہوم سے یکسر مختلف ہو اسکی  
ان دونوں کو ان کے اپنے قول میں صادق سمجھا جائے گا؛ مولانا بدلا میں اگر یہ ثابت  
کرتے کہ محمد شین و فقیاء بھی عدالت کا یہی مفہوم لیا رہے، تو بات کسی حدتک قابل  
تسلیم ہوتی، بحالت موجودہ مولانا کا دعویٰ تذکرہ حضرات سے مختلف نہیں۔

”پہلا مطلب اگر یا جائے تو تاریخ ہی نہیں، حدیث کی مستنداد۔ قوی  
روایات بھی اس کی تائید نہ کریں اگری اور دوسرا مطلب لیا جائے تو وہ تاریخ  
طوبی پر ثابت ہے جس کے خلاف کوئی شخص کسی قابل اعتماد ذریعہ سے کوئی  
ثبوت نہیں لاسکتا۔“

لہ لیکن عدالت کا یہ مفہوم کہن لیتا ہے جس کی مولانا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ مفہوم تو نہ سر  
”عسمت“ کے مترادف ہے جس کا کوئی قابل نہیں ہے

مولانا نے متصد مقامات پر اسی تکنیک کا سنا ہوا کیا ہے کہ پچھے عصر غیبی کا منظار  
ایسے فلسطین اذیز میں پیش کیتے ہیں کہ جس کا کوئی قائل ہیں ہوتا، عدالت کا دعہ پہلا مفہوم،  
جو عصمت کے متزلف ہے، کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، لیکن مولانا نے اس کو اس اذیز  
میں پیش کیا ہے گویا صحابہ کرام کی عدالت کا اہل سنت کے نزدیک یہی مفہوم ہے لکھتے ہیں  
”حدیہ ہے کہ صحابہ کی باہمی لڑائیوں تک میں، جب کہ سخت خوب رہیاں  
ان کے درمیان موجیں، کبھی کسی فریق نے کوئی حدیث پڑھنے مطلب کے  
کے لئے اپنی طرف سے گھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شوہب  
نہیں کی، نہ کسی صحیح حدیث کو اس نبار جھبٹا پاکہ وہ اس کے مخاذ کے خلاف  
پڑتی ہے، اس لئے مشاہرات صحابہ کی بحث میں یہ ذہنی الہجہ لاحق ہیں  
ہونی چاہیے مگر اگر کسی کا بر سر حق ہونا اعد کسی کا فلسطی پر ہونا ان لیا جائے تو اس  
سے دین خطر سے میں پڑ جائے گا۔“ (ص ۳۰۳)

یہ ذہنی الہجہ ہیں کبھی لاحق ہیں ہم تو کسی صحابی کو غلطی پر مان لیا جائے تو  
دوں خطر سے میں پڑ جلتے گا۔ آخر بیشتر علمائے اہل سنت علی دعا ویہ کے مابین تصادم میں  
حضرت علیؑ کو حق پر اور حضرت معاویہؓ کو غلطی پر تسلیم کرتے ہیں، کب کسی نے کہا ہے کہ  
اس طرح کا عقائد رکھنے والوں کا دین خطر سے میں پڑ گیا ہے؟ اصل الہم بھے میہے ہے  
کہ ان حضرات کی طرف اگر ہم ایسے الزامات و اتهامات کا انتساب کریں تو کذب مبالغہ  
پہنچی ہیں یا جن کی صحت ہی مشکوک ہے، کیا اس کے بعد بھی ہمارے دین و ایمان پر  
کوئی حرف نہیں آئے گا؟

### عدالت کا متد اول مفہوم :-

پھر اس گزہ کی رفتگت کردار کا اذیز لکھتے ہے کہ باہمی لڑائیوں تک میں بھی کسی فرقی  
نے کوئی حدیث اپنی مطلب برآری کے لئے گھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف  
شوہب نہیں کی، ایسے بلند کرد اگر وہ کے متعلق یہ کس طرح بادد کیا جا سکتا ہے کہ اپنی  
تو اپنی اغراض امن اور دنیادی مقامات کی خاطر انھوں نے باہمی خوب رہنے والی کا عمل ہے؟ یا

اسلامی حکومت کی تمام خصوصیات کو شاکر رکھ دیا ہے، حالانکہ حدیث رسول ﷺ نے اسے جراحت سے کام تبرجم کیا، حدیث رسول ﷺ کے غلط انتساب کے لئے اگری حدیث رسول ﷺ نے بطور وعدان کے پیش نکالا ہے، مَنْ كَذَّبَ عَلَىٰ مُتَعِّداً فَلَيَكُونَ مُقْتَدًا کا معنی اسی ہے۔

تو بلا و سہ خوب سلم کی ارزائی کے لئے اس سے بھی زیادہ سخت وعید موجود ہے،

مَنْ يَقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعِّداً فَإِنَّهُ أَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ  
قَاتِلَهُ عَذَابًا أَعَظَّمًا (القرآن) اس لئے لازماً ہیں عدالت کے مفہوم کو اس کی پُوری وسعت کے ساتھ لینا پڑے گا ام تیلیم کرنا پڑے گا کہ مولانا کی بیان کردہ خوبی کے ساتھ ساتھ وہ سیرت و کہدار کے لحاظ سے بھی انسانیت کے اُوپنے مقام برقرار کرنے کے اور ان کی بارہی خود بینیاں کسی دینی داری کا نتیجہ نہیں بلکہ ہر فرقی اپنے آپ کو حق پڑا دوسرے کو نقطی پر سمجھ کر، اس کو حق کی طرف لانے میں کوشش تھا اور اسی جذبے یا خطائے اجتہادی نے ان کو باہم بہر سر پکار کر دیا۔ اس لئے ان کے پہ اقدامات جو بظاہر خیال رکھتے ہیں اسی نظر آتے ہیں حقیقتاً عدالت کے منافی نہیں، ہر وہ فرقی تاہم و مٹاب میں، عدالت کا یہی وہ مفہوم ہے جو محمد میں و فقہاء اور علمائے استاذ کے دینیان تنعلیٰ چنانچہ علامہ ابن خلدون ان کے مشاجرات کی حقیقت اور ان کی بیانات کے خلوص کی صلعت کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

وَيَقِيلُونَ لِلْأَعْيُنِ كَمَا لَمْ يَرَوْا وَلِلْأَذْنَاءِ كَمَا لَمْ يَسْمَعُوا وَ  
خَيَالَ الْأَمْمَاتِ مِنْ أَنَّهُمْ بِهِنْسٍ بِهِ نَشَأَ قَسْرٌ بِنَالِيْسٍ وَأَسَّ كَمْبَدٍ  
مُخْصِّسًا بِالْعَدْلَاتِ كَمَا رَأَيَهُ وَأَدْرَى سَهْلَيْكَهُ بِنِيْسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمَ  
فَرِمَيَهُ وَدَخَلَتِ الْأَنْسَارُ فِي شَمَالِ الدِّينِ يَلْوَنُهُمْ مُرْتَنِيْنَ اَوْ  
شَلَاثِيْشَمِ يَفِشُوا الْكَذَبَ، اَسْبَبَ بِهِنْسٍ وَمِيرَاهَ، اَسْ كَمْبَدٍ  
اَسَ سَبَلَ مُتَصَلٍ بِهِ چَهْرَ اَسَ سَبَلَ مُتَصَلٍ بِهِ اَسَ کَمْبَدٍ بِهِ  
عَامٍ ہُوَ جَاءَتِهِمْ“ اَسَ مِنْ اَنْ اَبْرَأَ نَعَمَ بِرَبِّكَتْ بِعَنِ الْعَدْلَاتِ كَمَا قَرَنَ اَدْلَى  
اَسَ سَبَلَ مُتَصَلٍ وَدَرَسَ سَبَلَ مُتَصَلٍ خَاصَّ كَرِدِيَاهَ -

پس تم اپنے نفس اور نہ بان کو صحابہؓ میں سے کسی کے ساتھ تعریض کرنے سے روکو، اور ان کے مامین ہموئی لوگ دا عطاٹ کمیعتلن شاکر ریب سے لپنے دل کو بیشان نہ کر، جہاں تک ہو سکے ان کا صحیح محل تلاش کر دہ بجا طور پر اس کے حق ہیں، ان کا اختلاف دلیل پر ادا ان کی یا ہم لڑائیاں لپتے طور پر لہ جہاد افغانستان کی بندی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد رکھو کہ ان کا یہی اختلاف پھر ہی اس کے لئے رحمت ہے، ہر شخص کو یہی اختلاف میں وہی روش اختیار کرنی چاہئے جو انہوں نے اُس موقع پر اختیار کی تھی، اور انہی کو اپنام، اصلیح اسزادی بنا لے چاہئے۔

مولانا حسین احمدی مرحوم لکھتے ہیں :-

”میر خدن کا یہ قول کہ حضرت معاویہؓ نے کوئی یہ کے فتن و فحوب کا علم تھا اور وہ معلمان بالفتت تھا اور باوجوہ اس کے اخنوں نے استخلاف کی کوششیں حضرت امام حسن و حنفی اللہ عنہ کی دفاتر سے ہی شروع کر دی تھیں، یقیناً شانِ صحابیت ہی ہنسی بلکہ شانِ عالم کے بھی خلاف ہے“ اس کے بعد مولانا احمدی مرحوم نے وہ آیات دا احادیث نقل کی ہیں جو صحابہ کی شان میں یعنی مدار ہیں۔ اُجھیں ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

”و ان آیات کو ادا ان کے مش دیگر اہمیات کو جو کہ قطعی طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم الحمد کی اعلیٰ درجہ کی صفات کمالیہ پر شہادت دیتی ہیں، اور جن کے مصادق اولیٰ یہی حضرات ہیں انہی کے ساتھ ساتھ ان اخبارِ احادیث صحیح کو بھی لیجئے جو کہ عامد صحابہ رضوان اللہ علیہم الحمد کی شان میں وارد ہیں“ صحابہ کی شان میں وارد احادیث ذکر کر کے پھر لکھتے ہیں :-

”و ان رد ایات کے ہم معنی بہت احادیث صحیح ہیں جو کہ نامہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الحمد کے اعلیٰ مناقب پر دلالت کرتی ہیں، پھر اس کے

۱۵۔ مقدمہ ابن غلیون، فصل، مقتل الحسین بن علي۔ ص ۳۸۵۔ ۳۸۶

ساتھ اجماع است کو لیجئے جو کہ تبلات ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ایک لخدا کے لئے بھی جا ب رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے ملاقات کر لی اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی دہ بعد سے تمام اولیاء اور القیاء اور ائمہ و فریگر سے افضل ہے۔ ان امور مذکورہ بالا کو دیکھتے ہوئے اگر مودتین کی یہ بات کہ، فاسق یہ ہے اور معلم بالعنین کو حضرت امیر معاویہؓ نے نامزد بالعنان کیا، مانی جائے گی تو ان تمام نصوص کی تذکیر متوہین ہی نہیں بلکہ انکا کام لازم یعنی ایسی صورت میں تو معاف انشا حضرت امیر معاویہؓ انتہائی فرق اور محیث میں مبتلا ہوئے اور اسی پران کی وفات ہوئی بلکہ حدیث الحضرت العیاذ باللہ، نوبت آتی ہے، کیونکہ استھان بالمعصیت صاف پشتا ہے ॥

**امام نوویؒ لکھتے ہیں :-**

حضرت علیؑ کی خلافت بالاجماع صحیح ہے اور اپنے وقت میں وہ واحد غلیظہ تھے، ان کے علاوہ کسی کی خلافت نہیں تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ عامل فضل اور صاحبۃ الجہاد میں سے ہیں، ان کے مابین جو لڑائیاں ہوئیں اس کی وجہ یہ شبہ تھا کہ ان میں سے سرکب گردہ اپنی حقانیت کا اعتماد رکھتا تھا، یہ سب کے سب عادل ہیں اور جنگوں اور ویگراں قسم کے سعالاً رجہ بظاہر منافی نہیں، میں متاؤں ہیں، ان میں سے کوئی چیز، ان میں سے کسی کو عدالت سے خارج نہیں کرتی، اس لئے کہ یہ سب مجتہد ہے، ان میں سماں ہیں، جو محل اجتہاد میں، ان میں باہم اسی طرح اختلاف ہو گیا جس طرح بعد میں دوسرے مجتہدین قصاص و عیروں میں مختلف ہو گئے، ان چیزوں کی وجہ سے کسی میں کوئی نفس داقع نہیں ہوا۔

عدالت کا یہ مفہوم ہر صاحبی پر راست آتا ہے یا نہیں؟ اگر آتا ہے تو پھر یہ مفہوم

لے۔ مکتبات مولانا حسین احمد مدینی، راج اص ۲۶۳-۲۶۵۔ مکتبہ دینیہ دیوبند

**۳۰ نوویؒ: شرح سلم، راج ۲ باب فضائل الصحابة**

زیادہ صحیح ہے کہ جس سے اُن کے مشاہرات کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے اور ان کے ان اقدامات کی بھی صحیح توجیہ ممکن ہے جو بظاہر عدالت کے منافع حلوم ہوتے ہیں یا وہ مفہوم زیادہ صحیح ہے جو مولانا بیان کر رہا ہے جس کی وجہ سے آدمی ان کے باہمی اختلافات کی صحیح توجیہ نہیں کر سکتا، بجز اس کے کہ وہ یہ کہے کہ ایک گروہ ذائقہ دُنیادی مفاد کی خاطر دوسرا سے فریق سے خواہ مخواہ الیجھ پشا (جس طرح مولانا کا منشاء) مولانا یتکار کر سکتے ہیں :-

”صحابہ کی عدالت کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وفادار تھے اور ان سب کو یہ احساس تھا کہ حضور کی سُست وہی امت تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے اس لئے ان میں سے کسی نے کبھی کوئی بات حضور کا طرف غلط قسوب نہیں کی ہے، تو اصحابہ کا ہم عدل کا یہ تبیر بلاشبھ تمام صحابہ پر راست آئے گی یا ایضاً

لیکن اصل سوال یہ ہے کہ قرآن نے آئندی نسلوں کے لئے ان کے بیان کو یہ معيار قرار دیا ہے اور حدیث رسول نے ان کی سیاست و کردار کے اتباع کی تائید ہے، اپنی اس منبھی حیثیت کا بھی انہیں احساس تھا یا نہیں؟ مولانا کے بیان کر رہا، عدالت کے مفہوم کی رو سے یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ حدیث رسول پہنچانے میں انھوں نے کبھی لذب بیانی سے کام نہیں لیا، یا ان کے رفتہ کو دار کا بھی حیثیت راویٰ حدیث ایک پہلوتے ہیں جس سے انکا، نہیں، لیکن عدالت کے اس مفہوم سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث نے ان کا بیان

لئے فان آمنوا بِيَهْ فَقَدْ أَهْتَدَوا“ اگر لوگ اسی طرح بیان لائیں جس طرح لئے صحابہ تم بیان لائے، تو ان کا بیان صحیح اور وہ بدایت یافتہ ہیں۔

لئے اصحابی کا الجھوڑ بایکم اقتداء یتم (الحدیث) میرے اصحاب بچھتے تاریخ (۲۳۷) کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کر لو گے تم را حق پا جاؤ گے :-

مکار کو جو ایک معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے، اس کا جھی اپنی احساس تھا؟ حالانکہ مدد  
کا مفہوم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی روستے ان کا ایمان دکھدار بطور ایک معیار۔ محل نظر نہ  
قرار پائے، اور یہ چیز مولانا کی بیان کردہ تعریف یہ ہے نہیں، عدالت کے اس تقابل مفہوم ہے  
ضرور ہے جس کی ابن فلمعن اوس امام نووی و دینگو علمتے ہیں سنت نے تو منح کی ہے۔

### کلیہ کی بنیاد:

مولانا لکھتے ہیں:-

”لیکن اگر اس کی یہ تعبیر کی جائے کہ بلا استثناء تمام صحابہ اپنی زندگی کے تمام  
معاملات میں صفت عدالت سے کتنی طور پر متصف تھے اور ان میں سے کسی  
سے کبھی کوئی کام عدالت کے منافی صادر نہیں ہوا، تو یہ ان سب پر  
راست نہیں آ سکتی۔ بلاشبہ ان کی بہت بڑی اکثریت عدالت کے بڑے  
اوپنے مقام پر فائز تھی، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں ایک  
بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھیں جن سے بعض کام عدالت کے  
منافی صادر ہوتے ہیں۔“ ص ۳۰۳

یہیک ہے کچھ لوگوں سے عدالت کے منافی کام صادر ہوتے ہیں لیکن خود مولانا کے الفاظ  
میں ان کی تعداد دو بہت قلیل ہے اور چھر ان سے بھی صادر سے کام نہیں ”بعض کام“  
عدالت کے منافی صادر ہوتے ہیں، اور مولانا کو یہ بھی اعتراف ہے کہ ان کی بہت بڑی اکثریت  
عدالت کے بڑے اوپنے مقام پر فائز ہے، اب اس کے بعد بھی کیا عدالت کی اس دوسری  
تبیر سے گھبرانے کی ضرورت ہے؟ دُنیا کا آخر دُنیا کوں ساکھیہ ہے جس میں کوئی استثنائی صورت  
نہ ہو؟ دُنیا سے بیشتر کیتے، غالب احوال یا سلیلہ کر حکم المُلْک“ یہی کی بنیاد پر ہم ہیں، اگر اس  
بنیاد کو دھا دیں گے تو دُنیا کا کوئی کلیہ ثابت نہیں کیا جاسکتا، ایک زائد خلاف ترس آدمی کے  
لئے ہم کہیں کہ ڈنپا رسا درستقی ہے، اس کے لئے یہ حکم، غالب احوال کے اعتبار سے  
ہے؟ یا اس معنی میں ہے کہ زندگی کے کئی لمحے میں اس سے کوئی کام صفتِ اتقاء کے منافی صادر  
ہی نہیں ہوا؟ یا ہم کہیں پنجاب کے لوگ بڑے جری اور بہادر ہیں، یہ کلیہ اس معنی میں ہے کہ

باشندگانِ پنجاب کی اکثریت صفتِ بہادری سے متصف ہے؛ یا اس معنی میں ہے کہ پنجاب کا کوئی فرد غیر پورے ہی نہیں؛ ظاہر ہے، بہل شال میں۔ «الْتَّقَاءُ» کا حکم مالب احوال کے اعتبار سے دوسرا اکملہ اکثریت کے اعتبار ہے، اسی طرح عدالت کا یہ مفہوم کرننکا بیشتر معاملات میں وہ عدافت عدالت سے متصف تھے جب یہ چیزان کی بہت بڑی اکثریت میں پائی جاتی ہے، تو وہ بہت قلیل تعداد جس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس کلمیہ میں آپ سے آپ داخل ہو جائے گی، اور اس طرح بھی داخل نہ ہو، تو فالب احوال کے اعتبار سے تو لازماً نہ بھی عدالت کی اس تعریف میں داخل ہو جائے گی لیکن زنان سے سارے کام ہی عدالت کے منافی صادر نہیں ہوتے ہیں بلکہ مدعا بن کام «ایسے صادر ہوتے ہیں جو عدالت کے منافی ہیں، اگر یا غالب احوال کے اعتبار سے تو ان میں بھی عدالت پائی جاتی ہے۔

مولانا لکھتے ہیں :-

”اس لئے اصحابت کا حتم عدظل کی یہ تعبیر بطور کلمیہ بیان نہیں کیجا سکتا۔ مگر اس کلمیہ کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث کی روایات کے معاملہ میں ان میں سے کوئی بھی ناقابل اعتماد ہو، لیکن کہ اس قتل کی پہلی تعبیر کا ہے کلمیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے خلاف کبھی کوئی چیز نہیں پائی گئی ایضاً ہم وضاحت کرتے ہیں کہ عدالت کی دوسری تعبیر بطور کلمیہ عام صحابہ پر بولی جائی کیجئے ہے کلمیہ عموماً غالب احوال یا اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے اور یہ دو نوع چیزوں چھایہ یہی مولانا کو تمیز کیمیں اگلے پریے میں خود مولانے بھی کلمیہ کی اسی حیثیت کو تسلیم کریا ہے جو ہم بیان کر آتے ہیں۔“

”یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص سے کوئی کام عدالت کے منافی سر زد ہوئے کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ صفت عدالت اس سے بالکل یقینی ہو جلتے اور ہم سے سے اس کے عادل ہونے ہی کی نفعی کروں اور وہ روایت حدیث میں ناقابل اعتماد ہے؛ سیرا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کے اکی یا دو یا جتنے معاملات میں عدالت کے منافی کام کر گزر نہیں یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی عدالت کی کلی نفعی ہو جاستے اور وہ عادل کی سجلتے قاست قرار پائے“

درانجایکے اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عدالت پائی جاتی ہو۔ ایضاً  
لیکن کی حیثیت کو مان لینے کے بعد اس نکتہ سنبھل کیا اہمیت رہ جاتی ہے جو اس سے  
چلے مولانے عدالت کی تعمیر میں کی ہے؟ لکھتے ہیں:-

حضرت ماعز اسلامی سے زنا جیسا شدید گناہ صادر ہو گیا، یقظی طبیعت پر عدالت  
کے منافی کام تھا۔ لیکن انھوں نے قول آمد عمل اُتوب کی، خود اپنے کو سزا  
کے لئے پیش کر دیا، اور ان پر حد جاری ہو گئی، اب اس بات سے کہ وہ  
عدالت کے منافی ایک کام کر گئے تھے، ان کی عدالت منتفی نہیں ہو گئی  
چنانچہ محمد بن نے ان کی حدیث قبول کی ہے ॥ ایضاً

بالکل اسی طرح دیگر وہ صحابہ جن سے بعض ایسے کام صادر ہوئے جو بظاہر عدالت کے  
منافی ہیں ان سے بھی صفت عدالت کلی طور پر منتفی نہیں ہوئی، بلکہ وہ انصحاب بنتکھشم  
مدفول کے لکھیے میں بلاشبہ داخل ہیں اور محقق اس بتا پر کہ کسی وقت ان میں سے کسی  
ایک سے کوئی کام عدالت کے منافی صادر ہو گیا ہے، عدالت کا نئی تعمیر کرنے کی کوئی  
ضرورت نہیں، مزید لکھتے ہیں:-

”اسی مثال سے اس بات کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ حب اللہ تعالیٰ نہیں فنا  
کر چکا ہے تو ان کے ان واقعات کو بیان نہ کرنا چاہیے، حضرت ماعون کی صفت  
میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا، انھوں نے ایسی توبہ کی جو دنیا میں کم ہی  
کسی نے کی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی صفت کی  
تصریخ فرمائی ہے۔ مگر کیا اس امر کا تعکوہ کو کہ ان سے زنا کا صدر ہو  
یا ان کرتا ممنوع ہے؟“ (صفہ ۳۰۵-۳۰۶)

ٹھیک ہے! اکوئی ممنوع نہیں، لیکن اس مثال سے ان واقعات کے بیان کرنے کا جواز  
کہاں سے نکل آیا، جن کی استادی حیثیت مجرور یا جن کی صحت ہی سرسے سے مشکل ہے؟  
ایک آدمی سے ایک گناہ سرزد ہو جائے جس کا واقعی اور صحیح ثبوت موجود ہو، اب کیا اس ایک  
صحیح دانع کو دلیل بناؤ کر اس کے متعلق جرم و گناہ کی حقیقتی باقاعدی بھی یا لوگوں نے مشہور کر دی

مولیٰ، کیا ان کو بھی بغیر کسی ادنیٰ ثبوت کے محض اس لئے قبول کر لیا جائے گا کہ اس سے ایک موقع پر لغزش ہو چکی ہے جس کا صحیح ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔  
مشغله با ضرورت تعین کون کرے؟  
مولانا بخشہ ہیں: —

”اس طرح کے واقعات کو محض مشغله کے طور پر بیان کرنا تو یقیناً بُرا ہے لیکن جہاں فی الواقع ایسے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہو، وہاں بُلایا مانعہ کی حد تک ان کا ذکر کرنے سے پہلے بھی اہل علم نے اعتناب نہیں کیا ہے اور اب بھی اعتناب کا حکم نہیں لگا یا جا سکتا“ ص ۳۰۵

ٹھیک ہے جو واقعات صحیح سند سے ثابت ہیں، اہل علم انہیں بیان کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں لیکن یہاں تو بحث ساری ان واقعات کے متعلق ہے جو اصلاً ثابت نہیں، ان غیر ثابت دلائل آمیز واقعات کو بیان کرنا بھی کیا وی حیثیت رکھتا ہے جن واقعات کی تصریح خد فرقہ ان اہد احادیث صحیح میں موجود ہے؟

نیز یہ بات بھی خوب ہے کہ اس طرح کے واقعات کو محض مشغله کے طور پر بیان کرنا تو یقیناً بُرا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کون تعین کرنے سے لگا کہ یہ واقعات کس مقام پر مشغله کی حیثیت رکھتے ہیں اس کہاں فی الواقع یہ مشغله نہیں، ان کا بیان وہاں نہ ہو رہی ہے؟ حضرات شیعہ اپنی مجالس محروم و مخالف عزاداری میں مخالفت و ملوکیت ”کے بیان کروہ وہ واقعات و نتائج کو ذکر کر کے صحابہؓ کرام پر سب و شتم کریں، کیا یہ مشغله کہلاتے گا یا فی الواقع نہیں اپنے ذمہ بی رسمات و شعائر کو ادا کرنے کے لئے ان واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ مغربی مستشرقین اپنے مخصوص انداز میں ان واقعات کو ذکر کے بُلے بُلے اہم و مفہومیات پر رسماً پر کرتے ہیں اور رسماً پر کے نام پر اسلام اور حاملین اسلام پر کھوڑ چھالتے ہیں، اسے ہم مشغله کہیں یا فی الواقع نہیں ان واقعات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح مولانا یا تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ میں نے یہ سب کچھ محض مشغله کے طور پر کیا ہے، اسی طرح ان حضرات میں بھی ہر شخص اپنے ذمہ بی رسمات و شعائر کو مشغله کے طور پر کیا ہے ایک

«ضرورت» قرار دے گا۔

اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ «ضرورت» فی الواقع کیا ہے اور کیا نہیں؟ ہمارے نزدیک یہ کوئی ضرورت نہیں کہ آج کل کے غلط رجحانات کو اسلام میں بخوبی کے لئے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو بھی منسخ کرنا شروع کر دیا جائے، مزید پہلی یہ خیال ہے کہ مثابرات صحابہ کے باسے میں روایات کی حکایات میں کتنے بغرا ہیں اس لیے اس سے ذکر کرنے اس طرح مخلافت و تلویت میں کیا گیا ہے اس سے واضح طور پر صحابہ کا اشխاف اور ان کی تدقیق ہوتی ہے اعلیٰ سنت نے اس سے سختی کے ساتھ دکا اور اسے حرام قرار دیا ہے اچانچ اب مجرمیتی لکھتے ہیں :-

۲۱) عزیزی و عینہ نے کہا ہے کہ حسن و حسین شریف متفکر انسان کے واقعات اور صحابہؓؐ کی مثابرات کا بیان واعظ احمد بن جیبی و مدرسہ لونگل کے لئے حرام ہے، کیونکہ اس سے صحابہ کے خلاف بعض پیدا ہوتا اور ان پر طعن کا دردازارہ کھلتا ہے دراں حالیکہ وہ دین کے علم بہار ہیں، انہوں نے ان سے دین اخذ کیا اور ہم نے انہوں نے دین پر طعن کرتا ہے، ابن الصلاح اور امام نووی نے صرفت آپ پر اور اپنے دین پر طعن کرتا ہے، بنی صالح اور امام نووی نے صرفت کی ہے کہ « تمام صحابہ عده میں، بنی صالح عليه وسلم کی وفات کے وقت انکی تعصی ایک لاکھ چودہ ہزار تھی، قرآن اور احادیث ان کی عدالت و جلالت کی تصریح کرتے ہیں، ان کے مابین جو کچھ ہوا، ان کے حوالی ہیں جن کی تفضیل یہاں ممکن نہیں ». میں نے اپنی کتاب میں حسینؑ کے سانحہ قتل اور اس کے بعد کے جو حالات ذکر کئے ہیں وہ میرے ذکر کردہ بالا بیان کے مطابق ہیں، کیونکہ میں نے صحیح واقعات ایسے انسان میں ذکر کئے ہیں جن پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ان سے صحابہؓ کی جلالت قدر واضح اور ہر کوئی اسے ان کی برآت کا اٹھا رہا ہوتا ہے، بخلاف جاہل واعظوں کے وہ جھوٹی، گھڑی ہوئی اور ان جیسی روایات بیان کرتے ہیں، نیز صحیح روایات مستثبت شدہ واقعات کا صحیح

عمل اور ان کی تھے عیم نویت نہیں و اخراج کرتے ہیں جو پر احتقاد ضروری ہے، ایسے لوگ حرام کو بُغْض صحابہ کی راہ پر قاتل دیتے ہیں اور ان کے لئے صحابہ کی تفصیل کا سامان تہیا کر دیتے ہیں، حراماً طرز عمل اس سے بالکل مختلف ہے، ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اُس سے ان کی انتہائی جلاالت اور ان کی نہاد و اخراج ہوتی ہے ॥ لہ  
وَإِنْ تُمْكِنْ هُشْيَارَ باش :  
سولانہ لکھتے ہیں : -

”البَشَّةُ إِنْ مَا أَعْطَاهُنَّ يَهُ احْتِيَاطٌ لِمَحْظَدٍ مِنْيٍ چَلَّهُ يَهُ كَيْ بَاتٌ كَوْصَرٌ بِيَنْ“  
واقعہ تک محمد در کھا جاتے اور کسی صحابی کی بھیثت مجموعی تفصیل نہ ہونے پا سے، یہی احتیاط میں نے اپنی امکانی حد تک پُردی طرح محوظ رکھی ہے، اگر اس سے کہیں تجاوز پایا جائے تو مجھے اس پر مطلع کیا جاتے، میں انشاء اللہ اسکی فوراً اصلاح کر دوں گا، ص ۳۰۵

یہ پُردی بیان اذ اذل تا آخر غلط ہے، ان داقتات کے بیان میں یہ احتیاط کر بات صرف بیان واقعہ تک محمد در رکھی جاتے، یہ یہک شانوی چیز ہے، اذ لین چیز اس داقعہ کا صحیح ثبوت ہے، اس کے متعلق سولانہ کوئی وضاحت نہیں کر رہے ہیں کہ اس کا انھوں نے کتنا اہمیت کیا ہے؟ حالانکہ اس اذ لین چیز کو ثابت کرنے بغیر اپناؤی چیز کا چاہئے قبنا اسلام کر لیں، اس کی عقل و خود کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، آپ کسی بزرگ کی طرف کسی جرم وجگناہ کا انساب کریں، بیان کرتے وقت آپ بڑی احتیاط، ادب و احترام کے تمام تقاضے اور کوثر و تسلیم میں دلی بُری زبان استعمال کر لیں، لیکن ان تمام احتیاطوں کے باوجود اس بزرگ کا علاقہ ارادت سب سے پہلے آپ سے اس کا ماقریبی ثبوت طلب کر رہے گا، اگر یہ بنیاد ہے آپ کے پاس نہیں ہو گئی تو آپکے ادب و احترام کے باوجود آپ پہاہانت ور سوائی کی فوج جرم عائد کر دی جائے گا۔

مولانا کا یہ دعویٰ ہے کیسے غلط ہے کہ میں نہ بات کر صرف بیان ماقعہ تک محدود رکھا ہے، اگر واقعہ یہی ہوتا تو خلافت و ملوکیت کی پوری حمارت اپ سے آپ زین بوس ہو کر جاتی، مولانا نے بیان ماقعہ سے زیادہ ان کے سنگین نتائج کو موصوع بحث بنایا ہے، بلکہ تعدد جگہوں پر تو معمولی وجہ وی ماقعہ کو لکھی بنا کر ایسے عمومی نتائج نکال کر رکھ دئے ہیں جنہیں دیکھ کر صحابہ کے کردار سے بھی آئے لگتی ہے، اس سے بھی کام ہیں چاٹو رہایت کو سیاق سے کاٹ کر غلط نگہ میں پیش کیا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مولانا بڑی سادگی سے فرماتے ہیں کہ بیان ماقعہ سے اگر ہمیں تجاوز پایا جاتا ہو تو مجھے مطلع کر دیا جاتے، اس اس کی اصلاح کر دوں گا، اگر اس امناز کی اصلاح کر دی جائے تو «خلافت و ملوکیت» کے غباء کی ساری ہوا ہی نکل رہا استدلال کی پوری حمارت ہی پا در ہوا ہو کر نہ رہ جاتے۔ ۹

مزید یہ آں یہ کہنا بھی ایک سادہ لوحی کا مظاہرہ ہے کہ کسی صحابی کی سمجھیت جمیعی تتفیص نہ ہونے پائے، یہاں سوال مولانا جیسے ثقہ اہل علم کا نہیں، مکن ہے ایسے لوگ «خلافت و ملوکیت» کے مواد کو پڑھ کر ہمیں اپنی زبانوں پر تالے لگاتے رہیں، اصل سوال عوام کی اُس ذہنی سطح کا ہے جو حقیقت تک کی رسائی کی اہلیت نہیں رکھتی، جب وہ حضرت عثمانؓ کا کردار دیکھیں گے، حضرت معاویہؓ کے «مکروہ بڑا کام» کی ایک طویل فہرست «مولانا کی کتابیں ملاحظہ رہیں گے پھر ان سے مولانا کے اخذ کردہ قبیع نتائج پر حذر کریں گے تو کیا یہ مکن ہے کہ آن کا خام ذہن اس سے متاثر نہ ہو؟ احمدیہ سب کچھ پڑھ لیں گے کہ باوجود ان کا مغل نفرت و دھمارت کی آماجگاہ بننے کی بجائے صحابہ کرام کے لئے سرکرد ہمروں فائدات ہو؟ «خلافت و ملوکیت» کے ان واضح نتائج کے دیکھتے ہوئے مولانا کی «احتیاط» اسی امناز کی ہے جسے ایک فارسی شعر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ۱۰

در میان قبردیا تختہ ندم کردا ॥ ۱۰ ॥ باز می گوئی کہ دامن ترکن ہشیار پاش  
صحابہ کرام سے متعلق تاریخی روایات، ایک لکھیے ہے۔  
مولانا لکھتے ہیں ہے۔

۱۰ بعض حضرات اس معاملہ میں یہ نزا لاماعده کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ بڑا

کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں  
اور ہر اُس بات کو رد کر دیں گے جس سے ان پر حرف آتا ہو، خواہ وہ کسی حدیث  
ہی میں وارد نہ ہوئی ہو۔ لیکن میں نہیں جانت کہ تحدیث و مفسرین اور فقہاریین  
کس نے یہ قاعدة کلیہ بیان کیا ہے اور کون سا محدث یا مفسر یا فقیہ ہے جس نے  
بھی اس کی پروپریتی کی ہو۔ ۳۵

یہاں مولانا نے صحیح سکن کی مذکوٰۃ ترجانی کر کے غلط صحیح کر دیا ہے جو واقعہ حدیث  
صحیح سے ثابت ہیں اس سے ہمیں قطعاً انکار نہیں، ہماری ساری بحث کا تعلق "خلافتِ ملوکت"  
کے اُس مواد سے ہے جس کا سلسہ نسبہ غیر محفوظ ہے، یہ اصول صرف اخنیٰ تاریخی روایات  
کے لئے ہے جن کا سلسہ نسبہ غیر متصل و غیر محفوظ اور جن میں بیان کردہ حقائق صحابہؓ کے  
اُس کو دارے متصادم ہیں جس کے واضح نقوش میں قرآن و حدیث میں لٹھتے ہیں۔ اس اصول کے  
خلاف اگر مولانا ہم سے طلب فرمائیں تو وہ ہم پیش کرے دیتے ہیں: اس سے آپ کو معلوم ہو جاؤ  
کہ یہ کوئی "زرا لا قاعدہ" نہیں بلکہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے جسے علماء امتتھن پڑی نظر  
رکھا ہے، ہم اس سلسلے میں چند اکابر علماء کے احوال پیش کرتے ہیں۔  
ذکر کوہہ کلیہ کی صحیح کے دلائل :-

شیخ الاسلام ابن تیمیہ "المیل واللعل" کے مصنف، شہرستانی اور ان بھی  
دیگر مصنفین کی تالیفات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-  
"اُن حضرات کی بیان کردہ روایات، تاریخ و سیرت کی روایات کی جنس سے  
ہیں، جن میں مُرسَل و مقطوع اور صحیح و ضعیف ہر طرح کی چیزوں ہیں۔  
جب واقعہ یہ ہے تو صحابہؓ کرام کے فضائل و محسن، جو کتنی بُشْت  
اور نقلِ تہوار سے ثابت و معلوم ہیں، ان کا رد ایسی روایات سے نہیں ہو سکتا  
جس میں بعض شقطع، بعض تحریف شده اور بعض ایسی ہیں جن سے یقینی چیزوں پر  
قدح نہیں ہو سکتی، اس لئے کوئین، شک سے زائل نہیں ہو سکتا، اور ہماڑا  
یقین ان چیزوں پر ہے جو کتاب و مُسَنّت اور اجماع سلف سے ثابت ہیں،

نیز ان منقولاتِ مُتوالہ کی تصدیق و تایید دلائل عقلیہ سے بھی اس طرح  
ہوتی ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل تمین مخلوق ہے، نبایت  
ان پر مشکل کچیروں سے جرم اقدم نہیں ہو سکتی، چنانچہ اس کا دلایت  
ہے جن کا بطلانِ دلایت ہے ॥۱۵۔

ایک دوسرے مقام پر اس گفیلی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں:-

دیکھی شخص کے لئے کسی فروعی مسئلہ میں بھی کسی حدیث سے استدلال ہر وقت تک  
جازو نہیں جب تک وہ اُسے صحیح ثابت نہ کر دے، پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا  
ہے کہ ان اصولی مسائل میں جن سے خير القرون، جمہور مسلمان اعظم اللہ تعالیٰ  
کے اولیاء مقربین کے سادات (صحابہ) پر حرف آتا ہے، ان روایات کو  
بطوریجت پیش کرنا جائز ہو کہ جن کا صدقی ہی تاملوم ہو ॥۱۶۔

— قافیہ ابو بکر ابن المزبی لکھتے ہیں :-

”سو لئے صحیح معالیات کے کمی اور طرف التفات نہ کیا جائے، اہل تدین کے  
بھی، ان کا شیو ہے کہ چھٹے چند صحیح روایات ذکر کر دیتے ہیں تاکہ اُس کی اسیں  
باطل روایات کو فروغ دے سکیں، یہ لوگوں کے دلوں میں ایسی بائیں ثالثی  
کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کو ناپند ہیں، یہ لوگ اسلام کی تحقیقہ دین کی  
تذمیل کرتے ہیں دراں حالیکر دین اس سے عربیت اور اسلام اس سے  
کہیں زیادہ قابل احترام ہیں، غرضی اللہ عن جمیعہم راجحین  
جو شخص بھی صحابہ کے باطل دانشیں پر خور کرے گا، اُس پر اہل تاریخ  
کے ان تمہین آمیزالت امات کا بطلان ما فتح ہو جائے گا جو انہوں نے کم علم

۱۵۔ سہیج السنۃ البیویۃ فی نقض ملام الشیعۃ و المقدّریۃ، ج ۳، ص ۲۰۹ - ۲۱۰

المبغیۃ الکبری الامیریۃ، مصر، ۱۴۳۳ھ

۱۶۔ سہیج السنۃ، ج ۲، ص ۱۸

لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تھرے ہیں ”  
اس کے بعد صحابہؓ کرام کے بارے میں چند گمراہ ہجن نظریات ذکر کر کے قاضی صاحب پھر  
اس بات کو وہ راستے ہیں۔

”یہ باتیں میں نے اس لئے ذکر کی ہیں تاکہ تم لوگوں سے احتراز کرو، بالخصوص  
تفسیری، مورثی، اور اپنی ادب سے، یہ لوگ دین کی حرمتوں سے ناداقت  
اور بدعتوں پر اصرار کرنے والے ہیں، اس لئے ان کی بیان کردہ روایات کی  
پڑاہ نہ کرو، اور ائمہ محدثین کے علاوہ دوسروں سے لوگوں کا روایات قبول نہ کرو  
ایک اور مقام پر لکھتے ہیں : -

”جب تم اپنے خلاف دینار و درهم تک کا دعویٰ اُنس وقت تک سمجھ تسلیم ہیں  
کرتے جب تک مدعی عادل، تمتوں سے پاک اور خواہشاتِ حقائی سے محفوظ  
نہ ہو، تو مفترم تلف کے احوال اور صحابہؓ کرام کے ماہین سوتے مانے ہوئے  
کے متعلق ان لوگوں کی روایات کس طرح قبول کر لیتے موجہ ہیں کی حدات تو  
کیجا سرے سے جن کا دین ہی میں کوئی مقام نہیں“ لہ

● مولانا حسین احمد مدینی مرحوم لکھتے ہیں : -

”صحابہؓ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں جو آیات دار ہیں وہ قطعی ہیں، بخود  
احادیث صحیحہ ان کے متعلق دار ہیں، ان کی اسائیں معاشر قدر قوی ہیں کہ  
تاریخ کی روایات ان کے سلسلے میں ہیں، اس لئے اگر کسی تاریخی روایت میں  
اور احادیث صحیحہ میں تعارض دلت ہوگا تو تاریخ کو غلط کہنا ضروری ہے  
حضرت امیر معاویہؓ کی شان میں صحابہؓ میں شخصی متعدد روایات موجود ہیں  
مثلاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل عافر فیل آللَّهُمَّ أَعْجَلْهُ هادیاً

لہ - العواصم من التوہیم ص ۲۲۳-۲۲۵، ۲۲۸-۲۵۰ - ۲۳۸ - ۲۵۲ - الطبعہ اولیہ

مصر ۱۴۵۰ھ

مَخْدِيَّاً (اسے اللہ تو معاویہ کو بھايت یا بارہ دادی بناء سے) یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ان کے تفقہ کا اقرار کرنا بے خیز، اس لئے اگر تاریخ کوئی واقعہ ان رعايات کے خلاف پیش کرے گی تو تاریخ کی تغییط ضروری ہو گی۔ ... ہم فاطمہ عقیت را بیت میں ہگران کے مقامات اور اس زمانے کے احوال سے باکل غافل ہو جاتے ہیں، مورخین بھی اس مقام میں اپنے فرائض میں کہتا ہی کریں گے ہیں ॥

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں :-

” یہ مورخین کی روایتیں تو جھوٹی ہے سرو پا ہوتی ہیں، نہ راویوں کا پتہ جرتی ہے نہ ان کی روشنی ملک تحریج کی جھوٹی ہے نہ اتصال و انقطاع سے بحث ہوتی ہے اما د اگر بعض مقدمین نے سن کا الراہ کیا بھی ہے تو عموماً ان میں ہر غوث شیخین سے اور ارسال و انقطاع سے کام لیا گیا ہے، خواہ ابن اثیر ہوں یا ابن قیمہ۔ ابن ابی الحدید ہو یا ابن سحد۔

ان اخبار کو مستفاض و متواتر قرار دینا بالکل غلط ہے اور بے موقع ہے  
صحابہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق ان قطعی اور متواتر نصوص، اور دلائل حکایۃ منتقلی  
کی موجودگی میں اگر بدایات صحیح احادیث کی بھی موجود ہوئیں تو مردود یا ماؤں  
قرار دی جاتیں چہ جائیکہ رعايات تاریخ ॥ ۱۶

— ابن تجریشی اس نکتے کی دضاحت اس طرح کرتے ہیں :-  
” ہمارے آئندہ محدثین نے واضح کر دیا ہے کہ صحابہ کے متعلق جو چیزوں منقول ہیں  
وہ یا تو جھوٹ ہیں یا اُن میں کوئی ایک علت یا بیک وقت کی علیس ہیں ۔ . . .  
کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ ان کے ما بین ہونے والے واقعات کا لیے  
انداز میں ذکر کرے جس سے ان کے اندر کوئی نقش اور کتابی محسیں ہو، اور  
اُن کی عالمانہ حیثیت میں عیب گیری کا پہلو نکلے، یا جس سے عوام ان پر سب شتم

اور ان کی تعمیص داہالت اور اس قسم کے دیگر مفاسد کی طرف مائل ہوں۔ ایسا طرزِ عمل صرف مبتدیین اور رُمہ جاہل ناقل اختیار کرتے ہیں جو رُمۃ کہ اُسی طرح نقل کردیتے ہیں جس طرح اُسے دیکھتے ہیں، اُس کے ساتھ اس کی ظاہری حالت پر بھوٹ دیتے ہیں، زادُ اُس کی سند میں کوئی بوجھ کرتے ہیں میں شاُس کی کوئی محقوق توجیہ کرتے ہیں۔ اس طرزِ عمل میں جو فساد عظیم ہے اس کی بنا پر یہ سخت حرام ہے یہ حرام اور کم خانمہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعمیص سے انجام نہ دالا طرزِ عمل ہے، جن کی وجہ سے دین قائم ہوا، انہوں نے ہم تک کتاب اللہ اعلیٰ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر کے پہنچائی اور ان احکامات کو بیان کیا جن کا احاطان کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا فرضی اللہ عن هم و حزاهم عن الاسلام وال المسلمين

### خیر جزا پر

ابتہ ان چیزوں کا ایسا سچع صحیح تذکرہ جو دلالت و ماقلات کے تقاضوں اور الٰہی سنت کے قواعد کے مطابق ہو، انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ اس سے ان کی نسأمت و برأت واضح ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے سہابہ اپنے رب کی سبلائی ہجہتی رہا وہ ملایت پر تھے۔ ان سے جو کچھ صادر تھا اُس کا مبنی اجتہاد تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب یا ہے کہ مجہد مُصلب کہ دہرا لکھ دوسرو روایت کے مطابق دس لکھا اجر لے گا اور مجہد بخطا کو ایک اجر .. . . . . لیں ان میں سے خطا کار بھی بنیادی طور پر اصل ثواب اور تلاش حق میں اُبھی کے بدایہ میں جانا ہے اجتہاد میں مُصلب تھے، اس لئے کہ ان میں سے متوفیین کی تادیل قطعی البطل نہیں بلکہ اکثر طور پر واضح البر علی ہے۔ شاہرین اللہ اساس سے رسول نے تمام لوگوں کے لئے یہ ضروری قرار فرمایا کہ ان کی عظمت و جلالت اور ان کی تعریف و شناوع میں کوتا ہی نہ کیں اسلام کی راہ میں ان کی قابل

تعریف کو ششول کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں، ان میں سے جس جس کا جو مرتبہ ہے، وہ لے دیں، جس پر ان کی خصوصیات شاید ہیں۔ جس نکتے کی ہم نے یہاں توضیح کی ہے، اُسے حربِ جان بنالواد اوس کے مطابق اپنا اعتماد رکھو، اسی سے تم مبتدعین اور معاندین کا مدد بھی پہنچ سکتے ہو اوس سے جاہل اور تعلیمیں کی سیمیں ہمنا یہ سبی کی جا سکتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اس کی توضیح کرتے ہیں:-

”اُس وقت ان واقعات پر بحث کرنے سے اقتدار ضروری ہے جب حواسِ ان سے فلسط طور پر حل چھپی لے رہے ہوں یا جب ان کی بیانِ ان کی احوال پر ہوا جنیں اگرچہ بعض محدثین ہی نے مرتب کیا ہے، لیکن الٰہ کے لئے ہتر سی حقا کہ فہم ان ظاہری روایات کو ذکر نہ کرتے۔ اگر ان واقعات کے بیان کرنے پر ضرور کسی کو اصرار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اُنہیں ایں مستنت کے قواعد کے مطابق بیان کرے تاکہ فہم سنتیں یا جاہل اُسی سے غلط استدلال نہ کر سکے۔ بیرونِ ان کی احوال کو مرتب کرنے والوں نے چنان بھی کہتے ہیں غلط و صیغ سادہ مواد جمع کرنے اُنہیں ان کی ظاہری حالت پر چھوڑ دیلے، موڑھیں کا یہ طرزِ عمل ان لوگوں کے حق میں مُعیت بن گی جو زادِ الٰہ مستنت کے اکابر ہیں نہ اُنہیں رسماً فی العلم حاصل ہے، اُنھوں نے روایات کے ظاہر پر یقین کر لیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے بہت سے صحابہؓ تنقیص ہوئی اور ان کے کمال ایمان میں فطل محسوس ہوا، اور اس سے لوگ گمراہی اور افتراضِ داڑی کے کھٹدیں جاگرے۔ اگر تم صحابہؓ کی اضاف پنڈی، پاکیزگی قلب افہم ایک دوسرے

۱۹۔ تطہیر الحجات واللسان عن الخطورة والتفوه بثقب سیدنا معاویۃ بن الجاسیۃ  
ص ۶۲، ۶۴، یہ کتاب «الصراحت عن المحرقة» کے حاشیہ پر مطبوع ہے، طبع ۳۷۳

کی تعظیم و تکریم جسمی صفات پر غور کرو تو تکمیل تمہارا آئسٹہ دل ان میں سے  
کھسی کی طرف سے گرد آلو دنہ ہو۔ اگرچہ ان کے مابین جگہ کچھ ہوا، سو ہوا،  
ان کی وی حالت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے: —

وَنَزَّعَنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْرَاجًا عَلَى سُرُورٍ هُقَالَيْنِ هَذِهِمْ أَنَّكُمْ لَدُنَّنَا كَمْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ

(ثہم ان کے دلول کی کدو درت نکال دیں گے اور قدر مجاہیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے ...) اس چیز کو تم خوب سمجھ لتا کہ تم صحابہ کو ان چیزوں سے پاک سمجھو، جن کا انتساب مُبتنی عین اور فضائی طرف سے گھر گھر کران کا طرف کرتے ہیں —

اوْسَافِرَ إِلَيْهَا زَهْنِنْ بِنَادِنَكَارَانَ لَتِنْقِصِنَ كَرْتَهِنْ " لَهُ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اپنی سنت کے اس سلک کی صراحت کی ہے کہ جن ردایات سے صحابہ کلام پر حرف آتا ہے، ان میں بیشتر یا تو سر جھوٹی ہیں یا پھر ان میں ایسی کمی شی کر دی گئی ہے جس سے اصل صورت سخ ہو گئی ہے یقینوں ان هذلا الاتاس فی مساکنہم منہما ماتقد تزید و تقص وغیرہ من وجہہ، والیصح منہ هم فیہ محدث و مصنف اما جمیعتہم و میصیبون داما جمیعتہم دن مخطبوئون " ۱۰

ابن کثیر کا طرز عمل :-

خود حافظ ابن القیم کا طرز عمل اس بارے میں بڑا واضح ہے، حالانکہ حافظ صاحب نے امام طبری کے طرز پر چلتے ہوئے بہت سی جگہ بے اصل ردایات بھی لکھ کر دی ہیں، تمام متعدد جگہ مذکورہ اصول کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے ناگنجی روایات کو ناقابل اعتماد بھی قرار دیا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں :-

۱- حضرت میرزا بن شعبہ کے متعلق طبری کی ایک روایت نقل کی کئی تکھیے ہیں :-

۱۰- تطہیر الجنان، ص، ۹۲ - ۹۵

۱۱- الحقيقة الواسطية من مجموع الرسائل الكبرى، ص ۳۰۳

”ابن حمیریہ کی یہ روایت ناقابل قبول ہے، سُنْهَرَهُ وَفِي مَعْلُونِ اسْ قَسْمِ كَلْمَانِ  
بھی نہیں کیا جاسکتا، ہم نے یہ تبلیغ اس لئے کی ہے تاکہ اس کا بُطْلَانِ واضح  
ہو جائے، ایک نکہ صحابہ کرام اس قسم کی باقول سے بہت ملند ہیں، یہ روایت  
محض شیعوں کی شرارت ہے“ ۱۰

(۲) حضرت حسنؓؒ کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ اس کے متعلق موڑخین نے نہ رفیعی  
کی جو روایات ذکر کی ہیں، دو طرح کی ہیں، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ زید کے اشارہ  
سے ہوا، دوسری روایت یہ الزام حضرت معاویہؓؒ کے سر تھوپ دریتی ہیں، حافظ صاحب وزول  
روایات کو رد کرستے ہوئے لکھتے ہیں :-

”میرے نزدیک (یہ زید پر) الزام (اصح) نہیں ہے اور اس الزام کی نسبت  
یہ زید کے باپ، معاویہؓؒ کی طرف بطریق اعلیٰ غیر صحیح ہے“ ۱۱

۳۔ بیعت عثمانؓؒ کے سلسلے میں حضرت علی رضاؑ کا جو طرز عمل عموماً موڑخین نے ذکر  
کیا ہے، اس کا رد کرستے ہوئے لکھتے ہیں :-

”ابن حمیرہ وغیرہ جیسے بہت سے موڑخین نے نامعلوم افراد سے جو اس  
قسم کی باتیں نقل کی ہیں کہ حضرت علیؓؒ نے عبد الرحمن بن عوفؓؒ کو کہا کہ تم نے بھروسے  
وھوکر کیا وغیرہ وغیرہ...“ اس قسم کی باتیں، جو صحیح روایات سے  
ثابت شدہ روایات کے خلاف ہیں، ان کے تائیین و نتاکیں کے منہ برداری  
جائیں گی، بلکہ روا فضل اور غیۃ النہیں تھے گو، بعضیں صحیح و ضعیف، مستقیم و مستقام  
کہروں و مفہموں طریقہ، روایات کے درمیان کوئی تمیز نہیں، صحابہ کرام کے متعلق جو لکھا  
باور کہا جا چاہتے ہیں: دو خلاف دافق ہے“ ۱۲

۱۰- البیانیہ والنهایۃ، ج ۸، ص ۱۶، مطبعة السعادۃ مصر

۱۱- البیانیہ والنهایۃ، ج ۸، ص ۲۳

۱۲- البیانیہ والنهایۃ، ج ۷، ص ۱۴۷

۲۔ جنگ جمل کے دوران حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کی طرف سے صاعِ کیا تھا چیت کے لئے وفاد کا تبادلہ موتا رہا، اس سلسلے میں تبریزی کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صلح کے جواب میں حضرت معاویہ نے حامیان علی کو مر اکھا اور حضرت علی نے حضرت معاویہ و عیزو کو ایسا کھا، نقل کر کے روایت کے درمیان اور آخر میں لکھتے ہیں :-

وَقَى صَحْتَهُ ذَالِكَ عَنْهُمْ وَعَنْهُ نَظَرٌ هَذَا عَنْدِي لَا يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(یعنی اس روایت میں بوقباحت ہے اُسے دیکھتے ہوئے ہم اس کو نہ حضرت علیؓ کی طرف سے صحیح مان سکتے ہیں نہ معاویہ و عیزوؓ کی طرف سے) ۱۰

ان مذکورہ حوالہ جات پر غور کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ ان میں صحیح حدیث کو جھبلا یا گلیا ہے یا صرف تاریخی روایات کے متعلق یہ رعایت اختیار کیا گیا ہے و نیز تاریخی روایات کو جس بنابر جھبلا یا جھیا، اس کی بھی واضح نشاندہی ان حوالوں میں موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان تاریخی روایات سے صحابہؓ کرام کا وہ کوہار مجرود حوتا ہے جس کی صراحت قرآن و حدیث نے کی ہے، اور ان روایات سے صحابہؓ کرام پر حرف آتا ہے۔

إِنْ كَانَتْ هَذِهِ أَسْتَ كَهْ دَرِ شَهْرِ شَهَانِيْرِ كَنْتَهْ :

علاوه ازیں خود مولانا نے یہ "نزا الاقاعدۃ کلییہ" حضرت علیؓ کے لئے استعمال کیا ہے، ان سے ۱۹۳۳ سال قبل مولانہ نے تاریخ کی دو روایات روکر دیں جن سے حضرت علیؓ پر حرف آتا ہے۔ ۱۹۳۶ میں مولانہ سے سوال کیا گیا کہ بقول آپ کے جو شخص خود کسی نسبت یا عہدے سے کامیاب نہ ہو، اُسے کوئی منصب نہیں دینا چاہیے، لیکن آپ حضرت علیؓ کے متعلق کیا کہیں تکے جو خلافت کے امیدوار یا دعوے دار تھے؟ جواب میں مولانا نے اس تاریخی حقیقت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور بعض دوسری روایات سے یہ ثابت کیا کہ سرسے سے دو خلافت کے امیدوار یا دعوے دار ہی نہ تھے، اس کے چند نقرے ملاحظہ ہوں :-

”کسی کا جیچا ہتا ہے کہ اس راسید فارمی خلافت کے) قصہ کو باور کرے  
قوہم اُسے روک نہیں سکتے تاریخ کے صفحات تو بہر حال اس سے آلوہری  
ہیں، مگر پھر ساتھ ہی یہ انشا پڑے کہ کافم بدرین رسالت کا دعویٰ مغض  
ڈھونگ تھا، قرآن شاعرانہ لفاظی کے سوال کچھ نہ تھا اور تقدس کی سما۔  
داستانیں خالص ریا کاری کی داستانیں تھیں .....”

ثیپ کا بند طاخطہ ہے:-

”ہم خواہ تجوہ کسی کے تسبیح و مناظرے میں نہیں الجھنا چاہئے ہم  
نے دونوں تصویریں پیش کر دی ہیں: اب ہر صاحب عقل کو خود سوچا گا  
کہ ان میں سے کون سی تصویر مبلغ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت  
اور اصحاب کیام کی سیرتوں سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، اگر ہمیں  
تصویری پرسی کا دل بیجھتا ہے تو یہ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک امیہ شاری  
و دعویٰ سے داری کا مستلزمی نہیں، تو سے دین و اہم ان کا مستلزم حل طلب  
ہو جاتے گا، اور اگر کہ فی اس دوسری تصویر کو قبول کرے تو اس میں  
سرے سے اس مقام کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت علیؓ منصب  
خلافت کے امیہ دار یاد عویؓ سے دار تھے۔“ ۱۷

صرف اس ایک سلسلے میں ہی مولانا نے حضرت علیؓ کے متعلق یہ طرزِ عمل اختیار نہیں کیا بلکہ  
ہر مقام پر حضرت علیؓ کے لئے اس لیکے کو استعمال کیا ہے۔ ”خلافت و ملوکت“ کے  
مباطح میں مولانا نے حضرت عثمانؓ و حضرت معاذیہؓ کے متعدد دلائیے اقدامات سخت  
تنقید کی ہے جو اقدامات خود حضرت علیؓ کے لئے دوسرے حکومت میں کئے یا میکن حضرت  
علیؓ کو مولانا نے برائے نام بھی نہ شائئ ترقید نہیں بنایا بلکہ وہاں واضح طور پر یہ فلسفہ آلاتی کی ہے  
”جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں ..... تو آختم ہم ان روایات کو کیوں  
نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرزِ عمل سے مناسبت رکھتی ہیں، اور خواہ دی

روایات کیوں قبول کریں جو اُس کی صدقہ نظر آتی ہی — ” لے  
 لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بھی اخواں کے علاوہ اور کیلیکہتے ہیں؟ ہم بھی ترمیٰ کہتے ہیں۔  
 کہ تاریخ تضادات کا مجموعہ ہے، اُسیں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، ایسا مجموعہ  
 روایات بھی ہے جس کی سُو سے بیشتر دُو اذامات لغو قرار پاتے ہیں جو مولانا نے ایک ووگر  
 مجموعہ روایات کو بنیاد تباکر حضرت عثمانؓ حضرت معاذیہؓ وغیرہم پر کئے ہیں، یا اس سے  
 ان کی ایسی معقول توجیہ موسکتی ہے جس کے بعد ان میں شناخت نہیں رہتی جو خلافت مکبت  
 میں خوب بیعاچ ڈھاکر پیش کی گئی ہے۔ دنیا کے کس اصل اہمیت سے اخواں خالص  
 جانب مانانے طرز عمل کو صحیح قرار دیا جاسکتا ہے کہ حضرت علیؓ متعلق تاریخی روایات  
 مردود قرار پائیں جن سے ان پر برداشت آئے اور حضرت عثمانؓ حضرت معاذیہؓ متعلق  
 خاص طبقہ پر ان روایات کی صحت پر اصرار کیا جائے میں سے خواہ مگر ان کا دو اہنگ فار  
 داغ دار نظر آتے اور دُو اذاما نظر اسائز کردی جائیں جیسے ان کا کردار بے دواع نظر  
 آتے۔ ۹

بہر حال ہم کہہ یہ رہے تھے کہ تاریخی روایات کے متعلق یہ کلیہ، جسے مولانا نے  
 ”نرا لاقاعدۃ کلکیہ“ سے تعبیر کیا ہے، کوئی نیا کلکیہ نہیں، اہل سنت کے یہاں اس لیکے  
 کے استعمال کی بہت سی شالیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند شالیں ہم پیش بھی کر آئے  
 ہیں، خود مولانا نے یہ ”نرا لاقاعدۃ کلکیہ“ حضرت علیؓ متعلق استعمال کیا ہے، گویا  
 سہ۔ ایسی گناہے است کہ در شہرِ شما نیز کشند

ھمارے اور مولانا کے مابین فرق صرف یہ ہے کہ مولانا اس کیلئے کا استعمال مرتا۔  
 حضرت علیؓ کے لئے خاص سمجھتے ہیں، ہم اسے عام سمجھتے ہیں، ہم حضرت علیؓ رفیقت  
 الہ نام صحابہؓ سے متعلق تاریخی روایات میں نقید و جرح کی ضرورت محسوس کرتے ہیں  
 جو ان کے دامن کردار کو داع و دکھاتی ہیں۔

## خاطرِ مباحثت ۴

ذکورِ علیہ سے آپ ہمارے نقطہ نظر کو سمجھ پکے ہوں گے، کہ یہ اصول صرف ان تاریخی روایات کے لئے ہے، جن کی سند غیر محفوظ ہے یا جو سرے سے بے سند ہیں املاک صداقت و دروغ کو اور رفضی ہیں، قرآن اور حدیث صحیح کے دُہ ماقعات کی تکمیل کے لئے وہ پہلو قول کی نشاندہی کرتے ہیں، ان سے نہ ہیں انکا ہے، نہ انکا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیں ان کی بشری کوتاہیوں اور ان کی غیر معمصیت کا اعتراف ہے۔ دُہ فرشتوں کی کوئی جماعت نہ تھی، اسی مشتبہ خاک کا بنام ہوا پاکیاں گردہ تھا جس کے خیر میں خطاء زیان کا عنصر شامل و داخل تھا، مُہ غلطیاں کر سکتے تھے اور انہوں نے غلطیاں کی یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے ایسا یہ سرے سے کوئی بحث، ہی نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں یا نہیں؟ اصل بحث یہ ہے کہ جن غلطیوں کا انتساب ان کی طرف کیا جائے اس کا بالکل صحیح اور ماقعی ثبوت ہونا پڑھیئے۔ لیکن مولا نما خاطرِ مباحثت کرنے کی کوشش کرئے ہیں مولانا کا، ٹکا تعصیلی پریشان ہے جس میں احادیث صحیح کے چند ماقعات ذکر کر کے گئے ہیں کہ "اس من گھرست اصول کی رو سے ان کا بھی انکار کر دینا چاہیئے" مولانا کی پوری بحث پڑھیئے اور ان کی "امانت و دیانت" کی داد دیکھئے، فرماتے ہیں :—

"کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام و تحریر کا ماقع حدیث و فقادر تفہیر کی تابوں میں سیان نہیں کیا گی ہے۔ حالانکہ اس سے اجہات المؤمنین پر یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے نفقہ کے لئے حضیرہ کو تباہ کیا تھا۔ کیا واقعہ اُن میں بعض صحابہ کے ملوث ہونے اور ان پر حقدنگ جاری ہونے کا تقصہ ان میں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ حالانکہ اس قصورہ کی شناخت جیسی کچھ ہے دُہ ظاہر ہے، کیا اغزیلی اور غاذیتی کے ماقعات ان تابوں میں سیان نہیں کئے گئے ہیں؟ حالانکہ صحابیت کا شرف تو اُنہیں بھی حاصل تھا اور اس من گھرست قاعدے کی رو سے حمد شیخ کو وہ تمام روایات رکھ دینی چاہیئے تھیں جن میں کسی صحابی یا کسی صحابی زنا جیسے کھنداق نے فعل کے صدور کا ذکر آیا ہو، پھر اگر داقی یہ کوئی مسلم قاعدہ

تفاق حضرت عمر فیض حضرت میزہ بن شعبہ پر زنا کا انعام لگانے والوں نے شہادت طلب کر کے اس کی خلاف و سذجی کی۔ بیکونکہ اس قاعده کی وجہ سے قوایک صحابی کی طرف اس فعل کی نسبت ہی سرسرے سے قابل تسلیم نہ تھی کبھی کارس پر شہادت للہ عزوجل جاتی۔ بلکہ خود وہ حضرات ہمیجوں آج اس قاعده کیلئے کوپیش فرمائے ہیں، اس کی پُندتی پا بندی نہیں کرتے اگر وہ تھی وہ اس کے قابل ہوتے تو اُنھیں کہنا چاہیے تھا کہ جگہ جعل اور جنگ صفتین سرسرے سے بھی پیش ہی نہیں آتی، کیونکہ صحابہ کرام کی شان اس سے بالآخر ہوئی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تواریخ سے کوکھڑے ہو جائیں اور ان کے ہاتھوں سے الیاں کی خوب ریزی ہو۔ ۳۰۴-۳۰۵ ص

دیکھئے کس طرح ایک ملٹی مفرم خسپ پر ایک ہوا لی خمارت کھڑی کردی تھی جسی ہے حالانکہ خود مولانا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ ماقعہ تصرف کتب تواریخ میں نہیں بلکہ حدیث و فقہ اور تفسیر کی کتابوں میں ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ وہاں ہر ایک کی پوری صحیح سند موجود ہے اسیں میں ماقعات کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار ہے وہ حدیث و فقہ یا تفسیر کی کتابوں میں نہیں ہیں بلکہ صرف تاریخ کی کتابوں میں یا تو سرسرے سب سے سند ذکر کر رکھے ہیں یا جو باسند ہیں وال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیان کرنے والے مجرموں اور غالی قسم کے تافضیلیں اب ہر شخص اپنی ایمان داری دیانت داری سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ دونوں قسم کے ماقعہ میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اور ان دو مختلف نوعیت کے حال ماقعات کو کہا مدد کر کے کیا وہ فوں کو ایک بادر کرانا دیانت داری کا منظہر ہے؟

### غلطی، یا عظیم ترین غلطیاں؟

”حقیقت یہ ہے کہ صحابہ سنت تمام غیری انسان غیر معصوم ہیں اور معصومت صرف انسیاء کے لئے خاص ہے۔ غیری انسانوں میں کوئی شجاع، اس معنی میں بزرگ نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی کا عدد درحال ہے یا اس نے علاً کبھی غلطی نہیں کیا بلکہ اس معنی میں بزرگ ہوتا ہے کہ علم اور عمل کے لحاظ میں کسی نہیں کیا۔“

غالمبہے، .. . . . . پھر جتنا کسی میں خیر کا غلبہ  
ہو گا دُه اتنا ہی بُرا بُرگ ہے اور اس کے کسی فعل یا بعض افعال کے غلط  
ہونے سے اس کی بُرگی میں فرق نہیں آ سکتا ॥ (ص ۳۰۶)

ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ درست ہے، عثمان رضا معاویہ، علی و حسین ان میں سے اس معنی میں  
کوئی بُرگ نہیں ہے کہ ان سے عملًا کبھی غلطی کا صدقہ نہیں ہوا، بلکہ ان سبکھیان ہی  
ہیں امدا اس کے باوجود ان کی بُرگی میں کوئی فرق ماقع نہیں ہوا، لیکن جو چیز غرہ طلب ہے  
وہ یہ ہے کہ اس اصول کی رو سے کیا یہ جائز ہے کہ ان کی طرف جن غلطیوں کی نسبت ہی  
سرے سے مشکوک ہو یا کنہب و مبالغہ پرمی ہو، نہیں ہم بغیر کسی ادالی تحقیق کے محض اس چیز  
سے قبول کریں کہ چند غلطیوں سے ایک بُرگ کا بُرگ کامیں کوئی فرق قواعد ماقع نہیں ہو جائے۔  
کیا غیر مخصوصیت کا یہ بھی کوئی لازمی تجویز ہے کہ ان کی طرف خاتمہ جرم و گناہ کا انتساب  
ضرور کیا جائے۔

دوسرا چیز یہ غرہ طلب ہے کہ «غلطی» کیا ہمیشہ کیساں اور ایک ہی نزعیت کی  
ہوتی ہے؟ یا اپنی نزعیت اور نتائج کے اعتبار سے اہم اور غیر اہم بھی ہو سکتی ہے؟  
اہم بُرگی میں فرق، غیر اہم اور معمولی نزعیت کی حامل غلطیوں سے نہیں آتا ہے بلکہ کام  
بُرگی اہم دُورس و خطرناک نتائج کی حامل غلطیوں سے بھی کوئی فرق و ماقع نہیں ہو  
لگتے۔ «غلطی» کی یہ دسعت و مخرب دلیلت بحث طلب ہے۔ مولانا کامال پیر احمدی پڑھ لیجئے  
پھر اس پر ہم مزید کچھ روشنی دالیں گے۔

اس معامل میں میر سے اور دُرسے لوگوں کے نقطہ نظر میں ایک  
نیادی فرق ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات میری پونڈیش کو سمجھنے میں  
لوگوں کو غلط نہیں لاحق ہو جاتی ہے اور کوئی سمجھتے ہیں کہ جو بُرگ ہے وہ  
غلطی نہیں کرتا اور جو غلطی کرتا ہے وہ بُرگ نہیں ہے، اس نظریے کی  
پنا پر وہ چاہتے ہیں کہ کسی بُرگ کے کسی کام کو غلط نہ کہا جائے اور مزید اپنے  
دُہ یہ بھوگان کرتے ہیں کہ جبکہ ان کے کسی کام کو غلط کہتا ہے وہ ان کو

بندگ نہیں مانتا، میرا نظر یہ اس کے برعکس ہے، میرے نزدیک ایک غیر بُری بزرگ کا کوئی کام غلط بھی ہو سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ بزرگ بھی رہ سکتے ہے ॥ (رسن ۳۰۶)

مولانا نے جن بنیادی فرق کی توضیح کی ہے وہ سب سے من گھڑت اور مولانا کے اپنے ذہن کی اختراع ہے درستہ اس باسے میں مولانا نے جو نظر یہ پیش کیا ہے، ”بندگی“ کے باسے میں سب کا یہ عقیدہ ہے، اس حقیقت کے کسی کو انکار نہیں کہ ایک بزرگ غلطی کے باوجود وہ بزرگ ”وہ سکتا ہے اور کوئی شخص کسی بزرگ کے غلط کام کو غلط کہنے سے اس کی بزرگی کا منکر نہیں ہو جاتا، لیکن شیق طلب پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ”غلطی“ ایک بہم لفظ ہے جس طرح فقط ”گناہ“ ہے خدا درسُول کے احکام میں معنوی کوتا ہی، وہ بھی گناہ ہے، اور خدا درسُول کے احکامات سے کھلماں کھلا سرکشی و طیانی اس پر بھی بدگناہ ”کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن کیا درنوں جگہ بدگناہ“ کا مفہوم اپنی نوعیت، احتیقت اور نتائج کے اعتبار سے یکساں ہے؟ اور اقبل اللہ کو گناہ کے صدور سے جس طرح کسی بزرگ کی بزرگی میں فرق واقع نہیں ہو سکتا، کیا اسی طرح متاخر الذکر قسم کے گناہوں کے ارتکاب سے بھی کسی بزرگ کی بزرگی میں فرق واقع نہ ہو سکا؟

یا کھل اسی طرح لفظ مدغلطی ہے اس کا اطلاق اُن معنوی اقدامات پر بھی ہے جن کے نتائج زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، یا جن کا صدر محض بشری سہرو خطا کا نتیجہ ہوتا ہے اور ان اقدامات کو بھی غلطی سے تعبیر کر لیتے ہیں جن کے بعد سے بہم، دورس اور خطرناک نتائج بہم لیتے ہیں اور جنہیں ہم محض بشری سہرو خطا کا نتیجہ بھی قرار نہیں دے سکتے: کیا ان درنوں قسم کی غلطیوں کے تکبین کے لئے ایک تکمیل ہے؟ اور اقبل اللہ کر کے ارتکاب سے جس طرح کسی شخص کی بزرگی میں خاص فرق واقع نہیں ہو سکتا، کیا اسی الذکر قسم کے اقدامات کی بھی یہی نوعیت ہے؟ مولانا نے عثمان دعاویٰ شریک لئے جن کو وہ جرم اُس کا اثبات کیا ہے، اگر وہ سب صحیح ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایسے معنوی اقدامات ہیں جو معنوی نتائج کے حامل تھے یا ایسے ہیں جو محض بشری سہرو خطا کے

حسن میں آتے ہیں لہجہ سے ان کی بندگی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، یادہ اقدامات سخت تھنہ ایگز ” دوسرے اور خطرناک نتائج کے حامل“ تھے اور اسیں ہم سہو و خطا کا تجویزی قرار نہیں دے سکتے؛ دو مثالیں سامنے رکھتے ہیں، حضرت عثمانؓ نے مسلمانوں کے بیتِ لازم سے ۵ لاکھ روپیہ کی خطررقم اپنے ایک عزیز مردان کو بخش دی، اکابر صحابہ کو مسروں کے ان کی جگہ اپنے نیلے رشتہ مارنوں کو تینین سماج کے کردار پر اگاثت نمائی کی جاسکتی ہے تیرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خصوصی رعایات برتبیں، حضرت معاویہؓ نے اپنے دراقدام دستہ تک) میں اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات کو ملکر دینوی حکومت کے انداز پر حکومت کا ڈھانچہ مرتب کیا اکٹھنے کو قو دنوں حضرات کا یہ طرزِ عمل ”غلط“ ہی کہ جائیگا لیکن بزرگی صورتی ہے تو کیا یہ ”غلطیم تین غلطیاں“ اس نوعیت کی میں کہ اس کے بعد بھی ان کی بندگی میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا اور لوگ بدستور عثمانؓ معاویہؓ کی بارگاہ میں گھٹے عقیدت دھبیت پیش کرتے ہیں گے؟ اگر ایسا ہے تو مولانا کو حضرت علی رضا سے متعلق یہ تاریخی حقیقت بھی تسلیم کر لیتی چلے ہے مگر وہ خلافت کے امید وار یادوں سے دار تھے، آخر اس اپنے ”غلطی“ سے حضرت علی رضا کی بزرگی میں کیا فرق آیا ہے؟ لیکن یہاں مولانا حضرت علیؓ کی اس ”غلطی“ کو تسلیم کرنے کی صورت میں یہ دہائی دے رہے ہیں کہ اس سے ان کے پڑے سچنے دامان کا مسئلہ حل طلب ہو جائے گا، آخوند کیا انداز تحقیق ہے؟ خوش گوار باتیں، تاخوش گوار طریق ہے:-

ارشاد ہوتا ہے:-

”میں کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط صرف اُسی وقت کہتا ہوں جب قابل اعتماد ذرا نئے سے ثابت ہو، اور کسی معقول ولیل سے اس کی تاویل نہ کی جاسکی جو، مگر جب اس شرط کے ساتھ میں جان لیتا ہوں کہ ایک کام غلط ہوا ہے تو میں اُسے غلط مان لیتا ہوں، پھر اس کام کی حد تک ہی اپنی تنقید کو حدد دیں۔“

”خیال ہے یہ الفاظ خود مولانا نے حضرت عثمانؓ کے اقدامات کے لئے استعمال کی ہیں۔“

رکھتا ہوں اور اس غلطی کی وجہ سے میری نگاہ میں نہ ان بندگ کی بزدگی  
میں کوئی فرق آتا ہے، زنان کے احترام میں کوئی لگکی واقع ہوتا ہے”  
(ص ۳۰۰)

یہاں مولانا نے باتیں تو پڑی خوش گوار کی ہیں لیکن اس کا عملًا استام لتنا کیا ہے؟  
جب قول و عمل میں اس انداز کا موازنہ کر کے دیکھیں گے، تو آپ ان میں کھلا تضاد پائیں  
اور بے اختیار پکاراٹھیں گے

ع۔ خوشی سے مردہ جانتے گہرا اقتدار ہوتا

مولانا کے پہلے دعوے پر غور کریں، ایک طرف مولانا نے عثمان، مردان، ولید  
بن عقبہ، عمر بن العاص، میخرو بن شعبہ اور معاویہ رضوان اللہ علیہم جمعین ان تمام  
اصحابِ رام کے متعلق یہ طرز عمل اختیار کیا ہے کہ تاریخ کی ہر وہ بطب دیاں بس رہایت پذیر  
کسی ادنیٰ تحقیق کے قبل کر لی ہے، جن سے ان کا کردار واضح دار نظر آتا ہے، دُسری  
طرف مولانا کا یہ دعویٰ ہے کہ میں کسی بزرگ کے کام کو غلط صرف اسی وقت کرتا ہوں جب  
وہ ”قابل اعتماد ذرائع“ سے ثابت ہو جاتے، سوال یہ ہے کہ وہ ”کمودہ جواہم“ جن کا  
اثبات مولانا نے نہ کر دہ حضرات کے لئے کیا ہے، کون سے ”قابل اعتماد ذرائع“ کے مولانا  
تک پہنچے ہیں؟ کیا مولانا ان واقعات کی صحیح سند اور ان کے مرواء کی ثقہت ثابت کر کے  
دکھائیں گے؟ اور اگر مولانا کے نزدیک ان دعوتوں باقیوں کے بغیر وہ ”قابل اعتماد“، تو  
خدائکے لئے ہیں یا تو ”قابل اعتماد ذرائع“ کا مفہوم سمجھا دیں یا اس بات کی وضاحت  
فرمادیں کہ ان یہ ”قابل اعتماد ذرائع“ سے جب حضرت علی رضا کردار بھی دیا ہی

سلہ یہ بھی خیال رہے کہ اس غلط طرز عمل کو ثابت کرنے کے لئے مولانے یہ سبائی  
فلسفہ ہمی گھرڑا ہے کہ تاریخ کی ہر رہایت و حی آسمانی کی طرح صحیح ہے، سوال یہ ہے کہ اگر وہی  
خلافت و ملوکیت کا نام مرواد ”قابل اعتماد ذرائع“ سے لیا گیا ہے تو یہ فلسفہ گھرڑنے کی  
ضرورت کیوں لاحق ہوئی۔؟

نظر آتا ہے تو اسے صحیح تسلیم کرنے سے مولانا کو کیوں انکار ہے؟

دوسرے دعویٰ بھی محسن ایک زبانی خوش گوار دعوے سے دیا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تعدد بھجے مولانا نے محسن بکار اور تیزیر کو ثابت دنایاں کرنے کے لئے قرآن فلسط روایات کا سہارا لیا ہے اور اس کے مقابل اُن محتقول روایات کو چھوڑ دیا ہے جن سے واقعہ کی مناسبت توجیہ ہو سکتی ہے یا سر سے بکار ہی ثابت نہیں ہوتا، حضرت عثمانؓ کے متعلق وہ تمام روایات تو قبول کر لیں ہیں جن سے مولانا کا یہ مدعای ثابت ہوتا ہے، کہ تغیر اور ملوکیت کا نقطہ آغاز حضرت عثمانؓ کے یہی اقدامات ہیں جن کی نشاندہی یہ دلایا کر رہی ہیں، اور وہ روایات یکسرہ ترک کر دی ہیں جن کی رو سے حضرت عثمانؓ پر بیشتر وہ الزامات عائد ہی نہیں ہوتے جو مولانا نے وہ آغاز تیزیر "ثابت کرنے کے شوق میں حضرت عثمانؓ پر کئے ہیں۔ حضرت معاویہؓ کے متعلق یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اُن کے عہدہ اقتدار میں خلافت کی تمام امتیازی خصوصیات ختم ہو کر دینوی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات غایاں ہو گئی تھیں، مولانا نے ہر طرح کی وہ رطب دیا بس روایت قبول کر لی ہے جس سے یہ پہلو نایاں ہو سکے، اور روایات کا دو حصہ چھوڑ دیا ہے جو ایک صحابی رسول کو ان میں سے بیشتر آلو گیوں سے پاک دکھاتا ہے یا ان کے ذریعہ اُن کے اقدامات کی صحیح توجیہ ہو سکتی ہے۔

س۔ یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے، مولانا نے اس کام کی حد تک ہی اپنی تنقید کو مدد نہیں رکھا ہے، بلکہ ان سموں و جزوی اقدامات کو بنیاد بنا کر ان سے بڑے بڑے سوناک نتائج اخذ کر کے، ان بندر گول کے متعلق بڑے سخت ریما رکس دیئے ہیں

~~ب~~۔ ~~ب~~۔ میک مخالفت ہے، اعتراض یہ نہیں ہے کہ ان واقعات کے لکھنے سے مولانا کے نزدیک ان کی بندرگی میں کوئی فرق یا ان کے احترام میں کوئی کمی داعی ہو گئی ہے، اصل اعتراض اور سخت قابل اعتراض چیز یہ ہے کہ مولانا کی اس کتاب کو جب وہ عوامی سطح کے لوگ پڑھیں گے، جو اصل مأخذ اور ان کی حقیقت سے تآشنی محسن ہیں، تو ان پر اس کے بوبے اشات پڑیں گے، یا اسے پاس ایسی کوئی محتقول دلیل ہے جس کی وجہ سے

ہم یہ بادر کر لیں کہ اس کے باوجود دوہ ان نہ کوہہ بنزگوں کا اٹھتی احترام کریں گے جس کے فی الواقع وہ سخت ہیں اور جن سے ان کی سلامتی آیا ہاں پر کوئی آپنے نہ آتے۔

”مجھے کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ جن کو میں بنزگ

مانس اہوں ان کی کھل کھلی غلطیوں کا انکار کروں، لیپ پست کر کے ان کو

چھاؤں، یا غیر معقول تاویلیں کر کے ان کو صحیح ثابت کروں ॥“ (ص، ۲۷)

ٹھیک ہے اس طرح کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میکن جمل چیز تو یہ ہے کہ بنزگوں کے جن افعال کو ہم ”غلط“ کہیں چلے اس کا کوئی واضح ثبوت تو میش کیا جائے جنہیں ہم بنزگ ائے ہیں کیا ان کی طرف گھنا ہے جرام کا انتساب کرتے وقت یہ چیز بھی ضروری نہیں کہلے ہم اس پر عقل دنقل کی رو سے یہ خود کریں کہ یہ عقول ان سے ملکن بھی ہے یا نہیں، اور عقول ملکن ہے تو صحت انتساب کے دلائل و شواہد بھی پورے طور پر فراہم ہیں یا نہیں؟

**موہوم خطرات :-**

”غلط کو صحیح کہنے کا لازمی نیجہ یہ ہو گا کہ ہمارے میعاد بدل جائیں گے اور جو غلطیاں مختلف بنزگوں نے اپنی اپنی جگہ الگ الگ کی ہیں وہ سب اکٹھی ہندے اندھی ہو جائیں گی“ (ص، ۳۰)

یہ سوال یہ ہے کہ غلط کو صحیح کہا کر سفہ ہے؟ حضرت عثمانؓ نے بیت المال کی رقم میں سے ۵ لاکھ دینار کی قسم اپنے بالکل قریب رشمندہ حضرت مروانؓ کو دے دی۔ حضرت معاویہؓ نے اپنے ۲۰ سالہ دور اقتدار میں اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات کو مشاکر رکھ دیا، سولہ ماں کے عائد کردہ ان مدعوی الرذالت اور ان جیسے دیگر الرذالت کو حکیمتعلن ہم نے کب یہ کہا ہے کہ عثمانؓ معاویہؓ نے یہ بہت اچھا بالکل صحیح کیا، ہیں تو اعتراف ہے کہ اتنے بڑے جرم کرنے والے تمیں دستائش کے سختی نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا مطالیہ تدبیہ ہے پہلے ان سے جرامؓ کو تقابل تعمید، محکم اور صحیح روایات سے ثابت کر کے توہ کھاؤ۔

اور اگر مولانا کے نزدیک جھوٹے الرذالت کا انکاری ”غلط“ کو ”صحیح“ کہنے کے شرادف ہے، یا ان کی ان غلطیوں کا انکار اجنب کا انتساب ہی ان کی طرف سر سے مشکل

ہے مولانا کے نزدیک "لیپ پوت" یا "غیر معقول تاویل" کے ضمن میں آتا ہے تو خدمہ مولانا نے حضرت علیؓ نے متعلق یہی رد شکریں انتیار کی ہیں مولانا کے اس طرز عمل سے معیار بدل جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ ۹

"ادب لیپ پوت کرنے یا علائیہ نظر آنے والی چیزوں پر پردہ ڈالنے سے میرے نزدیک بات بینتی نہیں ہے بلکہ ادب بیکھر جاتی ہے، اس سے تو لوگ اسٹش بہ میں پڑ جائیں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کے جو مکالات بیان کرتے ہیں وہ بھی شاید بنا واقعی ٹھی ہوں نہیں" ۱۰ (ص ۳۰، ۲)

یہ اداس سے اور پر دلے پرے میں جو ظنہ ۱۱ راتی کی گئی ہے اس کی رو سے اب جو شخص بھی صحابہ کرام ۱۲ پر کتب تواریخ کی مدوسے جس قسم کا چالہ گھناؤ نا الزام عائد کریں ہے ہمارے لئے اُنستہ بجز مصحح تسلیم کرنے کے کوئی چارہ ۱۳ نہ ہو گا کیونکہ اسے نقد و جمیع کا کسوٹی پر پڑھنے کی کوشش کی جگہ تو اس کی زمان کے مکالات پر پڑھے گی اور وہ صحت کو ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی رداستہ تقدیس کو تاد تار کرنے کا یہ سببی ذہنیت کا عامل ظنہ بھی کسی اعد کو کیا سوچا ہو گا؟ ۱۴

صحابہ میں فرقہ مراتب ۱۵ ہے۔

اس کے بعد مولانا نے صحابہ کے طبق مراتب کا ذکر کیا ہے جس سے کسی کو انکا نہیں لیکن اس سے یہ مفہوم کسی طرح نہیں کھلا جاسکتا کہ ایک صحابیٰ رسول علیٰ و کردار کے لحاظ سے اتنا گرا پڑا ہمی ہو سکتا ہے جتنا مولانا نے حضرت معاویہ ۱۶ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جسے پڑھ کر ایک مسلمان تو کجا، غیر مسلم کو بھی گھنٹنے لگتی ہے، صحابیت کی یہ تو ہیں حصہ اس دبے سے گواہ نہیں کی جاسکتی کہ صحابہ میں فرقہ مراتب تھا اور سیرت دکڑا را حصہ ایمان کے لحاظ سے باہم تفاوت تھے، الای کہ یہ ثابت کردیا جائے کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے میں پر بنی اکرم سنتی الشد علیہ وسلم کی سمجحت و تربیت کا اتساب ہمی اثر نہ ہوا جتنا زیں شد پر باشکوہ کردا، تنکار حمزیہ ۱۷ ہے۔

آنکچھ پر مولانا نے ان ہی بالوں کا اعادہ کیا ہے جن کی اضافت کر رہتے ہیں۔

”نام بزرگانِ دین کے معاملہ میں عموماً اور صحابہؓ کرام کے معاملہ میں خصوصاً میراطریز عملی یہ ہے کہ جہاں تک کسی معقول تاویل سے یا کسی معتبر مایمت کی مرد سے ان کے کسی قول یا عمل کی صحیح تعبیر ممکن ہو، اسی کو اختیار کیا جائے گا اور اس کو غلط قرار دینے کی جیانت اُس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اس کے مواضیع پر چارہ نہ رہے“ (رض ۳۰۸)

مولانا یہی دعویٰ اس سے پہلے بھی کرتے ہیں، وہاں ہم نے تباہات حاکم یہ دعویٰ اٹھا لیا تھا کہ مولانا کو تماہرہ خلاف ماقعہ ہے، اگر مولانے ان باقتوں بخدا قصہ کو فی ایہام کیا ہے تو یہ مولانا کو یہ فلسفہ تراشنا کی کیوں ضرورت لاحق ہوئی کہ کتب تواریخ کی تمام وایات رسیب شکر سے پاک ہیں؟ مزید یہ آں اس دعوے کی اصل حقیقت اپ کو آگے چل کر خود معلوم ہو گئی۔  
بہہاں حضرت عثمانؓ معاویہؓ پر لگاتے گئے الزامات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

”لیکن دوسرا طرف میرے نزدیک معقول تاویل کی حدود استجاذہ کر کے اور رسیب پوت کر کے غلطی کو چھپانا یا غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کرنے کا حرف انصاف اور علمی تحقیق کے خلاف ہے بلکہ میں اسے نقصان دہ بھی سمجھتا ہوں یہ تو نہ کہ اس طرح کی مکرمہ دلالت کسی کو مطمئن نہیں کر سکتی اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہؓ اور دوسرے بزرگوں کی اصلی خوبیوں کے باسے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے“ (رض ۳۰۸)

پڑھنے والے مولانا نے یہ سیاسی ذہنیت کا حامل مولا فلسفہ کو ان سی دنیا میں بھی کھڑا رکھا، کہ جھوٹ کو مت بھسلاؤ کیوں کہ اس طرح صدق بھی مشکوک ہو جاتے گا، باطل کو، اس کے باطل ہونے کے باوجود ای صحیح سمجھو کر یہ کہ اگر اس کا انکار کر دے گے تو معاحت کی بھی تکذیب کرنی پڑے گی، حالانکہ یہ کتنی بھی بات ہے کہ صحابہؓ کرام کی اصلی خوبیاں تو قرآن داداحدث تک میحو ہے ثابت ہیں، فاقدی وابوحنفیت کے بیانات ان کا بیٹھنے نہیں، اگر ان کی اصلی خوبیوں سرچشمہ بھی ان ہی مجرد راویوں کے بیانات ہوتے، جن کی مدد سے مولانا نے الزامات کا طواری کھڑا کیا ہے، پھر تو یہ خطوط لاحق ہو سکتا تھا جس کی مولانا مدد فی واقعے رہے ہیں، لیکن

الحمد لله صورت حال اس سے یکسر مختلف ہے۔ بعض تاریخی احادیث کے بھیلانے سے قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق اخونکس بنیاد پر مشکوک ہو جائیں گے؟  
حضرت معاویہؓ اور ان کے عظیم کارنامے؟

”اس لئے جہاں صاف صاف دن کی رسمیت میں ایک چیز علاویہ علطف نظر آرہی ہو وہاں بات بنانے کے سجاہتے میرے نزدیک یہی طرح یہ کہنا چاہئے کہ فلاں بنے گا کایا قول یا فعل علطف تھا، غلطیاں ٹھیک سے ٹھیک سے انسانوں سے بھی ہو جاتی ہیں اور ان سے ان کی بُنا فی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یکوئی نکان کا مرتبہ ان کے عظیم کارناموں کی بُنا پر متین ہوتا ہے نہ کہ ان کی کسی ایک یاد چار غلطیوں کی بُنا پر“ (ص ۳۰۸)

جب واقعہ یہ ہے تو مولانا حضرت علیؑ کے متعلق وہ تاریخی روایات کیوں رد فرمائے ہیں، جن سے حضرت علیؑ پڑھ رہا تھا؟ ان کی علاویہ غلطیوں کے متعلق کیوں یہی طرح یہ نہیں کہہ دیتے کہ یہ حضرت علیؑ کی غلطیاں ہیں، آخر چند غلطیوں کو مان لینے سے حضرت علیؑ کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق تو واقع نہیں ہو جاتے گا؟ ہمیں تو مولانا یہ وعظ فرمادیں ہیں کہ کتب تواریخ عثمان و معاویہؓ میں جن غلطیوں کا مزکب گرد و انتی ہیں، انہیں صحیح تسلیم کرو، لیکن خود مولانا اس وعظ پر عمل نہیں کرتے، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟

پھر جب ایک انسان کا مرتبہ، اس کی دو چار غلطیوں کی بُنا پر نہیں بلکہ اس کے عظیم کارناموں کی بُنا پر متین ہوتا ہے تو پھر مولانا اس بات کی بھی تصریح فرمادیں کہ ”خلافت دملوکیت“ میں حضرت معاویہؓ کا کوئی سا عظیم کارنامہ“ بیان کیا گیا ہے؟ جس کی بُنا پر ان کا مرتبہ متین کیا ہے کہ طوالت کا خوف نہ ہوتا تو یہم حضرت معاویہؓ کے سکردوہ جرام“ کی وہ طبیعی نہ رست یہاں پیش کرتے جن کا اثبات ٹھیک سے شدید کے ساتھ ”خلافت دملوکیت“ میں کیا گیا ہے، یہاں ہم اس کے صفات کے حوالہ دیتے ہیں جن حضرات کے پاس خلاف

ملوکیت "سنت ب موجود ہو وہ ان محول صفات میں حضرت معاویہؓ کے عظیم کارتلے ملاحظہ خررا کر خود ان کا مرتبہ منعین کر لیں (خلافت و ملوکیت ص ۱۲۵ - ۱۳۲ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸)

ان صفتیات کو ملاحظہ فرماتے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دوچار غلطیاں ہیں؟ ان کے عظیم کارناموں میں سواتے غلطیوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، مچرس سوچے گرائیے ختم کے مرتبہ کا تعین کی معنی رکھتا ہے؛ جس کی پہلی فرد عمل ہی سیاہ حاشیوں سے مرتیز ہے۔

### ماخذ کی بحث :-

مولانا مودودی صاحب نے جن سنت پر تایاری کے اپنا حدا داغنہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے مولفین سمجھتے خود قہقہ اور اہل سنت کے جلیل القده امامہ پیش، ان میں سے کہہتی تیشیع سے بھی ملوث نہیں، بنا بریں یہ چیز محل بحث نہیں کہ ان مولفین کا اہل سنت کے ندویک مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اصل محل بحث اولاً یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنی کتابوں میں جن راویوں سے تاریخی حالات و واقعات اخذ کر کے جمع کئے ہیں، عدالت ثابت اور علم و اخلاق کے اعتبار سے ان راویوں کا مقام کیا ہے؟ وہ مطلقاً و کلیتہ قابل اعتماد ہیں یا اپنے مخصوص ذہنی رجحانات کی بنا پر نقد و نظر کے محتاج؟

دوسری چیز یہ محل بحث ہے کہ خود یہ جلیل القده مولفین، جھنوں نے ان رُفات سے مدد ایسیں، ان رُواۃ کی خلائق و مخلیت سے ماقنستے یا نہیں؟ اگر ماقنست تھے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں ان راویوں کے سیاست کیوں اور کس حیثیت میں قبول کئے ہیں؟ یہ دو چیزیں واضح طور پر تعین ہو جاتیں تو ماخذ کی یہ بحث، جس پر مولانا نے پڑا تدریسم صرف کیا ہے، اپ سے آپ صاف ہو جاتے گی اور مولانا نے اصل حقیقت پر جو پوچھ دالئے کا کوشش کی ہے مدد بھی اٹھ جائے گا اور صحیح صورت حال آپ کے سامنے آجائے گی۔

### ۱- رُواۃ تایاری کا علمی و اخلاقی مقام :-

اس اولیں حقیقت کو شہرخس جانتا ہے کہ بہتر تاریخی واقعات بیان کرنے والے قادری اور مجتہد، ایم عشر، شاہ المکتبی اور اس کا رکن محمد بن شہاب الدین البختی وغیرہ میں یہ تمام اور بالاتفاق شیف بن حمود و جعفر

ہیں بلکہ دنگوئی اور تشویح ان سب کے درمیان قدیم مشترک کی چیزیت رکھتے ہیں، خود مولانا کو بھی اس سے انکار نہیں، ان کا مجرد حوض ضعف ہونا انھیں بھی قسم ہے۔ روأۃ کی یہ چیز چیزت گویا ہمارے اور مولانا کے درمیان متفق علیہ ہے، اس لئے ہم ان روأۃ کے متعلق ائمہ جرج و تعلیل کے اقوال ذکر کر کے بحث کو طول دینا نہیں چاہتے، ہمارے اور مولانا کے درمیان اختلاف جس امر میا ہے فہ یہ ہے کہ مولانا کے نزدیک ان راویوں کے نام بیان کیا جادو دان کے ضعیف مجرم ہونے کے قابل اعتاد میں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی اصل چیزت کے پیش نظر ان کے بیانات نسب قابل روہیں اور نہ سب قابل قبول، ان کے بیانات حق دباطل، پچ اور جھوٹ اور مبالغہ کا آمیزہ ہیں اس لئے ان کے بیانات کو نقد درجہ کی کسوٹی پر پرکھ کر غلط و صحیح کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے۔

مولانا نے پہنچ نقطہ نظر کی صحت کے بوجوہ اکی دئے ہیں وہ اگے آرہے ہیں ان پر نقد کرنے ہوئے ہمارے نقطہ نظر کے ملاکی کی تو صیغہ خود بخود ہو جائے گی۔

## ۲- تاریخ نگاری میں موڑین کا طرز عمل :-

دوسری چیز یہ ہے کہ جب ان راویوں کے مخفف پر سب کا اتفاق ہے تو پھر موڑین نے ان کے بیانات کو کیوں اور کس چیزت میں قبول کیا ہے؟ بے ہم دوسرا نقطوں میں اس طرح بھی تعمیر کرتے کہ تاریخ نگاری میں موڑین کا طرز عمل کیا رہا ہے؟ انھوں نے روایات کی چھان بین کی ہے؛ یا اس کے بغیر انھوں نے ہر طرح کا مواد جمع کر دیا ہے۔ ۶

اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ انھوں نے تاریخی روایات کا ذخیرہ جمع کر کے وقت استناد و تحقیق اور چھان بین کا فہم آتھا ہیں کیا ہے جس کا فی الواقع مذکوح تھا اس بارے میں انھوں نے یکسر غریب جانب داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ گویا انھوں نے ان روأۃ کے میانات کی اس چیزت سے نہیں بیلہ کہ ان کے نزدیک مذکوح شفہ اور ان کے سب بیانات صحیح تھے بلکہ انھوں نے تاریخ نگاری میں جو غریب اندیسا طرز عمل اختیار کیا تھا، اس کے مطابق انھوں نے ان کے

لئے اس حقیقت سے بھی مولانا کو انکار نہیں بلکہ واضح طور پر اعتراف ہے:-

ہر طرح کے بیانات کو اپنی کتابوں میں جمع کر دیا، ان موئین میں سے بعض نے تو واضح طور پر اس کی صراحت بھی کر دی ہے اور جھنوں نے قلاس کی وضاحت نہیں کی، وہاں ان کا طرز عمل خود اس بات کی واضح طور پر شہادت فرم کر دیتا ہے،

مولانا نے جن کتب تواریخ کو مدارست دلال بنایا ہے ہم انہی موئین کے طرز عمل کی وضاحت کرتے ہیں، مولانا نے اپنے مآخذ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک فہرست ہے مولانا نے کہیں کہیں ضمانت کرنی واقعہ لیا ہے، دوسرا دو جن پر مولانا نے اپنی ساری بحث کا مدار رکھا ہے، اول الذکر میں ابن ابی الحدید، ابن قیمة اور المسعودی ہیں، ان کی کتابوں پر چونکہ مدار بحث نہیں ہے اس لئے ہم ان سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ ثانی الذکر میں ابن سعد اور ابن عبد البر، ابن القیام، ابن حمیۃ طبری اور ابن کثیر ہیں، یہ پانچوں مؤلف بلاریب اہل ست کے جلیل القدر علماء دامتہ اور اولاد کے نزدیک معترف و ثقہ ہیں، ان کی تاریخ نگاری کی خدمات بھی قابل قدر، التقط صدحیں و بتیرک اور امت مسلم پر ایک احسان عظیم ہے۔ ان کی یحییت جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے، سرکے سے محلف فیہ اور موہن و بحث ہی نہیں ہے، ہم بحث یہ ہے کہ ان حضرات نے تاریخی روایات کا جزو ذخیرہ جمع کیا ہے، اس کی اسنادی و واقعاتی یحییت کیا ہے؟ اور ان موئین کا تاریخ نگاری میں ہی اس طرز عمل رہا ہے؟

### ایں سعہد

ان مذکورہ موئین میں قیم ترین ابن سعد ہیں جن کی عدالت و ثقاہت اور جلالت فہرست میں اس کی کتاب "الطبقات الکبریٰ" بھی اسی یحییت سے قیم ترین اخناف دروس کی کتب کے مقابلے میں اس کی اسنادی یحییت بھی زیادہ ہے، لیکن انھوں نے اپنی کتاب میں بے شمار روایات ضعیف و مجرور راویوں سے قبول کر کے بغیر کسی نقدی صرح کے درج کر کے ہیں، اس نے کتاب کی اسنادی یحییت کو قدر سے محروم کر دیا ہے، چند روایات لاخطہ ہوں ایک روایت انھوں نے یہ ذکر کی ہے کہ سورہ والہم کی تلاوت کرتے کرتے ہیں وقت حضور کرم علیہ السلام آفرائیتم اللاتَّ وَالعزى وَمِنْهَا أَسْأَلُ اللَّهَ الْأَخْرَى (البقر) پر پہنچے تو شیطان نے آپ کی زبان میار ک پر جھوٹے میبوروں کی تعریف میں یہ الفاظ

بھی حاری کروادی یہ تینف الخرافیت العلیٰ فی رَسْمِ شَهْنَامَةِ التَّرْجِیحِ۔ کفار مشرکوں  
اپنے بتوں کی تعریف سن کر پڑے خوش ہوتے؛ جب سورۃ کی تلاوت آپ نے ختم کر کر  
مسجدہ کی تو ان مشرکین نے بھی خوشی میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر اسی واقعہ کے متعلق  
جزید کی من گھرہت روایات اور ذکر کی ہیں ۹۷ حالانکہ یہ واقعہ یہ سرے سے بالاتفاق  
من گھرہت ہے۔

ایک روایت یہ ذکر کی ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دفن کیا گیا  
جب آپ کے جسم اٹھرہ یہ عام انسانوں کی طرح تغیر کے آثار ظاہر ہوئے لگسکے تھے  
یہ بعضی اسلامی غلطیت ہے۔

حضرت علیؑ کے متعلق انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے جس میں انہوں نے بزرگ  
و عوران تقریر عمر و بن العاص کو کیا یاں دیں۔ ان عمرو بن العاص الابترین الاستبراء  
معاویۃ علی الطلب بدم عثمان و حضنه علیہ السلام اشلائخہ و نصانیہ

ظاہر ہے اس سے حضرت علیؑ کے کروار پر حرف آتا ہے، مولانا اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتے۔

جنگ صفين کے واقعات میں دہی و اہمی روایت یہی انہوں نے ذکر کر دی ہے جس  
میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشریؑ نے عمر و بن العاص کو کہا ایسا مسئلہ کا تکلب ان محل علیاً  
یا لھٹ اور ترک کیا یا لھٹ، عمر و بن العاص نے جواب میں ابو موسیٰؑ کو کہا ایسا مسئلہ  
مثیل الحمار تھی مل اسفاس اٹا ہے یہ دونوں حضرات جلیل القدر صحابی ہیں، اسی  
کی صحت کی صورت میں ہیں یہ مان پڑے کماز صحابہ کرام کے انداز گفتگو میں عام انسانوں  
والی شرافت بھی نہیں پائی جاتی۔

۱۔ الطبقات ج ۱، ص ۲۰۵ - ۲۰۶ ر دار صادر بیروت ۱۹۵۸ء

۲۔ الطبقات ج ۱، ۲، ص ۳۴

۳۔ الطبقات الکبریٰ، ج ۳، ص ۲۵۳

۴۔ " " ص ۲۵۴

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قبل نبوت کے وہ من گھر طرت و اقطاعات و میراثات جو اپنے نعیم اور حافظ سیوطی جیسے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں جمع کر دتے ہیں، طبقات میں بھی بحث موجود ہیں، علامہ سید سیلان ندوی مرحوم نے سیرت النبي جلد سوم میں انہی اسنادی حیثیت سے بحث کر کے ثابت کیا ہے کہ ان میں سے بیشتر بے سر و پامیں، علامہ ندوی مرحوم نے ۳۵۰۰ میں روایات پر اصول حدیث اور اسامی الرجال کی رکشی میں بحث کرو کے ان کو بے اصل فرار دیا ہے، الطف کی بات یہ ہے کہ ان روایات کی نصف تعداد صرف ان سعد کی طبقات اوقل ہی میں موجود ہے۔

پھر ابن سعد کی اس راستے سے بھی یقیناً مولانا مودودی صاحب اتفاق ہنس کریں گے میو انھوں نے امام ابوحنیفہ اور قاضی ابویوسف کے متعلق ظاہر کی ہے، امام صاحب کو انھوں نے ضعیف فی الحدیث بتایا ہے لیہ قاضی صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو احادیث کا کافی ذیरہ یاد تھا لیکن جب وہ امام ابوحنیفہ کے حلقة تلمذ میں داخل ہوئے تو انہیں احادیث سے لگاؤ کم ہو گیا اور احادیث کا وہ ذخیرہ بھی اچھی طرح یاد نہ رہا۔<sup>۱</sup>

ان سعد کی اس حیثیت کو، ان کی ذاتی شفاہت کے باوجود، اکابر علماء دحمدین نے ہمیشہ سُنْنَةِ نَبِيِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَبَرَّهُ وَسَلَّمَ یعنی کر دی ہے، چنانچہ محمدین نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:-

وهو في نفسها ثقت ولكن كمن ودى في كتابها المذكورة عن اناس ضعفاء منهم شيخنا العاقد مقتضى اثبات على اسمها واسم أبيه من غير تمييزٍ بحسبٍ ولا غيرها، ومنهم هشام بن محمد بن اسماً، فما كثر عنهم ومنهم نصراً بن أبي سهل الخراساني...<sup>۲</sup>

۱۔ الطبقات الکبریٰ ج ۷، ص ۳۲۶

۲۔ الطبقات الکبریٰ ج ۷، ص ۳۰

۳۔ فتح المغیث، ص ۹۶ م، علوم الحدیث لابن الصلاح، طبع جدید ۱۹۶۴ء

۴۔ ۳۵، تدریب الراوی فی شرح تقریب النوادی، طبع المدینۃ المنورۃ ۵۹۶ ص ۵۲۹

ابن سعد بھائے خود نہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سی روایات کمزور راویوں سے روایت کی ہیں، جن میں ان کا ایک شیخ و اقدامی ابھے جو سلسلہ سن پورا ذکر ہے کرتا، صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام ذکر کرتا ہے، ایزاس کو ایک مکمل کی سندوں کی نسبت اور ان کے ما میں تمیز کا علم بھی نہیں ہوتا، ان ضعیف روایوں میں اشام بن محمد ہے، ابن سعد نے ان دعویوں سے بکثرت روایات نقل کی ہیں، تیسرا ان میں نصر بن ابی سهل المخسانی ہے .....”

بعض لوگوں نے اس بنا پر، اگر ابن سعد نے یادِ جو دامہ ثقافت کے ضعیف روایوں کی روایات سے اختیاب نہیں کیا، خود ابن سعد کی بھی تضعیف کر دالی ہے یہ علامہ شبیل نعماانی لکھتے ہیں :-

”ابن سعد اور طبری میں کسی کو کلام نہیں لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں کا مستند ہوتا، ان کی تصنیفات پر چند اس اثر نہیں ڈالتا، یہ لوگ خود شرک واقعہ نہیں اس لئے جو کچھ بیان کرتے ہیں، ما دیوں کے ہزار بیان کرتے ہیں لیکن ان کے بہت سے مراتا ضعیف الروایات وغیرہ متنہ۔“

**ابن حجریہ طبری :-**

دوسرے ابن حجریہ طبری ہیں، اُن کی کتاب میں ان کے غیر جانب داراءۃ طریف عل کی چھاپ اتنی گہرنی اور نمایاں ہے جس سے کسی کو مجال اذکار نہیں، مزید برآں اپنے اس طرزِ عمل کی وضاحت خود انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں بھی کر دی ہے، اچانچ مذکور کھتھتے ہیں :-

”ناظرینِ کتاب یہ بات سمجھ لیں کہ میں نے جو اجوار و آثار اس کتاب میں نقل کئے ہیں، اس میں میرا اعتماد اپنی روایات پر ہے جبکہ میں نے

۱۔ فتح المغیث بشرح الفہیۃ الحدیث، ص ۹۰ مطبع الواراء محمدی، لکھنؤ

۲۔ سیرت البنتی، ج ۱، ص ۵۳م۔ دارالمصتقین عظام گٹھ، بھارت

ذکر کیا ہے جن کے ساتھ ان کی ستاریں بھی مذکور ہیں، اس میں وہ حضیرہت  
یہ کم ہے جو خصیں میں تے عقلی دلائل کے اور ایک اور وجہ ای انتباط کے بعد  
ذکر کیا ہے یہ مذکور گزشتہ واتعات دخراوٹ کی خبروں کا نہ ذاتی طور پر جاری  
پہنچ دہ زمانہ ہی ہم نے پایا ہے، ان علم ہیں صرف ناقیں اور روادات کی  
بیان کردہ خبروں سے یہ موسکتا ہے تاکہ عقلی دلائل اور وجہ ای انتباط سے  
پس ہماری کتاب میں جو بعض ایسی روایات ہیں جو خصیں ہم نے پھیل دیں گے  
نقیل کی ہیں اج میں ہماری کتاب کے پڑھنے یا سننے والے اس ناہر تکارت  
شناخت محسوس کریں کہ اس میں انہیں صحت کی کوئی وجہ اور معنی میں کوئی حقیقت  
نظر نہ آئے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا انسانی ہم نے خود اپنی طرف کے  
نہیں کیا بلکہ اس کا منبع وہ ناقل میں جنہوں نے وہ روایات ہیں بیان کیں،  
ہم نے وہ روایات اسی طرح بیان کر دی ہیں جس طرح ہم تک پہنچیں ٹالے  
ہوناً مودودی ماحبب کے ذاتی رسالہ و ترجیح القرآن "میں تاریخ طبری حستہ  
اول کے اردو ترجمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے تصریف نگار نے بھی داشتگاف الفاظ میں اس  
حقیقت کو تسلیم کیا ہے، فاضل تبصرہ نگار شنحتے ہیں ۔ ۔ ۔

"علم تاریخ کے دو حصے ہیں ایک حصے میں واقعاتِ دُجیوں ہاتھوں، ایک حصے ذاتی بھا  
کو الگ بھکھتے ہوئے قلبند کیا جاتا ہے، دوسرا حصہ میں واقعات کی مخالف  
کو ٹھیوں کے دہ میان ایک مقصدی ترتیب اور معنوی ربط تلاش کرنے لگتے ہیں ۔ ۔ ۔"  
کی جاتی ہے، پہلا حصہ تاریخ نگاری اور دوسرا حصہ تاریخ نگہداشت ہے ۔

ابو جعفر محمد بن جعیہ طبری کی معروف کتاب، تاریخ الامم والملک، تاریخ کے  
پہلے حصے یعنی واقعات کے تجعیج کرنے میں اچھاتا لکتب کا درجہ رکھتی ہے ۔ ۔ ۔  
اُنہوں نے روایات کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا ہے اور ان پر جرح و تعذیل کا کام

دوسرے اصحاب علم کے لئے چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود قوی اور ضعیف یا غلط و صبح کے دو سیان انتیاز کریں، چونکہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، احادیث کی کتاب نہیں اس لئے واقعہ کی چنان میں اور جن حضرات سے واقعہ اسنقول ہیں ان کے علمی و اخلاقی مقام کو شخص برتی میں وہ احتیاط نہیں برقراری گئی جو تین دین صدیت کے محلے میں پہنچ نظر کھی جاتی ہے، اس لئے اس کتاب میں بہت سی غیر مستند چیزیں بھی جمع ہو گئی ہیں ॥ لہ تاریخ طریقہ کے حصہ ششم کے ترجمہ پر بصیرتہ ہوئے ترجمان "کے فائل تبصرہ کرنے والے اسی بات کو پھر دہرا رہا ہے:-

”اس کتاب کو اور دو میں منتقل کرنے سے مسلمانی تاریخ کے طلبہ کو کافی آسانی ہو گئی ہے۔ مگر اس سے استفادہ کرتے وقت انہیں یہ بات ذہن نیشن پر ٹھنڈی چاہیئے کہ اس میں ختنے والے ادوج کوچھ تھے میں وہ سالکےہتنا د کے اعتبار سے ایک ہی پایہ کے نہیں۔ فاضل مصافت نے واقعات کو جمع کرنے میں بڑی عرق رینہی سے کام لیا ہے مگر انہوں نے جرع و تعديل سے کام لے کر صحت کے اعتبار سے ان کے مرتبہ اور مقام کو منیعنی نہیں کیا“ ۳۶

کاش ترجمان کے فاضل تبصرہ نکار محترم صدقی صاحب یہ بات لپٹے ایمر محترم حضرت مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے بھی ذہن نیشن کر اسکتے، جو اس کتاب کو وحی آسانی کی طرح پہلی طیوں سے پاک باور کرانے کی کوشش فرمائے ہیں۔  
ابن عبد البر:-

”تیسرا۔“ ابن عبد البر میں انہوں نے بھی اسناد و تحقیق کا وہ اہتمام نہیں کیا ہے کہ ان کے بعد ان کی بیان کردہ ہر روایت بغیر کسی تائل کے قبول کر لی جاتے، بالخصوص مشہور ان محدثین

۳۶۔ ”ترجمان القرآن“ اپریل ۱۹۹۲ء، ص ۱۲۴-۱۲۵

۳۷۔ ”ترجمان القرآن“ مارچ ۱۹۹۸ء، ص ۶۳

کے بیان میں جس احتیاط کی ضرورت تھی اس سے ان کی کتاب خالی ہے امّا حدیث نے  
 واضح طور پر ان کی کتاب کے اسنپس کی شاندی ہی کی ہے۔

”وَمِنْ أَجْلَهَا وَأَكْثُرُهَا فَإِنَّهُ «كِتَابُ الْأَسْتِعْبَ» لَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ  
لَوْلَا مَا شَانَتْ بَيْبَانَهُ كَيْرَامَةً شَجَوْبَينَ الصَّحَابَةِ وَالْكَاتِبَاتِ  
عَنِ الْأَخْبَارِ يَنْ لَا الْمَعْذِلَتَيْنِ، وَغَالِبٌ عَلَى الْأَخْبَارِ يَنِ الْأَلْثَامِ  
وَالْخَلِيلِطِ فِيمَا يَرِوْنَهَا“

ابن عبد البر کی ”الاستيعاب“ بڑی طبلی القسم اور کثیر الفوائد کتاب ہوئی  
اگر اس میں شایرات صحابہ سے متعلق روایات، محدثین کی بیجاستے اخباری  
لوگوں سے نہیں جاتیں، اخباری عام طور پر ماقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش  
کرتے ہیں اور اپنی بیان کردہ چیزوں کو خلط مطابر دیتے ہیں ॥ لہ  
ابن الأثیر ہے۔

پوچھتے ابن الأثیر میں جن کی تاریخ ”الکامل“ ہے اس کا انداز بھی وہی تاریخ نگاری والا  
ہے جس میں محسن ماقعات کو جمع کرنا مقصود ہوتا ہے، ان کی تیقون و تحقیق مقصود نہیں ہوتا  
پھر اس کی حیثیت بھی بالکل وہی ہے جو تاریخ الطبری کی ہے کیونکہ ابن الأثیر نے مقدمہ میں  
اس چیز کی صراحت کر دی ہے کہ میں نے کلیۃ طبری پر اعتماد کیا ہے اتنا بہرہ اس کی  
اسنادی حیثیت طبری سے مختلف نہیں بلکہ ایک حیثیت سے طبری کی تاریخ کے مقابلہ  
میں اس کی اعتمادی حیثیت اور بھی زیادہ کم ہو چکی ہے، وہ اس طرح طبری میں صیبی کچھ بھی وابت  
ہیں، ان کی بہر حال سنداں میں موجود ہے جس کی مدد سے روایت کا مقام متعین کیا  
جاسکتا ہے، ابن الأثیر نے متکا قطعاً اتهام نہیں کیا، تمام ماقعات بے سند کئے ہیں۔

ابن کثیر ہے۔

پانچوں ابن کثیر میں جن کی تاریخ ”البداية والنهایة“ نسبت بہت بہتر ہے

لہ مقدمہ ابن الصلاح، ص ۳۶۲-۴۶۳۔ تدریب الرؤی، ص ۵-۳۹، تفہیم الالکھ  
ج ۲، ص ۳۲۲۔ فتح المغیث، ص ۳۶۶، المباعث الحثیث، ص ۲۰۲

اور متعدد مقامات پر اعتماد نے طبری وغیرہ کی روایات پر تقدیر کئے، ان کو رد کر دیا ہے تاہم اس کے باوجود دامنھوں نے بمشیت اعتماد طبری پر کیا ہے، اور طبری ہی کی طرح ان کا اندماز زگارش ہی غیر جا بست دارا نہ ہے، یہاں تک کہ بعض واقعات کے متعلق تو انھوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کی صحت میرے نزدیک مشتبہ ہے لیکن چونکہ میرے پیش آؤں جزیرہ وغیرہ ان کو ذکر کرتے آئے ہیں، اس لئے میں نے بھی ان کی متابعت میں ان پر ہرگز کو ذکر کر دیا ہے، الگ اُدھ اخیس ذکر نہ کرتے، میں بھی انہیں ہرگز درج کتاب نہ کرتا بلکہ ہی وجہ ہے کہ ابن کثیرؑ سالمبادیۃؓ میں متعدد مقامات پر ہمیں دامن تضادات ملتے ہیں، ایک روایت کی صحت ان کے نزدیک مشکوک ہوتی ہے اور وہ ایک مقام پر اس کا ظہار بھی کر دیتے ہیں لیکن دوسرے مقام پر چھرو ہی غیر صحیح و مشکوک روایت شامل واقعات میں اس طرح ذکر کرتے ہیں گویا وہ روایت ان کے نزدیک بالکل صحیح ہے، اور اس کے ضعف کی طرف کرنی اشارہ نہیں کرتے، دراں حالیکہ دوسرے مقام پر اس کے ضعف کی صراحت کر پکھ رہتے ہیں، ظاہر ہے یہ تضاد محسن اسی وجہ سے پایا جاتا ہے کہ اُنھوں نے بھی ایک توا پتے پیش روں پر حد سے زیادہ اعتماد کیا دوسرے ان ہی کی طرح غیر جا بست دارانہ روشن اختیار کی، وضاحت کے لئے تضاد کی چند عالیں پیش کی جاتی ہیں۔

### تضاد کی چند نمایاں مثالیں :-

حضرت معاویہؓ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اُنھوں نے حضرت بُرسن از طاة کوین کے علاقہ میں بھیجا، دہاں اُنھوں نے حامیان علیؓ کے دو بچوں اور بہت سے مردوں کو قتل کر دیا، حافظابن کثیرؓ یہ روایت ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

”یہ خبر اصحاب المذاہی والیسیر کے یہاں بڑی مشہور ہے لیکن میرے نزدیک اس کی صحت مشکوک ہے“

لیکن پھر کے آگے چل کر حافظ صاحب یعنی روایت مختصر اسلسل واقعات میں اس طرح

ذکر کر جاتے ہیں گویا ان کے نزدیک یہ روایت بالکل صحیح ہے، وہاں اس کے ضعف کی طرف ادنیٰ اشارہ بھی نہیں کرتے ہے

حضرت عثمانؓ نے خلیفہ بنہ کے بعد جو اولین خطبہ دیا اس کے متعلق بعض حضرات نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں، آولٰ مزکبٰ صعبؑ دا ان آعش فتا شیلکم الخطبة على وجهاها، حافظ صاحب یہ الفاظ نقل کر کے لکھتے ہیں :-

”اوے صاحب العقد وغیرہ نے ذکر کیا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی اسناد ایسی نہیں ہے کہ جس سے نفس مطہن ہو سکے ۔“

لیکن آگے چل کر اسے پھر اس کے ضعف کی صراحت کئے بغیر، اس انداز سے ذکر کر دیا ہے، گویا ان کے نزدیک اس میں کوئی قیاحت نہیں ہے ۔

جگہ صفحہ میں حضرت علیؓ کے ساتھ کتنے بدری صحابی تھے وہ اس کے متعلق حافظ صاحب نے شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ کے ساتھ عرف چہ بندہ ہی تھے، ایک دوسرے قول ذکر کیا ہے، جس کی رو سے چار تھے، دوسرے مقام پر اس کی تعداد ایک یا تین تباہی ہے، لیکن آگے چل کر ایک ایسی روایت ذکر کی ہے جس کی رو سے بدری صحابیوں کی تعداد ایک دم ۲۵ تک پہنچ جاتی ہے ۔

حضرت حسینؓ کے سانحہ شہادت کے متعلق جو کہ امامی بیانات بعض لوگوں نے لکھ رکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دو تین ہیئت کا سورج کی شعایم خون آلو معلوم ہوتی رہیں، حافظ صاحب نے بھی ایک مقام پر یہ ماقہ اس انداز سے ذکر کا، یہ گویا ان کے نزدیک بالکل صحیح ہے، لیکن دوسرے مقام پر اسے منکر ہے اور شیعوں کی ایجاد قرار دیا ہے

۱۔ البداية والنهاية ج ۲ ص ۳۴۲ - ج ۸ ص ۹۰

۲۔ البداية والنهاية ج ۲ ص ۱۳۸، ۱۳۹

۳۔ البداية والنهاية ج ۲ ص ۲۵۲، ۲۲۳، ۲۰۳

۴۔ البداية والنهاية ج ۸ ص ۱۷۱، ۲۰۱

● حضرت مروانؓ نے ترجیہ میں حافظ صاحب اسی غلط الزام کی نسبت مروانؓ کی طرف کر جاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ کی طرف سے باغیوں کے قتل کا خط لکھا اور یہی چیز قتل عثمانؓ کا سب سے بڑا سبب ہے ا حالانکہ اس سے پہلے وہ خود یہ دعاست کر ہے ہیں کہ خط کی یہ سازش خود باغیوں کی تیار کردہ تھی اور انھیں نے ہی یہ جعلی خط بطور ایک بہانے کے گھٹرا تھا ۱۷۶

● حضرت حسینؑ نے اس مبارک یہید کے پاس، شام پھیجا گیا تھا ہیں؟ اس کے متعلق حافظ ابن کثیر نے ایک مقام پر یہ فیصلہ دیا کہ "صحيح بات یہ ہے کہ حسینؑ کا سرا شام سرسے سے پھیجا ہی نہیں گی" لیکن آگے چل کر اس کے خلاف یہ فیصلہ دے دیا ہے، "زیادہ ظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن زماد نے وہ سر یہید کے پاس شام پھیج دیا تھا" اور وہ من گھڑت روایت ہی بیغزگی اور فی تنقید کے ذکر کر دی ہے کہ یہید نے سر دیکھ کر اشعار پڑھئے کہ ہم نے جنگ بدرا کا بدله لے لیا ہے وغیرہ وغیرہ (نو قبول اللہ)

● بعض جگہ حافظ صاحب خاموشی سے مختلف مقامات پر دو متضاد روایات ذکر کر دیتے ہیں، کسی کی صحت و صحف کا کوئی قیصلہ نہیں کرتے، جس طرح حضرت حسینؑ کو چھڑی مارنے کا واقعہ ہے، بعض صحیح روایات میں اس کی نسبت ابن زیاد کی طرف کی گئی اور بعض ضعیف روایات میں اس کی نسبت یہید کی طرف کی گئی ہے، حافظ صاحب نے دونوں روایات بیغزگی تنقید و ترجیح کے ذکر کر دی ہیں گہ حضرت حسینؑ کے متعلق بھی دو متضاد روایات ذکر کی ہیں گہ یہید کی شراب نوشی کے متعلق بھی مد متضاد بیان ہیں، ایک قل میں اُنہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے لیکن وہ سرسے سی صفحہ

۱۔ البداية والنهاية، ج ۷، ص ۲۵۹-۲۴۳، ج ۸، ص ۱۴۵-۱۴۶

۲۔ " " ج ۸، ص ۱۴۵، ۱۹۲

۳۔ " " ج ۸، ص ۱۹۰، ۱۹۲

۴۔ " " ج ۸، ص ۱۷۵، ۱۷۰

پر خود حضرت حسینؑ کے بھائی، محمد بن الحنفیہ کا قول ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے اس وجہ سے  
الزام کی تردید کی ہے لہ

ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟

اس تفضیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان حلیل القدمورثین نے اپنی کتابوں میں جو تاریخی  
مواد جمع کیا ہے، وہ سب مغض جھوٹ کا پلندہ ہے جس کو سب اٹھا رہی ہی صنیک دنیا چاہا  
بلکہ اس سے مقصد ان مورثین کے اُس طرز عمل کی دضاحت کرنا ہے جو انہوں نے  
تایخ نگاری میں اختیار کیا ہے۔ ان کے نزکہ طرز عمل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر  
سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے تایخ نگاری میں بحیر غیر حاب دارانہ معش اختیار  
کر کے اور واقعات کو جوں کا توں جمع کر دیا ہے، انہوں نے راویوں کے افلاتی و علمی  
کلام کو مشخص کرنے کی کوشش کی ہے نہ صحت دفعہ کے لحاظ سے رد دایت کا  
دہ جہ تعمیق کیا ہے ایہ دونوں چیزوں انہوں نے بعد میں اتنے والے لوگوں کے لئے پھر  
دیا ہیں، اس لئے اب ان حضرات پر یہ بڑا ہی ظلم ہو گا کہ ہم ان کی بیان کردہ روایت  
کے حسن دفعہ کو دیکھنے بغایہ اللال کے لئے محض ان مورثین کی کتابوں کا حوالہ دے کر بات  
کو ختم کر دیں، ہمارے لئے صحیح طرز عمل یہی ہے کہ ہم قرآن اول کے مشاہرات کی حقیقت  
اور اس کے پس منظر کو پیش رکھتے ہوئے رُقاۃ کی تقاضہت عدم تقاضہت  
اور ان کا علمی داخلاً مقام متعین کر کے، روایات کی تعریف کریں، بالخصوص ان روایات  
میں تو یہ اہم بہت ضروری ہے، جن سے صحابہ کرام کا ایسا کہہ دار ہمارے سامنے  
آتا ہے جو قرآن و حدیث کے بیان کردہ کروارے صریحاً متصادم ہے۔

یہ طرز عمل بحیر غلط اور ایک مسلمان کی شان کے باخل خلاف ہے کہ ان نے کوئی  
حقیقوں کو نظر انداز کر کے اختیبِ تاریخ سے چن چن کر ایسی تمام و ایسی روایات تو  
قبول کر لے جو صحابہ کرام کے کروارو دار و کھانی ہیں، احمد روایات کے اُس ذخیرہ

کو جوان کے رُخِ روشن کی نعاب کثا فی کہتے ہے ایکسر نظر انہا نکر دے۔  
معالطہ انگلیزی :-

اس تفصیل کو پیش نظر کہ کہ آپ مولانا مودودی صاحب کے مأخذ کی بحث کا دادہ حجۃ  
ملاحظہ فرمائیں جو صفحہ ۳۰۹ سے ۳۱۶ کی دوسری سطر تک پھیلا ہوا ہے، آپ بھی یقیناً ہماری  
طرح یہ دیکھ کر ہیزان ہوں گے کہ اصل مبحث کیا ہے؟ اور مجھے لصفحات میں کہنا اگر  
الا بالا گلیے ہے؟ اصل مبحث، عسیا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ ابن سعید  
ابن جہریہ، ابن کثیر وغیرہ کا اہل سنت کے نزد دیک کیا مقام ہے اور وہ تیشیع سے ملوث  
ہیں یا نہیں؟ اصل مبحث یعنی دُہ یہ ہے کہ ان حضرات نے جو تاریخی معاویج کیا ہے  
اس بارے میں خود ان حضرات نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اور ان کی جمع کروہ سعیانی  
کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ لیکن مولانا نے بحث کے ان دونوں حقیقی یقاطاً کو تو نظر اندازی  
کر دیا اور موضوع بحث سے الگ ہٹ کر ان مولفین کی ثقامت اور ان کا علمی مقام متعین  
کرنے پر سارا نہ قلم صرف کر دیا ہے، اور با باران پر تیشیع کے الزام کی نفی کی ہے،  
حالانکہ ان چیزوں سے کسی کو انکار نہیں لہ

سوال یہ ہے کہ ان کی ذاتی ثقامت سے آخر یہ کس طرح ثابت ہو گیا کہ ان کی کتب  
تو ایسی صحیفہ آسمانی کی طرح غلطیوں سے پاک ہیں؟ امام سخاری کی جلالت و ثقامت  
شام اہل سنت کے نزد دیک ان مولفین سے کہیں زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود دو اہل  
مودودی صاحب نے «بنخاری» کی کئی روایات کو رد کر دیا ہے اور اس کی روایات کو  
تحقیق و تفہیم سے بالاقرار نہیں دیتے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جلالت و ثقامت علی  
کی ساری دنیا معرف ہے، خود مولانا کو بھی اس سے انکار نہیں، اس کے باوجود مولانا نے  
ابن تیمیہ کی کتاب «متہاج الشَّهَة» کو موضوع زیر بحث میں غیر معترض قرار دے دیا ہے

لہ - ان کا علمی مقام اور تیشیع سے ملوث نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں اہل سنت کے نوویں تفہیم علیہم المفتہ  
۲ جمل بعض حضرات نے صرف ابن جریح کی تحقیق تیشیع کا شہید کیا ہے لیکن ہم اسے نزد دیک بہ غہبہ تھیک نہیں

پھر صحیح میں نہیں آتا کہ مورخین کی ذاتی ثقاہت سے یہ کس طرح ثابت ہو سکیا کہ ان کی جمع کردہ روایات ہر قسم کی غلطیوں سے پاک اور تحقیق و تفییق سے بالاتر ہیں؟ یعنی محسوس نہ ہو تو یہم عرض کریں کہ مولانا کی یہ ساری دلازم نفسی اُس شخص سے مختلف ہیں، جو ملا علی قادری کی «موضوعات» یا حافظ سیوطی کی سلالی المصنوعات فی احادیث الموصوعات کوئی موضوع روایت نقل کر کے اُسے صحیح بادر کرنے کے لئے ملا علی قادری یا حافظ سیوطی کی ذاتی ثقاہت وعدالت کے حوالے دینے شروع کر دے اور ان مذکورہ تالیفات کی اصل غرض، مقصد اور اندماز بیان ہر چیز سے صرف نظر کر لے۔

### دہی خلط مبحث :-

اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں:-

”ان کے علاوہ جن لوگوں سے میں نے کم و بیش ضمی طور پر استفادہ کیا ہے فہ ہیں ابین بھر عسقلانی، ابین خلیلان، ابین خلدون، ابویکبر جعیاص، قاضی ابویکبر ابن القرقی ملا علی قادری، محبت الدین الطبری اور بدرا الدین عینی جیسے حضرات، جن کے متعلق شاید کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرأت نہ کر سے گا کہ وہ ناجاہل اعتماد ہیں، یا تائیع سے ملوث ہیں، یا صحابہ کی طرف کوئی بات مسُوب کرنے میں تسابل پڑے ہیں یا بے سرو پا تھے بیان کرنے والے ہیں“ (رس ۳۶۴)

شیک ہے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حضرات ناقابل اعتماد، یا تائیع سے ملوث ہیں لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کی اس جیشیت کو جلیخ کس نے کیا ہے؟ جس کا اثبات مولانا فرماتے ہیں، ان کی ذاتی ثقاہت وعدالت سر کے سے زیر بحث ہی کب ہے؟ مل میں بحث تو یہ ہے کہ کیا قابل اعتماد اور تائیع سے ملوث نہ ہونا یہ چیز «عصمت» اسکے مترادف ہے کہ جو شخص میں یہ دو چیزوں پانی جائیں، اس ہم ۲ نکھیں بند کر کے اس کی ہر بیان کردہ چیز کو منزل من الشدیح ہیں؟ اگر اس کا یہی مطلب ہے تو تم تو پوچھتے ہیں این تیسیہ، قاضی ابویکبر ابن القرقی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، کیا یہ حضرات ناقابل اعتماد ہیں یا تائیع سے ملوث ہیں یا صحابہ کی طرف کوئی بات مسُوب کرنے میں تسابل پڑے

سکتے ہیں یا بے سرو پا قصہ بیان کرنے والے ہیں؟ اگر ان حضرات میں بھی مولانے کے اسماء مذکورین کی طرح ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مولانے نے زیر بحث مالی میں ان حضرات کو غیر معتبر قرار دے دیا ہے؟ ان کی آراء پھر کیوں قابل اعتماد نہیں؟

### ”خلافت ملوکیت“ میں روایات حدیث و غلط تاتاڑہ :-

در بعض ماقعات کے ثبوت میں میں نے بخاری، مسلم، ابی داود وغیرہ کی مستند روایات بھی نقل کر دی ہیں مگر اس مہٹ دہرمی کا کوئی علاج نہیں کہ کوئی شخص ہر اس بات کو غلط کہے جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو خواہ وہ حدیث کی مستند کتابوں تک میں بیان نہیں ہوں، اصل ہر اس بات کو صحیح پہنچ جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، خواہ اس کی سند اُن روایات کے مقابلہ میں بھی ضعیف تر ہو جیں فوج ضعیف قرار دے رہا ہے، (ص ۳۲۹)

مولانے عجمیاً معمولی اور غیر ایم بالتوں سے، غیر معمولی اور بُلنا فائدہ اٹھانے کا کوشش کی ہے، مولانا کی یہ عبارت بھی اس کا وضیع ثبوت ہے، مولانا کی کتاب کاجوختہ باب چارم و پنجم مختلف فصیلے اس میں بخاری، مسلم ابی داود وغیرہ کی صرف دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کے متعلق، دوسرا یا لید بن عقبہ پر حدیث کے مبانی کے متعلق، لیکن مولانا اس چیز کو اس ماندانا سے پیش کر رہے ہیں کہ نہ معلوم مولانے کتنی بسیروسی صحیح حدیثیں پیش کی ہیں جیسی ہم حضن مہٹ دہرمی کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، روایات داری کے ساتھ سوچئے مولانا کا یہ تاثر دینا کہاں تک صحیح ہے؟ حالانکہ ہماری ساری بحث اُس تاریخی موارد کے متعلق ہے جس کی اسنادی حیثیت مجرور ہے اُس میں اڈلات تو کوئی حدیثیں ضریح ہے نہیں، انگریز میں ایسی صحیح حدیث موجود ہے تو اس کی اسنادی حیثیت شکے بالا ہے، اس کی اسنادی حیثیت سے ہم بحث ہی نہیں کر رہے، اس کی صحت نہیں تسلیم ہے، لیکن ایسی اسنادی حیثیت میں خلافت ملوکیت“ میں میں کتنی؟

پھر یہ بھی خیال رہتا ہے کہ اس مہٹ دہرمی کا ارتکاب بھی خود مولانا کر رہے ہیں مولانا نے حضرت علی بن ابی طلحہ بن بخاری کی وہ صحیح روایت تو پھر پڑ دی ہے جس کی روئی سے

حضرت علیؑ نے چھ بھینے بعد ابو بکر صدیقؓ کی بیعت کی تھی، اس کے مقابلے میں تاریخ کی وہ روایت قبول کر لی ہے جس کی روایت اُنھوں نے اول مذہبی بیعت اور لی تھی، حالانکہ سنواری کی روایت تاریخ کی روایت کے مقابلے میں قوی تر ہے، ہم نے الحمد للہ کہیں کسی صحیح حدیث کا الکا نہیں کیا ہے ہے

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا انکل آیا

جنذباتی اور رعیت معقول انداز بیان :-

اس تفصیل کے بعد مولانا "کیا یہ تاریخیں ناقابل اعتماد ہیں؟" کے عنوان سے جذباتی انداز بیان اختیار کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"اب غیر فرمائیے یہ ہیں دُہ آخذ ہیں سے میں نے اپنی بحث میں سامنا مواد دیا ہے اگر یہ اس دور کی تاریخ کے مطلعے میں قابل اعتماد ہیں ہیں تو پھر اعلان کر دیجئے۔ کوئی ہدایہ سالت سے لے کر آٹھویں صدی ہجت کی کوئی اسلامی تاریخ دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہدایہ سالت کے بعد سے کوئی صدیوں تک کی پہلی یہ اسلامی تاریخ، شیخین کی تاریخ سمیت، اپنی فدائی سے ہم تک پہنچی ہے، اگر یہ قابل اعتماد ہیں ہیں تو ان کی بیان کی ہوئی خلافت راشدہ کی تاریخ اور ائمہ اسلام کی سیرتیں اور ان کے کارنامے سب اکاذیب کے دفتر میں جھپٹیں ہم کسی کے سامنے بھی وثوق کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے ॥" (ص ۳۱۶)

یہ پوری عبارت جذباتیت کی آئینہ دار ہے، اس سارے منفرد فتنے کی بنیاد مولانا نے اس ملکے تپر کھی ہے کہ ہم ان کتب تاریخ کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، حالانکہ سرے سے یہ یہ نیاد ہی غلط ہے، ہمارا نظریہ صرف یہ ہے کہ چونکہ تاریخی ماقعات کی چجان بنی ہڑتال ہوتی چاہیے تھی، نہیں ہوئی، اس لئے تاریخ اسلام کی ان مستند کتابوں میں سمجھی مواد کے ساتھ بہت سا فیر صحیح مواد بھی جس ہو گیا ہے۔ اس سے استفادہ کرتے وقت ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتا چاہیے ایسے ایسی واضح بات ہے جس سے کوئی ہوشمند گی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہر شخص بہتری سمجھ سکتا ہے کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ

ذکورہ کتب تواریخ مخصوص بھوٹ کا پندرہ میں جس طرح مولانا نے یہ غلط مطلب لکھا کہ  
تعدی خطابت سے اس موہوم بنیاد پر ایک عمارت اٹھا دالی ہے۔

ذکورہ کتب تواریخ کے بعض غیر صحیح مواد کو جھبٹلانے کا اگر لازمی مطلب ہے یہ  
گر ایسا کرنے والا آدمی پوری کتاب کو اکاذب کا دفتر سمجھتا ہے، تو تھوڑی درکشے ہم  
مولانا کی بات تیلم کے لیئے ہیں، اس کے بعد ہم مولانا سے پوچھتے ہیں کہ خود مولانا حضرت علیؓ کے متعلق  
یہاں ایک کافہ ذیزہ جھپٹ دیا ہے جس سے حضرت علیؓ پر حرف آتا ہے، کیا اس کا مطلب ہم بھی یہ  
لے سکتے ہیں کہ مولانا کے نزدیک ذکورہ کتب تواریخ مطلاعًا قابل اعتراض ہیں؟ اور یہ  
بھی اس نکتہ سنجی کا حق رکھتے ہیں یا انہیں جو مولانا نے ذکورہ عبارت میں کی ہے؟  
ماہر جواب کم فہر جا بنا

### ردِ وقیوں کا معیار

مزید ارشاد ہوتا ہے:-

”وَدُنْيَا كَبُحٌ اس اصول کو نہیں ہان سُلْتَانِ ادرِ دُنْيَا کی خود مُسلمانوں کی موجودہ  
نسیلیں ہی اس بات کو سُرخون قبول نہ کریں گی کہ ہمارے بزرگوں کی جو خوبیاں  
یہ تاریخیں بیان کرتی ہیں مُهُو سب صحیح ہیں مگر جو کمزوریاں یہی کہتا ہیں  
پیش کرتی ہیں مُهُو سب غلط ہیں“ (ص ۳۱۲ - ۳۱۷)

یہ بیان یعنی جذباتیت کا آئینہ دار ہے، اقلامہار سے نزدیک قبول و ردِ ورثات کے  
معیار یہ چیز نہیں کہ روایت سے ان بزرگوں کی خوبی کا پہلو نکلتا ہے یا اکثر ورثی کا، اہل  
پیغمبر ہمارے نزدیک روایت کی اسنادی حیثیت ہے، لگروہ اس لحاظ سے قوی ہے توہہ  
ہمارے نزدیک قابل قبول ہے چاہے وہ ہمارے بزرگوں کی کمزوریاں ہی پیش کر کے  
ہوں، چنانچہ احادیث صحیحہ میں دو چار نہیں، بیسوں ایسے واقعہات میں جو ان کے  
کمزور بہلوؤں کی نشانہ ہی کرتے ہیں، سہیں ان کی صحت سے مطلاعًا انکار نہیں، انہیں  
ہم تسلیم کرتے ہیں ای خوبی اور ناخوبی کا معیار ہر کس نے پیش کیا ہے؟ جو مولانا فرمائے  
ہیں کہ اسے دُنْيَا کبھی تسلیم نہیں کر سکتی، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ مخالفت و ملوکت ”میں“

موداد پیش کیا گیا ہے وہ صحت کے سعیا۔ پر پوچھا نہیں آرتا، اس نے وہ اس وقت تک قابل تسلیم نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اک دوسرے صحیح تاریخی موداد اُس کی تائید نہ کر دے جس طرح وہ روایات بھن سے ہمارے بزرگوں کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں، وہ محض اس بنا پر قبول نہیں کر لی جاتی ہیں کہ یہ خوبیوں کی نشاندہی کردہ ہی ہیں، بلکہ وہ اس نے قبول کرنی جاتی ہیں کہ اخراج کی تائید میں دوسرا بہت سایہ صحیح تاریخی موداد موجود ہے، اور سب سے پڑھ کر اس کی تائید قرآن اور احادیث صحیحہ سے ہو جاتی ہے۔

ثابت ایسا ہم یہاں مولانا نے پھر دی سوال کریں گے کہ خود انہوں نے ہمی تو یعنی طرز عمل اختیار کیا ہے جو روایات حضرت علیؓ کی خوبیاں بیان کرتی ہیں ان سب کو تو مولانا نے صحیح سمجھ لیا ہے اور یہی کتاب میں حضرت علیؓ کی جو حکمرانیاں میشیں کہ تی میں ان سب کو فقط قرار دے دیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں کیا وہی اور مسلمانوں کی موجودہ تسلیم مولانا کے اس اصول کو تسلیم کریں گی؟

ایک اور مثال پر غور کیجئے۔ مولانا صحیح بخاری کی مد ثلاث کندہ بات "والی روایت تسلیم نہیں کرتے، مولانا کہتے ہیں اس سے ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ کا اہم لازم آتا ہے، اس نے یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی، اب کوئی شخص مولانا کے مذکورہ جذباتی تسلیم کو بنیاد بنتے ہوئے خود مولانا پر یہ سوال داغ دے کہ یہ کیا اصول ہوا کہ بخاری کی جمہروايات انبیاء علیہم السلام کی خوبیاں بیان کرتی ہیں وہ قوبہ صحیح ہیں، امامہ سیفی کتاب انبیاء علیہم السلام کی جو حکمرانیاں میشیں کہتی ہے وہ سب غلط ہیں، یا تو اس روایت کو بھی صحیح تسلیم کرو یا چھپ را عالان کر کو صحیح بخاری بھی جھوٹ کا ملیند ہے، اس کا بوجوہ مولانا دیں گے، مولانا کے استدلال کے جواب میں وہی ہمارا جواب ہوگا۔

**ابو الحکم و عمر شری کی سیرت کیوں محفوظ ہی؟**  
اگر کہتے ہیں :-

"امد آگر کسی کا خیال یہ ہے کہ شیعوں کی سانش ایسی طاقت و رشی کر ان کے دسائیں سے اہل سنت کے یہ لوگ بھی محفوظ نہ رہ سکے اور ان کی کتابوں میں

بھی شیعی رہنمایت نے داخل ہو کر اس دور کی ساری تصویریں بھاگ تک رکھ دی  
ہے تو میں یہ ران ہوں لگان کی خلائق انسانی سے آخر حضرت ابو بکر و عمرؓ کی  
سیرت اور ان کے عہد کی تاریخ کیسے محفوظ رہ گئی ؟ ” (۳۱۷)

یہاں بھی اسی غلط مفروضہ کو بنیاد بنا کر ایک نیا سوال اٹھا دیا گیا ہے، ہم چھپ کر ہیں کہ  
ایک دھوکہ تو یہ ہے کہ کتب تواریخ میں صحیح کے ساتھ غلط اور صدق کے ساتھ کتب  
اور اصل حقائق کے ساتھ مبالغہ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ اور ایک دعویٰ ہے کہ کتب  
تواریخ مظلوماً جھوٹ کا پلندہ ہیں ان دونوں دعووں میں فرق ہے یا نہیں ؟ یا یہ دونوں  
دعوے سے یہ کہاں ہیں ؟ دوسرا دعویٰ ہے ہم نے کبھی کیا ہے نہ کوئی ہوش مندادی کبھی  
کو سکتی ہے، ہمارا موقف پہلے دعوے سے پہنچی ہے، لیکن مولانا زبردستی یہ دوسرا دعویٰ  
ہماری طرف نسب کر کے خلط بمحث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

مولانا کے یہ الفاظ کہ ”اس دور کی ساری تصویریں بگاڑگر رکھ دی ہے“ کیا ہمارے  
نقطہ نظر کی صحیح ترجیحی ہے ؟ ہمارا کہتا یہ نہیں ہے کہ شیعوں نے اس دور کی ساری تصویریں  
بگاڑگر رکھ دی ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور کی صحیح تصویریں کو ملتا کر کر فکر کے لئے بعض  
صدق ناکذب اور حقائق کے ساتھ بعض جگہ مبالغہ کی آمیزش کر دی گئی ہے باقی بھی حقیقت  
کہ حضرت ابو بکر و عمرؓ کی سیرت کے متعلق وہ مبالغہ آمیزیاں نہیں میں جو حضرت عثمانؓ  
و معاویہؓ کی سیرت اور ان کے بعد حکومت کے حالات میں کردی گئی ہیں، اسے سمجھنے کے لئے  
یعنی امور پیش نظر لکھتے چاہیں۔

اول یہ کہ متقدمین شیعہ حضرت ابو بکر و عمرؓ کے شرف و فضل کو نہ صرف اسلام کرتے  
لکھ بلکہ انہیں بالترتیب افضل الامم بھی سمجھتے تھے، جیسے کہ محب الدین الخطیب نے اسکی  
سراحت کی ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے یہ رہنمایت بھی پیش کی ہے :-

”شریک بن عید اللہ سے کسی نے پوچھا، ابو بکرؓ افضل ہیں یا علیؓ ؟ انصار نے جواب  
میں کہا، ابو بکرؓ سالم کہنے لگا، آپ شیعہ ہونے کے باوجود یہ اعتقاد ملکتے  
ہیں ؟ انصار نے کہا ۔ ہاں ”جو شخص ابو بکرؓ و عمرؓ کی افضلیت کا اعتقاد

نہیں رکھتا دُو شیعہ ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم، علیؑ نے خود اس منہر پر یہ کہا  
۔ ”لَدُّكُو! بَنِيَّ كَمْ بَعْدِ اسِّ امْتٍ مِّنْ اَفْضَلِ تَرِينَ ابُو بَكْرٌ یُحَمِّلُنِیْ یَهُرَ عَمْرَوْ“  
هم علیؑ شکے اس قول کی تردید فتنہ کیوں کر سکتے ہیں ۔ ۔ ۔ بخدا  
در وغیرہ کوئی ان کا شیوه نہ تھا ۔ ۔ ۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس بات کی صراحت کا ہے کہ متقدیں شیعہ حضرت علیؑ پر  
ابو بکرؓ و عمرؓ کو فضیلت دیتے تھے ۔ ۔ ۔

۴۔ بنو ایمہ کے ساتھ، جیسا سی وعلوی خاندانوں کی جو سیاسی و خانقاہی رقبات تھی، اس تاریخی و سیاسی پس منظر کو ساتھ رکھنا چاہیے، اعمال بنو ایمہ کے ہاتھ میں زیام کا رسمی  
اور یہ دونوں خاندان اس کے خلاف ریشہ دعائی اور عوام میں اس کی عمومی کوتاہبیوں کو  
بڑھا پڑھا کر پیش کر کے عوامی فرم کو متاثر کرنے میں کوشش تھے، اس سلسلے میں حضرت  
ابو بکرؓ و عمرؓ کی سیاست اور ان کے ہدایہ حکومت سے اپنی کوئی سروکار نہ تھا، انہوں نے  
سچ نہ کرنے کی کوئی سیاسی ضرورت تھی، انہیں جن لوگوں کے خلاف زبردسا مواد پھیلانا تھا  
وہ، وہ لوگتھے جن کے ہاتھ میں اُس وقت ملک کی باک ڈور تھی اور یہ دونوں خاندان ان سے  
اقتلاع رچپن کر خود اس پر براجان ہونا چاہتے تھے، اس لئے ظاہر ہے ان کے پیغمبیر  
کا منصع ان کے سیاسی حریف بنو ایمہ کے حکمرانی کی ہو سکتے تھے اپنے عباسیوں کے ہاتھ  
میں زیام کا رائجگی اور ان کے دوسرے میں یہ چونکہ تاریخ تو سی کا آغاز ہوا، اس لئے اس قیمتی  
و سیاسی پر دیگنٹس کے بعض اثرات تاریخ میں بھی داخل ہو گئے۔

۵۔ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کا در برابر غلط فتول سے بھی محظوظ رہا اور ان کا  
طرز حکومت بھی بے غبار رہا۔ بعد میں یہ دو فول چیزوں مقصود ہو گئیں، حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ  
کے بعد کا دور حکومت ایک تو قتلہ کا آماجگاہ بنادہا، دوسرے سے خداون خلفاء کا طرز علی

لئے مختصر حضر اثنا عشرہ ص ۲۰۰، المکتبۃ السلفیۃ قاہرہ ۲۰۰۷ء

۶۔ منہاج السنۃ، ج ۳۔ ص ۱۳۲، ۱۹۷۲ء

اتھا صاف اور بے غبار نہیں رہا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پر دیگنڈے کو جو زبان ملتی ہے وہ لیے ہی سہنگا مدد خیز درمیں ملتی ہے جہاں فی الواقع ناخوش گوارہ حالات رُدمانا ہو چکے ہوں، تو آمن حالات میں کبھی ایسی صورت پیدا نہیں ہوتی جس سے پر دیگنڈے کو آپ دادا ہتھیا ہو سکے، لیکن جہاں حالات اتنے ناخوش گوارہ اور نازک صورت اختیار کر جائیں کہ فرمات شورش و بغاوت اور یا ہمی قیال و جبال تک پہنچ جائے، وہاں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پر دیگنڈے کسی کیسی لرزہ خیز و مولنا ک شکل میں اختیار کرتا ہے ان دیجواہ نہ کوہ کوہ کو سامنے رکھ کر اس مسئلے پر غور کریں گے تو بات باکل واضح ہو جائے گی، کسی قسم کی حیرانی نہیں آپ کو سابقہ پیش نہیں آتے گا۔

بچکانہ باتیں :-

مزید کھٹتے ہیں :-

”تمام جن حضرات کو اس بات پر اصرار ہے کہ ان مورخین کے مہ بیانات ناقابل اعتماد ہیں جن سے میں نے اس بحث میں استناد کیا ہے، ان سے میں عرض کر دوں گا کہ بدراہ حکوم وہ صاف صاف بتایں کہ ان کے بیانات آخر کس تاریخ سے کس تاریخ تک ناقابل اعتماد ہیں؟ اس تاریخ سے پہلے اور اس کے بعد کے جو ماقعات انہی مورخین نے بیان کئے ہیں وہ کبoul قابل اعتماد ہیں؟ اصدی یہ مورخین آخر اس درمیانی دوسری کے معاملے میں اس قدر کیوں بے اختیاط ہو گئے تھے کہ انہوں نے متعدد صحابہ کے خلاف ایسا جھوٹ موالا مواد اپنی کتابوں میں جمع کر دیا؟“ (رس ۲۱)

یہ سب بچکانہ باتیں میں، ہم متعدد ہیگا اس بات کی صراحة کر آئے ہیں کہ تاریخی روایات کے ممالکے میں ہمارے اور مولانا کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں، فرق جو کچھ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم تمام ح الصحابہ کے لئے یہ دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تاریخی روایات ان کے متلق جو کچھ باور کہا ناچاہتی ہیں وہ ان کے مجموعی طرز عمل سے کہاں کاں مناسبت رکھتا ہے؟ اور مولانا بھی اس پہلو کو دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں لیکن صرف حضرت علی یا ان یادہ سے زیادہ حضرت

حسینؑ کے لئے سمجھی ان دد کے علاوہ دیگر صحابہ کے متعلق تاریخ جو کچھ کہتی ہے وہ مولانا کے نزدیک صحیح ہے، وہاں ان صحابہ کے مجموعی طرز عمل کو دیکھنے کی کمی اُضرورت نہیں ہے ہماری بھیجیں نہیں آتا کہ یہ تمام نکتہ سنجیانِ حضن ان ہی روایات کو صحیح باور کرنے کے لئے کیوں ہیں جو حضرت عثمانؓ حضرت معاویہؓ کو "جسم المگردا" نہیں؟ یہ نکتہ سنجیان آخر اف تاریخی روایات کی سختکے لئے کیوں نہیں ہے سکتی جو حضرت علیؓ و حسینؑ کے کروار کو بھی مجرُوح کرتی ہیں؟ جواب کے طور پر یہ نکتہ سنجی بھی کی جاسکتی ہے کہ جب مومنین کے وہ بیانات ناقابلِ اعتقاد ہیں جو حضرت علیؓ کے کروار اہمان کے مجموعی طرز عمل سے مخالف ہیں رکھتے تو برا و کرم مولانا صاف صاف بتائیں کہ ان کے بیانات آخر کس تاریخ سے کس تاریخ تک ناقابلِ اعتقاد ہیں؟ حضرت علیؓ و حسینؑ کی تاریخ سے پہلے اور اس کے بعد جو واقعہ انجھی مومنین نے بیان کئے ہیں وہ کیوں قابلِ اعتقاد ہیں؟ اور یہ مومنین آخر حضرت علیؓ و حسینؑ کے معلمے میں کیوں بے استیاط ہے گئے تھے کہ انھوں نے ان دونوں جلیل القدر حضرات کے خلاف ایسا جھوٹا مواذیقی کت لوں میں جمع کر دیا؟

دل پر ہاتھ کھو کر فرطیتے یہ نکتہ سنجی اپنے اندر کوئی وزن یا محو لیت کھٹکتی ہے؛ آگر جامعتِ علمی کے نزدیک اس قسم کی بچکانہ باتیں فی الواقع اپنے اندر کوئی محو لیت رکھتی ہیں تو ہم نے حضرت علیؓ و حسینؑ کی میتعلّق جو مولانا والی نکتہ سنجی عرض کی ہے اس کا جواب دیں اُس رشته میں مولانا کی اس نکتہ سنجی کا جواب ہم دیں اسے جو انھوں نے حضرت عثمانؓ و معاویہؓ سے متعلق روایات کو صحیح باور کیا تھے لئے کہ اس الزامی جواب کے بعد اگرچہ مزید کچھ لکھنے کی ضرورت تو نہیں تھیں تھیں اس رشته میں صورت حال کی وضاحت کر کے دیتے ہیں۔ "خلافت و مطہریت" پر ہمارے اخلاق ارض کی نویختہ یہ نہیں ہے کہ مولانا نے جن گفتگوں کے لئے اسے استناد کیا ہے وہ سلطوقنا ناقابلِ اعتقاد ہے بلکہ موقوف یہ ہے کہ ان کتب تواریخ میں تصویر کے دونوں پہلو موجود ہیں، ایک پہلو قوہ ہے جس کا مولانا نے "انتخاب" فرمایا ہے اور انہی مومنین کی کہ تو یوں میں تصویر کا وہ دُھکڑا پہلو بھی موجود ہے جس کی رو سے وہ بیشتر الزامات، جو مولانا نے عثمانؓ و معاویہؓ پر لگتے ہیں، انور قرار پاتے ہیں یا کم ان کم اس سے ان الزامات کی ایسی مناسب توجیہ ہے پہلو کی ہے

جس کے بعد الزامات کی وہ شدت اور سُکھنی ختم ہو جاتی ہے جو "خلافت و ملوکتیت" میں ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، اکثر مقامات پر اعتراض کروزیت یہی ہے کہ مولانا نے یہ یک طرف، جانب دارا، نامتصفانہ اور کچھ زادیت نگاہ کیوں اختیار کیا؟ بالخصوص اس صورت میں جب کہ صحابہ کرام کے ساتھ عرض نہیں اور قرآن و احادیث کی تصریحات اسی دوسرے پلے کی تائید کرتی ہیں جسے مولانا نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اعتراض کی اس توڑ کو سمجھ لینے کے بعد ابتدائی دو سوال آپ سے ۲ پر ختم ہو کر وہ جلتے ہیں، ہمارے دو یہیں اس کے بیانات نہ مطلقاً قابل بھول، اگر ان میں سے کسی بات کے ہم قائل ہوتے تو تاریخ کی تعین کی جاسکتی تھی۔

باتی رہا یہ تمیسا سوال کہ اس درمیانی و قدر ہی کے معاملہ میں کیوں اس قدر بے خٹا ہو گئے تھے کہ انہوں نے صحابہ کے خلاف ایسا بھوٹنا مواد جمع کر دیا، اس کی بھی توصیع ہم کرتے ہیں کہ ان مورخین نے جو غیر جانب والانہ واقعات نگاری کا طرز عمل اختیار کیا، اس کے نتیجہ میں یہ صورت حال پیدا ہوئی تھی کہ صحیح معاوکے ساتھ بہت سا بھوٹنا مواد جمع ہو گیا۔ مورخین کے اس طرز عمل یا تسلیم کو ہم بے اختیار طی توکہہ سکتے ہیں لیکن اس کو بد دیانتی سے تغیر نہیں کر سکتے کیوں کہ انہوں نے صحیح دغله دونوں طرح کا مواد جمع کر دیا ہے، البتہ اس پر ضرور بد دیانتی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کا گردام سخن گرنے کی خاطر ان کی بیان کردہ روایات میں سے وہ روایات تو صحیح سمجھہ کر قبل کر لی جائیں جن میں کذب کامکان غالب اور صدق کا احتمال بہت کم ہے اور روایات کا فہرست یکسر نظر انداز کر دیا جائے جس میں صدق کامکان غالب اور کذب کا احتمال بہت کم ہے حدیث اور تاریخ میں فرق اور اس کی حقیقت ہے۔

اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں:-

"بعض صفات تاریخی روایات کو جانشی کے لئے اسماء الرجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور سختے ہیں کہ فلاں فلاں را میوں کو ائمہ رجال نے مجموع قراءہ دیا ہے اور فلاں را دی جس وقت کا داعیہ بیان کرتا ہے اس وقت

تروہ بچہ تھا یا پیلا ہی نہیں ہوا تھا احمد فلاں راوی ایک روایت جس کے حوالہ سے بیان کوتا ہے اس سے قوہ طلای ہی نہیں، اسی طرح وہ تاریخی روایات پر تنقید حدیث کے اصول استعمال کرتے ہیں اور اسی بنا پر ان کو دکردیتے ہیں کہ فلاں ماقصہ سنت کے بغیر نقل کیا گیا ہے اس فلاں روایت کی سند میں فقط عہد، یہ باتیں کرتے وقت یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ محدثین نے روایت کی جائیج پڑتاں کے یہ طریقے درہسل الحکامی احادیث کے لئے اختیار کئے ہیں، یعنی ان پر حرام و علال، فرض و حاجب اور کوہہ و سحب جیسے ایم شرعی امور کا نیصل ہوتا ہے اور یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دین میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز سنت نہیں ہے ॥ (ص ۲۱۸-۲۱۹)

اس سلسلے میں چند چیزیں تیقین طلب ہیں :-

اول یہ کہ حدیث و تاریخ کا یہ فرق کس محدث، مقتدر، تیقینہ یا مورخ نے بیان کیا ہے و ان میں سے کیا کسی ایک نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔

۲- اگر کسی نے قولًا اس تفریق کی صراحة نہیں کی ہے تو یہ مذکورہ فرق کیا ان کے طرز عمل سے مستفاد ہے؟ یعنی ان کا طرز عمل یہ ہے کہ الحکامی احادیث کے علاوہ دیگر روایات کے لئے پونکہ عموماً ائمہ نے حدیث کے اصول استعمال نہیں کئے؛ اس لئے ان کا یہ طرز عمل اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ائمہ نے حدیث و تاریخ میں فرق کیا ہے۔

۳- اگر ایسا ہے قول ان کے اس طرز عمل کا مبنی کیا ہے؟ ان کا یہ عمل تابی کیا پڑتا ہے؟ یادا قعۃ حمویں کے یہاں اس قسم کا کوئی اصول ہے کہ تنقید حدیث کے اصول دوسری نوع کی روایات کے لئے استعمال نہیں کئے جاسکتے؟ نیز یہ

تسابی یا اصول ائمہ نے صرف تاریخی روایات میں برداشت یا الحکامی روایات کے علاوہ تاریخ کی طرح تفسیر، فضائل، مناقب، زہد و اخلاقی اور ثواب و عنتابے سے متعلقہ تمام نوع کی روایات میں بھی ان کا یہی طرز عمل تھا۔

۴- اگر تمام روایات میں ان طرز عمل بیکاہ رہا ہے تو کیا تاریخی روایات کے

ساتھ مذکورہ اتحاد پرستی تام ذخیرہ روایات صحی ہیں اس۔ ... اصول کی رو سے، یہ رک्षی قسم کی تنقید ترجیح کے، من و من صحیح تسلیم کرنا پڑے گا؟  
یہ چند ضرورتی اور بنا دی یا قیمتی ہیں جن کی دضاحت پر اس توری بحث کامل  
ہے، ہم مختصر آن پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ افس چور درعاوہ کی نشاندہی ہو جائے  
جس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

۱- جہاں تک بطور سوال کا تعلق ہے، ہماری نظر سے کسی حدث، مفسر فقیہ  
یا مورخ کا ایسا کوئی قول نظر سے نہیں لگتا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تنقید حدیث کے  
اصول تاریخی روایات پر استعمال نہیں کئے جاسکتے، اگر ایسا کوئی قول ہو تو اس کی  
نشاندہی کردی جاتے

۲- تغزیٰ کا ذکر کو رہ اصول ان کے طرز عمل سے بھی مستفادہ نہیں مانا جاسکتا  
کیونکہ الایہ علمائے الیٰ سنت نے تاریخی روایات پر سماں الرجال اور تنقید حدث  
کے اصول استعمال کئے ہیں، اس میں ایک نمایاں ترین مثال خود حافظ ابن کثیر کے ہے  
اُصول نے اپنی تاریخ کی کتاب "البداية والنهاية" میں متعدد و جدگھی تاریخی روایات  
اُکی اصول کی رو سے رد کر دی ہیں جس کے متعلق مولانا کا دھوی یہ ہے کہ یہ صرف  
حدیث کھلے ہے، کبھی تاریخی روایات اس سے پہلے دو مقام پر ہم ذکر کر آتے ہیں جیسیں  
این کثیر نے رد کر دیا ہے، اس کا چند واضح مثالیں اور لاطخہ فرمائیں۔

تاریخی روایات میں تنقید حدیث کے اصول کا استعمال :-

حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ کو خط لکھا، جس میں انہوں نے اپنی -  
کا اظہار کیا، حضرت علیؓ نے جواب میں اپنی شان میں کچھ اشعار لکھ کر بھیجے، جن کا مفہوم یہ ہے

"محمد بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اور سسر، سیا شہدا و تمہر"

میرے چھا اور حیقر، جو صحیح دشام فرشتوں کے ساتھ حجو پر ماذرتا ہے

میرا م جایا بنت محمد میر کی ارفیقہ حیات ہے وغیرہ وغیرہ ....."

حضرت معاویہؓ کے پاس جس وقت یہ خط گیا، انہوں نے کہا، اس خط کو چھا دکھیں

اہل شام یہ خط پڑھ کر حضرت علیؓ کی طرف نہ مالی ہو جائیں، ابن کثیر یہ تابعؓ سے روایت ذکر کر کے لکھتے ہیں:-

”هذا منقطع بین ابی عجیدۃ وزمان علی و معاویۃ، یعنی ابوعبیدۃ لہ

یہ واقعہ بیان کرتا ہے دیوال حالی کے اس نے علیؓ دعوایہ کیا نہ ماننے ہی نہیں بلکہ

— حضرت علیؓ کی طرف حسینؑ سے مکارم اخلاق سے متعلق کچھ سوالات کے حضرت حسینؑ نے ان کے بھوایات دئے، حافظ ابن کثیر یہ تابعؓ سے روایت ذکر کر کے لکھتے ہیں:-

”اس روایت کی سند ضعیف ہے، نیز روایت کے الفاظ میں حق فکات ہے وہ

روایت کے غیر محفوظ ہوتے پر دلال ہے ॥ ۵۶

— حضرت میں بیت اللہ کا طواف کر رہتے، انہوں نے جگر اسود کو بسہ دیتا چاہا، لیکن ہجوم کی وجہ سے اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اس موقع پر کسی شخص نے فرزدق سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ فرزدق قافیہ اسی وقت ان کی شان میں ایک مدحیہ نظم کہہ ڈالی، ابن کثیر یہ دافعہ اور مدحیہ نظم ذکر کر کے لکھتے ہیں، —

فرزدق کے یہ اشعار حضرت حسینؑ کے متعلق نہیں ہو سکتے، مکن ہے فرزدق نے

یہ اشعار حسینؑ کے صاحبزادے کے متعلق کہے ہوں، اس لئے کہ فرزدق جس قب

ریج کے لئے جا رہا تھا، حضرت حسینؑ اس وقت عراق جا رہتے، اصل عراق

بلطفہ کے کچھ بیرونی بعد وہ شہید کر رہے گئے، پھر کس طرح مکن ہے کہ

فرزدق نے حسینؑ کو طواف بیت اللہ کرنے دیکھا ہو؟ رسمی ان کے مابین

لاقتا ہی ثابت نہیں) ۵۷

— حضرت ابوذرؓ اور زین الدین ابن اسقیانؓ کے متعلق ایک تاریخی واقعہ ذکر کر کر ابن کثیر

۱۵۔ البدایۃ والہدایۃ ج ۸ ص ۹

۱۶۔ حوالہ مذکور ص ۳۰

۱۷۔ حوالہ مذکور ص ۳۰۸

اس مقام پر امام بخاری کی یہ جرأت نقل کرتے ہیں ۔

”میر دوایت حبول ہے، اس لئے کہ یہ بن ابی سفیان، حضرت عمرؓ کے وفَّا میں دفاتر پا گئن تھے اور میں نہیں حمل کردی تو اس عصرِ الخطاپ کے وفَّا میں کبھی شام آئے ہوں، لوگویاں کی ملاقات ہی مشکل ہے۔“

حضرت علی بن حسین ؓ اور خلیفہ هشام کے متعلق ایک ماتع نقل کر کے حافظ ابن لثیر اس کو اس بنیاد پر غیر صحیح قرار دیتے ہیں، کہ ہشام رضی اللہ عنہ میں خلیفہ بن ابی جہد علی بن حسینؓ کی دفاتر اس کے خلیفہ بنٹنے سے ہجیارہ سال قبل رضی اللہ عنہ میں ہو چکی تھی، خلافت کے بعد علی کی ملاقات ہشام کے ساتھ کس طرح مکن ہے؟ ۲۷

ذکورہ روایات پر غرض کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ یہاں ابن کثیرؓ نے جن روایات کو رد کیا ہے، وہ تنقید حدیث کے اصول کی روشنی کیا ہے؟ یا ان سے مختلف کسی اور اصول کی بنیاد پر نیز یہ روایات خالصۃ تاریخی ہیں یا ان کا تعلق ملال و حرام اور سُنن و فرقہ سے ہے۔ ظاہر ہے ذکورہ روایات خالصۃ تاریخی ہیں، احکامات دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور انہیں جن اصول کی روشنی سے غیر صحیح قرار دیا گیا ہے وہ دہی تنقید حدیث کے اصول میں جن کے متعلق مولاً کا دھوئی ہے کہ انہیں تاریخی روایات کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

ابن حجر ؓ نے متعدد بوجگ تنقید حدیث کے اصول خالص تاریخی روایات میں استعمال کر کے ان روایات کو غیر صحیح کہا ہے، مثلاً مروان کے متعلق لکھا ہے، کہ ان کے بارے میں حضرت علی نقشبند شتم، حضرت حسن و حسینؓ کی اہانت اور اہل سنت کو ایناء دینے کی جو روایات ہیں وہ سب اس بنیاد پر غیر صحیح ہیں کہ ان کی سند میں کھلٹا نہ کوئی علت ہے، لہ لصحیح شیء ہوتا ذلت مہما سائی ذکر کہ ان کل ہافیڈ مجموعۃ الفی استد کا علٹہ۔ ان کی ایک عبارت پڑھی ہم نقل کر کرے ہیں جس میں اُخنوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ صحابہ کے متعلق اکثر تاریخی

روايات ائمۃ الحدیثین کے نزدیک یا تو بھروسہ بنی ہیں یا ان کی سند میں کوئی علت یا پیک قوت کمی علیتیں ہیں۔ حضرت عثمانؓ کے سامنے قتل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے متعلق تاریخ و سیر میں بہت سی غیر صحیح باتیں ہیں جن سے «حمد کہ نہ کھانا، قضیۃ قتل عثمان وہی عجیبہ مہسوسطہ فی کتب انسیروالتوایع و فیہما اشیاء کثیرۃ لم تصعن فلاغتھما» جنگ خل کے متعلق لکھا ہے، داعلم اندھن قدس روى هنا ایضاً موسیٰ لا اصل لھا، اس میں بھی کسی پھریں بالکل بے بنیاد مردی ہیں «جنگِ عین کی تاریخی تفصیلات کے متعلق بھی بھی لکھا ہے، داعلم مردی حنا امور کثیرۃ لا اصل لھا» لہ اس سے زیادہ صراحت اس امر کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ علماء نے تاریخی روایات کی سند کی جانچ پڑھا کر کے بہت سے مقامات پر انہیں حض اس بنا پر غیر صحیح قرار دیا کہ دُة تنقید کے اصول پر پوری ہیں اُرتیں۔

اسی طرح قاضی ابویکار بن العربي ہیں انھوں نے بھی متعدد تاریخی روایات کو محظی اسی لئے روکر دیا ہے کہ اسامی الرجال کی روشنی میں ان کی اسنادی حیثیت مجرد ہے، لہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مہماج الشیۃ میں متعدد جنہوں پر ایسی تاریخی روایات کو جن سے صحابہ پر حرف آتا ہے، تنقید حیث کے اصول استعمال کر کے روکر دیا ہے، ایک مقام پر ایسی روایات کے متعلق لکھتے ہیں :-

تجویز دیا ہے صحابہ کو امام کے عیوب و مخالفیں (متالب) کے باہر سے میں منقول ہیں، دُة دو قسم کی ہیں، پہلی قسم دُة ہے جو سراپا بھروسہ یا تحریف شدہ ہیں جن میں ایسی کمی دشیتی ہو گئی ہے جن سے طعن مدت کا پہلو نکلتا ہے، اکثر دُة روایات، جن میں صریح مطاعن کا ذکر ہے، اسی قبیل سے میں حفظ ہائیے کتاب رادی بیان درست ہیں جنکی دروغ گوئی شہوہ جیسے الْمَخْفَفُ لُوطَ بْنَ يَحْيَى، هشام بْنُ حَمْبَنِ السَّابِقِ الْكَلْبِی

اور ان جیسے دروغ گورادی ۱

اسی لئے اس رافتھی نے رجس کا امام صاحب رذکر ہے ہیں) ایسے مواد  
کے ہتھاڈ کیا ہے جسے ہشام بھی نے جمع کیا ہے معاں عالیکرد دروغ گوئی  
میں وہ سب سے بڑھ کر ہے معاویہ ازیں وہ شیعر ہے، تیز وہ پانے باپے روایت  
کرتا ہے اور اس کا باباں ابو مخفف سے بیان کرتا ہے اور یہ دو قصہ بھی متوفی  
اور کتاب ہیں۔

امام احمد اس بھائی کے باسے میں کہتے ہیں ۲ میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کہا  
شخص اس سے روایت کرے گا کہ تو ایک فاتحان گواہ ممتاز ہے ۳ امام  
فارطہ بھائی میں صفة متوفی ہے، این عدی کہتے ہیں ۴ ہشام بھائی پر فاتحان  
گوئی غالب ہے، میں اس کی کوئی مستند روایت نہیں جانتا، اس کا باب بھی کہا  
ہے ۵ زادۂ کاظم، لیث اور سلیمان تھی کہتے ہیں ۶ "ہو گذا اب" امام حی کہتے ہیں،  
لیث پتی ہو گذا اب تا قطع دروغ ہو، پاکیہ اعتبار سے گجراء اور بلاشی ہے  
امام ابن جبان کہتے ہیں، ۷ اس کا ذنب اتنا نمایاں ہے کہ اس کے او مفاتیح علوم  
کرنے کی اجازت نہیں ہے ۸ لہ

یہاں ابن تیمیہ نے اللہ مر جمال کے اقوال تاریخی روایات کو رد کرنے کے لئے استعمال  
کئے ہیں یا ایسی روایات کے متعلق جو حلت و حرمت سے متعلق ہیں؟ حافظہ ہی حضرت  
سحاویہؓ کے متعلق واقعی کی یہ روایت کہ حضور نے انہیں جنگ خیس میں سماونٹ اور چاہیں  
اویقیہ عطا کئے، ذکر کر کے تعمیر حدیث کا ایک خاص اصول استعمال کر کے ہوئے لکھتے ہیں ۹  
صفاقی کو خود اپنی بھائی ہنوئی بات یاد نہیں رہی، معادیہ آن قدیم الاسلام تھے تو  
ان کی تالیف قلب کی صرفت نہ تھی، اور اگر آپ نے ان کو مال دیا ہو تو اواب  
فاطمہ بنت قیس کو، حب اُخویوں نے معادیہ کی طرف سے آئے ہوئے شادی کی

پیغمبر کے تعلق آپ سے مشدہ کیا، یہ نکتہ کہ معاویہ تو ایک مقدس آدمی ہے جس کے پاس کچھ ماں نہیں ۔ لہ

اس تفصیل سے یہ صاف معلوم ہوا ہے کہ حافظان کیشؓ، حافظ فرمیؓ، قاضی ابو یکوب بن الحربیؓ ابن حجر عسکری اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ وغیرہم کے نزدیک احکامی روایات کے علاوہ تائیغا روایات میں بھی تنقید حدیث کے اصول استعمال کئے جائے ہیں، اور اس سختی میں ان کے نزدیک حدیث اور تایخ میں کوئی فرق نہیں۔

نیز یہ نکتہ کے متعلق گزارش ہے کہ ضرورت پر سفر تمام الابد طوارئ نہ فروع کی روایات پر اصول حدیث اور اسناد الرجال کی رخصی میں تنقید کی ہے؛ جیسکہ نزدیکہ بالا بحث سے ظاہر ہے، مزید تفصیل آنکے رہی ہے۔ البته غلط فرمی یہاں سے لاحق ہوئی یا خلط فہم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ محدثین نے ان روایات میں، جن کا تعلق جلت و حرمت احکام و حقائق اور فرائض و مستحبات سے تھا، جو سختی برقراری ہے، دیگر نوع کا ودایات میں نوجہہ وہ سختی نہیں برقراری اور محدثین نے یہاں وہ سختی کیوں نہیں؟ وسائل یاد یا دیگر اور سوچوہ کی سانپہ یا کسی اصول کی سانپہ؟ اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس سے بات باکمل مسقی ہو کر سلسلہ آجاتے گی۔

### غیر احکامی روایات میں محدثین کا طرز عمل :-

اس نکتہ کی مفہوم خود محدثین نے کردار یہ کہ ہمارا یہ طرز عمل اس بناء پر ہے کہ تم اسناد الرجال اور اصول حدیث کی اس سے غیر احکامی روایات پر تنقید پیشادی طور پر کیجئے ہیں سمجھتے بلکہ اس کے دیکھا درکھی وجہ ہیں ان میں سب سے نیاں ہے تمہارے تہائی ہے، چنانچہ امام احمد بن حنبلؓ، ابن قہبہؓ اور عبد اللہ بن مبارکؓ کہتے ہیں ।

«جب ہم طلاق و حرام کے متعلق بیان کرتے ہیں تو پوری سختی برستے ہیں اور فضائل وغیرہ کی روایات میں تساؤ کر جاتے ہیں ۔ لہ

لہ۔ پیر اعلام النبیاء ج ۲ ص ۱۶، دار المغارفہ، مدرس ۱۹۷۱ء  
لہ۔ تدریسی بالارادی ص ۱۹۶، ۱۹۷۱ء

امام نور قافی شریعہ موالہب میں لکھتے ہیں :-

”مُفَاتِحُ الدِّرَكَاتِ حَكَامَ کَے عَلَادَه وَمُنْجَرَ رَوَايَاتَ میں مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنُ اَبِي داؤد میں

تساہل (رسی) کر جاتے ہیں“ ۱۷

حافظ ذہبی ابو نعیم کے متعلق خطیب بغدادی کا یہ قول کہ ”وَهُ بِهِتْ سَعْیِ اَشْيَاءِ مِنْ تَسَالِ  
کر جاتے ہیں“ نقل کر کے لکھتے ہیں :-

”هَذَا مَذَهِبُ سَارَّةَ اَبُو نعِيمٍ وَغَيْرِهِ، يَعْمَلُ اَيْكَ طَرِيقَ هُبَّ جَهَنَّمَ الْعَذَابَ  
لَهُ اَغْتِيَارُ كَيْاَهُ“ ۱۸

اگر اب اپنے اور ابو نعیم کے درمیان سماصرہ پیک کا ذکر کر کے ان پر اس طرح تبصرہ  
کرتے ہیں :-

”ان وہ نول کا قصہ اس کے سوا کوئی نہیں کہا پانی کتبون میں موجود نہ

روایات خاموشی ہے ذکر کر دیتے ہیں (ان پر نقید نہیں کہتے) ۱۹

امام نوری نے اس تساہل کے علاوہ تین اور وجہ اس بات کی دضاحت میں ذکر کی ہیں کہ  
محمد بنی نے ضعیف راویوں کی روایات میں، جس طرح سخن برتنی چاہیجے توہہ کیمیں نہیں  
بہتی؟ لکھتے ہیں :-

”اُگر کہا جائے کہ مُتَّهمٌ، دروغ نگر ضعیف اور مشکل راویوں سے ان  
بلیل اللہ الدائمہ نے باد جوہدا اس بات کے جانسخ کے کہ، ان کی بیان کا وہ رہایا

قابل اعتبار نہیں ہیں، کیونکہ روایات ذکر کیں وہ اس کے کئی جواب ہیں۔

اول یہ کہ ائمۃ حدیث نے ایسے لوگوں کی روایات اس لئے ذکر کی ہیں

تاکہ ان کا ضعف نہا ہر جو جاتے اور کسی وقت بھی خود ان (محمد بنی) پر اند

۱۷۔ ج ۱ ص ۱۴۲

۱۸۔ سیران الاعتدال ج ۱ ص ۱۵۰، طبع ۶۴۳

۱۹۔ ایضاً حوالہ ذکر

وُسرورِ پران کا حاملہ مشتبیہ نہ رہے، ان کوئی شخص ان کی سخت (و ضعف) میں شکری سے ذکر نہ کرے، بالبainا بہت غلط ہیں)

ثانیاً۔ ضعیف روایات اس لئے ذکر کر دی جاتی ہیں کہ الف سے صحیح روایات پر استشہار پکڑا جاسکے، جیسے کہ تم تسبیبات کی بحث میں بتایا ہے، انفرادی طور پر ان سے جماعت پکڑنا صحیح ہیں (جبکہ کم درست صحیح مواد اس کی تائید نہ کر دے)

ثالثاً ضعیف راویل کی روایات میں صحیح، ضعیف، امباطل ہر طرح کی روایات ہوتی ہیں، ان سب کو اس لئے ورثیح الحکم کر دیا جاتا ہے کہ اہل حظ دانشمن خواں کے مدیناں تمیز کر لیں، الیکسیاں یہ طریقہ معروف ہیں، اس سهل بھی، اسی لئے سفیان ثوری نے جب بعض لوگوں سے یہ کہا کہ ”قوی“ روایت ذکر، تو لوگوں نے اخراج اپنی کیا کہ آپ خود جو اسے روایت کرتے ہیں اس فیصلہ، ثوری نے جواب میں کہا کہیں، اس کمپے اور جمیعت کو اچھی طرح پہنچاتا ہوں۔

رأیجاً۔ حدیثن ایسے راویوں سے ترغیب و تربیب، فضائل اعمال، شخص اور تہذیب مکارم اخلاق اور ان صحیح روایات ذکر کرتے ہیں جو عالم و حرام اور دیگر احکامات سے متعلق ہیں ہوتیں، اور اس قسم کی روایات میں

حمدیں دعیوں نے تاہلِ رداد کہا ہے ॥ لہ

پاچویں اس طرزِ عمل کی ایک ایسی وجہ یہ ہے، جس سے خود اس تاہل کی حقیقت بھی داشت، کہ اس دفعہ کے حدیثن یہ سمجھتے تھے کہ ایک روایت اگر ہم اس کو اس کی صد نے ساتھ فرگ کر دیتے ہیں چاہے وہ روایت ای لفظ کسی یہ ضعیف، منکر، امباطل ہو، تو اس کے حسن دفعج کی ذمہ داری ہم پر نہیں بلکہ خود را دی پر ہے اور اہل علم و تحقیق مسلم

لہ۔ مقدمہ صحیح سلم حاصہ ۴۳۔

سندر کے روایات کا ساماء الرجال کی روشنی میں پرکھ کر خود روایت کی صحت و ضعف کا انتہا  
سکو لیں گے، چنانچہ عاقطابن جعفر محمد بن حنبل کے اس روایت کی صراحت کرتے ہیں۔

”اکثر المحدثین فی الاعصار الماضیة هن سنه ما شتن و هلم

جزء اذ اساقوا الحدیث بآساناد باعتقاد و انهم برأوا من

اعتقاد تله ملة الشهادتين جو دعمری هدی ہجیری اور اس سے

فصل گردشہ ادوار میں ہوتے، ان کا یہ اعتماد تھا کہ جب ہم حدیث صحیح

سندر کے ذکر کو دیں تو ہم اپنی ذمہ داری سے سہبہ سمجھ کر پڑے

یعنی سندر کے روایات کی جانچ پڑتی کر کے روایت کا مقام تھیں کہ نایب ہماری ذمہ داری  
تھیں، ویکیوان اہل علم کی ذمہ داری ہے جو ہمارے اس جمیع کردہ ذخیرہ استفادہ کرنا چاہتا  
ہے، اسی مفہوم کا ایک قل خود ابن حجر طبری کا بھی گذر چکا ہے جن میں انھوں نے لپیٹے صحیح  
کردہ تایبی معاوی کی طرف اشارہ کیا ہے ۱۵

ہی وجہ ہے کہ حنبل نے اپنے سالتے صحیح کردہ ذخیرہ روایات میں سندر کا اہتمام فرمایا  
ملک خود و مورخین نے بھی تاریخی روایات میں بیان کا شروع کیا۔ ابن جریر طبری، ابن عکیش، ابن سعد  
اور ابن عبد البر سب نے اپنی کتابوں میں ہمگی اسناد کا اہتمام کیا ہے اما اسی بن اپنے محققین  
ان پرکشی فرم کی سعیر نہیں کی، بلکہ ان کو کریڈٹ دیا ہے کہ انھوں نے روایات کا ایسا عظیم ذخیرہ  
یجاد کیا اور اس کے ساتھ اس کی سندر ذکر کر کے تاریخ کو سی اندر پرے میں نہیں چھوڑا، ایسا لاف  
انی حضرات کے چننوں نے ہر طرح کام مواد تو جمع کر دیا لیکن سندر کی طرف توجہ نہیں دی، محققین نے  
اسے لوگوں پر سخت ترقید کی ہے کیونکہ اس طرح روایت کی صحت و ضعف کا پر لکھا بہت مشکل  
ہے، چنانچہ علامہ عراقی کہتے ہیں: ۱۶

”پہلے محدثین کی طرح جن لوگوں نے روایات کے ساتھ ان کی اسناد بھی افکر و مفہومیں

لئے۔ سان الیزابی رج ۳ ص ۵“

لئے دیکھتے ہمارے کتب کا صفحہ ۲۰۴

ان کا مذکور مقولہ اس قابل تبول ہے، کیونکہ انہوں نے پرانے تأثیریں کو سننے والے کر کے نظر دی تھیں کی آسانی فراہم کر دی ہے، اگرچہ بہتر صورت یہ تھی کہ ان سعایات پر پہنچے تو وہ خفیہ کر لے، ان پر سکوت اختیار نہ کرتے، لیکن جن لوگوں نے سند کا اہتمام نہیں کیا اور ان کو بغیر سند کے ہی صیغہ جو مم کے ساتھ بیان کر دیا ہے انہوں نے بڑی فاضل خلائق کا ارتکاب کیا ہے ॥ ۷۰

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مذکور صدیوں میں مشیر تھیں کا یہ طریقہ رہا ہے، کوہہ ہر طرح کی صحیح و غلط اور طلب والیں روایات میں سند کے ذکر کے سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ان کے درمیان تمیز کرنا ہماری نہیں دیکھا ایں تھیں کی ذمہ داری پرے، یعنی وجہ یہ کہ عجیب بیج و تدوین کا یہ غیر جاذب داراءہ طرزِ عمل کا حال دو ختم ہو گیا اور بعد کے ادوار میں ہر طرح تقدیم تھیں کے بھانات اُصر نے شروع پنونتے، اسی حساب سے غیر جاذب ہماری کا بھان ختم ہو کر جائزی جاذب ہماری لوگوں کے ذمہوں میں جاؤ گئیں ہو گئی محمد تھیں نے ان حالات میں واضح طور پر اس چیز کو صراحت کر دی کہ اب صرف سند کا ذکر کرو دینا کافی نہیں، بلکہ سلسلہ سند کی پوری تحقیق کر کے روایت کا اصلی مقام متین کر کے پھر روایت کو بیان کرنا چاہیجے۔

**لَا يَرِدُّ مِنَ الْعَهْدِ تَقْيِيْهُ حَذَّرُ الْاعْصَارُ بِالْاِقْتَصَارِ عَلَى اِبْرَادِ  
اسْنَادِهِ بِذَلِكَ لَعْدَمِ الْاَهْمَالِ الْعَدُوِيَّةِ وَالْمَصْنَعِ الْكُثُرِ الْمُحَدِّثِينَ  
فِي الْاعْصَارِ الْمَاضِيَّةِ لَهُ اسْ دَوْرٌ مِّنْ چُونکہ اس نہیں رہا مجھے اس لمحے  
روایت میں سند کے ذکر کو دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی (بلکہ اب بیان  
کرنے والے کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں اس کی اسنادی یقینت متین کرے) الگ  
گزشتہ ادوار میں اکثر محدثین کا طریقہ ہی رہا ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے مغض سند**

لئے۔ شریف الرادی، ص ۱۸۹

لئے۔ نوح المیت، ص ۱۰۶

ساقہ ردایت نقل کردیتھے رہے میں ہے

اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آجائی ہے کہ محدثین نے یہ طرز عمل صرف تاریخی و تابعی میں اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ احکامی روایات کو حکم دکر دیجگہ بر قوی کی روایات میں بھی غیر جا بہ دار انش طرز عمل اختیار کیا ہے، اور یہ بھی دادا مشی سوچیا کہ اس کی وجہ بر قوی کر ان کے نزدیک احکامی روایات پر تقدیم کے اصول دیگر روایات پر استعمال نہیں کئے جاسکتے تھے بلکہ اس طرز عمل کی پشت پر وہ اساب و دجوہ تھے جن کی اور پر نشانہ ہی کی تھی ہے غیر احکامی روایات میں تنقید و تحقیق کی ضرورت :-

اس کے بعد چوتھے سوال کی حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ احکامی روایات کے علاوہ دیگر روایات میں بوجوہ نقد و تحقیق کا وہ اتهام نہیں ٹھرا جو احکامی روایات میں ہوا، اس لئے ان تمام فروع کی روایات میں اب تاریخی روایات کے انقدر جمع کی گرفتہ ہے اور اصول حدیث اور اسناد الر جعل کی روشنی میں صحت و صحف کے احاطہ سے ان کا وہ متین کرنے کی ضرورت بھائیں کے متعلق انکا بر علاوہ و محدثین کی مزید تصریحات بلا خطا ہوں اپنا تحریکی جنگ عمل کے متعلق لکھتے ہیں :-

واعلم انقاد رسید هن ایضاً امور لا اصل لها فلا تستع شع عمما  
تراء فی کتب السیئه والتواریخ الا ان سائیئه فی کلام حافظ وقد  
بین سفہ و نقد المقصته عذله۔ شلم حدیث ہونا چاہیے کہ اس کے متعلقہ بین  
بہت سی بیش اچیزی مروی ہیں بنایہ ان روایات کا سیرہ قدریخ کی کتابیں  
دیکھ لینا کافی ہیں، جب تک کہ تم انھیں کسی ایسے حافظ کے کلام میں نہ کوئی جو ہے  
اس نے اس کو سنبھالا کہ ہوا اس کے ٹھوٹات بھی نہ ہوں "لہ  
ایتی ایتی۔ اللہ دُه سرق تاب یعنی کٹھے ہیں :-  
سَوْالِيْحِيْب ایضاً علی کل من سبع شیئاً من ذلک ان یقینت فیه ملا

يتباهى الى احد منهم بغير درر دئته فكتاب ارساماع من  
شخص بل لا بد ان يمتحن عنه حتى يصح عنده نسبته اذا اخذ  
فيستدرا الواجب ان يتمس لهم احسن المآدب لات مهرب  
المخارق اذا هم اهل لذلك كما هو مشهور في مناقبهم و  
معدود من مآثرهم -

” الشخص صحابہ سے متعلق کوئی بات نہ، اُس کے لئے ضروری ہے کہ پھر وہ اس کی  
تحقیق کرے اُنکے حضر کی کتابیں دیکھیں یا اسی شخص سے اُن لیے پڑی اس کی آثار  
ان کی طرف نہ کریں، بلکہ اس کی پوسی تحقیق کرے تا انہا ان کی طرف اس کی نسبت پاؤ  
ثبوت کو پہنچ جائے زاید بیوت ہم سخن والی کے بیہبی ان سے غلط نتائج نہ افتکہ ”  
بلکہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ اس کی کوئی معتمد توجیہ اور اس کا کوئی بتہر محل  
توش کرے اور اپنے مناسب مآثر کی تباہ پر بجا طور پر اس چیز کے سبقت ہیں ॥ لہ  
فاسنی ابوالولید باجی، محمد بن علی کا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں :-

” در دایۃ اهل السیر لا يعتمد علیها اهل الحديث - اہل سیر کی رعایا پر  
محمد بن اعتماد نہیں کرتے ” ۱۷

خد اصول حدیث کی کتابیں میں اس کی صراحت موجود ہے۔  
ملا انتساب الی ما یذ کرہ اهل اسیر فانہ لا یصح و ما یصح فلذ تاویل صحیح  
اہل سیر کی بیان کردہ پیروزیوں کی طرف التقطات مت کرد، وہ غیر صحیح ہوتی ہیں، انسان کا جو  
حکمة صحیح ہے، اُس کی مستحول توجیہ ہو سکتی ہے ۱۸ تھے  
شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-

۱۷. الصراحت المعرفة في الرذائل اصل المذکور و اثر نبذة، ص ۱۲۹، الطبعة اليمنية ۱۳۷۳

۱۸. المتفق اشریح مؤٹطا، ج ۳، ص ۲۱۳

تھے فتح المعین، ص ۸، ۳، بہنچ الوصول الی صطلاح احادیث الرسول،  
نواب صدیق بن خان، ص ۱۴۲

”نامشکلم والمفسر المورخ ونحو هم دوادی احمد هم فضل امجاداً“

ملا اسناد ثابت لدی یقینه علیہ:

مشکلم مفسر، نورخ امدادان جیسے دیگر حضرات حبک کوئی ثابت صحیح ثابت نہ  
کے ذکر نہیں کرتے، بعض ان کی نقل پر اعتماد نہیں کی جاتے گا ॥ لہ

اسکے چلی کوئی محدثین کی روایات کے متعلق، جو بخیر تحقیق کئے جس طرح سے ہیں  
نقل کر دیتے ہیں، یہ صراحت کی ہے کہ ان کا انداز ہی یہ تھا، روایات کی تحقیق اور ادراکی  
چیزوں پر یعنی کی ذمۃ داری اب ان کی نہیں اور سو سے اہل علم کی ہے، اور اہل علم ایسی مددیا  
کے مادی اور ان کی سند کو پر کھٹکتے ہیں۔

بروی ما سمعاً کیا سمعاً مداد الدجال و علی اغیرہ لاعلیہ ما همل العلم

ینظرون فی ذمۃ داری ما جانلہ و اسندوا لہ

دوسرا سے مقام پر امام ابن تیمیہ اس بات کی تفصیل سے مصافت کرتے ہیں کہ تماہ نجع کی  
روایات، چاہے وہ عیادات، فضائل و مناقب کی ہوں یا تاریخ و سیر کا، سب کو  
اساء الرجاءں اور اصول حدیث کے مطابق پر کھا جائے گا، ہم ان کی طویل جبارت کے  
جتنے جستہ چنان احتیارات پیشی کرتے ہیں:-

”منقولات روایات، میں صدق و کتب دونوں کی افراط ہے، ان کے مابین  
تمیز علم حدیث کی رومے کی چلتے گی جس طرح ہم عرب اور غیر عرب الفاظ  
کے درمیان تمیز کرنے کے لئے سخاۃ کی طرف اور لغوی اور لغوی الہاظ کی

لہ سنیاج النّتّة، رج ۲۳، ص ۴۰: نیز جن چیزوں کو غیر سعیت کہنا ہو وہاں ابوالثّمیہ جایجا  
یہ الحافظ استعمال کرتے ہیں لیکن جس نقل التواریخ و السیر، تلک فیضاً الکاذب من بیش  
مانی التواریخ، یہ تاریخ و سیر کی روایات کی طرح جھوٹی ہیں“ — مہماج النّتّة

۲۰۹، ۲۱۳، ص ۳

لہ۔ مہماج النّتّة، رج ۲۳، ص ۱۵ - ۱۶

تحقیق کے لئے علماء لغت کی طرف بڑھا کر رہے ہیں..... ہر فوٹو کے مابینی اُس نکے شناساہر تھے ہیں، علمائے صدیق دامت گوریٰ عظیمہ وحیت اور دینی الحافظ سے ان سب کے زیادہ جلیل القدر اوسما افظعت ہیں اور (راویین) کی جریءہ و تعذیلیں میں صادقی ترین، امین اور صاحب علم و خبری بھیجیں مالک، شعبہ، سعیان وغیرہ ہیں.....

روا فضیل علوم حدیث ہیں نہ سونپتھے کہتے ہیں تھیں اس سے کچھ دیپی ہے اس لئے کہ وہ نہ سند دیکھتے ہیں نہ فہمیہ دیکھنے کے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اسیں روایت شرمی و مغلوب دلائل کے مدافعے بوجہ یا حوالہ، اس لئے ان کے ہاں تحصل دیسیں مندیں مفترم ہیں، بکار ان کے ہیں جو نہیں تصل سمجھی جاتی ہیں، اُن کا ذکر اعداد میں اغلاط کی کثرت ہی ماضی ہے، مگر اس باسے میں باکل یہود و نصاریٰ کی مانند ہیں کہ جو کہہ یہاں کوئی بات بات نہیں، اس کا دلہنام آتی ہو یہ اوسا سلام کی خصوصیات میں سمجھے، پھر سلام میں یہ خصوصیات صرف اسی مفت میں پاؤ جاتی ہے.....

ابو قاسمؑ نے "اعلیٰ" میں اور ابو بکرؓ عمرؓ عثمانؓ و علیؑ کی تدبیثات میں کہی احادیث ذکر کی ہیں، جن میں بعض سچے اور بعض ضیف بخکھ مکھانا ماجہہ ہیں اگر یہ خوبی علم حدیث کا ماہر ہے لیکن مدد اور دعا بھیجیں دیکھ مفتین کا طریقہ تالیف ہی یہ رہا ہے کہ یہ کہ عنوان پر تمام قسم کی روایات مجھ کر میتھیں بھیجیں ایک مشترک تفسیر میں یا کہ قلمبہ، نقطہ میں، اصلیک، مصنف، اپنی تصنیف میں تمازن اقبال اور ولائی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ قادرین پر تمام پہلو داضخ ہو جائیں، اگر پری لوگ اپنی ذکر کردہ چیزوں میں سے بیشتر کی صحت کا اعتماد نہیں لکھتے بلکہ اس کے فضفٹ کے عکس ہے تھے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں، ہمارا ہم صرف نقل کرنا ہے اس کے رغله و میمح، کافی ذمۃ فارسی ہام ترقائل پہنچے ذکر ناقل پر۔  
یہی حال اُن لوگوں کا ہے جنہوں نے عبادات و حجۃ کے فضائل میں کہ

تصنیف کیں کر مہ بہت سی ایسی احادیث ذکر کر دیتے ہیں جن کے من گھڑت ہستے  
پہاڑ علم کا اتفاق ہے .....  
اور بہت سے لوگوں نے فضائل صحابہ میں کتابیں لکھیں لیکن انھوں نے  
بھی، اسی صورت و موارد کے مطابق بخوبی پہنچا (بغیر تحقیق و ترجیح کے) وہ  
کتاب کر دیا .....  
اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے تاریخ میں کتابیں تصنیف کیں ہیں۔ این عوام کو غزوہ  
ہے، ان کا بھی بھی حال ہے، جب وہ خطا عاری بعید اور بگر خلفاء کے عالٰ تھکھتیں  
تو اس باب میں ہر طرح کی روایات میلان کر دیتے ہیں، اسی طرح جب مہ ملی و مداری کے عشق  
روایات ذکر کرتے ہیں تو اسی ایسی روایات بھی ذکر کر دیتے ہیں جنکا جھوٹ اہل علم و اخلاق ہے  
پس جس شخص کے پاس زرا بھی علم و اتفاق ہے وہ اس بات کو سمجھ لیتا  
کہ منقولات روایات ہیں جھوٹ اور پس ہر طرح کا حوالہ پایا جاتا ہے، اور  
لوگوں نے مثالب (عیوب و لقاویں) و متفق میں کذب میانی کے کام لیا ہے  
اور موافق و مخالفت میں وہ وغیرہ کوئی سے کوئی اختلاف نہیں کیا، ایزیر (و جملہ)  
جس کر لوگوں نے بالوں کو عذر و صدر کے نشانوں میں لایا ہے ہی جھوٹ تراشی ہے  
جس طرح علی افسوس نکل میں تراشے گئے ہیں .....

بانابریں، بنیادی چیز یہ رنوع کی روایات (نقل) ہیں، یہ ہے کہ نقل کرنے  
والے ائمہ و علماء کی طرف رجوع کیا جائے کا اور روایت کی صحت و تفصیل کا پتہ  
لکھا جائے کہ، محسن کسی شخص کا یہ دعویٰ کر دینا کہ اس روایت کو فلاں (اماں و محشر)  
یا سوراخ (نیز بیان کیا ہے) زوال سنت کے نزدیک جلت ہے ز شعبہ ہم اسے تسلیم کر دیں  
مُسلمانوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر مصنف کی بیان کردہ  
ہر روایت کو (بغیر تحقیق کرنے) قابلِ احتجاج سمجھے۔ اس لئے ہر وہ حدیث جس  
کوئی شخص جلت پوچھئے، سب سے پہلے ہم اس سے اس کی صحت کا مطلبہ کریں یعنی محسن  
کسی روایت کا اس کے راوی کی طرف نسبت کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ غلبی و فرقی کی

روایت ہے، باتفاق بالہم، روایت کے صحت کی دلیل نہیں ۔ لہ

### خلاصہ بحث :-

ذکر وہ بحث کے جو نتائج سلسلے آتے ہیں حسب فیل ہیں ۔

— احکامی روایات میں محدثین نے جو تحقیق برقرار ہے بوجعہ سنتی ان غیر احکامی روایات میں نہیں برقراری ہن میں تفسیر، سیر، منازی، افضال، عبادات، فضائل، صفات، تہذیب، خواص، توبہ، عذاب، قرآن، کتب و عقاب، تقصیص اور تاریخ کی روایات شامل ہیں، اس لئے غیر احکامی روایات

کو یہ سارا اندھیرہ غیر منقطع اور غلط و صحیح کا مجموعہ ہے۔

— ان میں تحقیق و تيقع کا بیو اہمہم نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ محدثین کے میان ایسا کوئی اصول ہے کہ جس کی روشنی سے اساد الحال اور تنقید حدیث کے اصول اور روایات میں استعمال نہیں جاسکتے اور ان سلطڑک عمل کا سبق ایسی اصول ہوتا بلکہ ان کا سلطڑک عمل کے وجہ ہیں جو وہ ممان بحث ذکر کرنے مگتے ہیں۔

— یہی وجہ ہے کہ اکابر علماء عنہ بوقت ضرورت تمام غیر احکامی روایات میں اسلوک الرجال اور تنقید حدیث کے اصول اعتماد کر کر، غلط و صحیح کے درمیان تیز افکار کی تیزی اور اس طبقہ تحریف کی افضل سبق قرار دیتے ہیں کہ فیلا حکامی روایات میں تاریخ بھی شامل ہے نقد و جرح کی مزورت ہے اس کے بغیر کوئی شادی یحیت قابل اعتماد نہیں۔

اس پوری بحث کو فرمائی نشیخ کرنے کے بعد پھر حملہ ناکی ہو جارت پڑھنا جلتے ہو اس بحث کے آغاز میں نقل کی گئی ہے، تو مغایط کی اس فتنہ تکمیل کو خود محسوس کیا جاسکتے ہے جو مولانا نے اختیار کی ہے، ایسی مولانا بعض محدثین کے ایک مخصوص طرز میں کو جس کی بنا تسلیل اور دیگران وجوہ پر تھی جو مذکور ہے، ایک اصولی یحیت مسکنیہ فزار ہے میں

کہ اسی اعلان اور تثیر کے اصول صرف الحکایتی روایات کے لئے ہیں اور محدثین نے یہ اصول صرف اخلاقی احادیث کے لئے دعویٰ کئے ہیں، محدثین کے نزدیک ان اصولوں کا استعمال تایید ممکن (غیر احکامی روایات) میں نہیں کیا جاسکتا، لیکن حدث ذاتی کے درمیان یہ فرق کسی محض تفسیر، فقیر، فقیر یا محدث نے بیان کیا ہے؟ اس کی وجہ ویل مولانا نے نہیں دی، مولانا کا سارا مدار استدلال اسی معالط پر ہے، جس کی وجہ نے دفعات کی ہے۔

### اندیشہ ہاستہ پھر دراز ہے

مزید ارشاد ہے تھا ہے:-

یہ شرائط اگر تاریخی واقعیت کے معاالم میں لگائی جاتی تو اسلامی تاریخ کے وجہ پا بوجہ کا تو سوال ہی کیا ہے اقران اول کی تاریخ کا بھی کہاں کم ہے حصہ غیر معتبر قرآن پہنچائے کہاں ہمارے مختلفین اخلاقی شرائط کو ساختہ رکھ کر ان تمام کارناصلوں کو ساتھ لے اتنا یہ قریب ہے دیں مگر جو پڑھ فرم رہے ہیں، آیکو کو اصول صدیقہ اسی مداری میں کی تفہیق کے معیار بہان کا بیشتر حصہ پوچھا نہیں اتھے۔ حدیہ ہے کہ سیرت پاک سچی مکمل ہو ہر پاس شرط کے ساتھ مرتب نہیں کا جائی گی کہ ہر صفت ثقافتی ثقافتی متعلقات نے مقصود کے ساتھ بیان کی ہو۔ (ص ۲۰۳)

یہ ہدی عبارت بھی جذبیاتی استدلال کی آئینہ دار ہے ای خاص استدال اصریہ موبہوم حضرت جن سے مولانا دہلی ہے ہیں، واقعی کوئی وزن اور تحقیقت نہ کہتے ہیں تو یہ خطرات تو اس وقت بھی پڑیں؟ سکتے ہیں جب خود ممانع نے حضرت علیؑ کے متعلق تاریخی روایات میں انہی شرائط کو ساتھ لے کر، ان کے کروار کو مجرّب کرنے والی روایات کو نظر انداز کر دیا ہے، ایک شخص حضرت علیؑ و معاویہؓ کے متعلق یہ طرزِ عمل اختیار کر رہا ہے، مدرس اشخاص یونیورسٹی

حضرت علیؑ کے متعلق اختیار کرتا ہے، اگر اول لاذ کو کے طرزِ عمل کا لاثر ہے تو یہ بھتیجے جس کی مولانا دہلی ہے رہتے ہیں، سو اس لیے یہ کہ تو سرے شخص کے طرزِ عمل کا نتیجہ کیا اس کے فضل صورت میں نکلا گا؛ جب دنوں کی بخشش بالکل بیکار اور دلیک ہے

تران کا نتیجہ بھی بیکار اور ایک بُرچا بیٹھے میں فرقی واقع ہو جائے گا؛ لیکن یہ ممکن ہے کہ دوادی میں اپنی اپنی بُرچا آدمی کی کاشت کرس، اس کے نتیجے میں ایک بُرچا یہاں قائم کی گئی سے آمری کا ذریت نہ فراہم ہو، لیکن دوسرا شخص کی آدمی کی گھٹلی سے نہیں کا ذریت پھرست نکلے؛ لیکن کاشت کارا اور ہر کاشت کار کر کے، گندم کی کاشت نہ کرو اخترف ہے کہ گندم کے داؤں کے حظول مذکور آتے، دالا نہ کھنے والا فرد اپنے کھیت میں گندم بعمدہ ہوا یا سُمیت دیں اسکے خروج کی بہانی فی الواقع کسی تقاضے کی سختی بھی جائے۔

پھر مولانا کی اس حدادت میں مندرجہ ذریعہ فرمائیں تو ایسا محسوس ہتا ہے کہ مولانا کے ذریعہ میکت تاریخ "صرف نہ تھوڑا سا حصہ ہے جو ماہی تاریخ میں بھی نہ تھا" میں کذب یا ایسا ہی دجزیٰ رہا کہ یا مبلغہ آمیزی پر مشتمل ہے دینہ فہرست ہر بات ہے کہ حضرت ہمایاں شریعے خلاف شورش دلیفات، بُرچک جعل، عجیب صیفین، احتکار حکم نہیں خوارج، واقعہ سکر بنا، واقعہ تحریر، علویوں کے خود راج کے دلیفات لجیسے اہم واقعات کے متعلق بحقیقی گردی شرائط بھی فائدہ رکھتی بجا آیے، نہ ممکن ہے کہ اس میں تمام اہم واقعات کا ذریعہ مشتبہ ہو جائے، البتہ ان واقعات کی بحث تفصیلہ استکارا مذکور ہے کہ حقیقت محل نظر قرار دیا جاسکتا ہے جیسے بُرچک جعل کے مقولین کی تعداد پر مشتمل ہے، اور جنگ صیفین کے مقولین کی تعداد ستر ہزار کمکتہ تباہی جاتی ہے، پھر بُرچک صیفین میں حضرت علیؓ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہامہ بتایا گیا ہے کہ اُنھوں نے پانچ صد مسلمان اچھی ہاتھ سے قتل کئے لہ وہاں حالیکہ اُن دوسریں میں آئی کل جسیہ ایسی ہی خیابانی بھی شرکت کر جن سے بیک وقت ہزاروں آہی مرکلتے ہوتے۔ پھر اس سے قبل کفر دا اسلام کے کچھ معرکے بھی گرم ہو چکے تھے لیکن ان میں کبھی فریضیں کے مقولین کی تعداد سنیکڑوں کے تجاوز کر کے ہزاروں تک نہ پہنچی، واقعہ سکر بلاک لی بعض مبالغہ آمیز تفصیلات اور بعض صریح کذب بیانیاں یا دلائق تحریر کے متعلق بعض راویوں کی کذب بیانیاں اور مبلغہ آمیزیاں اس قسم کی بعض تفصیلات کے متعلق سخت اور ضروری شرائط عالمہ کرکے الگ ہم اعلیٰ کے تعلق درویش گوئی یا مبالغہ آمیزی کا حکم لکھا دیں تو اس سے آخر سارے کی تاریخ کا یہ حصہ کس طرح ضائع ہو جائے گا؟ اس طرح کرنے سے تاریخ کی کونسی کریڈیٹی ٹوٹ جائے گی؟

و اتفاقات میں کوئی خلا دلت قہوجہ نہیں تھے کہ یہ ہماری تاریخ میں غرایات و مبالغہ کا بوجھہ  
بہت حصہ داخل ہو گیا ہے، قرآن اول کی تاریخ صرف یہی کچھ تو نہیں ہے کہ جس کے انکار سے  
سادی تاریخ ہی ختم ہو کر ہے جائے گی۔

مزید برآں یہ پہلو بھی ذہن نشین رہے کہ تاریخی و اتفاقات کے روایوں کے طرزیں  
میں عموماً طوالت ہوتی ہے، ایک مختصر سے واقعہ کو پڑھنا چڑھا کر اس میں بہت سا حصہ زیب  
و دانتان کا بھی شامل کر دیتے ہیں جیسا کہ محدثین کا یہ تبصرہ "الاستیعاب" پر تبصرہ کرتے ہوئے  
نقل کیا جا چکا ہے، وغایب میں الاغیان یعنی الانسان و التخلیط کو اخبار کی لوگ ایک  
تو واقعہ کو پڑھا پڑھا پڑھا پڑھنے کرتے ہیں دوسرا سے اُس کو غلط لفظ کر دیتے ہیں، واقعہ کا نام  
ایک مرتبہ جگہ اُحد کا نام واقعہ بیان کیا، اس کے تکاذب نے کہا ہیں اس کے سقط ہر شخص  
کا روایت علیہ نہ علیحہ و بیان کرو، چنانچہ وہ ایک بخوبی کے انداز اندھہ جگہ اُحد کی  
تفصیلات ایک براحت کے مقابلے ۲۰ جلسہوں میں اور درسر کی روایت کے مقابلے ۳۰  
بلدوں میں مرتب کر کے لے آیا ہے پھر محدثین و مورثین کا یہ طرز عمل بیان کیا گا جا کہ  
یہ کر دہ تمام تفصیلات حاکم و کامست بیان کر دیا کر سکتے ہیں، اس لئے اہل ماقعت کی طبق  
ذیب ذاتی کا یہ حصہ بھی سہیٹھ کے لئے محفوظ ہو گیا، ان ہر یہ طبری کے نئی نئی  
تہام تفصیلات قلمبند کر دی ہے۔ بعد میں اُنہے مالیے بعض لوگوں نے ان سب الف آمیز  
تفصیلات میں سے بہت سی چیزوں کو حذف کر دیا ہے، جیسے حافظین کثیر کی شکل ہے  
اُنہوں نے بہت اسی غیر مفردی یا اسی الف آمیز تفصیلات حذف کر دیں، شال کے طور  
پر واقعہ تخلی کی تفصیلات طبری میں تقریباً ۹۰ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں، اب کثیر نے  
اس میں کافی چھانٹکر کے اس کو کہ ارہار صفوں میں بیان کر دیا ہے۔ جگہ صفحیں کے  
ماقعت اطبری میں ۱۷ صفحات پڑھکیں، اب کثیر نے اسے ۵ صفحات میں بیان کر دیا ہے  
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش مدعا و مدعى کے احوال اطبری میں ۶۶ صفحات پڑھکے

ہوئے ہیں، ابن کثیر کا البداۃ میں یہی تفاسیر مختصر ہو کہ اس صفات میں سائیں ہیں، سلم بن عقیل اور حضرت حسینؑ کی شہادت کے وقایت کے سطہ طبری میں ۱۲ صفات ہیں، ابن کثیر نے اپنے ۲۰۔ ۲۵ صفات میں بیان کر دیا ہے، بجز بن عدی کا معمولی سما واقعہ طبری میں ۳۲ صفات پر پھیلا ہوا ہے، ابن کثیر نے اسے صرف ۷ صفوں میں بیان کر دیا ہے پھر ابن کثیر کے ان صفات میں بہت اسی ایسی روایات بھی ہیں جیسیں ابن کثیر نے نقل توکر دیا ہے لیکن آخر میں انھوں نے اس کو "لاصصھ هذَا" یا اس کی صحت یہی سے نزدیک شکوگ ہے "یا اس کا صدور ایک صوابی سے مستبعد ہے" کہہ کر ان روایات کے عدم صحت کی طرف اشارہ کر دیا ہے (جیسا کہ ان حصے کے حوالے پڑھ لگز رجھے ہیں، یا بعض جگہ وہ روایت ذکر کر دیتے ہیں لیکن آخر میں اسی کی صحت کے متعلق باس طبری شک کا انہمار کر دیتے ہیں فاللہ اعلم بمحبت ذکر و ملعون روایات کو کمال کر اگر صفات کا شمار کی جعلتے تو یہ تکمیلہ صفات مزید کم پہ جلتے ہیں، اسی طرح ابن خلدون نے بھی کئی مقلولات پر روایات میں چنان میں کا اعتماد کیا ہے۔

نیز یہ پڑھتا یا جا چکا سمجھے کہ ابن کثیر نے مستعد جگہ ان تاریخی روایات کو جوہ دیجا ہے تھے اُن یہی امور کی امر و شی میں کیا ہے جن سے احکامی روایات میں تفصید کی جاتی ہے ان کے علاوہ اور بھی کئی اکابر علماء نے ایسا کیا ہے، مولانا کاظم طوہر فی الواقع میسم موتا تو اسے اب تک پیش اکھانا چاہیئے تھا اور ہمارے مخالفین کو انھی شرائط کو سامنے رکھ کر مار کر قابل فخر کارناموں کو ساقط الاعتبار قرار دے چکنا چاہیئے تھا، کیونکہ تاریخی روایات میں ان شرائط کا اعتماد اُج نہیں بلکہ صدیوں پہلے سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ موجودہ خطرہ واقعہ نہیں بن سکتا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ خطرہ یعنی سرے سے دور از کار ہے۔

نیز مولانا کا سیرت پاک کے متعلق یہ فرمائنا کہ اس طرح تو یہ بھی کمل طور پر مرتبت

نہیں کی جاسکتی، بل اگر اہ کون انسان نظر ہے، الحمد للہ سیرت پاک ان کذاب و مُتمم باریوں کو رہیں منت نہیں اس کا سرچشمہ تو قرآن اور احادیث صیحہ ہیں، ہماری انہوں زبان یہیں سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر شخص پاسانی اس بات کا انسانہ لگا سکتا ہے، فاضل سلیمان منصود پوری کی شہرۃ آفاق ۲ جلدیں میں "سرحدت لل تعالیٰ عین" بشیل شفافی اور سید سلیمان شادی کی مشترک کوشش کا ثمرہ، ضمیم جلدیں میں "سیرت النبی" قیام صدیقی کی دو جلدیں میں "محسن انسانیت" اس حقیقت کا منہ بولنا ثبوت ہیں، لہذا اس قسم کی باتیں کہہ کر یہ غلط تاثر دینا اپلیت ہے میں کہ گویا رہنمائی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلے مثال سیرت، اخلاقی و غاذیات، امزاج و کرم اور ازیز و همی، شوقی عبادت شیعوت و بہادری، دعوت و تبلیغ بودہ سخا، ترمی و قطفت، بہادری و مسامات اور آب کی دیگر انسانی عطییں اور بتوہن کے کار بستے نہیں ان تمام چیزوں کا ماغذ صرف یعنی کتب تاریخ و سیرت ہیں جن میں صحیح روایات کے ساتھ غیر صحیح، حق کے ساتھ باطل، صدق کے ساتھ غذب اور اصل و اقتضاء و حقائق کے ساتھ بسا نہ کی جیسا اثیزش ہے اور ہمیں سیرت پاک کے امتداد لا اندھاں فتوح کے متعلق یعنی اب تحقیق کرنی پڑتے گی کہ کہیں یہ سب کچھ ان مجرموں لا میہل کی قوبہ اختراء اور جذبات عقیقت دوجوں کا کوئی کہہ سکتے تو نہیں؟

کوش مولانا اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ ایک غلطی کو غلطی تسلیم کریں اس سے کہیں زیادہ ہلاک ہرم ہے کہ آدمی اس علمی کو صحیح باد کر کنے کے لئے اس سے بھی غلط فلسفیہ کا ارتکاب شروع کر دے۔

**محروم راوی کیا صرف حدیث میں متور ہے؟  
اگر کہ لکھتے ہیں :-**

" الخامس طور پر قادری اور سیف بن عمر اور ان جیسے دو سے  
ملکہ یوں کے متعلق ائمہ جماعت و تعلیم کے اقوال نقل کر کے ٹھے  
نہیں کے ساتھ یہ دعوے کیا جائے ہے کہ حدیث ہی نہیں تاریخ میں

بھی ان لوگوں کا کوئی بیان قابل قبول نہیں لیکن جن علماء کی کتابیں سے امیرجع  
و تقدیل کے یہ اقوال نقل کئے جلتے ہیں انہوں نے صرف حدیث کے متعلق  
میں ان لوگوں کی روایات کو رد کیا ہے" (دص ۳۱۸)

۱۔ اس سے پہلے بھی مولانا صاحب پر یہی بات نقل کرتے ہیں کہ انہم جیسا یاد نہ فتن  
فی السیوة والمعازی (سریت اور غریبات کے متعلق میں سب نے ان پر اعتماد کیا) لیکن نہ مولانا نے وہاں کسی محشش، مفسر یا فقیہہ کا حوالہ پیش کیا، نہیاں اس کا کوئی  
قابل ذکر ثبوت پیش کیا۔ البتہ مذکورہ خط کشیدہ عربی کا ایک فقرہ پہلے نقل کر کے یہ  
تاثر دینا چاہا ہے کہ عربی کا یہ قول کسی محدث یا مفسر یا فقیہہ کا ہی ہو گا جس سے  
میں نے مستدل کیا ہے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ عربی کی یہ عبارت  
اس مساعر الرجال اوس اصول حدیث کی کسی ایک کتاب سے بھی تکال کر نہیں دکھائی جاتی  
اب اس مغلظت کی حقیقت یعنی چو مولانا نے ان دونوں جگہوں پر دینے کی  
کوشش کی ہے اس سلسلے میں تین باتیں سمجھنے کے قابل ہیں، اس سے انشا عالیہ  
بات واضح ہو جاتے گی۔

اول یہ کہ "حدیث" کا لفظ ابتدائی چند صدیوں میں ایک عام لفظ تھا جس طرح  
رسول الکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر مدحیث "کا اطلاق ہوتا تھا، اسی طرح  
اُن روایات پر بھی "احادیث" کا لفظ بولا جاتا تھا جو غزوات اور تاریخی واقعیت  
پر مشتمل ہوتی تھیں، جس طرح جنگ اُمُّہ کی تفصیلات تلو فائدہ کے شاگردوں نے  
"احادیث" سے تعبیر کر کے کہا "حد شاہ حدیث کل سراجِ علیٰ حدة" میں ہر آنکھی

۲۔ ہمارے میک کی یہ وہی غلط ترجیحی ہے جس کا منظہر جگہ جگہ مولانا نے کیا ہے "ان کا کوئی  
بیان قابل قبول نہیں" سراسر غلط ہے ہمارا میک یہ ہے کہ ان کے جو بیانات قرآن احادیث  
کی تصریحات سے متصادم اور پاکیاز گر کو مکمل ہے جو ائمہ سے لوث گردانے ہیں ان میں نقد  
جس امدادیات کی ضرورت ہے:

کی حدیث (روایت) الگ الگا کر کے بیان کیجئے۔ تاریخی روایات سے حدیث "کائف" اتنا عام تھا کہ اس کا اندازہ طبری اور ابن کثیر کی تاریخ دیکھ کر یا سانی کیا جاسکتا ہے، جبکہ جلد آپ کو بیان واقعہ کا درہ اتنا ملے گا جو حدیث رسول کا ہے، کہ حدث شنا فلان، تال حدث شنا فلان مجھے یہ حدیث (تاریخی واقعہ) فلاں نے بیان کی، اُسے فلاں نے بیان کی وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ حدیث فلاں نے بیان کی، نیز بعض جلد طبری نے تاریخی واقعات بیان کرنے والوں کو "محمدین" کے لفظ سے بھی پکارا ہے بلطفہ حدیث کی اس عمومیت میں تخصیص بعد کے ادوار میں ہوتی آدمیہ لفظ قول و فعل رسول کے ساتھ خاص ہو گیا، اب امّہ رجال نے ان رادیوں کے متعلق جب یہ کہا کہ ضعیف فی الحدیث متروک فی الحدیث، یا تھم فی الحدیث، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان روایات میں ضعیف ہیں جن کا تعلق قول یا فعل رسول سے ہے بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ ان روایات میں ضعیف ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں چاہے وہ کسی نوع کی ہوں، تفسیر غضائل، مجازی کی ہوں یا تاریخ و سیر کی ہوں، تسلیم کیونکہ اس دور میں حدیث کا لفظ ان تمام نوع کی روایات پر بولا جاتا تھا اور ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ اس ان کے بیان کو اٹھا کر پہنیک ہی دیا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیانات میں چنان بھی اور تقصیع جرح کی ضرورت ہے۔

دوسرے اگر یہ تسلیم کریا جائے کہ محدثین نے ان پر جرح صرف احکامی روایات

۱۵- تاریخ بغداد الخطب، ج ۳- ص ۷

۱۶- الطبری، ج ۳- ص ۲۹۴

۱۷- بعض لوگوں نے داقدی تہ امیر المؤمنین فی الحدیث کہا ہے (میزان الاعتدال ج ۳- ص ۶۵) ظاہر ہے اس سے مراد وہ حدیث نہیں جو احکام و سنن اہل فرض سے متعلق ہیں، اس سے دھی تاریخ و سیر اور مجازی کی روایات مراد ہیں، جس میں داقدی یکاٹ روزگار ہے؛

میں کی ہے، تب بھی یہ بات محتاجِ دلیل ہے کہ ان کی دوسری روایات کیوں کرتے باقی قیمتیں؟ محمدین نے اپنے منتخب دائرہ کارکے مطابق صرف احکامی روایات میں چنان بنی اور تحقیق و استدلال کا اہتمام کیا، غیر احکامی روایات کی تحقیق و تفسیق کا انھیں موقع نہ ملا اور اس طرف انھوں نے خاص توجہ نہ کی، اس سے یہ استدلال کس طرح صحیح ہے کہ وہ

غیر احکامی روایات میں قابل اعتماد و ثقہ ہیں۔؟

جیسا کہ اس کی روایات میں دوسری روایات کے متعلق کہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، مثلاً آپ اپنے کسی کلیگ (رفیق کار) کے متعلق کہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، آپ کی اس جرح کا تعلق بظاہر اگرچہ اس کی دفتری زندگی سے متعلق ہے کیونکہ آپ کو اسی مقام پر اس سے ماسٹر ٹریننگ تھے اور وہاں کا تجربہ ہی اس جرح کا متقارنی ہوا، لیکن وہ شخص اگر اپنی خانگی زندگی میں بھی جھوٹا نہایت ہو، تو کیا آپ کی اس جرح اس مقام پر استعمال نہیں کی جاسکتی؟ کیا وہاں نہ کہ سبھی کی جاسکتی ہے کہ اس کو تو صرف اس کے احباب نے دفتری زندگی کے متعلق مضمون بالکل نسب کہا ہے، اس جرح کا تعلق اس کے دیگر احوال و اوقات سے نہیں ہے؟ اسی طرح ہم تسلیم کرئیں ہیں کہ بشیر محمد شین نے ان پر بوجرح کی ہے وہ احکامی احادیث سے متعلق ہے لیکن اس کے ساتھ یہ واقعیت بھی ذہن نہیں رکھی گئی کہ ان محمد شین کا موضوع ہی صرف احکامی احادیث تھا، اسی اعتبار سے انہوں نے جرح کی، اسی طرح جب ان کو غیر احکامی روایات میں پر کھا جائے گا اور وہاں بھی وہ اس حالت سے مختلف ثابت نہ ہوں جو وہ احکامی احادیث میں تھے، تو کوئی معقول و ممکن نہیں کہ محمد شین نے ان بجز اخلاقی کو وہاں استعمال نہ کیا جائے حققت یہ ہے کہ محمد شین کو بھی آگر ان کی دوسری روایات کے پر کھنے کا موقع ملتا تو یقیناً وہ یہی جرح ان کی دوسری روایات پر بھی کرتے، جس طرح کہ ان کے بعد بہت سے اکابر علماء نے ایسا کیا، جس کی وضاحت ہم کرائے ہیں۔

تیسرا چیز یہ ہے کہ ان مجرموں را میوں کے متعلق جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی حدیث میں ضعف کیا گیا ہے تاریخ وغیرہ میں ان کے بیانات

قابل اعتقاد ہیں، سوال یہ ہے کہ ان مجرود راویوں کا بیان کردہ تاریخی ذخیرہ روایات کے علاوہ کیا احکامی روایات کا بھی کوئی ذخیرہ ہے؟ کہ ہم محدثین کی جریح صرف احکامی روایات کے لئے خاص مان لیں اور تاریخی روایات ان سے مستثنے۔ قراردے دی جائیں، اُو اُقدی، سعیف بن عمر، ابو حنفۃ، ہشام الکلبی اور محمد بن ہشام وغیرہ کے بیان کردہ ذخیرہ روایات میں کیا احکامی احادیث کا کوئی ذخیرہ دُنیا کے پروردے پر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کی نشانہ ہی کی جائے تاکہ یہ سمجھا سکے کہ محدثین کی جریح صرف ان ہی روایات کے لئے ہے اور اگر ان کا بیان کردہ تمام ذخیرہ روایات کلیتہ غیر احکامی روایات پری مشتمل ہے، احکامی احادیث کا اس میں سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ائمہ رجال کی جریح ان کے اُسی ذخیرہ کے متعلق سمجھی جائے گی کہ جو وہ بیان کرتے ہیں، نہ کہ احکامی احادیث کے متعلق کہ جن کا وجود ہی ان کی روایات میں نہیں، اس تفصیل کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت تھا تو نہیں مدد جاتی تاہم امام جعفرؑ کے طور پر چنان یہے احوال بھی ذکر کر دیتے ہیں، جن میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہ مجرود راوی غیر احکامی روایات ہی میں ضعیف ہیں، احکامی احادیث میں تو سرے سے ان کا بیان کردہ کوئی قابل ذکر ذخیرہ ہی نہیں ہے۔

غیر احکامی روایات میں مجرود راویوں کے ضعف کی صراحت:-  
ابن تکیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اقاضی ابوبکر ابن العزیزی اور ابن حجر ہنفی کے اس طرزِ عمل کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ان اُنھوں نے ان راویوں کی تاریخی روایات میں تنقیدِ حدیث کے اصول استعمال کئے ہیں، ابن تیمیہ کی ایک ایسی عبارت بھی گذشتہ چکھی ہے جس میں اُنھوں نے ان راویوں کے ضعف کی صراحت کے لئے آئندہ جا سکے احوال بھی ذکر کئے ہیں، مزید احوال ملاحظہ فرمائیں۔

امام شافعی رجھتے ہیں:-

تَبَّ اللَّوَّاقِدِيُّ كَلَّا كَذَبَ، مَا قَدِيَ كَيْ تَأْمَلُوا لِي مِنْ بُهُوتٍ كُلُّ بُهُوتٍ كُلُّ بُهُوتٍ

ظاہر ہے واقعی کی تباہی احادیث پر مشتمل ہیں، تاریخ و سیرہ و مغازی پر ہی مشتمل ہیں اس کے باوجود امام شافعی اس کی تمام کتابوں کو بلا استثناء جھوٹ سے تعبیر کر رہے ہیں، اس میں کچھ حصہ اگر احکامی روایات کا ہے، تب بھی غیر احکامی روایات کا حصہ بھی امام شافعی کی تصریح کے مطابق غیر معتبر ہی قرار پاتا ہے۔

امام بخاری کے استاد علی بن حنبل کہتے ہیں : —

لَا إِسْنَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَا فِي الْأَنْسَابِ وَلَا فِي شَيْءٍ لَهُ  
میرے نزدیک فہمہ حدیث میں پسندید ہے، ان انساب میں تکسی او قسم کی فرایتیں  
امام بخاری کہتے ہیں : —

”سکتو عنده، ما عندی لحرف،“ محمد بن نے اس سے سکوت کیا ہے، میرے پاس اس کا ایک حرف بھی نہیں ہے ॥ ۲۷  
حافظ ذہبی کہتے ہیں : —

”وَاسْتَقْرِ الْجَمَاعُ عَلَى وَهْنِ الْوَاقْدِيِّ، وَاقْدِيُّ كَمْ فَرَاجَعَ  
ہو چکا ہے ॥ ۳۰

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں : —

”شیاشت کتب لیں لہا اصول وہی المغازی والتفسیر والملامح  
تین قسم کی تباہی بنتیا دیں، مغازی، تفسیر اور ملامح“ ۳۱  
حافظ ابن حجر امام احمد کا یہ قول نقل کر کے اس میں ایک قسم کا امر اضافہ کرنے ہیں اگر فنا کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے پھر اس چیز کی تصریح کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو بینایاد

۳۰۔ میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۴۴۳

۳۱۔ میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۴۶۵

۳۲۔ میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۴۶۵، تہذیب التہذیب، ج ۹، ص ۳۶۸

۳۳۔ سان المیزان، ج ۱، ص ۳۳، موضوعات، مذاہلی قاری، ص ۵۵۸

کیوں کہا گیا ہے؟ فرماتے ہیں :-

”میں کہتا ہوں ان تین قسم کی کتابوں کے ساتھ ”فضائل“ کی کتابوں کو بھی ملا لینا چاہیے، یہ چاروں قسم کی کتابیں ضعیف و موصوع روایات کا مرضیہ ہیں، اس لئے کہ معنائزی میں دیا دہ تراعتماد واقعی جیسوں پر ہے اور تفسیریں مقائل دلکشی جیسوں پر، اورہ ماعم میں اسرائیلیات پر، اور فضائل میں شمار نہیں کیا جا سکتا کہ روافضل نے اہل بیت کے فضائل میں کتنی روایات کھڑہ الی ہیں اور ان کے مقابلہ میں جملاء اہل سنت نے معادیہ و شیعیہ کے فضائل میں روایات گھٹنے کا اہتمام کیا۔“ لہ

اس عبارت میں واضح طور پر معنائزی کی روایات کو محض اس وجہ سے غیر معنیز اور بے بنیاد کہا گیا ہے کہ اس کا بیشتر اعتماد واقعی اور اس جیسے مجرور راویوں پر ہے طبقات ابن سخن اور الاستیعاب، ان دونوں تاریخ کی کتابوں کے متعدد محدثین کا یہ تصریح چلپے نقل کیا جا چکا ہے کہ ان کے تولفین نے واقعی اور اخباری قسم کے لوگوں کی روایات کو اپنی کتابوں میں درج کر کے، کتاب کی اسنادی حیثیت کو مجرور اور عیب نہ کر لیا ہے، ایسا مطبات اور الاستیعاب ”تاریخ کی تہیں احکام و مسائل کی کتابیں ہیں کہ ان کی جمع کردہ روایات پر محدثین کی جرأت کو صرف احکامی احادیث کے سلطنت قرار دیا جائے۔“

ان اقوال سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محدثین کے نزدیک مجرور راوی حدیث ہی میں نہیں بلکہ تفسیر، معنائزی، سینیزادہ تاریخ، ان تمام فرع کی روایات میں بھی ضعیف ہیں، یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں احکام و سنن کی روایات کے علماء ایک حصہ ان میں معنائزی کا بھی ہے لیکن محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں معنائزی کی کی روایات میں بھی ان مجرور راویوں کی کوئی روایت نہیں لی، بخاری کی کتاب المغازی ساری وکی

جائیتے آپ کو ایک روایت بھی واقعہ دیغیرہ کی نہیں لے گی، اگر محدثین کے نزدیک اقتدار دیغیرہ صرف حدیث میں ضعیف ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ انھوں نے معاذی دیغیرہ میں بھی ان راویوں کی روایات کو درخواست اعتماد نہ سمجھا؟

ایک طرف یہ کھلہ حقائق ہیں دوسرا طرف مولانا کا یہ بے بنیاد دعویٰ ہے کہ معاذی دیغیرہ میں ان کے بیانات ایسے قابل اعتماد ہیں کہ ان میں خیاط کی ادنیٰ سی خروج بھی نہیں۔

ہیں کو اکب پچھو، نظر آتے ہیں پچھو : دیتے ہیں دھوکہ یہ "اہل تحقیق کھلا استشہاد اور اعتماد میں یا ہمی فرق" :-

آگے مولانا فرماتے ہیں :-

"رہی تاریخ، معاذی اور سیر تو اٹھی علماء نے اپنی کتابیں میں جہاں کہیں ان میوضوعات پر لکھا ہے مہاں فہرست واقعات اہنگ لوگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں" (رس ۳۱۸)

ان لوگوں سے واقعات نقل کرنا ایک دوسرا چیز ہے اور انہیں مطلقاً قابل اعتماد سمجھنا شے دیگر، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کہ انھوں نے ان کی یہ تمام روایات اس نظر یہ کی بنابر قبول کی ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مجرور راوی معاذی دیغیرہ میں قابل اعتماد ہیں؟ اگر اس کا ثبوت ہیں تو ان کو غیر معتبر سمجھتے ہوئے یعنی متابعت اور شواہد کی حیثیت میں ان کے بیانات قبول کرنے سے فہرست اعتماد نہیں بن جاتے، متابعات و شواہد میں محدثین نے ضعیف راویوں کی روایات کو قبول کیا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم انجیل دریائیں کے دہ داقعات و تفصیلات قبول کر لیتے ہیں جن سے قرآن کی بیان کردہ چیزوں کی توضیح ہوتی ہے، جس طرح خود مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں جگہ جگہ یہ تفصیلات ان کتب محرّفہ سے نقل کی ہیں، کیا اس طرح کرنے سے اب ہمارے لئے ان کتابوں کے قابل اعتماد سمجھنا بھی ضروری ہے؟ اور ان کے دہ بیانات بھی ضعیف سمجھنے پڑیں گے جو قرآن کی تصریحیت سے متصاد ہیں؟

استشہاد اور اعتماد دو آنکھیں میں قرآن اور احادیث صحیح قابل اعتماد ہیں،

کیا مطلب؟ یعنی ان کی بیان کردہ سہیزیر صحیح اور قابل تسلیم ہے قطع نظر اس بات کے کہ ان  
باتوں کی صحت کے شواہد کہیں اور سے بھی فرام ہوتے ہیں یا نہیں؟ الگ دوسرے شواہد  
بھی اس کی تائید کرتے ہیں تو تھیک ہے دگر نہ اس کے بغیر بھی قرآن و احادیث صحیح کے  
بیان کردہ دلائل حقائق پر ہمارا اعتقاد ہے، لیکن وہ ۲ سالی مکابیں جو تحریفی تبدل  
کے لئے مراحل سے گزر چکی ہیں، جن میں بیان کردہ دلائل کی صحت کے متعلق اب ہم  
دٹوپ و قطعیت کے ساتھ کچھ ہنس کرہے سکتے، مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں  
بیسیوں جگہ ان صحیح سادی کے دلائل کو نقل کیا ہے، کیا مولانا کے اس طرز عمل سے  
اب یہ سب کتابیں مطلقاً قابل اعتماد تھیں جائیں گی؟ ظاہر ہے مولانا نے وہ دلائل  
ان کا بدل کو کلیتہ قابل اعتماد سمجھ کر نقل ہنس لئے ہیں بلکہ بطور استشہاد صرف وہ دلائل  
نقل کئے ہیں جن سے قرآن کے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے یا جہاں قرآن و حدیث  
خاموش ہیں، بطور استشہاد ان کے دلائل کو نقل کرنے کا مطلب ہم یہ نہیں لے سکتے  
کہ مولانا کے نزدیک یہ کتابیں پوری طرح قابل اعتماد ہیں، اسی طرح محمد بن معاذ نے  
جہاں کہیں مجرد راویوں کے بیانات قبول کئے ہیں وہ اس حیثیت سے قبول نہیں  
کئے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ مطلقاً قابل اعتماد ہیں اور دوسرے شواہد اس کی تائید  
کریں یا نہ کریں لیکن انہوں نے صرف انہی کے بیانات پر کسی مسئلے کی عمارت اٹھا  
ڈالی ہو، بلکہ ان کا اصل اعتماد تو دوسرے صحیح مواد پر ہے، ان کے بیانات بطور استشہاد  
ذکر کئے ہیں، یا ان کے بیان سے الگ کسی ابہام کی توضیح یا کسی اجمالی کی تفصیل ہتھیا ہوئی  
ہو، تو اس کو قبول کیا ہے، ان کے نزدیک ان راویوں کے وہ بیانات ہرگز قابل  
قبول نہیں جو قرآن و حدیث کی تصریحت اسے متصاد ہیں، جس طرح خود مولانا مودودی  
صاحب نے وہ روایات رد کر دی ہیں جن سے حضرت ملی منیر حرف آتا ہے کیونکہ قرآن نے  
صحابہ کرام کا جو کردہ بار بیان کیا ہے، اس سے یہ روایات شکا تی ہیں۔

آگے مولانا فرماتے ہیں،

”مثال کے طور پر حافظ ابن حجر کو دیکھئے جن کی ”تہذیب التہذیب“ سے

اممہ رجال کی یہ جو صیں نقل کی جاتی ہیں، وہ اپنی تاریخی تصنیفات ہی میں فہیں بکد اپنی شرح بخاری و فتح البیاری ہٹک میں جب غزوات اور تاریخی واقعات کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ واقعہ اور سیف بن عمر اور دیگر مجرموں را وادیوں کے بیانات بے تکلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ (ص ۳۱۸)

شیکھ ہے یہاں مولانا نسخہ بھی قیلیم کر دیا ہے کہ غزوات اور تاریخی واقعات کی تشریح کے ضمن میں ان کے بیانات بطور استشهاد ذکر کئے ہیں، واقعہ اور سیف بن عمر کے بیانات پر ابن حجر نے نبیاد نہیں لکھی ہے ان کی نبیاد (اعتماد) تو غزوات کی دو روایات ہیں جو امام بخاری نے ثقہ راویوں سے نقل کی ہیں، ابن حجر فتح البیاری میں صرف ان کی شرح کر تھی تھے ان مجرموں راویوں کے بیانات سے تو فتح مزید کا کام لے رہے ہیں، کیا اس کے بعد بھی ہماری بیان کردہ حقیقت میں کوئی شک ؟ جائماً،

”اسی طرح حافظ ابن کثیر اپنی کتاب الہدایۃ والہدایۃ میں خود ابو الحنفہ کی سخت مذمت کرتے ہیں اور پھر قوفی ابن حربی طبری کی تاریخ سے بہترت وہ واقعات بھی نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس کے حوالہ سے بیان کئے ہیں۔“ (ص ۳۱۸)

الہدایۃ تو تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ میں اگر ابو الحنفہ معتبر ہے تو تاریخ کی کتاب میں پھر اس کی سخت مذمت کرنے کا کیا مفہوم ہوا؟ ابن کثیر کے اس طرز عمل سے تو محلوم ہوتا ہے کہ وہ تاریخ میں بھی ابو الحنفہ کو غیر معین سمجھتے ہیں، اس کی تائید ان کے اس قول سے بھی ہو جاتی ہے جو انہوں نے واقعہ کر بلے سے متعلق کہا ہے کہ میرے نزدیک ان ہیں سے بعض چیزیں محل نظر ہیں الگ ابن حربی وغیرہ یہ چیزیں ذکر نہ کرتے تو اس بھی انہیں ذکر نہ کرنا لازم، حالانکہ کہ بلے کے بیشتر واقعات کاراوی یہی ابو الحنفہ ہے میکن اس پر بھی ابن کثیر کے شک کا اہماء کر دیا ہے، کیا اس کے بعد بھی یہ کہنے کی کوئی سمجھا جائے رہ جاتی ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک ابو الحنفہ تاریخ میں معین ہے؟

”اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے اکابر علماء نے ہمیشہ تاریخ اور حدیث کے درمیان واضح فرق محفوظ رکھا ہے اور ان دونوں کو غلط طبق کر کے وہ ایک چیز پر تفہید کے دو اصول استعمال نہیں کرتے جو درحقیقت وہ چیز کے لئے وضع کئے گئے ہیں“  
    (ص ۳۱۸ - ۳۱۹)

یہ غلط فہمی بلکہ مغالطہ انگلیز ہے، علم حدیث کے اکابر علماء نے کبھی حدیث و تاریخ کے ذمہ اس اندماز کا فرق نہ خود سمجھا، کہیں اس کی مصاحت کی، بلکہ امام احمد، امام شافعی، امام بخاری، امام علی بن مدينی، حافظ ابن حجر، فاضل ابو بکر ابن القاسمی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن حجر العسکری، حافظ فہمی، امام نووی، حافظ ابن الصلاح، امام صنعاۃ صاحب توضیح الافکار، صاحب فتح المغیث، حافظ جلال الدین سیوطی نواب صدیق حسن خان اور قاضی ابوالولید باجی وغیرہم علم حدیث کے ان تمام اکابر علماء کے اقوال و افعال سے ہم ثابت کرائے ہیں کہ ان کے نزدیک اسماء الرّجال کے اصول جس طرح احکامی روایات میں استعمال کئے جاتے ہیں، غیر احکامی روایات میں بھی ان کا استعمال اسی طرح جائز بلکہ صحیح کرام سے متعلق تاریخی روایات میں ضروری ہے اس لحاظ سے ان کے یہاں احکامی وغیر احکامی روایات میں ان کچھ فرق ہے نہ ان پر تنقید کے اصول جدا جدا، فرق جو کچھ ہے وہ صرف یہ ہے کہ احکامی روایات میں محدثین نے پوری سختی بر قی ہے، غیر احکامی روایات میں بوجوہ وہ سختی نہیں بر قی، اس کے علاوہ ان کے یہاں ان کے مابین کوئی فرق نہیں۔

غیر احکامی روایات میں حوالہ کا طرز عمل رہا اس کو اگر اصولی چیز دے کر یہ کہا جائے کہ ان کا طرز عمل تھا کہ اس اصول پر بنی کہ وہ احکامی روایات پر تنقید کے اصول، غیر احکامی روایات میں استعمال کرنا ہی تا جائز اور ایک چیز کا غلط استعمال سمجھتے تھے، تو پھر اس طرح تاریخی ذخیرہ روایات ہی معتبر اور تنقید سے بالا نہیں سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ تنقید، مناقب، نزہہ و اخلاق، ثواب و حساب اور تہ غیب و تہ ہمیں پرستیل وہ تمام غلط و صیغح اور سطب ویاں ذخیرہ روایات بھی

مطلقًا صحیح سمجھنا پڑے گا جو خود علمتے اہل سنت کی معتبر تفاسیر اور کتابوں میں موجود ہے، کیونکہ ان کے متعلق بھی محدثین کا وہی طرز عمل رہا ہے جو تاریخی روایات کے متعلق رہا ہے، کیا مولانا اس کے متعلق کوئی دضاحت فرمائی شکے؟

”یہ طرز عمل صرف محدثین ہی کا نہیں اکابر فقیہوں تک کا ہے جو روایات کو قبول کرنے میں احمدی نزیادہ سختی یہ تھے ہی۔ مثال کے طور پر امام شافعی ایک طرف اقری کو سخت لذاب کہتے ہیں اور دوسرا طرف کتاب الام میں غرروں کی متعلق اس کی روایات سے استدلال بھی کرتے ہیں“ (ص ۳۱۹)

ہم دضاحت کر رہے ہیں کہ محدثین تو کیا کسی ایک ”محثثہ“ کا بھی یہ طرز عمل نہیں، ابن حجر اور ابن کثیر ان دو حضرات کے متعلق مولانا نے جو کچھ بادر کرنا چاہا ہے وہ سراسر غلط بیان ہے، ان دونوں حضرات نے واضح طور پر غیر احکامی روایات پر تنقید کے اصول استعمال کئے ہیں، بلکہ ابن حجر نے تو مغانی کی روایات کو محض ای وجہ سے غیر معتبر قرار دیا ہے کہ اس کا بیشتر اعتماد واقعی جیسے ضعیف و مجروح راویوں پر ہے۔ ۱۵

اسی طرح یہ دعوے بھی غلط ہے کہ اکابر فقیہاء کا بھی یہی طرز عمل ہے، مولانا نے کسی ایک فقیہہ کا نام بھی نہیں پیش کر سکتے جس نے حدیث و تاییخ کے درمیان اس نوع کا فرق رکھا ہوا، امام شافعیؒ کا جو حوالہ مولانا نے دیا ہے ان کے متعلق خود مولانا کو بھی اعتراف ہے کہ امام شافعیؒ واقعی کو سخت لذاب کہتے ہیں، اور ہم بھی پہلے دیتنا کر رہے ہیں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک واقعی کی سب تباہیں جھوٹ پالپندا ہیں، ان نے اس قول سے ان کے طرز عمل کی نوعیت خود واضح ہو کر سامنے آجائی ہے کہ انہوں نے غرروں کے متعلق واقعی کی صرف اُنہے روایات لی ہیں جن کی تائید میں دوسرا صحیح مواد موجود ہے یا جن سے بعض بھی داععات کی توضیح و تفصیل ہوتی ہے انہوں نے واقعی

کی روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے خلاف اذیمات کا دھوکہ کھڑا ہے کیا ہے  
جس کی سعادت مولانا کو عاصل ہوتی ہے۔  
تضاد یا اعتراف شکست ہے۔

مولانا کے پچھے بیانات سے آپ نے اندازہ لکھا ہوا گہ مولانا اس بات پر رد دیتے  
رسے ہیں کہ کتب قواریخ میں مجرم و کذب راویوں کے جوابیات ہیں وہ سب قابل  
اعتماد ہیں، ان میں چنان میں کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح قرآن اول کی تاریخ کا ہے  
حصہ غیر معتبر قرار پا جاتے ہیں، نیز علم حدیث کے اکابر علماء اور اکابر فقہاء سبھے ان کذباً  
راویوں کے بیانات کو قبول کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ کذب اور صرف حدیث پر تقدیم کے  
ہیں، تاریخ و معاشری میں معتبر اور ثقہ ہیں اور وہ اسماع الہ تعالیٰ اور حدیث پر تقدیم کے  
اصول کا استعمال تاریخی روایات میں صحیح نہیں سمجھتے، مولانا کے اس پورے سے استدلال کے  
جواب میں ہم نے جو کچھ گذارشات پیش کی ہیں، انہیں ایک مرتبہ پھر پڑھ کر مستحضر کر لیں  
اور اس کے بعد مولانا کا اگلا بیان پڑھیں اور ایمان داری سے فیصلہ کریں کہ مولانا کا یہ یہاں  
خود مولانا کے پچھے موقف کی صریح چیزیں دتر دیدا اور ہمارے موقف کی تائید تصدیق  
کرتا ہے یا نہیں؟ پڑھنے کے بعد آپ اس کو تضاد بیانی کہہ لیجئے یا اعتراف شکست  
بہر حال اس سے یہ بات درود واضح ہو جاتی ہے کہ آدمی ایک غلط چیز کو صحیح باور کرنا  
کہ لئے جتنے چاہئے ہا تم پیر ما رسے مگر فہ کبھی اس سی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور  
اعترافِ حقیقت کئے بغیر حارہ نہیں رہتا، چنانچہ مولانا لکھتے ہیں ہے۔

”اس کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ یہ لوگ ان مجرم و کاذبیوں کے تمام بیانات آنکھیں  
بند کر کے قبول کرتے چلے گئے ہیں، وصال افہمن نے ان لوگوں کے تمام بیانات کو  
رد کیا۔ بعد از نہ سب کو قبول کیا ہے، وہ ان میں چھانٹ چھانٹ کر صرف وہ  
چیزیں لیتے ہیں جو ان کے نزدیک لعل کرنے کے قابل ہو تو ہیں، جن کی تائید میں یہ بتا  
دوسرًا تاریخی مذاہبی ان کے سامنے ہوتا ہے اور جن میں سلسلہ ماقعات کے  
سامنے مبنی بھی پائی جاتی ہے۔“ (ص ۳۱۹)

اول تو یہ دعویٰ کہ مورخین نے چھانٹ چھانٹ کر ان کے صرف دہی بیانات لئے ہیں جو  
عقل کرنے کے قابل تھے یکسر غیر صحیح اور خلاف واقعہ ہے ثانیاً احتوڑی ویر کے لئے مان لیا جائے  
گراہنؤں نے یہ اکیات بھی ہل طلب باتیہ ہے کہ مولانا نقاش سے قبل تک یہ باور کرتے آئے ہیں کہ ان کے  
تمام بیانات کو وجہ آسانی کی طرح صحیح سمجھو ورنہ بصیرت دیگر تائیخ اسلام برپا دہو کر رہ جائیکی  
سوال یہ ہے کہ اگر محدثین و فقہاء کے نزدیک یہ مجرم و حرام احکامی روایات  
میں معترض تھے تو پھر انہوں نے ان کے بیانات چھانٹ چھانٹ کی ہی کیوں لئے۔ اور  
ان کے صرف دہی بیانات کیوں قبول کئے جن کی تائی میں بہت سادہ سرا نام بخی مولاد بھی موجود  
تفا؟ ان کے ہر طرح کے تمام رطب و میاس بیانات پھان بن کے بغیر کیوں نہ قبول کئے؟

جس طرح مولانا مودودی صاحب نے "خلافت دلوکیت" میں کیا ہے۔

اب ہم محدثین و فقہاء کے اس طرزِ عمل کو صحیح سمجھیں جس کا مولانا نے اب اعتراف کیا ہے  
اور اس سے بیٹھے ان کے اس طرزِ عمل کی ہم بھی وضاحت کرائے ہیں ما مولانا کے ان پچھلے  
فرموداں کو صحیح سمجھیں جس میں اس کے بالکل علیس محدثین و فقہاء کے ایک دوسرے طرزِ عمل کی وضاحت  
کر کے مولانا نے کہ اب مجرم و حرام کے نام بیانات کو آنکھیں بنت کر کے قبول کرنے پر زور دیا ہے  
اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں :-

دوسرا لئے کوئی سبقی و جز نہیں ہے کہ ابن سعد، ابن عبدالبر، ابن کثیر، ابن حجر  
ابن حجر اور ان جیسے دوسرے ثقہ علماء نے اپنی کتابوں میں جو حالات مجرم و  
راویوں سے نقل کئے ہیں انہیں رد کر دیا جاتے، یا جو یا تین ضحیف یا منقطع سنوں سے  
لی ہیں، یا بلاستند بیان کی ہیں ان کے متعلق یہ ناسے قائم کر لی جاتے گرد بالکل بے روپا  
ہیں، محض گپ ہیں اور انھیں میں اُنمٹا کر پھینک ہی دینا چاہیے ॥ (ص ۳۱۹)

بالکل بجا فرمایا کہ ان کے تمام بیانات کو محض گپ سمجھ کر پھینک ہی دینا ہیں چاہیے، ہمارا  
توقف بھی یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیان صحیح رہی نہیں ہے، ہمارا نظر یہ صرف یہ ہے کہ  
ان کے بیانات میں کمی جگہوں پر جھوٹ یا سُبَالغہ کی آمیزش پائی جاتی ہے ان کے  
بیانات سے استفادہ کرتے وقت یہ حقیقت لمحظہ رکھنے کرہے کہ.....

ان کے بیانات میں پہلے تقدیم و تحقیق کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بعد اس پر استدلال اور استناد کی عمارت اٹھائی چاہیے۔ لیکن اگر اس سے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اب کسی بیان کو بھی رد نہیں کیا جاسکتا تو پھر کیا وجہ ہے کہ خود مولانا ان کی بیان کردہ وہ رد ایسا قبول کرنے کو تیار نہیں جن سے حضرت علیؑ و حضرت حسینؑ کا کردار داع و دار نظر آتا ہے یہ فلسفہ طرازیِ تحقق حضرت عثمانؓ و حضرت معاویہؓ و عمر بن العاص و غیرہمؓ سے متعلقہ تاریخی مواد کے لئے ہی کیوں ہے؟ اس کا استعمال پھر حضرت علیؑ و حضرت حسینؓ کے لئے کیوں نہیں کیا جاسکتا؟

### عباسی پر دیگر سے کی حقیقت و توعیت :-

اس نے مولانا نے اس تاریخی حقیقت پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ کتب تواریخ میں پھجھو حصہ ایسا بھی ہے جس پر عیاشی دوڑ کے سیاسی دھرمی اثرات کی چھاب نمایاں ہے، اس مقام پر بھی مولانا نے حقیقی دلائل دینے کی بجائے ہمارے سلسلہ کو غلط انداز میں پیش کر کے اپنے استدلال کی ساری عمارت اس پر کھو دی ہے لکھتے ہیں:-

”آج کل یہ خیال بھی ہے زور شور کے ساتھ میش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تاریخ نویسی عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی تھی، اس لئے جو تاریخیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں وہ سب اس بھوٹے پوچینڈ سے سے بھر گئیں جو بنی عباس نے اپنے دشمنیوں کے خلاف بس پاک رکھا تھا، لیکن اگر یہ دعوےٰ صحیح ہے تو آخر اس بات کی بیان توجیہ کی جاسکتی ہے کہ انہی تاریخوں میں ہی امیہ کے وہ شان دار کارنامے بھی بیان ہوتے ہیں جنہیں یہ حضرات فخر کے ساتھ نقل کرتے ہیں جو امراضی میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی بہترین سیر کا بھی

لہ نیان و بیان کے تیور ملا خطہ ہوں، گویا کتب تواریخ سے اسلاف کے عیوب نقائص کو وہ نہ ڈھونڈنے کا لانا تو یعنی دین کی خدمت، اور ان کے شاندار کارناموں کو نقل کیا کوئی جو ہم ہے جس کیلئے مولانا ناطقہ یہ انداز میں فرو رہے ہیں مذکور یہ حضرات فخر کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔۔۔ فخر کے ساتھ نہیں تو کیا اشرماتے ہوتے نقل کریں کہ ان سے یہ شاندار کارنامے کیوں سرزد ہو گئے؟

مفصل ذکر ملتا ہے جو بنی امیہ ہی میں سے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہی رینوں میں بنی عباس کے بھی بہت سے عیوب اور نظام بیان کئے گئے ہیں کیا یہ ساری خبریں بھی بنی عباس نے خود پھیلائی ہیں ॥ (ص ۳۲۰-۳۲۹)

اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارا نقطہ نظر محضر لفظوں میں سمجھ لیجئے۔

— تایخ توسيٰ کا آغاز دورِ عباسی میں ہوا، مُسلَّه حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا

— سچی دُہ رادی یعنی واقعات بیان کرتے ہیں، عباسی خلفاء کے دباروں نے تعلق

ان کے مہنگیں اور ان کی عنایاتِ خصوصی کے مورد ہے جیسے واقعہ یہ اور کلبی وغیرہ ہیں،

بلکہ مورخین میں سے بھی بعض کو ہم اس زمرہ میں شمار کر سکتے ہیں، جیسے انساب الاشراف کا

مضف، بلاذری ہے، اس سے بھی کسی کو مجال انکار نہیں۔

— ہر صاحب اقتدار کی یہ فطرت ہے کہ اپنے عیوب بہنگی دھاننے کے لئے، بجائے

اپنی اصلاح کے دُہ اپنے پیش روں کے کپڑے اتار کر انہیں بدہنہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے

اور اپنے ظلم و ستم کی کارروائیوں کو سنیدھان دینے یا حکم ازکم انہیں لوگوں کی نظر وہیں ہیں لہکا

دھکانے کے لئے اپنے پیشوؤصحاب اقتدار کو ظلام اور پیکر جزو و شندہ باور کرانے کی

کوشش کرتا ہے گویا اُسے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے سمجھے اُولین قدم یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ پہلے

دوسروں کی تدا منی کو ثابت کیا جائے، اس حقیقت کا ہر دوسریں مشاہدہ کر سکتے ہیں، خود پاک کا

میں دو مايلی کے ارباب بست و کشاد کے نکل دنفر سے اپ بآسانی اس چیز کا اندازہ لے سکتے ہیں

— ان مذکورہ تین حقیقوں کے ساتھ، چوتھی حقیقت یہ بھی یاد کھیں کہ ہر دوسریں علماء

حق نے دوباروں سے کہت کہ اور دُنیاوی آسا شمول کو توج کر، بوری نشانی اور فقر و فاقہ کی

زندگی پسند کر کے ہمیشہ حق کی آفاز لیند اور علم کی خدمت کی ہے۔ فرم جهم اللہ

وہ مذکورہ مورخین جن کی کتابوں سے مولانا نے استفادہ کیا ہے، وہ اسی تصریحۃ التقدیع

دا صفیاء عیین شامل ہیں ان میں سے جو حضرات دو رہنما میں ہوئے، عباسی خلفاء اور لک

کے دوباروں سے قطعاً دوسرے ہے، اس لئے ان پہنچ عباسیوں کی حمایت کا اگر الزام عامہ کیا جائے تو

یہ ان پہنچا ہی ظلم ہوگا، البتہ یہ بات خلاف واقعہ نہیں کہ ان حضرات نے تایخِ انکاری

میں جو غیر جانبِ دارالنہ طرز عمل اور چنان بنی کے بغیر رہایتِ جمع کرنے کا اہتمام کیا، ان کے اس عمل کی وجہ سے عباسی درباروں کے بعض حاشیہ نشین، داقدی مکتبی جیسے رادیوں کے بہت سے فہرست بھی ان کی کتابوں میں جمع ہو گئے جن میں کذب و مبالغہ کی آئینہ شاید یا جن پر ان کے مخصوص ذہنی و سیاسی رہنمائیات کی چھاپ نہیاں ہے، لہ

لہ۔ ان حقائق سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، تمام حضرات نے تسلیم کرتے ہیں تفصیل کے لئے لاطخہ ہدفیُ الاسلام، احمد امین مصری — ص ۲۵ — اسنٹہ و مکانہ تا فی التشريع الاسلامی، مصطفیٰ اسماعیل مرحوم، ص ۵۰۰-۳۵، مکتبہ دارالعروۃ بصر، تعلیقات العوام من القوام ص ۱۱، تاریخ الامت، اسلام جیراج پوری، ج ۳، ص ۱۶، مکتبہ جامعہ دہلی۔

سیر الصحابہ، ج ۱۶، ص ۹۳-۹۴، دارالمصنفین عظیم گدھ۔ خود مولانا نے لائلہ میں بنی امیہ اور بنی عباس کی کش کش اور اس کے جو حزبی اثرات اسلامی ذخیرہ رہایات پر پڑے اُسے تسلیم کیا ہے، چنانچہ مولانا مسئلہ طہوریہ بدی سے متعلق روایات کے متعلق لکھتے ہیں :-

....جن کے سامنے بنی فاطمہ اور بنی عباس اور بنی امیہ کی کش کش کی پوری تاریخ ہے اور دُہ صریح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کش کش کے فرقیوں میں سے ہر ایک کے حق میں متعدد روایات موجود ہیں اور رادیوں میں سے بھی اکثر دوستی دُہ لوگ ہیں جن کا ایک ناکیہ فرقی سے کھلا ہوا تعلق رکھا، ان کے لئے یہ بہت شکل ہے کہ ان روایات کی ساری تفصیلات کو صحیح تسلیم کر لیں" (رسائل وسائل، حصہ اول، ص ۶۱، طبع سال ۱۴۰۷ھ)

یہ تو مولانا کے نزدیک ان روایات کا حال ہے جو خود کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں، ملا ہر ہے جب مولانا کے نزدیک سیاسی کش کش کا اثر بعض حدیثوں میں بھی دافع ہو گیا تو تاریخ میں اس کے اثرات سے کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص جب کہ کتب تواریخ میں چنان بنی اور سنا دو تحقیق کا دُہ اہتمام بھی نہیں ہوا جو روایات حدیث میں ہوا ہے

یہ ہے ہمارا نقطہ نظر اور حقیقی صورت حال، اس کے بعد مولانا کے مذکورہ بیان میں خط کشیدہ عبارت پڑھ کے اندازہ لگائیتے کہ ہمارے اس نقطہ نظر کو کس طرح منع کر کے اس پر کمی سوالات داغ دیئے گئے ہیں۔ مولانا نے ہمارا نقطہ نظر اس طرح بیان کیا ہے:-

”جتو ماریخیں اس نامے میں لکھی گئیں وہ سب اس جھوٹے پر دیگنڈہ سے بھریں“

اس کے بعد مولانا پوچھتے ہیں کہ یہ دعویٰ صحیح ہے تو یہ امیہ کے شاندار کارنالے، عمر بن عبد العزیز کی بہترین سیرت اور خود عبادیوں کے مظالم کی تفصیلات ان کتابوں میں کیوں ملی ہیں؟ حالانکہ یہ سوالات جن مفرضے پر اٹھائے گئے ہیں، دی سرے سے غلط ہے، ایک دعوے ہے کہ ان کے پر دیگنڈہ کے بعض اثرات ہماری تاریخ کی کتابوں میں جمع ہو گئے ہیں۔ دوسرا دعویٰ ہے، کہ ان کے جھوٹے پر دیگنڈہ سے ہے ساری تاریخیں بھرگیں، یعنی تمام تاریخوں میں سوائے جھوٹے پر دیگنڈہ کے اور کچھ ہے ہی نہیں، ان دونوں دعوؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دوسرا دعویٰ یہ شخص کرے اس پر مفردی ہے کہ وہ مولانا کے اٹھائے ہوئے سوالات کی دضاحت کرے، ہمارا نقطہ نظر پہلے دعوے پر یہی ہے اور اس پر یہ سوالات دارد ہی نہیں ہوتے، لیونکہ ہمارے نزدیک ان مؤرخین نے ہر طرح کاتاریخی ذخیرہ غیر جانب داری کے ساتھ جمع کر دیا ہے، اس میں صحیح بھی ہے اور غلط بھی، اس میں یہی امیہ کے معاملات کے ساتھ ان کے کارنالے بھی میں خود عبادیوں کے متعلق بھی ان تاریخوں میں تصویر کے دونوں پہلو موجود ہیں۔

مولانا مودودی کا ایک اپھوٹا فلسفہ :-

ہمارے پچھلے باشتر علماء، مشايخ اصحاب پر لکھتے ہوئے بہت کچھ تالیک کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف میں اس موضوع پر بہت کم موارد ملتا ہے، البتہ بعض حضرات نے صدر اس موضوع پر اس وقت خاصہ فرمائی گئی ہے جب صحابہ کرام پر شیدہ حضرات کی طرف سے شدید نوعیت کے الزامات لگائے گئے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک غالی شیعہ کو میں پاراضخیم جلدی میں ”منہاج السنۃ“ تحریر فرمائی شاہ عبد العزیز نے ”تحفہ اثنا عشریہ“ اور قاضی ابو بکر ابن العربي نے ”العواصم من القواعم“ جیسی بنیظر

کتاب تحریریہ فرمائی، ان بزرگوں نے شیعیت کے تمام تواریخ پودبھر کر رکھ دتے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کی طرف سے ایسا پڑ زور دفاع کیا ہے کہ شاید و باید، بالخصوص شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی «منہاج السنۃ» تو اس موضوع پر ایک مینارہ نور ہے جس سے قیامت تک صحابہ کرام کی طرف سے مدافعت کا نیک فرضیہ سراجیم دینے والے حضرات الکتاب پر نور کرتے رہیں گے، ان بزرگ حضرات کی یہ کوششیں دین کی ایک بہت بڑی خدمت اور پوری امت مسلمہ پر ایک احسان عظیم اور ان کے لئے ایک نمونہ ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب نے مذکورہ بزرگوں کی ان جیل اشان خدمات کا جس انداز سے ذکر فرمایا ہے اس سے یہ متوجه ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے صحابہ کرام کی طرف سے مدافعت کا جو فرضیہ سراجیم دیا ہے وہ کوئی دین کی ایسی خدمت نہیں ہے جس پر ان کی تحسین کی جائے یا انھیں ان کی خدمات کی بنا پر خواجہ عقیدت پیش کیا جائے، اس سلسلے میں مولانا نے جو گوہرا فتناتی فرمائی ہے وہ انتہائی افسوس کا ہے، ایسا کہ کسے مولانا نے ان سے انصاف نہیں، ان پر سخت نظر ہے، چنانچہ مولانا لکھتے ہیں :-

«میں نے قاضی بولیکر ابن المغری کی المعاصم من القواسم، امام ابن تیمیہ کی منہاج السنۃ اور حضرت شاہ عبدالعزیزی کی تحفۃ الشاعریہ پر انحصار کیوں نہ کیا، میں ان بزرگوں کا نہایت عقیدہ تمدن ہوں، امریہ بات میرے حاشیہ عیال میں بھی کبھی نہیں آئی یہ لوگ اپنی ویانت و امانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن جن وہ میں میں نے ان پر انحصار کرنے کے سجائے براہ راست میں آخذ سے خود تحقیق کرنے اور اپنی آزاد امداد رائے قائم کرنے کا راست اختریاً کیا ہو یہ یہ کہ ان تینوں حضرات نے وہ میں اپنی تاریخ کی جیشیت سے بیان و ادعات کے لئے نہیں بلکہ شیعوں کے شیعہ ائمماں اور ائمماں کی افراط و تفریط کے تدبیں لکھی ہیں جس کی وجہ سے علام ان کی جیشیت اور کیلیں صفاتی گی اسی ہو گئی ہے، اور وکالت، خلاف و الریام کی ہو یا صفاتی کی، اس کی عین نظرت یہ ہوتی ہے کہ اسیں آدمی اُسی میاودگی مٹا

رجوع ہمیت ہے جس سے اس کا مقدمہ مفبوض ہوتا ہوا اس مواد کو نظر انداز کر دیتا ہے، جس سے اس کا مقدمہ مکروہ ہو جاتے، خصوصیت کے ساتھ اس معاملہ میں قاضی ابو بکر توحید سے گذرنے کے ہیں جس سے کوئی ایسا شخص اچھا انہیں لے سکتا جس نے خوبی ہمیتی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو۔ (ص ۳۲۰)

مولانا کی اس نرالی منطق کا دوسرا سرے لفظوں میں یہ مفہوم ہو اگر اسلاف کے پورے ذخیرہ علمی کو جانچنے کے لئے، کہ وہ صحیح ہے یا غلط، قرآن و حدیث میاں نہیں بلکہ اصل معيار یہ دیکھنا ہے کہ ان علماء نے یہ تباہی فرق باطل کے روئیں بطور منفی لکھی ہیں یا از خود بطور اثبات لکھی ہیں، اگر وہ باطل کے روئیں لکھی گئی ہیں تو گویا انہوں نے حق کی دکالت کی ہے، اب ایسی تصنیفات میں یہ نہیں دیکھا جلتے تھا کہ ان کا مواد قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں بلکہ محض اس بنا پر کہ انہوں نے باطل کے شدید الیزامات کے جواب میں حق کی دکالت کی ہے اور دکالت کی یہ عین فطرت ہے کہ اس میں آدمی اُسی مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مفبوض ہوتا ہے اور اس مواد کو نظر انداز کر دیتا ہے جس سے اس کا مقدمہ مکروہ ہو جائے، اس لئے ان علماء کی تمام ایسی تصنیفات کو نظر انداز کر دیا جائیگا چاہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوں۔

مولانا اپنے اس استدلال کی سطحیت پر ذرا بھی غور فرمائیتے تو ایسی بات کمبھی نہ کہتے واضح بات ہے کہ ہمارے لئے اصل معيار قرآن و حدیث ہیں جو حقائق اس کے مطابق ہوں گے چاہے ان کا اثبات کسی گمراہ فرقے کے شدید الیزامات کا جواب دیتے ہوئے کیا گیا ہو، کسی کی دکالت کرتے ہوئے کیا گیا ہو یا کسی اور طریقے سے، ان چیزوں سے اصل حقائق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مولانا نہ کہ رہ بن رگوں کے متعلق اگر یہ ثابت کرتے کہ وہ باطل کا رد کرتے ہوئے خود بھی باطل کا شکار ہو گئے اور قرآن و حدیث سے دو رنگل سئے پھر تو ان کی تصنیفات کو رد کرنے کی معقول وجہ تھی لیکن جب واقعہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس موضوع پر قرآن و احادیث صحیح کو ہی تمام تر مدارد لیں بنایا ہے تو اس لغو اصول کی روئے ہم کیوں کٹا نہیں گرد़نے والی قرار دے سکتے ہیں؟

پھر اس لغواصول کو ذرا اور وسعت دے کر دیکھئے گے کہ اس طرح امام ابن تیمیہ کا وہ تم  
 ذخیرہ علمی، دفتر بے معنی ہو کر رہ جائے گا، جو ہمارے لئے نایا افتخار اور وراثت اسلام  
 کا بلش قیمت سرمایہ ہے، امام ابن تیمیہ کی بیشتر تالیفات اسی اندان کی ہیں کہ ان میں اثبات  
 کی وجہ سے منفی پہلو غالب ہے لیکن وہ الشرگارہ فرقوں کے رد میں لکھی گئی ہیں، آجواب  
 ایضًا عمن یدلی دین المیسح، عیسائیوں کے اڑامات اور ان کی افراط و تفریط کے  
 رد میں لکھی گئی ہے، اردو المتنطقین اور اس موضوع پر دوسری اور کتابیں، فلاسفہ  
 و متكلمین کے رد میں لکھی گئی ہیں، اقتضاء المصراط المستقیم، کتاب التوسل بغیر  
 پرستار ان شرک دیدعت تکے رد میں لکھی گئی ہیں، اسی طرح ان کی دیگر تالیفات  
 ہیں جو دوسرے سے گمراہ فرقہ جہنمہ، قدسیہ، اور معتبر لہ وغیرہ کے اذامات اور ان کی  
 افراط و تفریط کے رد میں لکھی گئی ہیں کیا یہ سارا بیش قیمت ذخیرہ ہم حاضر اس بناء  
 ناقابلِ متعال قرار دیں گے کہ یہ تمام کتابیں یا حل کے رد میں جو کی دکالت کرنے ہوئے لکھی گئی ہیں؟  
 اس اصول کو مزید وسعت دے کر خود مولانا مورودی صاحب کی تالیفات  
 پر ذرا ایک تفڑا لکھے، مولانا کی اپناد فی الاسلام مستشرقین کے ان اذامات کے رد  
 میں لکھی گئی ہے جو انہوں نے اسلام کے نظریہ جہاد پر کئے ہیں، مولانا کی کتاب ہسودا  
 اور "اصنام اور حدید معاشری نظریات" ان ماہرین اقتصادیات کے جواب میں لکھی گئی  
 ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نئے موجودہ سودی نظام کے بغیر موجودہ دوسریں اقتصادیات کا دسائچہ  
 نہیں کیا جاسکتا، تتفحیات اور پردہ دعیرہ مغربی تہذیب کے رد، اور اسلام کی  
 دکالت میں لکھی گئی ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم صرف اسی اصول کی رو سے مولانا  
 کی ان دینی اور مسخن کوششوں پر خط تیخ پھیر دیں؟ اور سب سے بڑھ کر مولانا کی  
 نیز بحث کتاب "خلافت و ملوکیت" کی مثال ہے۔ اس کے متعلق مولانا نہ واضع  
 طور پر صراحت کی ہے کہ میں نے یہ کتاب اس لئے لکھی ہے کہ مغربی مستشرقین اور  
 غیر معتقد لذین وزراج رکھنے والے مصنفوں، اسلامی تاریخ، اسلامی نظام زندگی  
 اور اسلام کے تصور خلافت کو منع کر رہے ہیں، اگر یا مولانا نے یہ کتاب ایک نقطہ نظر کی

تر دید کرتے ہوئے ایک دُوسرے نقطہ نظر کی دکالت کرتے ہوئے تھی ہے، اور دکالت کی جو نظرت مولانا نے بیان کی ہے، وہ مذکورہ علماء کے انداز بیان میں کس حد تک پائی جاتی ہے، یہ چیز پھر ہمی محل بحث ہے، لیکن مولانا نے اپنے نقطہ نظر کی دکالت میں سوفی صدی اسی دکالت کا مظاہرہ کیا ہے جس کا الزام اُنہوں نے دُوسری پردھرنے کی نہ موم کو شش کی ہے، مولانا نے کمزور سے کمزور سہارا بھی حض اس لئے قبول کر لیا ہے کہ اس سے ان کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ صحیح مواد، جس سے مولانا کا مقبہ کمزور ہوتا ہے، مولانا نے نظر انداز کر دیا ہے، اس اصول کی رو سے "خلافت و ملوکیت" آپ سے آپ پایہ اعتبار سے گردھاتی ہے۔

مزید بہ آں مولانا نے ان مذکورہ بزرگوں پر توبیہ الزام بڑی آسانی کے ساتھ عائد کر دیا ہے کہ شیعوں کی افراط و تفریط کے مقابلے میں ان کے اندر بھی جانشیاری کا پہلو آگیا، لیکن مولانا کو اپنا خیال نہیں کہ دعویٰ تو میں نے "ازادۃ تحقیق" کا کیا ہے لیکن عملًا ان سے بھی زیادہ جانب داری کا انتہام کیا ہے۔

علاوہ انیں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ مذکورہ علماء کی تحقیقات کے کیا اثرات ظاہر ہوئے؟ اور مولانا مودودی کی "ازادۃ تحقیق" نے دین کی کوئی خدمت انجام دی اور اس کے کیا نتائج تکلیف؟ اس سلسلے میں افلاطیہ دیکھئے کہ امام ابن تیمیہ نے جس وقت منہاج السنّۃ لکھی، اُس وقت سے کہ آج تک تمام علماء نے اسے دیکھا اور پڑھا لیکن کسی نے آج تک یہ آواز نہیں اٹھائی کہ شیعوں کی افراط و تفریط کے مقابلے میں این تیمیہ اس کتاب میں اعتدال و توازن قائم نہیں رکھ سکے یا حضرت علی دھین کے ساتھ اس کتاب میں انصاف نہیں کیا گیا، حالانکہ این تیمیہ کی حیات میں خود ان کے معاصرین نے این تیمیہ کی حقیقتی شیدہ خلافت کی ہے اور جتنا منظم آن کے غلاف پر دیگنہ کیا گیا ہے مولانا مودودی کے حصے میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں آیا لیکن مولانا مودودی کا یہ سلسلہ مضمایں جس وقت "ترجمان القرآن" میں شائع ہوا تو، مساواتے جماعت اسلامی، اہل سُنّۃ کے تمام حلقوں میں اضطراب کی ہو رکھی گئی۔

حق کہ شیعہ حضرات نے بھی اس سلسلہ مصنایں کو صحابہ کرام پر سب دشمن قرار دیا مار دیکھئے  
ہفت روزہ رضا کار ۱۵ ارجولائی ۱۹۶۵)

نیز دنوں کا فرق اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ دیگر نے  
وہ خیر القرون کی جو صحیح صحیح تصویر کشی کی ہے خصوصاً حضرت عثمان عنیؓ اور حضرت عمارؓ  
و حبیرہؓ کی سیرت و کردار کے اصلی خدوخال جس طرح واضح کئے اس سے مسلمانوں  
میں ان سے بدظیں دنفرت کے جذبات پیدا ہونے کی بجائے، ان سے دامہنا عقید  
و محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں، ان قرآنی نصوص اور احادیث صحیح کی تصریحات سے  
تضاد ماقع ہیں ہوتا جو صحابہؓ کرام کی عدالت و عرفت، اخوت و مساوات اور تراحم  
تعاطف پر دلائل قاطعہ اور بہم ساطعہ ہیں اور اپنی درخشان و تابتاک ناصی لی غلط  
درافت کے ترانے سائز دل سے پھوٹتے لگتے ہیں اس کے بر عکس "خلافت و ملوکیت"  
میں صحابہؓ کرام کے کردار کی جو تصویر کشی ہی لگتی ہے، اس کا نتیجہ اس پر نتیجے تکسیر  
مختلف ہے، اس میں صحابہؓ کے کردار کی رفتہ باقی رہتی ہے نہ ان کے لئے عقیداً  
و محبت کا کوئی نفعہ ہمارے دل سے پھوٹتا ہے، بلکہ اسے پڑھ کر کا پختے اسلاف سے  
ایک خوبی بدظیں اور دنفرت و حقارت کے جذبات انگردیاں لیتے لگتے ہیں، اس نقطہ نظر  
سے کسی کوششیں تھیں و ۲ فریں کے لائق اور صحیح معنوں میں مدد و دین الکتاب  
جانے کیستھی ہیں؟ اور اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ دیگرہ کی کتابیں زیادہ  
قابل اعتماد ہیں یا مولانا مودودیؓ کی "خلافت و ملوکیت"؟ اس فحیلہ شخص خود کر سکتا ہے،

### حضرت علیؓ کی بے جا و کالت :

اس کے بعد مولانہ ان مسائل کی مزید توضیح کی ہے جو خلافت و ملوکیت میں زیکر ث  
کتے ہیں، یہاں ہم اس حصہ کو نظر انداز کرتے ہیں، ان پر الگ بحث کرنے کی ضرورت  
بھی نہیں، اصل مباحثت کے ضمن میں ان کی تتفیع خود بخود ہو جائے گی، البتہ یہاں ایک  
چیز کی مزید دضاحت کر دینی نامناسب نہ ہوگی وہ یہ کہ مولانہ دیگر نام صحابہ کے متعلق  
تو یہ روشن اختیار کی ہے کہ ان کے عیوب و نقصان پر مشتمل تمام رطب دیاں اور غلط

د صحیح روایات قبل کہ لی ہیں بلکہ خاص طور پر چون چون کہ ایسی ہی تمام داہی مذکور سفایات کو جدید لباس پہنانے کی کوشش کی ہے، مولانا کی ناول افسوسی سے عثمان بیجی میں نہ عالیہ عمر و بن العاص، میخراہ بن شعبہ اور نہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ولید بن عقبہ مروان۔ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرخ دیگر تو پھر بھی ان مذکورہ حضرات سے فروتہ میں، ان کی ادائی قاص سے اگر کوئی شخصیت بھی ہے تو وہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے کروادہ پر حرف آئنے والی تاریخ و حدیث کی تام متفق علیہ روایات کو مولانا نے نامعین قرار دے دیا ہے اور ان کے نامناسب اقدامات کی کوئی نہ کوئی دوراز کارہ توجیہ کرنے کی کوشش نہ امام کی ہے، جس طرح کہ پہلے متعدد جگہ بتایا جا گکا ہے، ظاہر ہے مولانا کا یہ طرز عمل صاف طور پر یہ جاوہ کالت کے ضمن میں آتا ہے، ایں سنت کے تمام حلقوں نے مولانا کی اس ذہنیت کا شدید تنے سے حساس کیا اور ان پر حضرت علی رضی کی بے جا و کالت کا الٹا امتحنہ عائد کیا، مولانا نے اس الزام کی تردید میں جو کچھ وضاحت کی ہے وہ بھی اینی جگہ غلط بیانی کا بے مثال نمونہ ہے، اس پر بھی ہم سچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں،

چنانچہ مولانا حضرت علی رضی کی وکالت کرتے ہوئے رقمطران میں :-

”جب دونوں طرح کی سعایات موجود ہیں اور سنند کے ساقیدہ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو ان کے مجموعی طرز عمل سے منہیت رکھتی ہیں اور خدا ہمزة مدی روایات کیوں قبول کریں جو اس کی منظراً آتی ہیں“

(ص ۳۲۸ - ۳۲۹)

یہاں پہلی چیز یہ قابل غور ہے کہ بقول مولانا، جب دونوں طرح کی روایات سن کے ساقیدہ لور ہیں، تو وہ فوں طرح کی روایات میں وجہ ترجیح کیا جو گی؟ سلسلہ سنند کی صحت ہ عدم صحت، یا حضرت علیؓ کا مجموعی طرز عمل ہ اگر وجد ترجیح صحت و ضعف سنند سے یعنی جو روایت سن کے لحاظ سے صحیح دوڑی ہے اسے قبول اور اس کے بال مقابلہ فوسری ٹائی کر رکو کر دیا جائے گا، تو مولانا نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے ایک صحیح السند کے

مقابلہ میں ضعیف استدراست کو ترجیح دی ہے، بخاری کی وہ روایت جس کی رو سے  
حضرت علیؓ نے چھٹے ہمینے بعدہ بیعت کی وہ ترک کردی ہے اور تاریخ طبری کی مدد فرماتا  
جس کی رو سے انضول نے اقل روزہ بیعت کر لی تھی، مولانا نے قابل قبول سمجھی ہے  
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے نزدیک وجہ ترجیح صرف حضرت علیؓ کا جمیعی طرز عمل ہے،  
دوسری چیز اب یہ قابل غور ہے کہ کیا مولانا نے حضرت عثمانؓ، عمر و ابن العاص،  
حضرت معاویہؓ وغیرہ کے لئے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا ہے؟ حضرت علیؓ کی طرح یہ  
صحابہ کے لئے بھی اگر مولانا نے یہی طرز عمل اختیار کیا ہے پھر تو کوئی وجہ نہیں کہ ان پر  
حضرت علیؓ کی وکالت بے جا کا الزام عائد کیا جائے، لیکن اگر انہوں نے ایسا ہمیں کیا بلکہ  
اس کے بالکل بر عکس صحیح روایات کو چھوڑ دیا اور وہ تکریر وغیرہ صحیح روایات پر  
کر لی ہیں جو حضرت عثمانؓ معاویہؓ وغیرہ کو مجرمین کی صاف میں لا کھڑا کرتی ہیں تو  
ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا پر صرف حضرت علیؓ کی بیجا و کالت کا الزام عائد کر کے ہم خود  
حضرت عثمانؓ معاویہؓ کے ساتھ اضافت نہیں، ایک گونہ ظلم کا انتکاب کرنے کے  
یہ جارحانہ روشن تو اس سے کہیں زیادہ سخت تر الزام کی مقاضتی ہے، آجے چل کر  
آپ پر واضح ہو جائے گا کہ مولانا نے حضرت عثمانؓ معاویہؓ کے لئے بیشتر مقامات پر  
یہی جارحانہ روشن اختیار کر کے اسی سخت ترین جرم کا انتکاب کیا ہے۔

**وکالت بے جا کا دوسرہ انموذج:-**

”اسی طرح حضرت عثمانؓ کی شہادت سے لے کر خداونکی اپنی شہادت تک ایک  
ایک مرحلے پر ان کا جو ردیہ رہا ہے اس کے سرخون کا ایک صحیح مجلہ میں نے تلاش کیا  
اور ان کے اپنے بیانات میں، یا اس وقت کے حالات و ملاقات میں وہ بچھے  
مل گیا مگر صرف ایک مالک الاشتراہ محمد بن ابی بکر کو گورنری کا عہدہ دینے  
کا فعل ایسا فتح جس کو کسی تاویل سے بھی حقیقی بجانب قرار دینے کی کنجائش مجھے  
نہ مل سکی، اسی بنابری میں نے اس کی مدافعت سے اپنی منعہ نزدیکی نظر ہرگز دی ہے“

مولانا کا یہ بیان بقطار اُن کے غیر جانب دارانہ طرز علیٰ کی غمازی کرتا ہے لیکن ذرا تجزیہ کر کے دکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس پُر سے بیان میں فریب نظر کے سوا کچھ نہیں، حضرت علیؓ کے بیانات اور اس وقت کے حالات و واقعات میں مولانا نے حضرت علیؓ کے رویے کے ہر جزء کا محل تلاش کیا اور وہ ان کوں گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مولانا نے یہی زحمت فدر حضرت عثمانؓ و معاویہؓ کے رویے کے صحیح محل تلاش کرنے میں بھی اٹھا لی ہے؟ حضرت عثمانؓ و معاویہؓ کے وہ اقدامات جنہیں مولانا نے بڑے گھنائے انداز میں پیش کیے کیا وہاں مولانا نے ان سے مستین قبیح نتائج ان کی طرف نسبوں کرنے سے پہلے اس بات کی معمولی سی کوشش بھی کی ہے کچھ ان اقدامات کی صحیح نوعیت خود ان کے بیانات میں یا اس وقت کے حالات و واقعات میں تلاش کی ہو؟ اگر ایسا کرنے کے بعد انہوں نے الہامات عائد کئے ہیں پھر تو انہیں معنی و سمجھا جاسکتا ہے، لیکن آگر انہیں نے ان تمام باتوں سے آنکھیں بند کر لی ہوں بلکہ وہ صحیح ردایات بھی چھوڑ دی ہوں جن کی رو سے بشرط الرذامات کی صحت ہی مشکوک و مشتبہ ہو جاتی ہے، تو پھر خراس طرز علی کو ہم تھیں وسائیں کے کون سے الفاظ سے یاد کریں؟

نیز مولانا کہتے ہیں کہ صرف محمد بن ابی یکرا اور مالک الاشری کو گورنری کا عہدہ دینے کا فعل ایک ایسا ہے جس میں حضرت علیؓ کو حق بجانب قرار دینے کی کوئی لگناش مجھے نہ مل سکی، اس لئے اس سے معذوری ظاہر کر دیا ہے۔ یہاں دو چیزوں میں طلب ہیں:- اول یہ کہ جب حضرت علیؓ کا یہ فعل غلط تھا تو ہم اس اقدام کو کس نام سے تعبیر کیں اسے سیاسی ناتہبیری کہیں یا ذافتی مفاد کا نتیجہ؟ جس طرح کیہ دلوں الہام بالترتیب مولانا نے حضرت عثمانؓ و حضرت معاویہؓ کے اقدامات کے متعلق عائد کئے ہیں۔

دوسرے، یہ کہ حضرت علیؓ کا ایسے شخصوں کا گورنری جیسے اہم عہدہ پر فائز کرنا، جو قتل عثمانؓ میں شکنے کی چوٹ شریک تھے، ایک بے ضرر یا معمولی اقدام تھا یا اس کے اندر بہت سے مہلک نتائج دعواقب مسخر تھے؟ دوسرا سے افظuoں میں یوں کہہ لیجئے گرے اس اقدام کے نتائج ملک دو قم اور اسلام کے حق میں مفید تکلیٰ یا منضر؟ جس طرح مولانا نے

حضرت عثمانؓ کے متعلق صاف طور پر کہا ہے کہ انہوں نے ایسے عالی مقروب کے جو اخلاقی و دینی لمحات سے فرو ترا اور بے کو دار کے حال تھے جس کے اثرات اسلامی معاشرے میں اچھے نہیں پڑے، اور حضرت عثمانؓ کی فلاں فلاں پالیسی سے وہ سخت دھمک نتائج نکلے دراں حالیکہ عالمیں عثمانؓ کا کردہ ایک الاشتربی فتنہ پرداز لوگوں سے زیادہ گھٹیا اور عثمانؓ پالیسی حضرت علیؓ کی پالیسی سے زیادہ مہلک نتائج کی عالی نتائجی۔

مولانا نے حضرت عثمانؓ دعا ویہ کے تمام اقدامات کے متعلق یہ دونوں چیزوں بالروضتاحت پیش کی ہیں، ان کے اقدامات کو سیاسی ناتدبیری بھی کہا ہے، ذاتی مفادات سے بھی تعییر کیا ہے پھر ان کے نتائج ان کے واقعی نتائج سے بھی کوئی گناہ طے نہ چڑھا کر پیش کئے ہیں، لیکن حضرت علیؓ کے اس اقدام کو ہم کسی چیز سے تبریزیہ اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے متعلق مولانا نے چپ سادھی لی ہے، حالانکہ غیر جانب داری اور بے لگ تجویہ اس بات کا منقصانہ تھا کہ اس مقام پر بھی مولانا مخدودہی کی بجائے ان چیز دل کی وضاحت کرتے، اس واضح جانب دارانہ اور غیر منصفانہ طرز عمل کے بعد بھی مولانا اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں متائل میں کہ انہوں نے حضرت علیؓ کی بیے جا رکالت کی ہے۔

ایک اور نمونہ ہے۔

مولانا مزید لکھتے ہیں ہے۔

بعض حضرات بار بار یہ سمجھ چھیرتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کی طرح حضرت علیؓ نے بھی تو اپنے عہدِ خلافت میں اپنے اقربا یہ کوہرے بڑے ہمہ دے تھے لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میری اس کتاب کا موضوع کیتے ہیں اس کتاب میں تایع نہیں لکھ رہا ہوں بلکہ اس سوال پر بحث کر رہا ہوں کہ وہ کیا ماقوت ا تھے جو آغاز فتنہ کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے کا کام کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دوسری زیر بحث آئے گا نہ کہ حضرت

علی رضی الشعفہ کا درود۔ انہوں نے اپنے ہمیں جو کچھ کیا ہے آغاز فتنہ کے اب ابا  
میں شمار نہیں کیا جاسکتا ॥ (ص ۳۲۸)

جس طرح مولانا کا یہ ہنر صحیح ہے کہ میں تاریخ نہیں لکھ رہا ہوں، اسی طرح یہ دوسری  
دوسری سرسر دروغ گوئی پر بنی ہے کہ میری کتاب کا موضوع صرف وہ واقعات ہیں جو  
آغاز فتنہ کا سبب ہے، مولانا نے جو تفصیلی تغیرات کے ساتھ مراحل لگانے میں کیا تو  
سب آغاز فتنہ کی ہیں؟ حضرت معاویہؓ کے متعلق مولانا نے بتایا ہے کہ ان کے عہد  
اقدار ۴۰ تک اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات ختم ہو کر رہ گئی تھیں، اس  
کے بعد بنو امية کے دوسری خلافت اور بنو عباس کے منظالم کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں  
لیکن یہ سب کچھ محض فتنہ کا آغاز ہی ہے؟ آخر غلطیہؓ کی بھی کوئی حد ہے۔ جب  
بحث لا آغاز حضرت عثمانؓ کیا گیا اور پھر بحث کا اختتام بھی حضرت عثمانؓ کی پائی  
پڑھیں کہ دیا گیا یہ کہ اس کے بعد بنو امية کے پورے دور اور اس کے بعد بنو عباس کے بعد  
خلافت تک کوڈہ محیط ہے تو آخر حضرت علیؓ نے دوسری خلافت کو اس حد بیان کے کیوں کہ  
حضرت کیا جاسکتا ہے؟ حضرت علیؓ نے جو کچھ کیا، ان کو آغاز فتنہ کے اسباب میں شمار  
نہیں کیا جاسکتا، تمیک ہے، مولانا کے نزدیک حضرت عثمانؓ کی پالیسی ہے، لیکن  
سوال یہ ہے کہ اشتہر شخص جیسے فتنہ پر دائزہ کو اہم مناسب پر فائز کرنے سے فتنہ  
کا خاتمہ ہوا یا اس میں مزید اضافہ، ظاہر ہے، اضافہ ہی ہوا، پھر یہ اقدام آغاز فتنہ  
کے بعد اس میں اضافہ کا سبب ہوا یا نہیں؟ اس سے کیوں کہ صرف نظر کیا جاسکتا  
ہے؟ اس سے صرف نظر کر لینا جائز طرزِ عمل نہیں تو افادہ کیا ہے۔؟

## باب سوم

**خلافتِ راشدہ اور اُس کی خصوصیات**

## خلافتِ راشدہ اور اُس کی خصوصیات

اس کے بعد ہم اصل کتاب پر لقدم شروع کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کو اپنے مقرر نہیں ہے یہ شکایت ہے کہ میری کتاب کا بجا اصل موضوع ہے، اس سے کسی نے تصریح نہیں کیا اور اس کے ضمن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو کردار زیر بحث آیا ہے معتبر نہیں نے اصل بحث کو پھوڑ کر زیادہ تر اسی کو مدار بحث بنایا ہے، کتاب جس بحیادی سوال کے علیور دش کرتی ہے۔ معتبر نہیں نے اس کو حل کرنے کی خاص کوشش نہیں کی۔

ہم یہم کرتے ہیں کہ ”خلافت و طویلت“ پر تنقید کرنے والے حضرات نے حضرت عثمان و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصل کردار کو اچاگ کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ بجا نے خود اپنی جگہ اہم اور قابل قدر ہے لیکن اس کے ساتھ اُس اصل بحث کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے جن کے ضمن میں ان کے کردار کو جانتے، بو بھتے بجاڑا جاتا ہے، جب تک ایسا نہ کیا جائے کا صاف کرام کے کردار کو ایسے لوگ آئے وہ سختہ مشق بناتے رہیں گے۔ اس سے قبل رشید رضا مصطفیٰ و اکثر لطائفین، سید قطب شاہید جیسے حضرات بھی یہی کچھ کچھے ہیں اور آئندہ بھی نہ معلوم کرنے ”محض“ ایسے ہوں گے جن کے نشرتِ تنقید سے صحابہ کرام کا کوئی وار بخود ہو گلا۔

### خلافت اور اس کی خصوصیات :

وہ چور دروازہ جہاں سے نقشبندی کے موقع میسا رہتے ہیں، خلافت اور طویلت کی بحث ہے، مولانا نے بھی حضرت عثمان و حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو کچھ کہا ہے وہ اسی ضمن میں کہا ہے، وہ مولانا بجا نے خود صحابہ کرام کی عزت و توقیر اور ان کے احترام کے نال پیں اور یہ بجز تکمیل اسی لیے خود اہل سنت کے بہت سے حلقوں کو بھی ناگور نہیں گوڑا دے وہ اس تلمذ پر شیریں کو اپنے حیات سمجھ کر پی گئے ہیں، بسا بریں یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے دامن کو دار کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اُس بحیادی کو بھی ٹھیکایا جائے جس کو مفبوض کرنے کے لیے صحابہ کرام کا کوئی وار منع کر کے اس کو اتنا فی بے دردی سے اس کتاب میں استعمال کیا گیا ہے۔

بہاں تک ”خلافت و ملکیت“ کے ابتدائی تین ابواب کا تعلق ہے بحثیت محبوبی وہ ایک قابل تدریکو شش ہے، جن میں با ترتیب قرآن کی سیاسی تعلیمات، اسلام کے اصول محرمانی اور خلافت راشدہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، البتہ آخر الذکر تیسرا ہے باب میں مولانا کا ذہن قدسے مخربی تصورِ جمہوریت سے تاثر ہو گیا ہے جس کی بنابرخلافت راشدہ کی بوجپلی خصوصیت منتخابی خلافت کے عنوان سے مولانا نے بیان کی ہے، اس میں حقائق کو سخن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں خلفاء راشدین کے انتخاب کی نوعیت بالکل ایسے پیش کی گئی ہے جیسے آج کل مغرب کے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ ایک تحکماً زیارات ہے جس کو دلائل ہے ثابت نہیں کیا جاسکتا، یہی وہ نقطہ انحراف ہے جہاں سے مولانا کی بحث کی گاہڑی اپنی صحیح پڑی سے اٹکر غلط رخ پر چل پڑی ہے اور اس کی یہ کوئی روایت چھڑا خڑک تالمذہبی ہے، اس گاہڑی کا یہاں انتقام ہوتا ہے وہ اس کی وہ منزلِ مقصود نہیں جس کی نشاندہی ابتدائیں کی گئی بلکہ وہ اپنے ساقِ صفر کرنے والوں کو اضطراب کے ایسے مقام پر لے جا کر چھوڑتی ہے جہاں سے دوبارہ منزلِ مقصود کی طرف رہنمائی ان کو مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔

ہمارے نقطہ نظر سے خلافت راشدہ کی بوجپلی خصوصیات مولانا نے بیان کی ہیں وہ تھیں یہن غلط ایجاد مقام سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کتب تواریخ میں حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مابعد کے دورِ حکومت کے متعلق کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو بظاہر خلافت کی اُن خصوصیات سے مختلف ہیں جو مولانا نے بیان کی ہیں، لیکن صیبۃ الرأی کریماں مولانا کا خود اپنا ذہن صاف نہیں رہا ورنہ اس کی معقول توجیہ ناممکن نہیں، مزید بیان کرتے ہو تواریخ میں ایسے معاویر کی تھیں کہ نہیں جن کی رو سے حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تمام خصوصیات ہیں کارفنا نظر آتی ہیں جو خلافت راشدہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، مزید تکمیل کر مولانا نے یہ بھی نہ سوچا کہ کتنے لیے رخ سے اگرچہ چن کر حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ حکومت کے لیے ایسی خصوصیات ثابت کی جاسکتی ہیں جو خلافت کی خصوصیات کے برعکس ہیں اور وہ ڈھیر ساموا قطعاً لنظر انداز کر دیا جائے جو ایسی کوشش کو غلط ثابت کرتا ہو تو بعد نہیں نقطہ نظر ایک دوسرا شخص اختیار کر کے خود خلافت راشدہ کی وہ خصوصیات بھی کا بعدم قرار دے سکتا ہے جو مولانا نے گناہی ہیں،

کتب تواریخ میں خلافت راشدہ کے نصف آخر حضرت عثمانؓ وعلیؓ کے وفود کے متعلق ایسا بہت ما مواد موجود ہے جو ان خصوصیات کو ثابت کرتا ہے جن کو "خلافت و طوکریت" میں "مکیت" کی اقیازی خرابیاں بتلایا گیا ہے اور اس طرح خلافت راشدہ کی خصوصیات کی نفی فدری "طوکریت" میں نہیں خود خلافت راشدہ کے نصف آخر میں ہی ہو جاتی ہے۔

### خلافدار اشدم کے انتخاب کی نوعیت

ہم پہلے خلافت کی اس پہلی خصوصیت کی حقیقت بیان کرتے ہیں جسے ہم صحیح تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد ہم نکورہ بالائختے کی وضاحت کے لئے کتب تواریخ سے وہ مراویں کریں گے جن سے خلافت راشدہ میں بھی ان طرایبیں کے انشنا نات ملتے ہیں جو مولانا نے حضرت معاویہؓ کے دور حکومت میں شاست کی ہیں۔

مولانا انتخابی خلافت کے عنوان سے خلافت راشدہ کی پہلی خصوصیت بیان کرتے ہیں۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لئے حضرت ابو بکرؓ کو حضرت عمرؓ نے تجویز کیا اور مدینے کے تمام لوگوں نے (وجود) حقیقت اُس وقت پُرسے ملک میں عملہ نامانیدہ حدیثیت رکھتے تھے اکسی دباؤ یا لالج کے بغیر خود اپنی رضاد باغت سے انہیں پسند کر کے ان کے یا تحد پر بعیت کی "سدیہ"

اس پر یہ میں ہی مولانا نے اُن دو بالوں کا دامن ثبوت پیش کر دیا ہے جن کیم نے متعهد جگہ نشاندہی کی ہے۔ اقل یہ کہ اس پوری بحث کے دوران مولانا کے ذہن میں مغربی تصور جمہوریت بلحیر آئیہ بیل رہا ہے اور وہ خلفاء راشدین کے انتخاب کی وہی نوعیت ثابت کرنا پاہتے ہیں جو آج کل مغربی جمہوری ملکوں میں رائج ہے، دوسرا یہ کہ اس بال معاکو ثابت کرنے کے لئے حقائق کا انکار یا اُن کو منع کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو مولانا کو اس سے کوئی باک نہیں۔

مذکورہ عبارت میں مولانا نے دو چیزوں ذکر کی ہیں۔

۱۔ حضرت ابو بکر کو مدینے کے تمام لوگوں نے منتخب کیا تھا۔

۲۔ اہل مدینہ اس وقت پُرسے ملک میں عملہ نامانیدہ حدیثیت رکھتے تھے۔

یہ دونوں باتیں غیر صحیح ہیں۔

انتخاب ابو بکر بن عبد الرحمن میں کیا گیا تھا اس میں مد نے کے تمام عوام تو گوا، پورے خواص ہمیں جمع ہوتے تھے، صرف چند الفصار اور تین چار ہجرتیں پر وہ کل معاشر شتمل تھی، انقا و خلافت کے بعد دوسرے روز سعیت عامتہ ہوئی، حضرت علی و حضرت زیر رضی اللہ عنہما تک کو اس بات کا مشکوہ رہا کہ انہیں مشورے میں شریک نہیں کیا گیا تھا۔

نیز انتخابی مجلس کے وہ افراد جو مرینے کے ہی تمام حلقوں کے لئے نایاب و حیثیت نہ رکھتے تھے، وہ پورے حکم کے لئے نایاب و حیثیت کے بالکل کینہ بخوبی تصور کرنے جائیں گے ہی کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اُس وقت تک صحیح مقتدر نہیں کی جاسکتی جب تک ان حضرات کی پورے حکم کے لئے نایاب و حیثیت تسلیم نہ کی جائے جو سقیفہ بنی سادہ میں موجود تھے مولانا اگر ایسا سمجھتے ہیں تو یہ مغرب کا وہی تصور جمپہور سعیت ہے جو ہمارے نزدیک صحیح تصور خلافت سے قطعاً مختلف ہے۔

### انتخاب عمر رضی

حضرت عمر رضی کے انتخاب کے متعلق مولانا لکھتے ہیں۔

”حضرت ابو بکر رضی اپنی وفات کے وقت حضرت عمر رضی کے حق میں وصیت لکھوائی اور پھر سید نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے کہا۔

”کیا تم اس شخص پر راضی ہو سبse میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں؟ خدا کی تمدن میں نہ رائے قائم کرنے کے لئے اپنے ذہن پر نظر ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کی اور اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر بن الخطاب کو جانشین مقرر کیا ہے، لہذا تم ان کی سُنّت اور اطاعت کرو۔“

اس پر لوگوں نے کہا ”ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے“ (ص ۸۴)

مولانا کے نقل کردہ فرانس مصدقی کو ہی خوارے دیکھئے کہ حضرت عمر کا انتخاب عوام

کی آزادا اثر رائے کے بعد باہمی رعایتی سے ہوا یا صرف خلیفہ وقت کی اپنی ذاتی حرمتی،  
ہدو صداب دید کے مطابق نامزدگی سے ہ انتخاب خلیفہ کے لئے اگر پورے لک کے  
عوام کی رائے معلوم کرنا اور ان سے مشدہ لینا ضروری تھا تو حضرت ابو بکر بنے اس کا  
اہتمام کریں ڈکیا ہ کہ سے کم مدینے کے باشندوں سے ہی استصواب کرالیا جاتا۔  
اس کے بعد مولانا نے حضرت عمر بن الخطاب کی وہ مناحت پیش کی ہے جو انہوں نے حضرت  
ابو بکر بنے بعیت کے سلسلے میں کی ہے اس سے دو باتوں پر مزید روشنی پڑ جاتی ہے  
ایک تریکہ انتخاب ابو بکر بنے عوام کی آزادا اثر رائے سے نہیں ہوا تھا۔ دوسرے مولانا کے  
اس قول سے ہ کہ اس وقت مخصوص حالات تھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے  
نزویک ناگر حالت میں طریقہ دولی عہدی کو بدئے کار لایا جا سکتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے  
کہ مولانا کے نزویک اب کسی صورت میں بھی عوامی رائے کے بغیر انتخاب پر خلیفہ  
جاائز نہیں۔ اسی لئے مولانا نے بخاری کی وہ بعا یحی جس میں حضرت عمر بن الخطاب کی درست  
ہے ست بھیں یہ الفاظ اپنی طرف سے پڑھا دیجے ہیں۔

”بِسْعَلَ أَكْرَمًا يَابْهَا تَرَسَّهُ سَيِّدَ الْأَئْمَاءِ كَمَا يَابْهَا سَيِّدَ الْأَئْمَاءِ كَمَا يَابْهَا سَيِّدَ الْأَئْمَاءِ“ (ص ۴۸)  
حالا کم بخاری کی جس نداشت کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے اس روایت میں ایسے  
کہنے الفاظ نہیں ہیں جسی کا یہ ترجیح کیا جا سکے۔

### انتخاب عمر بن الخطاب

حضرت عثمان کے انتخاب کی شکل پچھے دونوں خطابوں میں مختلف ہے۔ جس کو تم  
باواسطہ نام زدگی کی ہی ایک صورت قلمدھے سمجھتے ہیں۔ خلیفہ وقت حضرت عمر بن الخطاب  
لئے آخری وقت جن بیانات کا انہمار فرمایا، اس کے بعد چھ افراد پر مشتمل جو مجلس شوریٰ  
تھیں دیکھیں اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے ذریں میں بھی  
انتخاب خلیفہ کے لئے آزادا اثر رائے اور عوامی مشاورت صورتی نہیں۔ تابیع کی یہ  
نداشت اس بارے میں قابل غور ہے۔

”مَرِبِّ النَّحَابِ جِبْرِيلُ وَقَاتَ زَغْبَنَ كَعَنْهُ، أَنْ سَعَى كَمَا كَعَنْهُ، كَاشِشَ آپَ

اپنا جانشین مقرر فرماجاتے فرمایا کس کو جانشینی کے لئے منتخب کروں ہے اگر ابو عبیدہ رضی بن الجراح زندہ ہوتے تو ان کو جانشین مقرر کر جاتا میرا رب الگ مجھ سے اس بارے میں باز پرس کرتا تو کہ دیتا کہ میں نے تیرے بنی کی زبان سے سُنا تھا کہ ”ابو عبیدہ“ اس امت کے امین ہیں ۔ یا ابو حذیفہؓ کے مولیٰ سالمؓ زندہ ہوتے تو انہیں خلیفہ نما مزد کر جاتا ۔ میرا رب پورچتا تو کہ دیتا کہ میں نے تیرے بنی کو فرماتے ہوئے سنا تھا ۔ سالمؓ اللہ سے بہت محبت کرنے والا ہے ”کسی نے کباد عبد اللہ بن عفر کو نامزد کر جائیے ۔ آپ نے اٹھارہ ناراضی فرمایا اور کہنے والے کو سخت سخت کہا اور فرمائے گئے کہ میں ایسے آدمی کو کیسے اپنا جانشین بنا جاؤں ۔ جرا پنی عمرت کو علاق دیئے میں بند باست پُر فابونز رکو سکائٹھ ہیں تمہارے محلات کی کوئی خواہش نہیں، میں نے اسے کچھ اچھا میں پایا کہ اپنے گھر میں سے کسی اور کے لئے بھی اس کی خواہش کروں، اگر یہ حوصلت اپنی چیز سنتی نواس کامزہ ہم نے چکد لیا اور اگر یہ کوئی بربی پھر ہتھی تو عمر کے خاندان کے لئے اتنا ہی بہت کافی ہے کہ کمل کعفنا کے سامنے ان میں سے صرف ایک ہی آدمی سے حساب لیا جائے ۔

اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اس وقت کا حامم ذہن دلی عہد ہی یا نامزدگی کو عنیر مسخن نہیں بلکہ محسن اور جائز بھٹا تھا، اسی لئے ہمارا فاروقؓؑ نے نامزدگی کا مشروطہ دیئے والے کی تائید فرمائی اور دشمنوں کا نام لیا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان میں سے کسی کو اپنا جانشین نامزد کر دیتا، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنے صاحبزادے سے حضرت عبد اللہ بن عفر کو انہوں نے لے یہ اشارہ ہے اس داقو کی طرف چو جب اللہ بن عفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی کو حالت بھیض میں طلاق دے دی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ ناراضی فرمایا تھا (صحیحین)

اس لئے نامزد میں کیا کہ اقتضاء اینہیں اس بار عظیم کا اہل میں سمجھتے تھے روسرا نے خود پوچھ کر وہ اس کا طبیعی تجربہ کر چکے تھے اس بنا پر اپنے صاحبزادے کی مزید فتوحاتی اتحاد نے سے مجبراً تھے، اس روایت سے مولانا مودودی صاحب کے ان الخاتما الاعظمیان واضح ہو جاتا ہے جو انہوں نے طبری کی اسی روایت کا تذہب کرتے ہوئے اپنا مفہوم یعنی حضرت عمرؓ کے مزہم ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت کے استحقاق سے صاف الفاظ میں مستثنی کر دیا تاکہ خلافت ایک موروثی منصب نہ بن جائے۔ (ص ۸۵)

اس کے نسبت مولانا نے طبری لورا بن الاشراف کا خواہ الدوے کریہ تاشد بیان چاہا ہے کہ یہ پورے مقامات خود حضرت عمرؓ کے ہیں لیکن آپ کو تاریخ کی ان دونوں کتابیں میں عبداللہ بن عباسؓ کو مستثنی کرنے کی وجہ کیمیں ملے گی جو مولانا نے ان کے خواہ سے پیش کی ہے وہاں اس کی وجہ ذکور ہے جو ہماری نقش کردہ مذکورہ بالدار روایت میں ہے۔

اس کے بعد حضرت غارق اعظمؓ نے چھا افراد پر مشتمل ایک مشاورتی کونسل مقرر کر دی کہ یہ اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو منتخب کر لیں۔ یہاں بھی یہ چیز قابل عجز ہے کہ اگر ہماری روائی صدری ہوتی تو حضرت عمرؓ کو عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ان میں سے عوای طریقہ کا اختیار کرتے کہ ان چھا افراد کو عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ انتخاب دوڑ جس کے حق میں زیادہ سہوں اُسے خلیفہ منتخب کر لیا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ انتخاب خلیفہ کا تامتر مطلقاً صرف چھا افراد کے پیرو کر دیا، ان کے علاوہ کسی اور کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں، صرف عبداللہ بن عباسؓ ایک ساتوں آدمی سچھج سے مشاورت کی بہارت دی گئی تھی۔ چھوٹلیں شدید کا طرز عمل یعنی قابل عجز ہے سچا آدمی خداونپسے حق سے دست بزار ہو گئے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ سے کہا کہ تم میں سے بھی کوئی دست برداز ہونے کو تیار ہے؟ تاکہ باقی رہنے والے کو امر خلافت سونپ دیا جائے، دونوں نہوش ہو گئے، ظاہریات ہے ان دونوں میں سے بھی اگر کوئی کاغذات امیدواری والیں لے لیتا تو دوسرا باقی رہنے والائقی طور پر آپ سے آپ خلیفہ بن جاتا، لیکن دونوں کی خاموشی لے دوٹگ کی ضرورت پیدا کر دی۔ اب حضرت عمرؓ کی تبلیغ ہوئی ہمایات کے طبقہ مٹیگ بالل محدود ہوئی

خنی سینی لانہ ہی جو افراد کے بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اپناؤ اتنی اچھی تھی اور اخلاقی و تقویٰ تھی کہ انہوں نے اس دھنگی میں عوام کو بھی مشرک کر لیا اور اس طرح عالمی مقام واب کا بنیاد ڈالی، مدینے کے تمام افراد کی رائے معلوم کر کے انہوں نے حضرت عثمانی شے کے حق میں میسماں خوفست صادر کر دیا۔

### انتساب علیؑ

حضرت عثمانؑ کی شہادت کے بعد حضرت علیؑ کی خلافت کی طرح منعقد ہوئی، اس بارے میں متفاہد و رایات ملتی ہیں، لیکن اگر باش نظری سے کام لیا جائے تو کسی حد تک حقیقت کا ساری لگایا جاسکتا ہے، ہم اپنے تاریخ مطالعہ مختصر آپش کرتے ہیں۔

(شہادت عثمانؑ کے بعد مدینے میں وہی باعثی و شورش پسند حضرات چھائے ہوئے تھے جنہوں نے حضرت عثمانؑ کو شہید کیا تھا، ویگرا فرنگی مسلمین یا تو رہب ہے سبھے سے تھے یا بد دل ہو گر کو شیرگ ہو چکے تھے اور بعض لوگ اس المذاک سانح کے پیں منظر پیش منظر اور ذہ منظر میں علطان دیچاپ تھے پورے شہر کا فلم و سوتی شدشیں پیش دیں ہی سے ہی ایک آدمی غافقی بن حرب کے ہاتھ میں تھا، اس ضناہیں بیجا رے مسلمان امر خلافت کے بارے میں کیا سوچ سکتے تھے؟ باعثی ہی اس سلسلے میں دوڑ و ھوپ کرتے رہے، حصار کوڑ اور لبڑو کے آئئے ہوئے یہ عناصر ج عثمانؑ کو قتل کرنے کی پالیسی میں بحث تھے، امر خلافت کے بارے میں مختلف تھے، مصری حضرت علیؑ کو غلیظہ بنانے پر مصر تھے کوڑ کے آئئے ہوئے افراد حضرت زیر الدین کو اور لبڑے کے آئئے ہوئے شریعت عناصر حضرت طاڑی کو، لیکن اولاد لینتو حضرات نے اٹھا کر دیا، یہ لوگ حضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس گئے تاپ اہل شوری سے ہیں نہ امر خلافت آپ سنجھا لیجئے، پھر حضرت عبد الشفیع عفر کے پاس گئے ان ہر دو حضرات نے سمجھی صاف اٹھا کر دیا۔ یہ لوگ پھر سوچ میں پڑھئے کہ اب کیا کرس اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا، نیز ان کے دہنوں میں یخ طوب بھی پیدا ہو گیا کہ یہ اس محلہ کو اگر بیوی ہی اور ہبڑا چھوڑ کر اپنے اپنے شہروں کو واپس پلھے گئے تو پھر بخاری نہیں ہیں، یہ سوچ کر یہ لوگ پھر حضرت علیؑ کے پاس آئے اور ان سے اصرار کیا اور اس گروہ کے سر خل اشتراخی نے

حضرت علی رضا کا اتحاد پر کوکر سمعیت کریں، اس کے بعد دیگر افراد نے بھی سمعیت کر لی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ نے پہلے پہل جب انکار کیا تھا تو اس وقت وہ الفاظ فرمائے ہوئے گے جو مولانا مودودی صاحب نے طبعی سے قتل کئے ہیں کہ میری سمعیت خذیل طریقے سے نہیں ہو سکتی یہ مسلمانوں کی رضی سے ہی ہونی چاہیئے، یا ابن قتیبه کے حوالہ سے جو یہ قتل کیا ہے۔

میری اہل شہد سے اور اہل بدرا کے کرنے کا کام ہے جس کو وہ غصب کریں۔ وہی

خلفیہ ہو گا، پس ہم جمع ہوں گے اور اس محاذ پر غور کریں گے۔ (ص ۸۶)

یکن خاہر ہے کہ حضرت علیؑ کی خواہش کے مطابق اہل شوری اور اہل بدرا کے جمیں ہوئے گا مرقع نہیں ہو سکتا اور اس کے بنیروہی حضرت علیؑ خلیفہ چُن لئے گئے۔ مولانا نے ابی قتیسہ کی جو عمارت نعل کی ہے اسی مقام پر اس سے اگلی عبارت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اشتخرخی اور اس کے ساتھی حضرت علیؑ کی سمعیت کر کے حضرت طلحہؓ کے پاس گئے اور جاگزادان سے کپا جیت کیجئے؟ انہوں نے کہا، کس کی؟ کہنے تک علیؓ کی طرف نہ کہا، کیا شوری نے جمع ہو کر اس کا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہنے لگے بس چل کر سمعیت کیجئے، انہوں نے پھر انکار کیا یہ کہ وہ بیکران کو وہاں سے لے گئے تھے پھر اس کی مزید تائید اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ بعد میں آخر وقت تک حضرت علیؑ کی خلافت کی اُمیمی حیثیت زیر بحث درستی اور کئی مquamات پر بہت سے لوگ سمعیت علیؑ سے کتابوں کش رہے، شام تو کلیتیہ حضرت علیؑ کی سمعیت سے الگ رہا بکھر میٹنے سے بھی بہت سے افادہ سمعیت علیؑ سے بچنے کے لئے شام چلے گئے تھے۔ مصدر، کوفہ اور بصیرہ ان تینوں صوبوں میں بھی ایک

لئے *السبایر والمنایر* ۷، ص ۲۴۶

لئے *العامۃ والمنایر*، ج ۱، ص ۲۳، طبری کی ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ذهب الاشتوری فیاء بخطاب حق اللہ : دعنى انظر ما يصنع الناس فلم يزيد محمد وجار به مبتله تلاً عنيفاً رج ۲ ص ۲۳۵

لئے - الطبری ج ۲ ص ۲۳۳، السبایر ۷ ص ۲۴۶، الكامل ۲ ص ۲۳۶، الكامل ۲ ص ۱۹۲

گروہ نے بعیت علی بن سے توقیف کیا۔ خود مدینے میں پیسوں لوگوں نے بعیت نہیں کی جن میں کئی  
بلیل القدر اصحاب رسول بھی تھے۔ حضرت علیؓ کی خلافت کی اس حیثیت کا احساس خود ان حضرت  
کو بھی تھا جو حضرت علیؓ کے قریب ترین رشتہ دار اور صاحب تھے جیسے حضرت عبد اللہ بن  
عباسؓ پیغمبر انہوں نے حضرت علیؓ کو حجب پیغامبر دیا کرنی الحال حضرت عثمانؓ کے مقتول کر دے  
علیؓ کو معزول نہ کیا جائے۔ اس وقت انہوں نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ اگر  
ان کو اس وقت معزول کر دیا گیا تو ممکن ہے وہ آپؐ کی خلافت کو پھیلانے کر دیں اور کہیں کہ  
خلافت ہی پیغمبر شوراء کے حاصل ہوئی ہے۔ قتل نیز جنگ مظہری کے دربار جب ایک  
مرتبہ امن و صلح کی بات چیز بذریعہ دند شروع ہوئی تو حضرت معاویہؓ کے وفد نے اس وقت  
بھی اسی بات کو حضرت علیؓ کے سامنے دہرا بیحتا کہ آپؐ امر خلافت کو چور کر رائے شودی کے  
حاملے کریں تاکہ لوگ اپنی مرضی سے جسے چاہیں خلیفہ منتخب کریں۔

(اس تفصیل سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علیؓ کی خلافت علیؓ کی متفقہ نہیں ہوئی ان کی خلافت  
بانکل اسی طرح برعکس ہے جس طرح اس سے پہلے خلقہ شہنشہ کی خلافت تھی، ہمارا مقصد ان کے  
انتخاب کی نوعیت واضح کرنا ہے کہ ان کے انتخاب کا فیصلہ بیکھامی حالات میں آفلاؤ ان  
لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا جیسی کادامی کردار خون عثمانؓ رضا کے چھینٹوں سے داغدار  
ختا۔ اس میں اہل شوراء سے والہ بذریعہ کوئی دخل نہ تھا نہ عام مسلمانوں کی کزا و اذنه رائے  
کا اس سے کوئی تعلق تھا۔)

### انتخاب حسن رضا

حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ منتخب کر لئے گئے۔ حضرت  
علیؓ کی دفاتر کے قریب آپؐ سے لوگوں نے کہا۔ استخلف اپنا دلی عہد مقوو کر جائیے

لے۔ الطبری ج ۳ ص ۴۷۶ - ۴۷۷، البیاتیج، ص ۵۷۹۔ ایک درسرے مقام پر ابن شیرا اد ابن جبریستے

حضر کے اسی شہر کے ازاد کی تھوڑا دس بذریعہ تسلیٰ ہے جنہوں نے بعیت علیؓ سے انکار کر دیا تھا۔ البیاتیج، ص ۲۱۳

۲۵۱، الطبری ج ۳ ص ۴۷۶

لئے مقصد اب غدریں ص ۸۷۸ - ۳۷۹، طہری سے پیردت، ابن خلدون کی پوری عبارت۔ مفتاح اپنے خلفیت کا بیش

مفتاح۔ الطبری ج ۳ ص ۴۷۹، البیاتیج، ص ۵۷۳

مفتاح۔ الطبری ج ۳ ص ۴۷۷، البیاتیج، ص ۵۷۳

آپ نے حواب میں فرمایا  
میں کافل کو اسی حالت میں چھوڑ دیں گے۔ جس بیس رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر اخفا“ لہ  
اس روایت سے بھی صاف معلوم ہوا رہا ہے کہ اس دورِ خیر القروی میں طرفیہِ ولی عہدی  
بالکل جائز منصور ہوتا تھا جس کی بنیاد پر لوگوں نے حضرت علی کو اس کا مشورہ دیا، پھر حضرت علیؓ  
نے بھی اس سے انکار نہیں کیا بلکہ مغض اپنی بے نفسی، اخلاص و تقویٰ احمد تورع کی بنیاد پر  
اتلافاتِ ولی عہدی کی بجا گئے امت کو اسی حالت میں چھوڑنا پسند کیا جس حالت میں خود  
رسول اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ گئے تھے، دوسری روایت سے اس کی مزید  
تائید ہو جاتی ہے۔ حضرت جذب بن عبد اللہ حنفی کہا آپ کے بعد ہم آپ کے صاحبزادے  
حضرت حسن کے ہاتھ پر سعیت کر لیں؟ آپ نے حواب میں کہا۔  
”میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں مذمہ کرنا ہوں تم لوگ خدا چھی طرح  
دیکھ سکتے ہو، مل۔

اگر ولی عہدی کوئی ناجائز امر ہوتا یا آپ کے بعد بیٹے کا جانشین بناؤ افعی قیمتیت  
و کسر و تبیہ ہوتی تو حضرت علیؓ یہ ہرگز نہ کہتے کہ اس معاملہ میں خود سرچ لوگیں تم کو اس کا نہ حکم  
دیتا اور منع کرتا ہوں، بلکہ سختی سے اس رححان کو روک دیتا اور اس تجویز کو ہی سرے سے باطل  
قرار دے دیتے، پھر یہ بھی دیکھنے کا ان کے صاحبزادے کا نام پیش کرنے والے بھی ایک  
صحابی رسول حضرت جذب بن عبد اللہ ہیں، صحابی رسول کی بیش کردہ اس تجویز کے جزاً کو حضرت  
علیؓ کے طرزِ عمل نے تو کر دیا۔ پھر حضرت علیؓ کی بھر و کافین کے فوائد جدا اہل کو دلے حضرت  
حسن کے ہاتھ پر بغیر مشاورت اور ہواہی رائے معلوم کئے تھوت میں بن سعد بن عبادہ کے  
کہنے پر جیت غلافت کر لئے تو گویا جوان کی غلی تصدیق بھی مزید موکد ہوئی۔

له البدایۃ ح ۸۸ ص ۲۷۱۔ مطبوعات ابن سعد ح ۳، ج ۲ ص ۳

له البدایۃ والنهایۃ ح ۷۷ ص ۲۷۳، الطبری ح ۵، ص ۱۳۴

له البدایۃ والنهایۃ ح ۸۸ ص ۲۷۱

اس تفصیل سے دعایتیں بالکل نایاں ہیں  
اول یہ کہ مذکورہ پانچوں خلفاء کا طریق انتخاب ایک دوسرے سے مجرا ہے۔ ایسی  
کلمہ ایک میتھے شکل میں ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ ان کا انتخاب اس کے اندر صورت ہوا۔  
دوسرے ان میں سے کوئی بھی اس معنی میں عوامی مشاورت اور آزاد ادارے سے  
خیفہ نہ بننا تھا جس عوامی مشاورت اور آزاد ادارے کے کوآج کل جہور بیت کے نام سے یاد کیا  
جاتا ہے ملکبہ حضرت عثمانؓ کو اس سے تشٹی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے بارے  
میں باشدہ کا یہ مذہب کی آراء مصلح مکنگی تھیں، ان سب میں قدرشتر ک چیز بھوتی وہ یہ ہے کہ ان  
سب کی خلافتوں کو پوری ملکت اسلامیہ نے برصغیر عربت قبول کر لیا تھا، اس معنی میں ہم کہہ  
سکتے ہیں کہ یہ سب عوامی خیفہ یا حکمران تھے۔

یکن مولا نامود دری صاحب اس کے برعکس ایک بالکل قلت صورت بیان کرنے  
ہیں، وہ لکھتے ہیں۔

”الن واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفاء راشدین  
اور اصحاب پرشیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متفق علیہ تصور یہ تھا کہ یہ ایک  
انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے بالکل مشورے اور ان کی آزاد ادارے عطا شدی  
سے قائم ہونا چاہیے۔ موروثی یا طاقت سے بر سر اقتدار آنے والی امارت  
ان کی رائے میں خلافت نہیں بلکہ بادشاہی تھی“ (ص ۸۴)

حقیقت یہ ہے کہ خلفاء راشدین اور اصحاب پرشیل کا یہ متفق علیہ تصور مولا نما کے  
اپنے ذہن کی پیداوار ہے میں تاریخ میں اس تصور کی کوئی بحث کا نہیں ملتی نہ ان کے طرز عمل  
سے کہیں یہ ملا کہ موروثی امارت خلافت نہیں بلکہ بادشاہت کہلاتے گی۔ حضرت حنفی کی  
خلافت موروثی نہیں تو اور کیا ہے ہے لیکن کسی نے بھی اس کو بادشاہت سے تجھیہ نہیں کیا۔

پیغمبر اُنہیں نے یہی سے بزود اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ اس کے  
متعلق ہم کیا کہیں گے اُنہوں نے منصب خلافت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش

کہ بادشاہی کے حصول کے لئے یہ بگ وو فرمائی۔ اس کے آگے مولانا فرماتے ہیں۔

”معاشرِ بگرام خلافت اور بادشاہی کے فرق کا جو صاف اور واضح تصور دیکھتے تھے اسے حضرت ابوالحسن اشتریؑ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں یہ امارت رعنی خلافت ہو ہے جسے قائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہو اور بادشاہی وہ ہے جس پر تلوار کے زور سے غلبہ حاصل کیا گیا ہو“ (ص ۸۶ - ۸۷)

(۱) یقین ہے اس بات کے اثبات کے لئے کہ حضرت معاشرؓ نے تلوار کے ذریعے سے غلبہ حاصل کیا اس لئے وہ خلینہ نہیں ”بادشاہ“ تھے، لیکن اولادیہ تصور ہی خلط ہے کہ حضرت معاشرؓ نے پہلا مقدار پر قبضہ کیا تھا، لیکن کیلئے ایسا یہ طلب خلافت کے لئے دعویٰ۔ اس کی نسبیاً اضافی تفاصیں تھا، علامہ اہل سنت نے اس کی صاف طور پر وضاحت کی ہے ”ہناس سا مخوڑی دیر کے لئے مان بھی لیا جائے کہ حضرت معاشرؓ نے طاقت کا استعمال کیا: تب بھی بعض استعمال طاقت سے خلافت ”بادشاہت“ میں نہیں نہیں ہو جائے گی طاقت کا استعمال وہ خلط اور ناجائز ہے جو تارو اطہر فقیوں سے کیا جائے گی حضرت ابوالحسنؓ نے اسی بات کو ”بادشاہت“ سے تبیر کیا ہے۔ کیونکہ

### حضرت مجید والحق شافعی مکتوب ہیں

وَمَا وَقَعَ مِنَ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمُحَاوَبَاتِ لَمْ يُكَيِّنْ عَنِ الْمَزَاعِ فِي خِلَافَةِ بَدْعَنْ  
خَطَاٰ فِي الْإِجْتِهَادِ . . . . الْأَمَّ إِذَا لَمْ تُصْرِيحْ كُرْدَهْ كَمَايْ مَنَازِعَتْ بِرَامِ خِلَافَتْ بَنْوَهْ بَكْهَه  
وَرَاسْتَنَا رَفَعَصَاصِ وَرَبِّرَهْ خِلَافَتْ حِضَرَتْ اِيْرَلَدَهْ وَابْنِ حِجَرِ نِزَارِ مَعْنَى رَازِ مَقْتَدَاتْ اِلَّا سَنَتْ  
كَفْتَهْ اِسَحَّ رَكْتَبَاتْ وَفَرِّاتَلَ حِصَرَچَارِمَ مَكْتُوبَ ۱۵۴ ص، ۵ مَكْتُوبَ ۲۶۶ ص، ۳۴۲ - ۳۴۳۔  
ابن حجر عسکری کی اصل عبارت یہ ہے ”وَمَا اعْتَقَادَ أَهْلُ السَّنَةِ طَالِعًا عَنِ الْمَاحِرِ“  
بین معاویۃ وعلی رضی اللہ عنہما من الحروب فلم یکن لمن اذعن معاویۃ لعلی فی خلافة  
اِلَّا سَنَتْ مَلَجَاعَتْ کَعْتَهْ یہ ہے کہ حضرت علی بن حضرت معاویۃ کے مابین جنگ کی بنا پر حضرت  
معاویۃ کا حضرت علیؓ سے خلافت کا زیادع نہ تھا“ رالصواب عن الموقر ص ۱۳۹

صحابہ کرام کے ذمہ میں خلافت و باوشاہیت کا تصور یہ تھا کہ خلافت نام سے متابعت فرقہ و محدثین کا اور جو نظام حکومت اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغی ہوئی حدود، ہمایا صادر طریق کا رکا پابند نہیں ہو گا وہ "باوشاہیت" ہے چنانچہ ایک تربیۃ حضرت عرش نے حضرت طلحہ، زبیر، کعب اور حضرت سلطان شے باوشاہ اور خلیفہ کافرن پوچھا تو حضرت سلطان نے جواب میں لکھا:-

"خلیفہ وہ ہے جو رعیت کے معاملات میں عدل کرے۔ ان کے دیوان قسمیں مساوات برتائے اور لوگوں پر اس طرح شفقت و محبت بانی کرے جیسے اپنے گھر والوں پر کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کر سکے۔ اسی طرح حضرت معاویہ سے منقول ہے، وہ جب متبر پرشیعی اللہ تر سب سے پہلے یہ کہتے ہے:-

"لوگوں خلافت مغض بال جمع کرنے اور فرج کرنے کا نام نہیں حق پر عمل کرنے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے اور اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں سے وصل کرنے کا نام خلافت ہے ۷"

جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت معاویہ شے نذریہ خلبیہ استیلا خلافت شامل کی، وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی ناجائز حریم استعمال نہیں کیا، وہ سرے دہ خلیفہ بننے کی ایالت و صلاحیت اور خلافت کی تمام شرطیں کے جامع ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب مختار وہی ہے الجقا و خلافت کی چار صورتیں ذکر کی ہیں ایک سورت ابو بکرؓ کے الجقا و خلافت کی جو ای جعل دخقوں کی بیان کے ہمیں وہ سری عفر فاروقؓ کی خلافت ہو خلیفہ موقعت کی نامزدگی سے متفقہ ہوئی تیسرا ہی حضرت عثمانؓ کی جن کی خلافت کا الجقا و شورت کے ذریعہ ہوا چونکی صورت شاہ صاحب لکھتے ہیں

۷) ازالۃ المفاسعی خلافت الطفادر، مقدمہ اول، فصل ۶

۸) حوالہ مکملہ ایضاً التذکرہ المشر، سیوطی ۷ ہ سرہ ص، ص ۰۶

استیلاد ہے کہ ایک شخص کو خلیفہ مسابق نے بھی نامزد نہ کیا ہو۔ اور اب صل عقنسے بھی آسے خلیفہ نہ بنایا ہو، وہ محض تالیفیت طوب یا جنگ و جبر کے ذریعہ خلیفہ بن جائے گاں کی شاہ صاحب نے مزید دو صورتیں بیان کی ہیں ۔

اذل یہ کہ غلبہ مा�صل کرنے والا خلافت کی شرطوں کو جامن ہو اور کسی ناجائز امر کا اتنا کابذ کرے محض صلح و تدبیر سے مخالفوں کو حرام کر لے، یہ صورت عجز العصروت چائز ہے حضرت معاویہؓ کے نقما و خلافت کی بھی صحت تھی۔ دسری قسم استیلاد کی ہے کہ خلیفہ صحیح مشروط نہ ہو اور مخالفوں کے ساتھ قتال کرے اور اتنا کب حرام کرے یہ جائز تھیں ہے۔ ایسا کرنے والا گناہگار ہے ۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے جس پیغز کو بادشاہت سے تبعیر کیا ہے وہ استیلاد کو بھی دسری قسم ہے جس کا اطلاق حضرت معاویہؓ کی خلافت پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مکملہ مسابقے حضرت سیفیان علیہ السلام کی آمد کی خبر سی کرآن کے متعلق بھی دہی کچھ خیال کیا تھا جو عام بادشاہ فتح کے نشہ میں کیا کرتے ہیں ۔

اَنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ أَقْرَبَيْهِ اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعْدَّهَا  
أَهْلَهَا أَذْلَلَةً ۔

کہ بادشاہ حسب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بر باد کر دیتے ہیں ۔

اور باشندہ گاں بستی کی حضرت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں ۔

حالانکہ ظاہر بات ہے کہ حضرت سیفیان کی صورت میں بھی ایسا کرتے ہیں اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے مدد آشنا بادشاہوں کی نفیات بیان کی ہے کہ وہ حرام و حلال کی پیغز کو نہیں دیکھتے۔ مروت تلوار کے ندر سے غلبہ مा�صل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی سمش کر اگر حضرت معاویہؓ کی بادشاہ کہنے پر اصرار ہے تو مزد رکھے لیکن وہ بایتیں ایسے مدد آشنا بادشاہ نہ سمجھتے ۔

اس کے بعد مولانا نے خلافت کی چھ خصوصیات اور گناہیں پیش کیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے وہ خصوصیات کم و بیش حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں بھی پانی جاتی ہیں، تاریخ کے چند جسمانی گناہات کو بینسیا دبنائکر ان سانکارا نہیں کیا جاسکتا، کوئی شخص اگر ایسا کرے گا تو اس کا قریب یہی ہو گا کہ چھ خلافت را شدہ کی خصوصیات بھی محلِ نظر قرار پا جائیں گی عکیوں کہ کتب تواریخ کی رو سے ایسی کئی چیزیں خود خلافت را شدہ میں پانی جاتی ہیں۔

### پہلی مثال

کے ) مثال کے طور پر مولانا نے خلافت کی ایک خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ:-

”بیت المال کو وہ خدا اور خلق کی امامت سمجھتے تھے۔ اس میں قانون کے خلاف کچھ آنے اور اس میں سے قانون کے خلاف کچھ فرج ہونے کو وہ جائز رکھتے تھے۔ غرما نہادوں کی ذاتی احرامن کے لئے ان کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا۔ باوشاہی اور خلافت کے درمیان بنیادی فرق ہی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی طبق بنائکر اس میں اپنی خواہشات کے مطابق آنادا نہ تصریف کرتا ہے اور خلیفہ اسے خدا اور خلق کی امامت سمجھ کر ایک ایک پائی تھی کے مطابق وصول اور حق ہی کے مطابق فرج کرتا ہے“ (ص ۸۸)

بیت المال کے امامت ہونے کا یہ تصور حضرت معاویہؓ کے زمانے میں بھی بدستور موجود رہا، اس کی تفصیل سماری کتاب کے باب سخم میں ملاحظہ فرمائیں اس دعوے کی صحت سے کسی کو انکار اور چند تاریخی واقعات کی بنیاد پر اس کے بر عکس مولانا کے بیان کردہ اس دعے پر اصرار ہو کہ بیت المال کے امامت ہونے کا یہ تصور حضرت معاویہؓ اور ان کے مابعد دور حکومت میں بلکہ بیت المال بادشاہوں کی ذاتی حکومت بن گیا تھا۔ ایسے شخص کی خدمت میں ہم وہ چند تاریخی روایات پیش کرتے ہیں جن کی رو سے یہ خصوصیت خود خلافت را شدہ کے نصف آخر، حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کے دورِ حکومت میں بمدرج ہوتی نظر آتی ہے۔

حضرت عثمانؓ پر خود مولانا نے بیت المال کے تصریف میں ایسے اعتراض

کئے ہیں جو کو اگرچہ خیانت سے تعسیر نہیں کیا گیا، لیکن جس سیاق اور لب و لہجہ کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا ہے، اس کی حیثیت خیانت سے مخالف نہیں رہتی، جیسے حضرت عثمان ..... مال عنیت کا پُرد़اخش ہ لاکہ دینار مروان کو سخن دیا، اس کے ساتھ ہی یہ تصریحی مولانا نے فرمایا کہ انہوں نے بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں بہت اعتراض بن کر رہیں ۔ ۔ ۔

فہرہ ہے مولانا کے نزدیک حضرت عثمان رضی کا یہ تصرف دائرہ حجاز سے باہر ہے اگر ایسا دہوتا تو یہ رعایات "ناس وقت لوگوں میں بہت اعتراض بنیں" آج مولانا کو یہ جراحت ہوتی کہ وہ حضرت عثمان کی طرف اس تصرف کا انتساب کریں۔ اس کی مزید صیغہ شالیں سہم کتب تواریخ سے پیش کرتے ہیں ۔

حضرت عثمان نے بصیرے کے گورنر عبد اللہ بن عامر کو مہاجرین قریش کی تالیف تلب کی تاکید کی، عبد اللہ بن عامر نے یہ بہادیت پاک نہیں بڑا دریم اور پوشک کا ایک تحفہ حضرت علی بن ابی طرف سمجھا۔ حضرت علی بن ابی طرفیہ وصول کر کے کہا یہ محمدؐ کی میراث ہے جسے ایثار کھارہ ہے ہیں ۔ حضرت عثمان ضمیک حضرت علی بن ابی طرف و پیشوائوں انہوں نے گورنر کو فہ کو مزید علیتے دینے کی تاکید کی، اس پانہوں نے دوبارہ میں بڑا دریم کا مزید علیتہ حضرت علی بن کو دیا، جسے پاک آپ بڑے خوش ہوئے۔ اور گورنر کی ماد و مہن کی خوب تعریف کی، انصار کو جب اس کا علم ہوا تو اس پانہوں نے ناگواری کا اٹھا کر کیا۔ حضرت عثمان کے کہنے پر ابن عامر نے پھر ان کو بھی علیت سے نزاٹ کی ۔

محمد بن ابی حذیفہ نے عامل صہی حضرت عبد اللہ بن سعد پر کچھ اعتراضات کئے انہوں نے حضرت عثمان بن علی کو اس کی الملاع دی۔ حضرت عثمان رضی نے ان کی تالیف تلب کے لئے تیس بڑا دریم اور پوشک کا تحفہ ان کو سمجھیں

جسے محدثین ابی مذیفہ نے "رشوت" سے تعبیر کیا۔ اور مسجد میں حب اک  
اعلانِ عالم کیا کہ دیکھو عثمان بن عفان نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لئے  
رشوت پیشی ہے لہ

ایک اور مثال جسے مولانا نے بھی ۲۳۶ پر نقل کیا ہے، یہ ہے کہ حضرت عثمان  
نے عبد اللہ بن خالد کو، ہبڑا رامردوان کو ہاہڑا کی رقم علیہ میں دی، جس کی بناد پر  
لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا تھے

حضرت عثمان بن عین وقت مخصوص تھے رہبہت سے لوگ حضرت طلحہؓ کے پاس جمع  
تھے۔ حضرت علیؓ نے جب یہ دیکھا تو اگر بیت المال کا دروازہ توڑ کر اس میں جو کچھ تھا سب  
لوگوں میں تقسیم کروالا، اس کی الملاعع ملتے ہی لوگ حضرت طلحہؓ کے پاس سے منتشر ہو گئے  
نیز حضرت عثمانؓ نے بیت المال کے اس "سیاسی قصور" پر سجائے ناراضی کے انہیاں  
خوشی فرمایا تھے

حضرت علیؓ کے متعلق موڑپن نے صراحت کی ہے کہ انہوں نے جنگِ جمل میں شریک  
ہونے والوں پر بیت المال میں جو چھ لاکھ سے زائد رقم تھی وہ سب پائی سو فی کس کے حساب  
سے تقسیم کر دی اور فرمایا کہ شام میں بھی اگر ہمیں کامیابی ہوئی تو اسی طرح مزید علیہ تمیں دئے  
جائیں گے۔ حضرت علیؓ کے بیت المال کے اس قصور پر اُن ہی سپاہیوں نے، جنہوں نے  
حضرت عثمان رضی پر اعتراض نہ کر تھے۔ حضرت علیؓ پر بھی اس موقع پر  
اعتراض کیا۔ لہ

لہ ابی الائیز، الکامل، ج ۳ ص ۲۴۵ طبع جدید پیروت

تہ۔ الطبری ج ۴ ص ۱۷۳، دارال المعارف مصر ۱۹۴۳ء

تہ۔ الطبری ج ۴ ص ۱۳۴، الکامل ج ۳ ص ۱۴۱، شرح نبی البلاغۃ ج ۳ ص ۱۸۴

حسی البابی مصر ۱۹۵۹ء

تہ۔ الطبری ج ۴ ص ۱۴۵، رابدیہ ج ۴ ص ۱۴۴، الکامل ج ۳ ص ۲۵۵، ابی حمدون ج ۴ ص ۱۸۸

شرح نبی البلاغۃ ج ۴ ص ۲۴۹۔ ۲۵۰۔

مزید بر آن اہل سنت کی قائم مستند کتب تو ایسخ میں خود حضرت علیؑ کا یہ اعتراف موجود ہے کہ :-

"میں نے اپنے فوجیوں کے ساتھ احانت و بخشش سے کام لیا۔ پھر بھی انہوں نے میری ہدایات کی پرواہ نہ کی اور معاویہؑ کی فوج بغیر کسی احانت و بخشش کے ہے وقت ان کے حکم کی منتظر ہتی ہے اُولیٰ هجۃ الْمَعَاویۃ یہ درج الفاظ فیتبعونہ علیٰ غیر عطاء و لامعونة و یجیبو نہ فی السنة المرویّات والثالث الى اھن و جه شاء و ما ادعوكه و اقسم ادولو الشفی و بقیة الناس - علیٰ المسونة و طائفہ منکم علی العطاء ققومون عتی و تعمصونی و تختلفون علیٰ لد"

ذکرہ و اقدامات کی جو توجیہ میہاں کی جائے گی، وہی توجیہ حضرت معاویہؑ کے ان تصریفات کی بھی کی جاسکتی ہے جو مولانا کو امانت سکتنا فی نظر آتے ہیں اور جس کی بنیاد پر انہوں نے ان پر بیت المال کی حیثیت بدیل مینیے کا الزام عائد کیا ہے، یعنیں ہو سکتا کہ خلافت راشدہ تو اہ مثالوں کے باوجود "خلافت راشدہ" ہے لیکن ان ہی مثالوں کی بنیاد پر حضرت معاویہؑ پر خلافت کی خصوصیات مٹا دینے کا الزام چسپاں کر دیا جاتے۔ ) ۲)

### دوسری فتحاں

یا عیسے خلافت راشدہ کی ایک خصوصیت مولانا نے یہ بیان کی ہے کہ وہ عصیتوں سے سے پاک حکومت بھی، جس کی لشتر سخ اس طرح کی ہے :-  
"اس زمانے میں مظیک تھیک اسلام کے اصول اور اسن کیار صرح کی مطابق

الاطبری، بح ۵، ص ۱۰، الکامل، بح ۳، ص ۳۵۸، ابیا بن حیج، بح ۳، ص ۳۱۵، مولانا نے غالی شیخی بح ایں ایں الحدید کے حوالے سے حضرت معاویہؑ پر الزام لگایا ہے کہ جگہ کے موقع پر انہوں نے بے دریان روپی شایا، یکن تعبیب ہے اہل سنت کی کتب تو ایسخ متفق طور پر حضرت معاویہؑ کو اس الزام سے برباد کر دیا ہے حضرت علیؑ کو اس سے مٹوٹ گردانی کیا ہے۔ مزید تجویب مولانا کی اس دیافت داری پر کہنا چاہیے کہ حضرت معاویہؑ کی الزام لگانے کے بے پایاں شوق کا جب اہل سنت کی تاریخوں نے مولانا کو ساختہ نہ دیا تو وہاں مولانا نے بے جھجک اس غالی راضی کے حادثے استلال کر لیا جو حضرت معاویہؑ مرحوم بن العاص کو مرتد و زندگی سے بے ملاحظہ ہوا۔ شرح فتح البلاغۃ بح ۱، ص ۳۶۰، بح ۴، ص ۴۵

تماں کو نیلی اور طنی عصیتوں سے بالاتر ہر کرتام لوگوں کے دھمیعنی بکشان سلوک کیا گیا، (س ۹۶)

بخارے نقطہ نظر سے خلافت راشدہ کی وجہی ہر اسلامی حکومت میں موجود ہے۔  
حالانکہ بعد میں ہوئے ہالے ہماری چیز پر تھے، سب پر عیاں ہے، لیکن قبائلی، نسلی  
اور طنی عصیتوں سے انہوں نے بھی اپنے حکومت کو صاف رکھا، حضرت معاویہ اور ان کے  
متصل بالآخر دہلی حکومت خود حدیث رسول کی رو سے، یعنی القرون ویں، کہا ہے، اس میں کوئو  
خصوصیت اداوار ما بعد کے اعلیاء سے زیادہ ہی نیاں ہوگی۔

چند موقوں پر اپنے رشته داروں کو حصہ ونا صب اور خصوصی مراعات سے نوازتے  
کا مطلب ہے نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت اسلام کے اصول اور اس کی روح سے منحر ہو گئی ہے  
اور اس پر ہم یہ حکم لگادیں کہ وہ قبائلی، نسلی اور طنی عصیتوں کو چھڑا رہی ہے، جس طرح یہ  
کوشش مولانا نے حضرت معاویہؓ وغیرہ کے لیے کی ہے، کیونکہ انکا ایسا کیا گیا تو پھر ماننا پڑے  
کہ اکثر خراجی بھی خود خلافت راشدہ کے نصفت آخڑیں پیدا ہو گئی ہیں۔

خدموالانہ موبدی صاحب نے حضرت عثمانؓ کے طرزِ عمل کی جو وضاحت کی ہے کہ  
اس سنت خلافت کی وہ خصوصیت بھروسہ نہیں ہوتی جو مولانا نے بیان کی ہے، اکابر حجاۃؓ کو  
معزول کر کے پوری مملکت میں ان کی بگار اپنے قربی رشته داروں کو فائز کر دینا پھر ان کے  
ساتھ ایسی "خصوصی رعایات" کا برداشت جس سے درستے قبائل طنی محسوس اریں، یہ آخر کیا  
چیز ہے؟ اگر اس چیز کو حضرت معاویہؓ کے دور میں عجیبت "کام اور جام" کا نہ کرنے ہے تو آپ  
اس شخص کا منہ بند نہیں کر سکتے جو اسی چیز کو بنیاد بنا کر حضرت عثمانؓ پر بھی اسی عصیت "کا  
الام عائد کر تباہ ہے اور کہتا ہے" یہ خراجی بھی خود خلافت راشدہ میں پیدا ہو گئی ہتھی، یہ مکہت کا  
نتیجہ نہیں ہے مزید بآں حضرت عثمانؓ کے دور حکومت پر مولانا کا وہ تصریح اس نکتے کی  
مزید وضاحت کر دیتا ہے جو انہوں نے ایک درستے مقام پر کیا ہے۔

در حضرت عثمانؓ کے عمد میں بھی امیر کوثرت سے بڑے بڑے حمد سے اور  
بست المال سے علیے دیے گئے اور درستے قبلیے لئے تلقی کے ساتھ محسوس  
کرنے لگے..... فاس طرح اقبالیت کی وجہی ہونی پہنچا رہا پھر لگا اٹھیں

جن کا شعلہ خلافت راشدہ کے نظام کو ہی پھونک کر رہا ہے: دص ۱۰۰-۹۹  
 اگر کتب تواریخ کی تمام تفاسیر میں طبیعیہ میں اور فی الواقع مولانا کا یہ تصریح بھی مبنی  
 ہے حقیقت ہے کہ اس دعوے کو صحیح نہ جانتے کہ "معصیت" خلافت میں نہیں۔ حضرت  
 معاویہؓ کے دور میں ملوکت کے نتیجے میں قبور پذیر ہوتی۔ جس طرح مولانا کا دعوے ہے یا  
 اس شخص کے دعوے کو صحیح تسلیم کیا جائے جو مولانا کی بیان کردہ عقائد پاکیسٹانی کو بنیاد بنا کر  
 کتاب ہے کہ یہ خرابی بھی خلافت راشدہ کے دور میں شروع ہو گئی تھی، اس خرابی کا فرع  
 ملوکت نہیں۔

یہ دو مثالیں یہاں ہم نے صرف اپنے اس دعوے کی صحت اور اس کی حقیقت  
 واضح کرنے کے لیے پیش کی ہیں کہ خلافت کی وہ خصوصیات، جو مولانا نے لکھی ہیں،  
 حضرت معاویہؓ کے دور حکومت میں بھی پائی جاتی ہیں، بنابریں مولانا کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا  
 ہے کہ حضرت حسنؓ کے بعد "ملوکت" اگرچہ تھی اور اس کے ساتھ ہی خلافت کی خصوصیات  
 ختم ہو کر ایک دنیوی حکومت کی خصوصیات اس میں نایاں ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد  
 ہمارا دعوے ہے کہ مولانا کو تکلیٰ ہو کی خلافت کی خصوصیات خلفاء راشدین کے ساتھ ہی ختم  
 نہیں ہو گئیں بلکہ بحیثیت مجموعی کم و بیشتر اس کے بعد بالخصوص حضرت معاویہؓ کے دور  
 حکومت میں بدستور موجود ہیں، تاریخ کے بعض واقعات کو تو ڈھونڈ کر مولانا نے  
 جو اپنے دعوے کی کو شمش کی ہے۔ اس کو اگر صحیح تسلیم کر دیا جائے تو اُنے  
 لوگوں کا منزہ نہ کر دے کے لیے ہمارے پاس سچھر کیا معقول جواب ہو گا؟ جو تاریخ کے  
 اسی قسم کے واقعات کو بنیاد بنا کر یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ وہ خرابیاں جنہیں مولانا نے  
 ملوکت کا نتیجہ تاریخ دیا ہے۔ خود خلافت راشدہ کا دور بھی اس سے خالی نہیں ہے  
 اس کی مزید تفاصیل ہاب پنج میں ملاحظہ فراہیں جہاں ہم نے اُن واقعات کی اصل  
 حقیقت بیان کی ہے جن سے مولانا نے اپنے دعوے کے ثبوت میں استدلال کیا  
 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تصور کیا کہ دوسرا تاریخ بھی وہاں پیش کیا ہے جن سے  
 واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ سب خرابیاں "جنہیں" ملوکت "کا نتیجہ بن لایا گیا

ہے، طبع زاد ہیں۔ حضرت معاویہؓ کے دھریں، جسے طوکیت کا درکار کیا گیا ہے، بھی شید تجویزی  
وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جنہیں مولانا نے خلافت کی خصوصیات بتلایا ہے۔

# پاپ چہارم

---

۱-حضرت عثمان پر اعتراضات کی حقیقت

۲-حضرت علیؑ کی خلافت

۳-جنگِ جمل

۴-جنگِ صفين

۵-معاہدہ تحریک

۶-خلافتِ معاویہ اور اقدامِ ولی عہدی

## فصل اول

### حضرت عثمان پر اعتراضات کی تحقیقت

#### خلافت راشد سے ملوکیت تک

اس باب میں مولانا نوہ اسباب گنائے ہیں جو خلافت کو ملوکیت کی طرف لے گئے۔ ہمارے نزدیک اس باب کا بیشتر حصہ اور اس پر مبنی تاریخ غلط ہیں۔ بگاڑ مخفی حضرت عثمان کے اقدامات کا نتیجہ تھا نہ وہ ایسے اسباب تھے جنہوں نے خلافت کو ختم کر کے "ملوکیت" کا راستہ ہموار کیا، بگاڑ بنیادی طور پر اس تدریجی شرک واخطاً ادا کا نتیجہ تھا جو اپنی طبعی رفتار سے اسلامی معاشرے میں روزافروں تھا، اس کی مختصر تشریح بالکل ابتداء میں ہم کر آئے ہیں۔ ملوکیت بجائے خود کوئی بُری شے نہیں۔ اس کے متن و قع کا مدار حکمران کے طرزِ عمل پر ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز ایک "بادشاہ" ہی تھے، ان کی "ملوکیت" ہماری نظر میں محمود و مستحسن ہے، مذموم نہیں حضرت معاویہ کی "ملوکیت" کی حیثیت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔

ملوکیت اگر بجائے خود بُری ہو تو ایسے اسباب کا کھوچ لگاتا ہو خلافت کو ملوکیت کی طرف لے گئے ایک امر مستحسن کہلا سکتا ہے، لیکن بصورت دیگر اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ ایک فعلِ عبث ہے جیسے لازماً صحاہہ کی رفعت کردار کو نقصان پہنچتا ہے جس طرح "خلافت و ملوکیت" کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، یہاں پریں خلافت اور ملوکیت کی یہ بحث ہی بجائے خود غلط ہے۔ صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ بگاڑ کے حقیقی اسباب تلاش کئے جائیں۔ اس عنوان سے ہر اس چیز پر تنقید کی جائے جو اسلامی منہاج سے ہٹ گئی ہو، اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، اخلاقیات و معاشیات سے ہو یا سیاسیات سے، اس طرح اسلامی نقطہ نظر سے خلفاء راشدین کے طرزِ عمل ہیں

جو نامیں ہوں وہ بھی واضح کی جائیں اور ان کے مابعد بادشاہوں کی خامیوں کی بھی نشان دہی کی جائے۔ ملکیت کو ہر بھاڑکا واحد سب قرار دینے کا نتیجہ یہ نکلا گا کہ خلافاء راشدین تو سراسر معمول ہے جائیں گے اور ان کے بعد آنے والے بادشاہ صرف جرم و خطہ کے ہی پسکر نظر آئیں گے، ان میں کوئی خوبی تسلیم نہ کی جائے گی۔ جس طرح مولانا نے کیا ہے دوسری خرابی اس سے یہ لازم آئے گی کہ خود خلافت راشد کے دور میں جو تھوڑا بہت بھاڑپایا جاتا ہے، اس کی کوئی معقول توجیہ نہ کی جاسکے گی، کیونکہ مولانا کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام خرابیاں صرف "ملکیت" کا نتیجہ ہیں اور ملکیت یقیناً ان کے حضرت علیؑ کے بعد آئی، حالانکہ اسلامی معاشرے میں بھاڑ اس سے پہلے بھی موجود تھا، اگر تمام برائیوں کا منع صرف "ملکیت" ہے تو خلافت راشد کے دور میں برائیاں کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس کی توجیہ اس کے سوا اور کیا کی جائے گی کہ بھاڑ مخصوص "ملکیت" کا نتیجہ نہیں دوسرے اسباب کا نتیجہ ہے، خلافت راشدہ کا دور بھی چونکہ اُن اسباب سے خالی نہیں اس لئے وہ دور بھی بھاڑ سے بالکلیہ خالی نہیں، اور جس حساب سے اُن اسباب میں اضافہ اور قوت پیدا ہوتی گئی، اسلامی معاشرے میں تنزل کی رفتار بھی وسیع تر ہوتی گئی، نیز یہ تنزل صرف سیاست (حکومت) ہی میں پیدا نہیں ہوا۔ زندگی کے تمام شعبے ہی کم و بیش اس سے متاثر ہوئے۔

بہر حال اس باب میں مولانا نے "ملکیت" کے جو اسباب بتلائے ہیں ہمارے نزدیک یہ نیا دہی غلط ہے، اس پر مسترد ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کیلئے مولانا نے صحابہ کرام کے ساتھ الفصاف نہیں کیا، بلکہ مقام پر ان کی رفت و غلت کو نظر انداز کر کے محقق اپنے نقطہ نظر کو صحیح ثابت کرنے کی توشیش کی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس تاریخی مواد کی حقیقت واضح کی جائے جس سے مولانا نے استفادہ کیا ہے۔

اس کی ایسا مولانا نے حضرت عثمان رضی کی پالیسی سے کی ہے اور اس کو ہدفِ

اعتراض بنایا ہے، مولانا کے اعتراضات سے پہلے دو چیزیں سمجھ لی جائیں، ان سے عترافت کے پیچے کار فرما عوامل کی ترتیب پہنچنے میں آسانی رہے گی۔ ادالہ یہ کہ حضرت عثمانؓ پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والا گروہ کون تھا، اُس کی ذہنیت کیا تھی، اور اس سے ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ دوسری یہ کہ اعتراضات فی الواقع اپنے اندر کوئی حقیقت، وزن اور معقولیت رکھتے تھے یا انہیں مخصوص مقصد برآمدی کے لئے گھرا آیا تھا؟ اوتراضات کا پس منظر اور آن کی نوعیت اس کی توضیح ہم مختصر آہنی تاریخ کی کتابوں سے کرتے ہیں جنہیں مولانا نے معتبر قرار دیا ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں فتوحات کابو و سمع دروازہ کھلا تھا حضرت عثمانؓ کے دور میں اس میں پے در پے مزید تو سمع بتوتی گئی ان کا دو خلافت پوری طرح امن و سکون سے گذر رہا تھا، کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی، اس دوران میں ایک سازشی گروہ پیدا ہو گیا جس کا اولین مستقر کوفہ تھا۔ یہ تقویاً نو یادس آدمی تھے۔ انہوں نے وہاں پرانی سرگرمیاں شروع کر دیں، وہاں کے عامل سعید بن العاص نے حضرت عثمانؓ کو اس سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا "کوئی کے پچھو لوگ میری اور آپ کی عیب لگری کرتے اور ہمارے دین کو نشانہ طعن بناتے ہیں، مجھے دُر ہے کہ ان کی یہ سرگرمیاں جاری رہیں تو ان کی کثرت ہو جائے گی ملک حضرت عثمانؓ نے جواب میں لکھا کہ انہیں شام بھیج دیا جائے، اور ایک خط حضرت عثمانؓ نے حضرت معاویہؓ کو لکھا "تمہارے پاس کونے کے کچھ ایسے لوگ بھیجے جا رہے ہیں جو صرف فتنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں ان کی نگرانی اور تہذید و تحفیظ کریں، اگر ان سے بھلانی کی امید ہو تو ان کو

رکھیں ورنہ انہیں واپس لوٹا دیں۔ حضرت معاویہ نے انہیں کئی روز تک صبح و شام سمجھایا۔ ایک روز ان سے کہا ”تم قریش سے ناراض ہو عالانکہ اگر قریش نہ ہوتے تو تم اسی طرح ذلیل رہتے جیسے پہلے تھے، آج تمہارے امراء و حاکم تمہارے لئے ڈھال ہیں اس ڈھال کو لپنے سے الگ مت کرو، آج تمہارے حاکم تمہاری زیادتیاں بردات کر رہے ہیں، لیکن اگر تم بازن آئے تو بندیا اور اللہ تعالیٰ تم پر ایسیدہ علیہ کو مسلط کر دے گا جو تمہیں تمہاری حرکتوں کا مزہ چکھائیں گے، پھر تم اگر مسیر بھی کرو۔“ تو ان کی نظرؤں میں قابل تعریف نہ بن سکوئے۔ حضرت معاویہؓ کی اس تنبیہ کا ان پر وٹی اثر نہ ہوا اور یہاں بھی وہ سختی پر اتر آئے جو حضرت معاویہؓ نے یہ دیکھ کر کہا یہ کو فہمیں ہے اللہ کی قسم اگر اہل شام کو تمہاری حرکتوں کا علم ہو گیا تو وہ تمہیں کیفر کردار تک پہنچاے بغیر دسچھوڑیں گے، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یا ہم کوئی سازش کی ہوئی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمانؓ کو خط لکھا کہ آپ نے میرے پاس ہن لوگوں کو بھیجا ہے وہ تو شیطان کی کبھی ہوئی بالتوں کو شیطان ہی کی زبان میں کہتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑا ہکر شبہ میں ڈالتے ہیں، اور لوگ عموماً ان کے عرام سے بخوبی ہیں ان کا مقصد صرف افتراق اور فتنہ آرائی ہے، اسلام نے ان کو بے چین کر دکھا ہے، ان کے دلوں میں شیطانی افسوس اثر کر رکھا ہے، کونے کے بہت سے لوگوں کو انہوں نے ہبکا دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ شام میں اگر یہ لوگ کچھ عرصہ مظہر رہے تو انی شعبدہ بازی اور رفسق و فحور سے اہل شام لو بھی دھوکے میں ڈال دیں گے۔ حضرت عثمانؓ کے ہمیشہ حضرت معاویہؓ نے ان کو پھر کوئہ بھیج دیا، کو فر سے ان کو جمیع حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس بھیج دیا گیا، انہوں نے کئی ہمیشہ اپنے پاس رکھ کر ان کو سمجھایا، وقتی طور پر انہوں نے اپنی حرکات سے تو یہ کہی، آشنا شخصی حضرت عثمانؓ کے پاس اپنے ساتھیوں کی طرف سے نمازیدہ بن کر گیا اور مغذہ

وقدامت کا انہیار کیا، حضرت عثمانؓ نے معافی دے کر ان کو کھلی اجازت دے دی کہ جہاں چاہیں رہیں۔<sup>۱</sup>

یہ پوری روڈاد اللہ کی ہے، اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، کہ ان کا مقصد افتراق و فتنہ آ رائی اور اسلام کے خلاف سازش تھا، جس کا احساس سعید بن العاص، عبد الرحمن بن خالدؓ، حضرت معاویہؓ اور خود حضرت عثمانؓ کو بھی ہو گیا تھا، اسی مقام سے پروپیگنڈے کی جنم کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ میں ان کے سرغتے عبد اللہ بن سبیانے اس ہم کو تیز تر کرنے کے لئے ایک اور طریقہ کار و ضع کیا اور اپنے تمام کارندوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ اپنے علاقے کے حاکموں پر طعن تو شیع اور عیوب گیری کا اہتمام کریں اور اسر بالمعروف و نہیں عن المنکر کے داعی بن کر عوام کے سامنے آئیں۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں، سنهؓ میں یہ سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں<sup>۲</sup>، حضرت عثمانؓ کے دو خلافت کے یہ آخری تین سال ہیں جب اس سازشی گروہ کی بدولت عوام میں کچھ بے چلتی پھیلی، اس سے پہلے اس کا کوئی قابل ذکر ثبوت نہیں ملتا، سنهؓ میں البتہ ایک واقعہ کا سڑاغ ملتا ہے کہ مصر میں محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکرؓ نے وہاں کے عامل عبد اللہ بن سعد اور حضرت عثمانؓ کو میرا بھلا کیا ہے دلوں صاحبی زادے ہیں، تاریخ نے ان کی مخالفت کی بھی وجہ بیان کی ہے، محمد بن ابی حذیفہ کی کھالت پر ورش خود حضرت عثمانؓ نے کی تھی، انہوں نے شور سنبھالنے کے بعد حضرت عثمانؓ سے کسی علاقے کی گورنری کا مطالبہ کیا، حضرت عثمانؓ نے ان کو فی الحال ناہل سمجھ کر اس سے انکار کر دیا اور کہا جب تم اس لائق ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی عہدہ دے دیا جائے گا، انہوں نے اپنے ناراضی کیا اور حضرت عثمانؓ سے اجازت لے کر شرکتِ جہاد کا عزم

لَهُ الطَّبْرِيُّ، ج ۴، ص ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ الْبَدَايَةُ وَالْتَّهَايَةُ، ج ۷، ص ۱۶۶۔

لَهُ الطَّبْرِيُّ، الْبَدَايَةُ وَالْتَّهَايَةُ وَالْفَقَاتُ سَلَمٌ، ج ۵، ص ۲۳۵۔

لَهُ الطَّبْرِيُّ، ج ۷، ص ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ الْبَدَايَةُ وَالْتَّهَايَةُ، ج ۷، ص ۱۵۔

ماہر کر کے حضرت عثمانؓ کے پاس سے مصروف گئے، وہاں عبداللہ بن سعد کی محیت میں جہاد کے لئے رکن، لیکن وہاں انہوں نے حضرت عثمانؓ اور ابن سعد پر اعتراضات شروع کر دیئے۔ محمد بن ابی بکر حضرت علیؓ کی زیر نگرانی پر وردہ تھے، ان کی ناراضی کی وجہ بھی محمد بن ابی حذیفہ کی طرح ذاتی وعیت رکھتی تھی۔ یہ  
 یہ ہے اعتراضات کا پس منظر، واقعہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمانؓ نے ایسے اقدامات کئے ہوں جن سے عوام میں اضطراب اور بے چینی پھیلے اور اس اضطراب کے نتیجے میں کوئی تحریک یا بغرضِ اصلاح اٹھ کھڑی ہوئی ہو، بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک سازشی گروہ نے محض انتشار و تحریک کی خاطر خود گیری کو اختیار کیا اور موبیوم بنیادوں پر چند اعتراضات کی عمارت آٹھا کر ان کا منتظم پروپیگنڈا شروع کر دیا، خود مولانا نے بھی اعتراض کیا کہ اعتراضات میں بنیاد تھے، پھر اپنے لکھتے ہیں:-

”اس تحریک کے علبیوار مصروفہ اور بصرے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے یا ہم خط و کتابت کر کے خفیہ طریقے سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر حضرت عثمانؓ پر دباؤ ڈالیں، انہوں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف از امامت کی ایک طویل فہرست مرتب کی، جو زیادہ تر بالکل بے بنیاد یا یسکندر وال الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیئے جاسکتے تھے اور بعد میں دیئے بھی گئے، پھر یا ہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ جن کی تعداد دو ہزار سے زیادہ نہ تھی، مصروفہ اور بصرے سے بیک وقت مدینہ پہنچی، یہ کسی علاقے کے بھی نمایندے نہ تھے بلکہ ساز یا زسے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی، جب یہ مدینہ کے باہر پہنچنے تو حضرت علیؓ، حضرت طلحةؓ اور حضرت زبیرؓ کو انہوں نے ساتھ ملائے کی کوشش کی تھی تاکہ بنیوں نے انکو حفڑک دیا اور حضرت علیؓ نے ایک ایک الزام کا جواب دی کہ حضرت عثمانؓ کی پوزیشن

صف کی، مدینہ کے مهاجر و انصار بھی جو دراصل اس وقت مملکتِ اسلامیہ میں اہل حُل و عقد کی حیثیت رکھتے تھے ان کے ہمنوا بنتے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ (خلافت و طوکیت ص ۱۱۶)

مولانا کے اس بیان سے حسب ذیل نتائج منکلے ہے۔

- حضرت عثمانؓ کے خلاف شورش برپا کرنے والا باغیوں کا ایک گروہ تھا۔
- اسی گروہ نے اپنے ناپاک عزائم کو بروئے کار لانے کے لئے حضرت عثمانؓ کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست مرتب کی۔
- یہ الزامات زیادہ تر بالکل بے بنیاد اور الیسہ کردہ الزامات پر مشتمل تھے جن کے معقول جوابات دیئے جاسکتے تھے اور بعد میں دیئے بھی گئے۔
- خود حضرت علیؓ نے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمانؓ کی یوں لشیں صاف کی۔ ان امور کو سامنے رکھ کر ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ اگر کوئی سوچی سمجھی سازش نہ ہوتی تو اس مرحلے پر آکر اس تحریک کو ختم ہو جانا چاہئے تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لپٹنے اقلام سے بازنہ آئے اور وہ سب کچھ کر گزرے جو انہوں نے سوچ رکھا تھا، اب سوال یہ ہے کہ مولانا نے حضرت عثمانؓ پر جو اغراضات کئے ہیں وہ وہی بالکل بے بنیاد اور ایسے کمزور ہیں جنکے معقول جوابات افسی وقت دے دیے گئے تھے یا مولانا کے عائد کردہ الزامات ان سے مختلف ہیں ؟ ظاہر ہے یہ الزامات وہی ہیں جو بسا یوں نے اپنے ناپاک اغراض کے لئے گھرے تھے جنہیں مولانا بھی بالکل بے بنیاد تسلیم کرتے ہیں، ہم اہل انصاف کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اب ان بے بنیاد الزامات کو دوبارہ منتظر عام پر لا کر حضرت عثمانؓ کی شخصیت کو سبوتو اڑ کرنا کیا؟ انصاف اور دیانت دری کا منظہر ہے؟

### عمر فاروقؓ کی وصیت؟

پہلے مرحلے میں مولانا نے حضرت عثمانؓ غنی کی سیاسی حکمت علیؓ کو ہدفِ تنقید بنایا ہے یعنی ان کے نزدیک حضرت عثمانؓ کی خویش پرورد و اقر بنا نواز سیاست ملوکیت کا نقطہ آغاز تھی، مولانا نے حضرت عثمانؓ کی فردِ جرم پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروقؓؓ کی

ایک وصیت بڑے ڈرامائی انداز میں بیان کی ہے، پہلے اس پر ایک تنقیدی نظر ڈال لیں:-

”اس نقیر کا آغاز صحیح اُسی مقام سے ہوا جہاں سے اُس کے رونما ہوئے تکمیل  
عمر پر ہو کو اندیشہ تھا۔ اپنی وفات کے قریب زمانے میں سب سے پہلے کہ جس بات سے  
وہ ڈرتے تھے وہ یہ تھی کہ کہیں اُن کا جانشین اپنے اور اقر پار کے معاملے میں اُس  
پالیسی کو نہ یبدل دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اُن کے زمانے  
تک چلی آری تھی..... اسی لئے اُنہوں نے اپنے تینوں موقع جانشینوں حضرت  
عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت سعد بن ابی وفا ص کو الگ الگ ملا کر اُن کو  
وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کا  
گردنوں پر سلطنت کر دینا۔“ (ص ۱۰۵-۱۰۶)

اسی مفہوم کی ایک اور روایت کا لکھا مولانا نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے جو اس  
طرح ہے کہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے  
حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے حضرت عثمانؓ کے متعلق کہا:-

”اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کر دوں تو وہ بنی ابی میعیط کو لوگوں کی گردنوں پر  
سلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے خدا کی قسم اگر  
میں نے ایسا کیا تو عثمانؓ پر ہی کریں گے اور اگر عثمانؓ نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور  
معصیتوں کا اتنا کاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثمانؓ کو قتل کر دیں گے۔“

(ص ۹۸-۹۹)

اس من لکھتے روایت کی اسنادی حیثیت سے قطع نظر چند امور تنقیح طلب ہیں:-  
ہمیں یہ تسلیم ہے کہ بعض دراندیش آدمی آنے والے خطرات کو بعض دفعہ پہلے سے  
ہی محسوس کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ حوالہ بینی بعض آثار و قرآن کا نتیجہ ہوتی ہے۔  
اس کے سامنے ماضی اور حال کے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی روشنی میں وہ مستقبل  
میں پچھے ہوئے امکانات کا جائزہ لے کر کوئی ایسی پیش گوئی کر دیتا ہے جو فی الواقع  
صحیح نہ کلتی ہے، آثار و قرآن کے بغیر پیش گوئی یہ صرف بی کا کام ہے وہ محض آسمانی

اشاروں پر یا کل صحیح پیش گوئی کرتی ہے، غیر نبی انسان چاہے کتنا ہی دو راندشیں اور داتا ہو وہ پیش گوئی کے لئے بعض مقدرات کا محتاج ہوتا ہے، بہل۔ یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ کیا دو رفاقتی میں یا اس سے پہلے حضرت عثمانؓ کے اعمال و کردار، اقوال و افعال سے کوئی ایسا ثبوت پیش کیا جاسکتے ہے کہ جس سے اس قسم کے خیال کا پیدا ہنامکن ہوتا؟ یا یقین مولانا حضرت عمرؓ کے دل میں یہ اندریشہ پیدا ہوا۔

۲۔ موقع جانشین چہ افراد تھے اگر حضرت عمرؓ کے دل میں واقعی یہ اندریشہ پیدا ہو گیا تھا تو انہوں نے صرف تین موقع جانشینوں کو ہی بلا کر کیوں نصیحت فرمائی، دیگر تین موقع جانشینوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ خطرہ صرف تین ہی حضرات سے تھا، اگر ایسا تھا تو اس کے آثار و قرائیں کیا تھے اور دیگر تین حضرات کے لئے یہ خطرہ پیدا نہ ہوا اس کے وجہ کیا ہیں؟

۳۔ روایت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے دل میں حضرت عثمانؓ کی طرف سے صرف اندریشہ ہی پیدا نہ ہوا تھا بلکہ ان کو یقین کامل اور پورا اوثوق تھا کہ عثمانؓ ایسا ہی کریں گے تب ہی تو انہوں نے خدا کی قسم کا کرکہ اکابر اگر میں نے عثمانؓ کو نامزد کر دیا تو وہ ضرور اپنے قبیلے کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے بلکہ ان کی نگاہ دوسرے نے تو یہاں تک دیکھ لیا تھا کہ عوام شورش برپا کر کے عثمانؓ کو قتل کر دینے کے سوال یہ ہے کہ اتنے واضح خطرات و جھاک کے باوجود حضرت عثمانؓ کو موقع جانشینوں میں شامل ہی کیوں کیا گیا؟ کیا عمر فاروقؓ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ "عظمیم خطرات" کے پیش نظر حضرت عثمانؓ کو ان چھا فرادیں شامل ہی تکریتے ہیں میں سے ہر شخص کے متعلق یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ آیندہ چند روز میں امت کی زمام قیادت اس کے ہاتھ میں جا سکتی ہے یا شخصوں اُس وقت جب کہ یہ نسبت دوسروں کے حضرت عثمانؓ کے متعلق یہ امید زیادہ تھی، اس کا تو صاف مطلب یہ ہو اک خود عمر فاروقؓ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود امت مسلمہ کو ایسے نازک اور خطرناک موڑ پر چھوڑ گئے کہ ان کے بعد فوراً امت اس موڑ پر یا سانی مڑ سکتی تھی، صورتِ واقعہ اگر

یہی ہے تو پھر خود حضرت عمرؓ کو اس ذمہ داری سے کس حد تک مستثنی قرار دیا جا سکتا ہے؟

اُن دو چورہ مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصیت حضرت عثمانؓ کو بذام کرنے اور ان کے خلاف پھیلائی ہوئی غلط افواہوں کو صحیح ثابت کرنے کے لئے بطور پیش بنی کھڑتی تھی ہے وگرنہ اس میں درابجی حقیقت ہوتی تو عمر فاروقؓ فخر و راس کے تدارک کے لئے کچھ واضح خطوط تھیں کر جاتے یا سرسے حضرت عثمانؓ کو اس انتخابی کمیٹی میں شامل ہی نہ کرتے۔ اس کی مزید تائید صحیح بخاری کی اُس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت عمرؓ کی وصیتیں مذکور ہیں۔ اس میں اس انداز کی کوئی وصیت نہیں ہے اگر واقعی حضرت عمرؓ نے یہ وصیت کی ہوتی تو بخاری کا راوی دیگر وصیتوں کے ساتھ اس کا ذکر بھی ضرور کرتا ہے۔

حضرت عثمانؓ کی اقرب احوالات پالیسی؛

اب حضرت عثمانؓ کی وہ فرد جنم ملاحظہ فرمائیں جو مولانا مودودی صاحب نے مرتب کی ہے:-

جب حضرت عثمانؓ چالشیں ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے، انہوں نے پے درپے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عبدے عطا کئے اور انکے ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں بھی عمر بن عین بن کریمؓ، حضرت سعد بن ابی وفاؓ کو معزول کر کے انہوں نے کوئے کی گورنری پر اپنے ماں جیلیتے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی مُعیطؓ کو متصر فرمایا اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز مسیعہ بن عاصؓ کو دیا۔ حضرت ابو عین اشعریؓ کو پسروں کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماہوں زاد بھائی عبداللہ بن عاصؓ کو اون کی جگہ مامور کیا، حضرت عمرؓ نے العاصؓ کو مصر کی گورنری سے

ہنا کراپنے رضائی بھائی عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ حضرت معاویہؓ سیدنا عمر فاروقؓ کے زمانہ میں صرف دمشقی ولایت پر تھے حضرت عثمانؓ نے ان کی گورنری میں دمشق جنم، فلسطین، آردن اور لبنان کا لے رکھا۔ اعلاقہ جمع کر دیا۔ پھر اپنے چھا زاد بھائی مروان بن الحکم کو انہوں نے اپنا سکرٹری بنایا۔ ہبھی کی وجہ سے سلطنت کے پورے در و بست پر اس کا اثر و تفویذ قائم ہو گیا، اس طرح عمل ایسا ہی خاندان کے ہاتھ میں سایہ اختیارات جمع ہو گئے۔ (ص ۱۰۶-۱۰۸)

یہاں چند بیزیں تتفقیع طلب ہیں:-

۱۔ اُولیہ کہ حضرت عثمانؓ نے اُمر خلافت کے سنبھالتے ہی عزم و نصب کا یہ کام شروع کر دیا تھا یا کچھ عرصہ مدد رہ جانے کے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی؟  
۲۔ حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ عمال کو کسی خاص سبب، حادثے یا رعایا کی شکایات کی بنا پر معزول کیا گیا یا محض اقتیان اتوازی کے جنون میں بیکار بینی و دوگوش ان کو ان کے عہدوں سے نکال بانہ کر دیا گیا؟

۳۔ تمام مقامات میں پُرانے عاملوں کو معزول کر کے اپنے رشتہداروں تو دہاں ٹھوٹا گیا یا ایسا صرف ان مقامات میں کیا گیا جہاں کی سیاسی و عمومی مصلحت اس کی متقاضی ہوئی؟

۴۔ حضرت عثمانؓ نے جن لوگوں کو آگے بڑھایا اور انہیں بڑے بڑے اہم عہدوں عطا کئے، ان میں ان امور متفوہہ کو جانا لئے کی فی الواقع صلاحیت تھی یا محض انھیں خلیفہ وقت کے خاندان کے افراد ہونے کی وجہ سے لوگوں پر مسلط کر دیا گیا؟

لہ حضرت معاویہؓ اور حضرت عثمانؓ کے دریان کیا رشتہداری تھی اس کا سو والدینا نہ معلوم مولانا یہاں کیوں بھول گئے؟ حالانکہ یہ بھی اسی بیت "ماں جائے بھائی" ماں زاد بھائی رضائی بھائی اور چھا زاد بھائی کا ایک جسمی و خوبصورت مصرع بن سکتا تھا۔

۵۔ وہ دوسری الیسی رعایات کوں سی تھیں جو یہ فِ اعتراض بن کر رہیں؟

یہ وہ اہم سوالات ہیں جن پر غور کرنے سے ان تمام اسپاٹ، پس منظر اور سیاسی اور عوامی تقاضوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے جو حضرت عثمانؓ کی پالیسی میں کار فرماتھے، لیکن مولانا نے ان تمام امور سے صرف نظر کر کے محض اعتراضات کی ایک فہرست مرتب کر کے رکھ دی ہے، ہم بالترتیب اپنے آٹھلئے ہوئے سوالات کی تو صحیح کرتے ہیں اس کے بعد اعتراضات کی قلعی آپ سے آپ کھل جائے گی۔

### عہد فاروقی کے عمل

حضرت عثمانؓ جس وقت خلیفہ ینے اس وقت حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ اہم صوبوں کے حاکموں کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

طائف کے گورنر سفیان بن عبداللہ شققی

یعلیٰ بن امیہ	صنتاء
عبداللہ بن ابی رجیعہ	جنند
مُغیرہ بن شعبہ	کوفہ
ابو قوشی اشعریؓ	بصرہ
عمرو بن العاص	صر
عمیرہ بن سعد انصاریؓ	محص
معاویہ بن ابی سفیانؓ	دمشق
عبد الرحمن بن علّقہ کنافی	فلسطین
عثمان بن ابی العاص شققی	بحرین و مضائق
ولید بن عقبہ	الجزیرہ
نافع بن عبد الحارث خڑاعیؓ	مکہ

حضرت عثمانؑ نے اپنی خلافت کے پہلے ایک سال میں نہ حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ عاملوں میں سے کسی کو بلانہ فاروقی پالیسی میں کوئی تبدیلی کی بلکہ اپنے عاملوں کو صاف طور پر سیاسی استپول درآمد کرنے کے لئے فرمان جاری کیا ہے جس پر عمر فاروق عمل پیرا تھے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود عمر فاروق نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ ایک سال تک میرے مقرر کردہ عاملوں کو معزول نہ کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اپنے کبھی محض اس بنابر کسی شخص کو معزول نہیں کیا کہ اس کی جگہ اپنے کسی رشته دار کو لانا مقصود ہو، بلکہ جس کسی کو معزول کیا اس کے معقول وجہ ہے، جہاں تبدیلی کی ضرورت پیدا نہیں ہوئی وہاں یہ سورعماں فاروقی کام کرتے رہے، ہم غرض اُن مقامات کا جائزہ لیتے ہیں جہاں گورنری کو تبدیل کیا گیا، اس تفہیل سے حقیقی صورت حال واضح ہو جائے گی۔

### کوفہ

کوفہ پر حضرت عمر فاروقؓ کے نامزد عامل حضرت مغیث بن شعبہ تھے، ایک سال کے بعد حضرت عثمانؑ نے انہیں معزول کر کے ان کی جگہ فاتح قادسیہ حضرت سعد بن ابی وفا کو مقرر فرمادیا، یہ معزولی و تقریبی حضرت عمرؓ کی اس وصیت کی بنابری جو انہوں نے ہونے والے خلیند کو کی تھی کہ سعد بن ابی وفا کو صور کسی جگہ کی گورنری دی جائے۔ حضرت عثمانؑ کی سیاسی بصیرت کا یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ کی وصیت کا صحیح محل تلاش کر لیا، عمر فاروقؓ کی وصیت کا اصل مقصد یہ تھا کہ سعد بن ابی وفا کی قابلیت اور جتنی عاملات میں ان کی ہمارت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وفا کو فتح کی گورنری دیدی جائے، کیونکہ معزول قادسیہ کے مرد میلان اور فاتح کسری وہی تھے، نیز ایرانی علاقوں کی سیاسی ہوت

لہ الطہری، ج ۲، ص ۲۷۵۔

لہ الطہری، ج ۲، ص ۲۸۳۔ البلایری، فانہبای، ج ۲، ص ۱۴۹۔ الكامل، ج ۳، ص ۷۹۔

لہ الطہری، ج ۱، ص ۵۷۳۔ البلایری، ج ۲، ص ۲۴۷۔ البلایری، ج ۲، ص ۱۴۰۔ الكاملی، ج ۳، ص ۹۷۔

حال مسلمانوں کے لئے اطمینان بخش نہ تھی، ایسے حالات میں وہاں ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جس نے وہاں فتوحات کا دروازہ کھولتا تھا اور وہاں کے سیاسی حالات سے پوری طرح باخبر تھا تاکہ وہ فتح شدہ علاقوں پر صحیح طرح کمزوری اور یا قی مانزہ علاقوں کو فتح کر کے کفر کو پوری طرح دلیں کالا دیکرا اسلامی پرچم کو وہاں گاڑسکے۔ اگر حضرت عمر فاروقؓ کی وصیت کو یا اس طور پر اندر کیا جاتا تو حضرت سعدؓ کو کوفہ کی بجائے کسی اور جگہ کی گورنری نے دی جاتی تو یہ کوئی سیاسی بصیرت کا صحیح ثبوت نہ ہوتا امیر بعض روايات سے صاف ہوا پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود عمر فاروقؓ نے اپنی زندگی میں حضرت سعدؓ کو کوفہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی جگہ مامور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آپ کی زندگی نے دفانہ کی اس لئے آپ نے وصیت کر دی۔<sup>۱۰</sup>

### سعدؓ کی برطانی اور ولید بن عقبہ کی تقریب

لیکن افسوس کہ حضرت سعدؓ کو وہاں زیادہ عرصہ حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا اور ایک داخلی نزع کی بنا پر کم و بلیش ایک سال کے بعد انھیں معزول کر دیا گیا۔ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوفہ کے بیت المال کے انچارج حضرت عبداللہ بن مسعود تھے حضرت سعدؓ نے ان سے کچھ قرضہ لیا تھا، وقت میتوں پر وہ قرضہ ادا نہ کر سکے، سزید ہبہ کے طلبگار ہوئے، عبداللہ بن مسعود نے ہبہ دینے سا انکار اور فی الفور ادا کرنے پر اصرار کیا، اس پر دونوں کے مابین تلنگی زیادہ ہو گئی، عوام کے دو گروپ ہو گئے، ایک عبداللہ بن مسعود کا حامی دوسرا حضرت سعدؓ بن ابی وقاص کا مددگار، حضرت عثمانؓ کو اس کی اطلاع ہوئی تو دونوں پر اٹھا رنا ارضی فرمایا، اور حضرت سعدؓ ابی وقاص کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ولید بن عقبہ کو مامور کر دیا، جو اس سے حضرت عمرؓ کی طرف سے ابھر رہا پر مامور تھے، حضرت ولید بن عقبہ پورے پانچ

سال وہاں اپنے عہدے پر اس شان سے اپنے فرانس سر انجام دیتے رہے کہ آپ کا گورنمنٹ ٹاؤں  
ہر وقت عام و خاص کے لئے کھلا رہتا، اور ان کا سلوک اوگوں کے لئے نرم ترین اور دوچوں  
کی نظر وہ محبوب ترین تھے۔<sup>۱۰</sup>

حضرت ولید بن عقبہ صرف حضرت عثمانؑ کے رشتہ داری نتھے بلکہ حضرت ابو بکرؓ و  
عمرؓ کے دور سے ہی اسلامی خدمات سر انجام دیتے آ رہے تھے۔ سلسلہ میں حضرت خالد بن ولید  
کے ساتھ دادو شجاعت دیتے رہے، جنگ مدار کے موقع پر بوجو فارس کے ساتھ ہوتی تھی،  
حضرت خالدؓ نے انھیں فتح کی خوشخبری اور مال غلیم دے کر اور معز کیہے کا لذار کی سیاسی  
و جنگی صورتِ حال سمجھا کہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس بیجا، حضرت ولیدؓ جس وقت حضرت  
بلو بخاری کے پاس آئے اُنہوں نے انہیں پھر ایک دوسرے معاذ پر بینی امدادی سامان دیکر  
روانہ کر دیا، جہاں حضرت عیا من بن عثمنؓ کی سرکردگی میں جنگِ بڑی بڑی تھی، سلسلہ  
میں یہ ابو بکرؓ صدیقؓ کی طرف سے قضاۓ قبیلے کے صدقات وصول کرنے پر مأمور تھے،  
تیرز جب ابو بکرؓ صدیقؓ نے شام کی فتح کا قصد کیا تو اس اہم کام کے لئے ان کی نظر انتباہ  
جن دو شخصوں پر پڑی ان میں ایک حضرت عمرؓ بن العاص تھے دوسرے پھری حضرت ولید بن  
عقبہ تھے حضرت عمرؓ بن العاص کو فوج کا قائد بنی اک فلسطین روانہ کیا اور حضرت ولید بن  
عقبہ کو قائد لشکر بنی اکاردن کی طرف روانہ کی، سہی تھے کہ واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت  
ولیدؓ حضرت عمرؓ کی طرف سے بلا دینی تغلب اور عرب الجزیرہ پر مأمور تھے جو کہ اس میں جب  
شاہ روم نے تمص کے مقام پر مسلمانوں کا محاذ رکھنا چاہا، اس وقت بھی اُنہوں نے  
ایک طرف اپنی مجاہدانا سرگرمیاں یہاں رکھیں دوسری طرف اُنہوں نے جزیرہ کی عیسائی  
امدادی کو مسلمان بنانے کی پوری کوشش کی۔<sup>۱۱</sup>

۱۰ الطبری، ج ۲، ص ۱۵۲-۱۵۳، ۲۷۱، ۲۵۲-۲۵۳۔ البدری، ج ۲، ص ۱۵۱۔ الکامل، ج ۳، ص ۸۲۔ تابیخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۴۹۹۔

۱۱ دیکھو الطبری، ج ۲، ص ۱۵۱-۱۵۲، ۲۷۱-۲۷۲۔ ۴۰۷، ۳۹۰، ۳۷۷۔

سلہ الطبری، ج ۲، ص ۵۰-۵۱۔

یہ تھا ان کا شاندار ماضی جس کی وجہ سے وہ گورنری کے بجا طور پر اہل اور مستحق تھے، حضرت عثمان نے انہیں محض رشته داری کی بنابریہ عہدہ نہیں دیدیا تھا بلکہ ان کے پیش نظر ان کی مذکورہ پڑائی خدمات اور تجربہ کاری تھی، کوئی پر اُنہوں نے یہ نظم و ضبط اور اعتدال و توازن کے ساتھ پورے پانچ سال حکومت کی، کسی کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی، عوام کے لئے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا، وہاں رہ کر اُنہوں نے فتوحات کا دائرہ بھی بڑا وسیع کر دیا اور سیرت و کردام کی پختگی کے ساتھ اپنی انتظامی و جنگی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا، ایک مرتبہ یک مجلس میں حضرت مسلمؓ کی جنگی نہاد کا تذکرہ ہوا تھا تو کسی نے کہا "یہ کیا ہے؟ اگر تم ولیدؓ کی جنگی اور گورنری کی صلاحیتوں کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے، زادس نے کوئی کوتاہی کی رہا اس پرسی نے کوئی عیوب گیری کی۔"

### ولیدؓ کے خلاف سازش

یہیں اشارہ کوفہ کی ایک سازش کی بنابرائیں بھی معزول کر دیا پڑا تفصیلات یوں بیان کی جاتی ہیں کہ شرپند عنصر نے ایک شخص ابن الحسین اُمان کو اس کے گھر میں لھس کر مار ڈالا۔ ایک صحابی رسول ابو شریع خداوندی اور اُن کے رٹ کے نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اُنہوں نے اسے بچانے کی بھی حتی الامکان کو شتش کی، یہیں ان کی پیش نہ گئی، بالآخر اس امر کی اُنہوں نے گواہی دی، حضرت ولید بن عقبہ نے قاتلین کو قصاص میں قتل کر ڈالا، یہاں سے حضرت ولید بن عقبہ اور اشارہ کوفہ کے درمیان بنائے خاصمت پڑ گئی۔ اور وہ عیوب جوئی کی قہم میں لگ گئے، حضرت ولید بن عقبہ کا ایک نصرانی شاعر دوست تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کے نیھاں اس کو تنگ کرنے لگے، ولید نے ہمیں اس موقع پر پوری اہد کی، وہ حضرت ولید کا ممنون احسان تھا، پرانے تعلق کی بنابری و لید کے زمانہ گورنری میں بھی کوفر آثار رہتا تھا، اس کے ساتھ اشارہ کوفہ نے شراب نوشی کے الزام میں حضرت ولیدؓ کو موت کرنا چاہا۔ یہیں وہ اس کا کوئی واقعی ثبوت پیش نہ کر سکے، وہ گھول نے الزام ذہرنے والوں کو ہی ملامت کی، الزام لگانے والے حضرت

عثمانؑ کے پاس تک پہنچ گئے، لیکن انہوں نے بھی ان کے مظاہرؑ عزماً کو درخواست اتنا سمجھا اور وہ اپنے نایاک مشن میں ناکام والیس آگئے۔ ایک اور موقع پر ایک جادوگر کو فہ آیا، اس کے متعلق بعد اندھیں مصود نے قتل کا فیصلہ کر دیا تھا حضرت ولید بن عمیقہ اس کو قتل کرنے ہی لگے تھے کہ ان اشارا میں سے کسی نے جلدی سے اس کے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا، حضرت ولید نے اس قاتل کو اقدام پر جاکے الزام میں پکڑ کر تیز کر دیا، اس کے ساتھیوں نے اس پر بھی ان کی معذوبی کی وشیش کی لیکن ناکام رہے، دو مرتبہ کی ناکامی نے ان کے غیظ و غضب کو دو آتش کر دیا۔ انہوں نے پھر نئے سرے سے ایک سازش تیار کی، اس کے طبق وہ کسی طرح حضرت ولیدؑ کی انگوٹھی ماحصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہ جا کر انہوں نے دیبا خلافت میں اس بات کے ثبوت میں پیش کی کہ ہم یہ انگوٹھی ایسی حالت میں ان کی اٹھگی سے آتا کر لائے ہیں کہ وہ شراب کے نشہ میں مدبوش تھے، دونین گواہوں نے اس پر اپنی گواہی بھی پیش کی، حضرت عثمانؑ نے بالآخر انہیں بھی معذول کر دیا اور ان کی بیگنے حضرت سعید بن العاص کو مقرر کر دیا۔

کوفہ پر سعید بن العاص کی تقریری

سعید بن العاص کو بھی حضرت عثمانؑ کو شہزادگانی سے نکال کر منظر عام پر نہیں لائے بلکہ ان سے قبل خود عمر فاروقؓ کے بھی یہ عامل زہ پکے تھے تھے سعید بن العاص نے وہاں جا کر دیاں کے داخلی حالات کا جائزہ لیا، جو شرپنڈ عناصر تھے اس کے متعلق سرکی خلافت میں اطلاع دی اور ایسے دو وجہ بھی حضرت عثمانؑ کو لکھے جن کی وجہ سے کوفہ فتنوں کی آیا جگہ بنا ہوا تھا، ان کی تفسیریں دو حصہ تھے جو خارجی کی جڑ تھے، ایک عرب کے اجدہ، دیہاتی لوگ، دوسرے یا ہر سے آئے والے عجمی لوگ تھے، یہ دونوں حصہ راضی جہالت

سلہ الطبری، ج ۲، ص ۲۷۱-۲۷۷-۲۸۰۔ الکامل، ج ۳، ص ۱۰۵-۱۰۶۔

سلہ البدریہ «النہایہ»، ج ۸، ص ۸۷۔

سلہ الطبری، ج ۲، ص ۲۷۹، الکامل، ج ۳، ص ۱۰۸۔

کم عقلی اور ناقص تربیت کی وجہ سے فتنہ پردازوں کے دام تزویریں پھنستے جا رہے تھے، حضرت عثمانؓ نے انہیں جواب میں لکھا کہ وہ سابقین کا خاص خیال رکھیں جہاڑا کہ پوسکے اہل فتنے سے اپنے کو اور عوام کو بچائیں ہمالایہ کہ وہ لعلم کھلا جس سے اعراض کر کے تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لوگوں کے مراتب کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ حق و انصاف کا معاملہ کریں۔<sup>۱</sup> جو شریپ ندعا صارتحے ان کے متعلق تفصیل ذذر ہیکی ہے کہ ان کے متعلق آپ نے جلا وطنی کا حکم دیا، حضرت سعید بن العاص نے انھیں شام بھیج دیا، پھر عرصہ امن اماں رہا یعنی وہ سازشی آرہہ امداد و نیاز خانہ سعید بن العاص کے سلاف پخت و پرکشہار ہا، اپنی امارت کے تیسرے یا چوتھے سال سعید بن العاص حضرت عثمانؓ کے پاس مرکز خلافت میں تشریف لائے، مفسدین نے موقع غیمت جائز اس سے فائدہ اٹھایا اور راستے میں ایک مقام جائز پر جمع ہوئے، سعید بن العاص جس وقت گود والیس آرہے تھے، ان کو دریں راستے میں روک لیا کہ یہیں تمہاری امارت کی منورت نہیں، حضرت سعید بن العاص حضرت عثمانؓ کے پاس والیس آگئے اور مفسدین کی رائے کے مقابلی حضرت عثمانؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو کوفہ کا گورنر نیا رہا۔<sup>۲</sup>

### بصرہ

کوفہ کی طرح بصرے کی آبادی میں بھی وہی افراد غالب عنصر کی حیثیت رکھتے تھے جو کوفے میں داخلی انتشار کا سبب تھے، یہاں حضرت عمرؓ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ایک جلیں القدصیابی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ تھے، یہ حضرت عثمانؓ کے بعد بھی چھ سال تک اس مہدے پر فائز رہے، بعض روایات یہ مدت تین سال بتاتی ہیں، لیکن بیشتر روایات چھ سال کی تائید میں میں، اگر عوامی اضطراب اس بات کا نتیجہ

<sup>۱</sup> الحطبری، ج ۲، ص ۲۲۹۔ الکامل، ج ۲، ص ۱۰۸۔

<sup>۲</sup> الحطبری، ج ۲، ص ۳۳۲۔ ۳۳۲ ج ۲، ص ۱۷۴۔ ۱۷۸۔ البدایہ، ج ۷، ص ۱۴۷۔

ہوتا کہ حضرت عثمانؓ نے اصحاب رسولؐ کو بر طرف کر کے ان کی جگہ اپنے رشته داروں کو  
مسلط کر دیا، تو بصرے کو اس اضطراب سے محفوظ رہنا چاہئے تھا، یہاں حضرت عثمانؓ  
کا کوئی رشته دار گورنر نہ تھا بلکہ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ تھے، بین  
تو گوں تے انہیں بھی نہ بخشا اور ان کے خلاف ایسی فوجوں عائد کی جسے صحیح تسلیم کرنا ہبہ  
مشکل ہے، تاریخ نے واقعہ کی جو تفصیلات بتلائی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ حضرت  
ابو موسیٰ اشعرؓ نے قوم کو چیہاد کے لئے تیار کیا، بعض لوگ تیار ہو گئے، بعض کہنے لگے  
کہ فیصلہ کرنے میں جلدی باز می نہیں کرتے، اپنے امیر کو دیکھتے ہیں، اگر اس کا فعل اس کے  
قول کے موافق ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، جس وقت ابو موسیٰ چیہاد کے لئے تسلیم،  
انہوں نے اپنا سامان چالیس خجروں پر لادا ہوا تھا، توقف کرنے والے ان کی لگائیں  
پکڑ کہنے لگے ہمیں بھی ان پر سوار ہونے دیکھئے۔ آپ نے اس پر ان کو جھٹک دیا، یا  
بر وايتہ احری، سوٹے کے ساتھ ان کی پیٹاٹی کی، یہ لوگ حضرت عثمانؓ کے پاس  
شکایت لے کر آگئے، اور ان کی معزولی کا مطالبہ کیا اور کہنے لگے، ہم ان کے متعلق جو  
کچھ جانتے ہیں اُسے بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتے، آپ ان کی جگہ کسی اندھ شخص کو متفرک رکھیجئے  
حضرت عثمانؓ نے پوچھا تم کس کو چاہتے ہو؟ کہتے گئے۔

۱۔ اس شخص نے ہماری زمینیں ہڑپ کر لیں، ہمارے اندر یہ جاہلیت کو  
رواج دے رہا ہے، اپنی قوم کی عظمت و برتری جتنا اور بصرے کو ذلیل  
کر رہا ہے، اس کے بد لئے میں آپ جس کسی آدمی کو بھی مقرر فرمائیں گے وہ  
اس سے بہر صورت بہت پہنچ ہو گا۔

آپ نے ایک بامہت نوجوان عبد اللہ بن عامر کو دیاں کاگوڑے مقرر کر دیا، شہزادت  
عثمانؓ تک جس عدل والصفاف کے ساتھ اس اموی نوجوان نے گورنری کی،  
اس نے حضرت عثمانؓ کے اختتام کی صحت کو ثابت کر دیا۔

## مصر

حضرت حضرت عمر بن العاص کو رئیخے حضرت عثمانؓ کے دو خلافت میں بھی کم و بیش چار سال پہنچا اس عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد کچھ شکایات پیدا ہو گئیں، مصر کے بعض افراد نے حضرت عثمانؓ کے پاس ان کے خلاف شکایات لکھ کر بیعت نیز جب انہوں نے اسکندریہ فتح کیا تو اماں کے افراد جو جنگ کے قابل تھے، انہیں قتل کر دیا یا لوٹدیاں بنایا، حضرت عثمانؓ کو اس کا معلم ہوا تو انہوں نے انہیں لکھا کہ تم نے یہ غلط اقدام کیا ہے، ہمارے اور ان کے مابین معاہدہ ہے، جس کی رو سے ہمارے نے یہ تقاضہ عہد صحیح نہیں ان کی بنائی ہوئی لوٹدیوں کو واپس کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح حضرت عمرؓ کی طرف سے جنگِ مصر پر مقرر تھے، ان کے او حضرت عمر و بن العاص کے مابین بھی کچھ تلفیز پیدا ہو گئی، عبداللہ بن سعد نے حضرت عثمانؓ کو لکھا کہ عمر و بن العاص مالکزاری کی پوری مقدار وصول نہیں کر سکتے، حضرت عمر و بن العاص نے عبداللہ بن سعد کے متعلق یہ شکایات لکھی کہ یہ جنگی معاملات میں میری رائے کے مطابق عمل نہیں کرتے حضرت عثمانؓ نے دونوں کی بڑھتی ہوئی تلفیز و ماخوشگواری کو محسوس کر کے حضرت عمر و بن العاص کو معزز دل کر کے ان کی بجائے عبداللہ بن سعد کو گورنر بنادیا۔ کہتے ہیں کہ عمر و بن العاص کے زمانہ ولایت میں مالگزاری کی بینی مقدار وصول ہوتی تھی ان کی معززی کے بعد وہ دو گنی ہو گئی۔ اب جو سیستی لکھتے ہیں :-

”ان کے زمانہ، گورنری میں بہت سے اچھے کام سرانجام پائے، جیسے اس طرف کے

له الطبری، ج ۵، ص ۱۸۱۔ الکامل، ج ۲، ص ۲۵۵۔ الاستیعاب، ج ۲، ص ۳۲۵۔ البدایۃ والنهایۃ، ج ۲،

له البدایۃ والنهایۃ، ج ۲، ص ۲۷۔ الصواعق المحرقة، ص ۶۷۔

سلہ الاستیعاب، ج ۲، ص ۳۲۵۔

له الکامل، ج ۲، ص ۸۸۔

ھفتوح البُلْدان، ص ۲۳۶

بہت سے ملاقات ان کی قیادت میں فتح ہوئے، ان کے فرکے لئے یہ بات سماں ہے کہ دیگر ہند سے سماں کی طرح خود حضرت عمر بن العاص کے صاحبوں اور عبد اللہ بن عفرد یعنی ان کے جنڈے تھے اور ان میں شرکیت تھے، تیزان عجایب نے سیاست اور تدبیر امر کے لحاظ سے ان کو عزیزین العاصی سے بھی زیادہ موروث پایا اور ان کی بہتری خوبیوں میں سے ایک نایاں ترین خوبی یہ ہے کہ شہادت عثمانؓ سے پہلے اگرچا ان کی تلوار مشترکین کے لئے ہر وقت ننگی رہیں یعنی شہادت عثمانؓ کے بعد وہ تلوار کسی مسلمان کے خلاف حرکت میں نہیں آتی۔<sup>۱</sup>

### شام

شام میں حضرت عمرؓ کی طرف سے حضرت معاویہؓ کو فرز تھے، حضرت معاویہؓ سیادت و قیلات کی خداداد صلاحیتوں سے بہرہ مند تھے جس کی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کو تابت و حبیبی خاص الحاجی کام پر مقرر فرمایا، ایوب کر شدید نے ملک شام فتح کرنے کے لئے حضرت عمر بن العاص، ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت یزید بن ابی سفیانؓ کو قاتم فوج بن اگراس کے مختلف صوبوں میں بھیجا، تو اس کے قوائی عدہ ہی یزید بن ابی سفیان کی مدد کے لئے ایک اور لشکر حضرت معاویہؓ کی سرکردگی میں رواند کیا۔ کویا حضرت ایوب کر کے دوسریں شام کے بعض علاقوں کے فتح کرنے میں حضرت معاویہؓ نے قابل قدر حصہ لیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ذریعات میں حضرت معاویہؓ کی عظیم صلاحیتوں سے پورا فائزہ اٹھایا۔ قیثاریہ فتح کرنے کے لئے انھیں کمانڈر بننا کر ان کی میت میں ایک لشکر روانہ کیا، حضرت معاویہؓ نے اسے فتح کر کے حضرت عمرؓ کو لکھا، حضرت عمرؓ نے دہان کی امارت انہی کے سپرد دردی۔

سلہ الصواعق المحرقة، ص ۶۲۔

سلہ الطبری، ج ۳، ص ۳۶۱۔ البدر ایروالنہایہ، ج ۲، ص ۴۷۔

سلہ فتوح البلدان، ص ۱۲۳۔ کان معاویۃ فی ذلک بلاعہ حسن والتجیل۔

سلہ الطبری، ج ۳، ص ۴۰۵۔

حضرت عمرؓ کے دور میں حضرت معاویہؓ کی غصت و جلالت قدر کا اس سے مزید اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ فتح بیت المقدس کے موقعہ پر وہاں کے باشندگان کے لئے جو صلح نامہ ترتیب کیا گیا اس کے آخر میں جن جلیل القدر اصحاب رسول نے اپنے دستخط طور کو اہم تثیت کئے، ان میں ایک حضرت معاویہؓ بھی تھے، باقی تین گواہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جمعیں تھے۔ حضرت عمرؓ کے دور میں اردن کے گورنر حضرت معاویہؓ اور دمشق کے گورنر ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان تھے، یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد دمشق کا علاقہ بھی حضرت عمرؓ کی گورنری میں شامل کر دیا تھا اسی لئے بعض حضرات کا خیال ہے کہ شام کا پورا علاقہ خود حضرت عمرؓ نے ہی حضرت معاویہؓ کی تولیت میں دے دیا تھا۔

حضرت معاویہؓ حضرت عمرؓ کے دور سے ہی پانچ چھ سال سے مسلسل اپنے عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے وہاں کے عوام کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی، حضرت عثمانؓ نے جلیل القدر خدمات اور عدم شکایت کے پیش نظر انہیں ان کے عہدے پر برقرار کیا اور مزید ایک دو صوبوں کا انتقال کر کے انتظامی حیثیت سے ان کو ایک وحدت میں ضم کر دیا، ان کے خلاف بھی اگر کوئی عوایش کا شکایت پیدا ہوتی تو یقیناً حضرت عثمانؓ انہیں بھی معزول کر دیتے، بغیر کسی معقول وجہ کے ایک ایسے آدمی کو معزول کر دینا بوجرسول اکرم

ابطہ الطبری، ج ۳، ص ۶۰۹ -

لئے مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ج ۲، ص ۲۱۹-۲۲۰۔  
لما مات یزید ابن ابی سفیان فی  
خلافت عمر استعمل اخاه معاویۃ و کان عمر بن الخطاب من اعظم الناس فراسن  
و اخبرهم بالرجال واقوئهم بالحق واعلهم بهـ۔ اليهـ انتہا جـ الشـ رـ جـ ۲: صـ ۲۰۴، جـ ۲: صـ ۱۲۹

تکہ ترمذی، ج ۴، باب مناقب معاویہ، سیرۃ علام البلا، ج ۱، ص ۸۳، طبع مصر ۱۹۷۴ء۔

لئے الاستیعاب، ج ۲، ص ۳۳۵، البطبری، ج ۳، ص ۱۷۲۔ سیرۃ علام البلا، ج ۳، ص ۸۸۰

صلی اللہ علیہ وسلم، ابو یکر صدیق رضوی اور حضرت عمر رضب کا متعبد علیہ تھا، کوئی صحیح اقدام نہ ہوتا، صحیح فیصلہ وہی تھا جو حضرت عثمان بن عفی نے کیا کہ ایسے آدمی کو مزید کام کرنے کا موقع دیا جائے جس نے ہر موقع پر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت انجام دی ہے، مورخ اسلام حافظہ ہی یعنی حضرت معاویہؓ کے متعلق کہتے ہیں:-

"سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاویہؓ کو حضرت عمر پر حضرت عثمان بن عفی نے ایک ایسے ملک پر حکمران بنائے رکھا جو ایک اہم سرحد تھی، معاویہؓ نے وہاں تنظیم و فسیط اور انتظام حکومت کا پرواقون ادا کیا اور لوگ ان کی خواست اور یورجہ باری سے شاداں فرحاں رہے اگرچہ بعض افراد نے بعض دفعہ اُن سے تکلیف بھی محسوس کی، حکمران کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے حضرات اگرچہ اُن سے ہتر، افضل اور صالح تھے لیکن یہ مرد آہن اپنے کمال عقل، افراطِ حرم و سخت نفس اور تدبیر و رائے کی بے پناہ قوتوں کے اعتبار سے صحیح معنوں میں سردار اور امورِ جهادیاتی کے لائق تھا۔"

ملکِ شام کی ۲۰ سالہ گورنری اور اس کے بعد ۲۰ سالہ خلافت کے دوران اپنی پوری ریاستیں وہ ہر دلعزیز و محبوب رہے، اُن کے دو حکمرانی میں کسی نے سرتیہ اٹھایا بلکہ تمام گروہ اور قومیں اُن کی مطیع و منقاد رہیں، عرب و بجم پر ان کا حکم نافذ تھا، اُن کی حکومتِ خرین، مصر، شام، عراق، خراسان، فارس، جزیرہ یعنی اور مغرب وغیرہ تک محيط تھی۔<sup>۱</sup>

**مَرْوَانٌ** حضرت عثمان بن عفی کے سیکرٹری

(۱) حضرت مروان کو حضرت عثمان بن عفی نے اپنا سیکرٹری بنایا تو یقیناً اُن کی نظر میں اس کے معقول وجہ ہونگے، حضرت مروان کے گردار کو جس طرح آج کل مسخ کر کے پیش کیا جا رہا

الہ سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۸۸۔ اسی انداز کا تبصرہ حضرت معاویہ کی گورنری اور خلافت پر ابن حجر سیتی نے بھی کیا ہے، تطبیر الحنان، ص ۳۲۷، ۳۳۶۔

بھے، وہ انتہائی نامناسب بوجگت ہے۔ مروان رضا صفاری سماں کے اُس عرصے میں شامل ہی جس میں حضرت حسن و حسین کا شمار ہے۔ ان حضرات کی بعض کوتا ہیوں کی تعداد بنا کر سرے سے ان کے شرفِ صحابیت کا انکار کر دینا یا کم از کم ان کا وہ احترام ملحوظ نہ رکھنا جو تقاضائے صحابیت ہے، اپنی سنت کے مزاج و عقیدے سے توئی مناسبت نہیں رکھتا، کسی صحابی کا بکار صحاہ میں نہ ہونا یعنی نہیں رکھتا کہ وہ احترام صحابیت کے کم از کم درجے کا بھی مستحق نہ رہے، یہ اندازِ فکر عام ہو جائے تو اس طرح ان ہزاروں صحابوں کی عزت و ناموس خاک میں مل جائے گی جن کا شمار صفا و عھا پہ میں ہوتا ہے، جنیں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ بھی شامل ہیں، یہ تینوں بھی مروانؓ کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، عہدِ قبولیت میں تھے، عمر شعور ان میں سے کنسی کو بھی حاصل نہ تھی۔

حافظ ابن حجرؓ نے حضرت مروانؓ کو رجالی بخاری اور سخن اربعہ کے روادہ میں شمار کیا ہے اور صحابہؓ کی اس قسم شانی میں شمار کیا ہے جنہیں رویت کا شرف حاصل ہے، میکن سماع ثابت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ نے بھی کہا ہے کہ لقینی طور پر ان کی رویت کی نقی نامکن ہے کیونکہ ان کے ہم عمر شعور بن حمزہ اور عبداللہ بن زبیرؓ کا رویت کے ساتھ ساتھ سماع بھی ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیرؓ نے کہا ہے کہ اکثر لوگوں کے نزدیک یہ صحابی ہیں، بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی۔  
ان کے دینی شغف اور احتیاط کا یہ عالم تھا کہ مدینے کے زمانہ، گورنری میں ہر پیش آمدہ مشکل کے وقت صحابہؓ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے، اور جس رائے پر صحابہ کا اتفاق ہوتا درہی کرتے تا ان کے دینی مسائل میں احتیاط کا ایک واللعلہ امام

لہ تہذیب التہذیب، ج ۱۰، ص ۹۱۔ مقدمہ فتح الباری، ترجمہ مروان

لہ منہاج السنۃ، ج ۳، ص ۱۸۹۔

بیہ الدلایل والمنایا، ج ۸، ص ۷۲۵۔

لہ الدلایل والمنایا، ج ۸، ص ۲۵۸۔ طبقات ابن سعد، ج ۵، ص ۳۶۴۔

شافعی نے بھی نقل کیا ہے، ابو بکر بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ مروان جب میرے کے گورنر تھے، میں اپنے والد کے ساتھ ایک روز آن کے پاس تھا، وہاں کسی نے حضرت ابوہریرہؓ کے متعلق بیان کیا کہ وہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح صادقؑ کے وقت بتو شخص جنہیں تو وہ اس دن کارروزہ نہیں رکھ سکتا۔ دراں حاکیکم اصل مسئلے کی رو سے ایسی حالت میں روزہ رکھا جاسکتا ہے، مروانؓ نے یہ سئی کر فواد امیرے باپ عبدالرحمنؓ کو ازواج مطہرات حضرت عائشہؓؑ اور حضرت ام سلمہؓؑ کی طرف مسئلے کی نوعیت کی درضاعت کے لئے بھیجا، باپ بیٹے ہم دونوں حضرت عائشہؓؑ اور ام سلمہؓؑ کے پاس گئے۔ انہوں نے درضاعت کی کہ ابوہریرہؓ کا بیان کردہ مسئلہ ٹھیک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شب بالشی کرنے کے باوجود اسی حالت میں روزہ رکھ لیتے، صحیح صادقؑ ہو جانے کے بعد آپ غسل فرماتے، ہم نے مروانؓ کو اپس جا کر یہ بتلایا تو انہوں نے ہمیں اسی وقت حضرت ابوہریرہؓ کی طرف پہنچ دیا، تاکہ انہیں بھی مسئلے کی صحیح نوعیت سے باخبر کر دیا جائے ہم نے جاکر ابوہریرہؓ کو کہا، تو انہوں نے کہا "اس سلسلے میں میں نے خود بیا اور راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں ٹھا، مجھے کسی اور نے اس طرح مسئلہ بیان کیا تھا۔ ان کے ہم عصر لوگوں کے دلوں میں ان کی جو عزّت تھی، اس کا اندازہ اس سے لکھا جاسکتا ہے کہ اول اول حضرت معاویہؓ کے ذہن میں جو لوگ خلافت کی نامزدگی کئے موزوں ہو سکتے تھے، ان میں ایک مروان تھے، اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی تھی کہ یہ القاریٰ کتاب اللہ، الفقیہ فی دین اللہ، الشدید فی حدود اللہ ہیں جو حضرت حسنؓؑ و حسینؓؑ بلا کو اہانت اکے پیچھے نمازی پڑھا کرتے تھے جو لا وغیره احادیث کی کتابوں میں انکے کئی فصیلے اور فتاویٰ موجود ہیں جو ان کی فقاہت و جلالت قدر کے شاہد ہیں، حضرت

لِكَابُ الْأَمْمِ، المُسْنَدُ إِلَى شَافِعِي، ج ۸، ص ۲۰۰۔

لِكَابُ الْبَدَايَةِ وَالْتَّهِيَّةِ، ج ۸، ص ۲۵۸۔ سیرَ اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۱۵۴۔

لِكَابُ الْبَدَايَةِ وَالْتَّهِيَّةِ، ج ۸، ص ۲۵۸۔ سیرَ اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۱۵۵۔

## عثمانؑ نے انہیں اپنا سیدھی طریقہ بنایا تو کیا ہوا؟ وہ اس کے پوری طرح اہل تھے۔ اسباب وجوہ سے اعراض

اس تفصیل کے بعد اب مولانا کادہ پیرا پڑھئے جسے ہم نقل کر آئے ہیں جس میں مولانا نے تمام اسباب دواعی کو نظر انداز کر کے یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ حضرت عثمانؑ نے خلیفہ بنیت ہی اکابر صحابہ کو معزول کر کے ان کی عکس پر رشته داروں کو سلطنت کر دیا۔ ہماری بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ یہ تقریباً بیر طرفی جہاں کہیں بھی ہوئی، اس کے معقول دجوہ تھے اور عوامی جذبات ان کا مبنی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کوفہ، بصرہ اور مصر کے علاوہ کہیں اور تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، سب دور ہی عامل رہے جو حضرت عمر فاروقؓ کے دود میں تھے۔

نیز ان عکھوں پر جن حضرات کو مقرر کیا گیا وہ یعنی وہی تھے جو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و عمارؓ کے دور سے ہی ملک کی انتظامی مشینی کے کل پر زے چلے آرہے تھے، حضرت ولید بن عقبہ اور حضرت عبد اللہ بن شعیب کے متعلق گذر چکا ہے کہ اول لاذکر کی خدمات سے ابو بکرؓ و عمرؓ و عمارؓ و عوامؓ کے فائزہ اٹھا پا، اور آخر الذکر کو خود عمر فاروقؓ نے جنبد مصر پر مقرر کیا ہوا تھا، حضرت معاویہؓ کو حضرت عثمانؑ نے گورنر مقرر نہیں کیا، وہ بھی عمر فاروقؓ کے مقرر کردہ تھے، یہ کوئی اسلام کا تھا ضا تھا نہ سیاسی تدبیر کا کہ وہ شخص ہو عرصہ دراز سے ایک اہم سرحدی علاقے پر بڑی کامیابی کے ساتھ گورنری کرتا آرہا تھا اور اس کے خلاف کسی کو کوئی شکایت بھی نہ تھی، اُس سے محض اس بنا پر معزول کر دیا جاتا کہ اب اتفاقاً تباہی نے خلیفہ و قوت اس کا رشتہ دار بن گیا ہے حضرت عثمانؑ کے مقرر کردہ ذکورہ عاملوں میں سے صرف ایک شخص لیسے ہیں جو حضرت عثمانؑ کے رشتہ دار ہیں اور انہیں حضرت عثمانؑ ہی تے کوفہ و بصرہ کی گورنری پر مقرر کیا، اس سے پہلے انہیں کسی نے کوئی عہدہ نہیں دیا اور وہ عبد اللہ بن عاصم ہیں،

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی صواب دید کے مطابق گورنر بنایا، انہوں نے اس انداز سے حکمرانی کی کہ کوئی شخص پر نہیں کہہ سکتا کہ اس معاملے میں ان سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہو یا سیست و کردار کی ایسی کمودری نظر ہر سوئی ہو جس پر انگشت نمائی کی جاسکے۔

### عمرکز انتیارات، ایک ہی خاندان

مزید برائی شام، بصرہ، کوفہ اور مصران کے علاوہ بسیوں لیے صوبے تھے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی رشتہ دار عامل نہ تھا بلکہ سب دوسرے مختلف خاندانوں کے افراد تھے، حتیٰ کہ مذکورہ چار صوبوں کے تحت بھی جو علاقے تھے وہاں بھی غیر اموی افراد عامل تھے جو خلیفہ وقت کے خاندان سے نہ تھے، لاکھوں مریع میل پر کچھی ہوئی اتنی عظیم سلطنت میں بس میں سینکڑوں عامل و گورنر تھے، صرف چار افراد خلیفہ وقت کے خاندان سے تھے، لیکن اسے مولانا آج کل کی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے پورے دروبست پر ایک خاندان قابل ہو گیا اور تمام انتیارات خلیفہ وقت کے خاندان میں جمع ہو گئے، ہمارے تزوییک یہ عظیم افتراہ ہے جو مولانا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات پر یاد کھا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ملکتِ اسلامیہ کو فہر، بصرہ، شام اور مصر مرف، ان چار ہی صوبوں پر مشتمل تھی؟ ان کے علاوہ کوئی صوبہ ملکتِ اسلامیہ کا جزو نہ تھا، کہ ان چار جگہوں پر خلیفہ وقت کے خاندان کے افراد کے گورنرین جملے کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں ملک کے صارے انتیارات جمع ہو گئے؟

پھر یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ پوری ملکت کے انتیارات، ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں جمع ہو گئے، لیکن اس کے باوجود چند مشقی بھرآدمیوں نے اس طاقت ملخاندان ہی کے سربراہ کا بڑی بیے دردی سے چالیس دن محاصرہ کئے رکھا اور اس کے بعد اس کو تحریک کر دیا کہنے کو یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدافعت کرنے سے روک دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن الگدا حصہ ایسا ہی ہوتا جیسیسا کہ مولانا باور کرنا چاہ رہے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا خاندان جس کے ہاتھ میں فی الواقع پوری ملکت کے انتیارات جمع ہوئے کبھی بھی وہ اپنے سربراہ خاندان کو ایسی بیے دردی سے قتل نہ ہونے دیتا، وہ کوئی

عوامی بغاوت نہ تھی کہ پورا ملک ایک خاندان کے سلطنت سے گھبڑا کر بغاوت کے لئے اٹھ کھڑا ہوا ہو کہ جس کا دیانا مشکل ہوتا وہ صرف چند شرپتے عنصر کی بائیمی سازش تھی جس کو دیانا بالکل آسان تھا، اگر فی الواقع سلطنت کے پورے درولست پر خلیفہ وقت کے خاندان کا اثر و نفوذ قائم ہوتا تو اس کو کھل کر کھد دیا جاتا اور ان کو کبھی یہ کھل کھینے کا موقع نہ دیا جاتا۔ اس کا ایک پہلو اور قابل غور ہے کہ وہ بغاوت شرپتے عنصر کی مدد و دبغاوت تھی، آج کل بغاوت کا جو مفہوم اور دائرہ عمل ہے اُس کو اس سے کوئی نسبت نہ تھی، موجود دوسریں بغاوت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ برسی و بحری فوج کے تمام سربراہوں کو اپنے اثر میں لے کر ملک کی پوزی فونج کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جاتا ہے، اسی طرح پورے ملک کے دیگر سرداروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے اور یہی وقت یہ بغاوت پورے ملک میں پھیل کر چند طوں میں آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتی ہے، اس طرح اس میں اگر انہیں کامیابی ہوتی ہے تو پورے ملک کے اختیارات باغیوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں وگرنہ ایک چھوٹا سا شہر یعنی ان کے قبضے میں نہیں آتا، جس دوسرے ہم بحث کر رہے ہیں وہاں بغاوت کا دائرہ عمل نہ اتنا وسیع ہوتا تھا اور نہ موجودہ ذرائع نقل و حمل کے فقدان کی وجہ سے اس کو اتنا وسیع کرنا ممکن ہی تھا، اس کا دائرہ عمل صرف ایک آدھ صوبے تک محدود ہوتا تھا اسیں انہیں کامیابی ہو جاتی تو پھر اس صوبے کی قوت کو ساتھ ملا کر آہستہ آہستہ دوسرے صوبوں کو زیرینگی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اگر حضرت عثمانؓ کے دوسریں فی الواقع مملکت کے پورے اختیارات اُن کے اپنے خاندان کے ہاتھ میں جمع ہو جکے جیسے صرف خلیفہ وقت کو قتل کر کے باغیوں کے اپنی مرضی سے خلیفہ کے انتباب سے تمام صوبے اپنے آپ سارے کے تحت نہیں آ سکتے تھے بلکہ اس کے بعد مرکز کو تمام صوبوں پر بھی لڑنا پڑتا، اس کے بغیر وہ صرف مدینے پر توقاً بیض ہو سکتے تھے مملکت کے دوسرے حصوں پر تباً بیض ہونا آسان نہ ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا بلکہ مرکز کے اختیارات ختم ہوتے ہی دوسرے صوبوں کے اختیارات از خود ختم ہو گئے جس کی بنیاد پر سچھلے تاصمیم گورنراؤں کو اس طرح باس انی اُن کے سعید وور سے بکال یا گردیا گیا جس طرح آٹے سے بکال بکال دیا جاتا ہے اس کے

صاف معنی یہ ہیں کہ خلیفہ کا خاندان بے اختیارات تھا، پورے ملک کے اختیارات تو کجا اس کے ہاتھ میں تو چند صوبوں کے اختیارات بھی نہ تھے، اگر ایسا ہوتا تو انقلاب اختیارات اتنی آسانی کے ساتھ ممکن نہ تھا جس آسانی کے ساتھ ہمیں اُس دور میں منتقل ہوتا نظر آتا ہے۔

### قابل اعتراض خصوصی رعایات؟

مذکورہ پر یہ میں مولانا نے حضرت عثمان پر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ایسی خصوصی رعایات برپیں جو لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں جیسے انہوں نے افریقہ کے مال خمس میں سے ہ لاکھ دینار کی رقم مروان کو بخش دی۔ مروان کو مال خمس دینے کی حقیقت۔

اس سلسلے میں حتیٰ بھی روایات تاریخ میں ملتی ہیں وہ آپس میں بڑی متفاہد ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہی سرے سے مشکوک قرار پاتا ہے، حتیٰ کہ ابن خلدون تک اس واقعے کے متعلق تضاد کا شکار ہیں، ایک مقام پر وہ خود اس بات کی نقی کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے افریقہ کا خمس مروان کو دیا، لیکن دوسرے مقام پر اس کو اثباتی رنگ میں بیان کر رکھتے ہیں۔ ابن سعد نے مجل طور پر اتنا لکھا ہے، کتب مروان خمس مصون، اس کی مقدار یا تعداد نہیں بتائی، ابن حجر یہ طبری نے مروان کی بجائے آں حکم کا ذکر کیا ہے کہ یہ خمس حضرت عثمان نے حکم بن ابی العاص کی آں کو وینے کا حکم دیا۔

پھر اس کی مقدار کتنی تھی؟ اس میں بھی تاریخ کے بیانات مختلف ہیں مولانا نے ابن الاشیر کا جو حوالہ دیا ہے اس نے پانچ لاکھ دینار کی رقم بتلائی ہے، طبری نے ۳۰ سو هزار سو تالکھا ہے، بلادزیری نے ایک لاکھ یادو لاکھ دینار لکھے ہیں۔

نیز یہ واقعہ کسی صحیح سند کے ساتھ بھی مردی نہیں، طبری اور ابن سعد کی سند میں واقعی پرسار ادارہ مدار ہے، بلادزیری کی انساب الاعراف میں ہشام کلیجی، اس کا

لوا کا عباس اور ابو مخفف تینوں کذاب راوی اس کی سند میں موجود ہیں۔ پھر مولانا نے  
 ابن الاشیر کی جو تطبیق ذکر کی ہے کہ افریقہ کی پہلی جنگ کا خمس عبداللہ بن سعد کو عطا کیا  
 تھا اور دوسری جنگ میں پورا افریقہ فتح ہوا اس کا خمس مروان کو عطا کیا اور اجتماعی  
 اعتبار سے صحیح نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ افریقہ کی پہلی جنگ <sup>ؑ</sup> میں ہوتی اور دوسری  
<sup>ؑ</sup> میں، دوسری جنگ کے موقعہ پر عبداللہ بن سعد نے خمس وغیرہ مرکز بھیجا تھا یا  
 نہیں؟ اس کے متعلق تمام کتب تواریخ خاموش ہیں، خمس سمجھنے کا واقعہ سب نے پہلی  
 جنگ <sup>ؑ</sup> ہی کا لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری جنگ کے موقعہ پر کچھ  
 نہیں بھیجا گیا، جب تک کسی تاریخ سے یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ <sup>ؑ</sup> میں یعنی خمس  
 مرکز کو بھیجا گیا تھا اس وقت تک ابن الاشیر کی تطبیق خلاف واقعہ سمجھی جائے گی،  
 نیز خمس عطا کرنے کا واقعہ <sup>ؑ</sup> میں پہلی جنگ کے موقعہ کا ہے، اس میں ان مؤمنین کا  
 اتفاق ہے جنہوں نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، یعنی پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ خمس کس کو  
 دیا گیا تھا؟ طبری نے عبداللہ بن سعد کا نام ذکر کیا ہے کہ انہیں یہ خمس دیا گیا اور بلاذری  
 نے <sup>ؑ</sup> کے اس واقعہ میں مروان کو دیئے جانے کا ذکر کیا ہے، نیز طبری نے یہ بھی ذکر  
 کیا ہے کہ وہ خمس جو عبداللہ بن سعد کو دیا گیا تھا وہ والپیں لے لیا گیا تھا، یہی بات میں  
 زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ روایت خود حضرت عثمان کی زبانی ہے، اس کی صحت کا  
 ایک اور واضح قرینہ یہ ہے کہ معتبر ضمیں نے اپنے پروپینڈے میں اس واقعہ کا کہیں ذکر نہیں  
 کیا، اگر حضرت عثمان نے فی الواقع خمس کسی کو دیا ہوتا تو وہ شرپند عناصر جو معقولی  
 معمولی باتوں کو اچھا رہے تھے، اس کو نمایاں طور پر حضرت عثمان کے خلاف پوچھنا  
 میں شامل کرتے، اسی لئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی<sup>2</sup> اور فاضل ابو بکر ابن الغزی<sup>3</sup>

نے اس واقعے کی صحت کو تسلیم نہیں کیا ہے، شاہ صاحب لکھتے ہیں:-

”قصہ بخشیدن خمس افریقہ کہ مروان است نیز غلط محقق است“

”مروان کو خمس افریقہ بخشے کا قصہ غلط محقق ہے۔“

قاضی ابو بکر ابن الغرمی لکھتے ہیں:-

”اما اعطاؤه خمس افریقیۃ لا واحد فلی یصح۔“

حضرت عثمان رضما شخص واحد کو خمس افریقہ دینے کا واقعہ صحیح طور پر ثابت ہے۔

ابن حجر، تیمی نے اپنے رشتہ داروں کو مالی عطیات دینے کے متعلق کہا ہے کہ ان میں

سے بیشتر الزامات گھرے ہوئے ہیں، ان الگزد لائے مختلف علیہ

شہرو معتری ایو علی جہائی نے مروان کو خمس افریقہ دینے کے متعلق لکھا ہے:-

”ان ماروی من دفعہ خمس افریقیۃ لما فتحت الی مروان

لیس به محفوظ ولا منقول علی وجہی يجب قبولہ و امامی وہی

من یقصد الشنیع۔“

فتح افریقہ کے مال غنیمت میں سے مروان کو حضرت عثمان رضما کے خمس دینے کا

جو واقعہ مروی ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ زادہ ایسے طریقے سے منقول ہے جسے

قبول کرنا ضروری ہو، اسے صرف وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کا مقصد

عثمان رضما پر طعن و تشیع ہے۔

نیز خود کتب تواریخ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں خود حضرت عثمان رضما نے یہ صراحت کی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے ایک پائی بھی کسی کو نہیں دی

لہ تحفہ اثنا عشریہ، ص ۱۱۱ طبع نول کشور۔

ملہ العوامی من القوامی، ص ۱۰۰، طبع مصر۔

ملہ العوامی المحرقة فی الرسک علی اہل البداع والرندادۃ، ص ۲۸، طبع مصر ۱۳۲۷

بھ شرحہ بیج البلاغۃ، ج ۳، ص ۳۷، طبع جدید، مصر۔

ہے، جیس کسی کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اپنے ذاتی مال میں سے دیا ہے، ابِ کثیر نے حضرت عثمانؓ کا یہ اعتذار نقل کیا ہے، کہ "میں نے اپنے اقر باء کو جو کچھ دیا ہے وہ اپنے مال سے دیا ہے، یادِ من فضلِ مالہ" ابِ حجری طبریؓ نے حضرت عثمانؓ کا وہ پورا بیان نقل کیا ہے جو انہوں نے ان اعتراضات کو سن کر بوقت صفائی دیا تھا، جس میں وہ خاص طور پر اس اعتراض کے متعلق وضاحت کرتے ہیں:-

"لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان سے محبت کرتا اور انہیں عطیات سے نوازنا ہوں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کے لئے بہذب ابادت محبت نے مجھے دوسروں کے ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہیں کیا، میں ان کے حقوق جائز حد تک ادا کرتا رہا ہوں، ان کو جو عطیات دیئے گئے وہ میرے اپنے ذاتی مال میں سے تھے، میں مسلمانوں کے مال کو نہ اپنے لئے جائز سمجھتا ہوں نہ دوسروں لوگوں کے لئے، نیز آپ کے یاد ہو گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو یکریہ و عزیز کے دور میں اپنے رشتہداروں کو گران قدر علیہ دیا کرتا تھا حالانکہ اس وقت فطری طور پر میں دولت کا خواہش مند تھا، اب جب کہ میں عمر طبعی کو پہنچ گیا ہوں، میرا وقت یعنی پورا ہو گیا ہے اور اپنا سارا راثا شیخی اہل خاندان میں تقسیم کر دیا ہے تو یہ بے دین لوگ اس قسم کی بے سرو پایا تھیں ہاتھ رہے ہیں بخدا میں نے کسی شہر پر متناسب حد سے زیادہ خراج نہیں لگایا کہ کسی کو بکشاٹی کی گنجائش ہو، بھر بھر شہر کا خراج بھی انہی کی ضروریات پر صرف کیا جاتا رہا ہے جہاں سے وہ وصول کیا گیا، میرے پاس صرف خمس آثار ہا ہے، اس میں سے بھی میں نے اپنے لئے ایک جیتھے بھی جائز نہیں سمجھا، خود مسلمانوں نے ہی اس کو اپنی صواب دید کے مطابق جہاں متناسب سمجھا خرچ کیا، میری رائے تک اس میں شامل نہ ہوتی تھی، اللہ کے مال میں ایک پانچ بھی مطل

بلگہ پر خرچ نہیں کی گئی، میں نے اس میں سے اپنا گذارہ بھی نہیں لیا، اپنے  
ہی خرچ پر اپنی گذر اوقات کو تمارا۔

حضرت عثمانؓ کے اس بیان پر غور کیجئے کہ جمع عام میں کس طرح پوری وضاحت کے  
ساتھ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، اگر انہوں نے بیت المال سے ۵ لاکھ دینار کی رقم  
نے الواقع مردان کو دی ہوتی یا اپنے اقریباً کو اس میں سے عطیات دیتے ہوتے تو کیا؟  
اس یہ خوبی اور ذہنی تحفظ کے بغیر یہ بیان دے سکتے تھے؟ اور اگر فی الواقع حضرت عثمانؓ  
کا یہ بیان غلط ہوتا تو کیا اس موقع پر معتبرین خاموش رہ سکتے تھے؟ کیا وہ اس صفائی  
کے جواب میں بیت المال کے تصرفات کی وہ مثالیں پیش نہ کر دیتے جو آج کل پیش  
کی جا رہی ہیں؟ اب فیصلہ خود اپنی انصاف کر لیں کہ دونوں طرح کی روایات یہ کوئی شی  
روایات قابل قبول ہیں، وہ روایات جن سے خلیفہ راشد کا کردار اغذار نظر آتا ہے  
یادہ روایات جن۔ سے ان کا یہ دار غر کردار واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے؛ اور حضرت عثمانؓ  
کے مجموعی طرزِ عمل سے منابعت رکھنے والی روایات وہ ہیں جو مولانا معبر سمجھتے ہیں  
میں؟ یا وہ جو ہم نے اُن ہی کتب تو ارتخ سے پیش کی ہیں جنہیں مولانا معبر سمجھتے ہیں  
مالو نہ ما تو تمہیں اختیار ہے ٹ نیکٹ بدہم حضور کو سمجھائے جائیں۔  
**ناخوشگوارہ عمل**

مولانا نے پچھلے پیرے میں بوجھائی مسخ کر کے پیش کئے ہیں ان کی اصل حقیقت  
ہم نے واضح کر دی ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے حضرت عثمانؓ پر حرف آتا  
ہو یا جس سے عوام میں بے چینی پھیلنے کا امکان ہو، مولانا نے جس طرح مذکورہ پیرے میں  
اصل بوجھائی نظر انداز کر کے حضرت عثمانؓ کے اقدامات کو غلط انگ میں پیش کیا ہے اسی  
طرح اب اگھے پیرے میں خلافِ واقعہ یہ غلط انداز دینے کی کوئی تلاش کی ہے کہ حضرت  
عثمانؓ کی اس پالسی کا بہت بُرا اثر پڑ رہا تھا، چنانچہ لکھتے ہیں، ۱-

”ان باتوں کا رد عمل صرف عوام ہی پر نہیں اکابر صحابہ تک پر کچھ اچھا نہ  
تھا اور نہ ہو سکتا تھا مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کو قبیلہ کی گونزی  
کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے  
فرمایا ”معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد  
احمق ہو گئے ہیں؟“ اس نے جواب دیا ”ابو اسحاق برافروختہ نہ ہو، یہ تو  
بادشاہی ہے صحیح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے تو شام کوئی اور حضرت  
سعد لے کہا۔ میں سمجھتا ہوں والحقی تم لوگ اسے بادشاہی بناؤ کر جھوڑو  
قریب قریب ایسے ہی خیالات حضرت عبد اللہ بن مسعود نے بھی ظاہر  
فریائے (ص) ۱۰۸)

اندازہ لگائیے دعویٰ یہ ہے کہ ان باتوں کا رد عمل عوام پر اور اکابر صحابہ دونوں پر  
اچھا نہ تھا لیکن عوامی رد عمل کی کوئی مثال مولانا پیش کر سکے نہ اکابر صحابہ کی  
صرف حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد اللہ بن مسعود کی مثال پیش کی حالانکہ ان کا  
بیان اس موقع پر قابل استدلال نہیں ہو سکتا، سعد بن ابی وقاص کو ان کے عہدے  
سے معزول کر کے ان کی جگہ ولید کو مقرب کیا گیا تھا، اس موقع پر ان سے اس نشانی  
فطرت کی کمزوری کا اظہار ہوا جو ایسے موقع پر عموماً غیر شوری طور پر ہو جایا کرتا  
ہے، اپنی جگہ پر ولید کی تقریب سے انہوں نے اپنی عزت نفس کو دھپکھ لکھتے ہوئے  
محسوس کیا اس کا ایک عام سا اظہار انہوں نے کر دیا، اس کا تعلق حضرت عثمان  
کی اس پالیسی سے کیا ہوا جس پالیسی کے ساتھ اس بیان کو نقی کرنے کی کوشش  
مولانا نے کی ہے، پھر عبد اللہ بن مسعود کو حضرت سعد کی حادثت میں ایسے خیالات  
ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آن کے مابین تو خود یا ہمی رنجش پیدا ہو چکی تھی  
اور یہی چیز حضرت سعد کی معزولی کا سبب بھی تھی، جیسا کہ پہلے گز رچا ہے۔

نہ ای منطق۔

اب ایک نہ ای منطق ملا خظہ فرمائیے، لکھتے ہیں :-

”اس سے کوئی شخص ابکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان سے جن لوگوں کو سیدھا تا  
عثمان رضی اللہ عنہ نے حکومت کے ملکی مناصب دیئے اُنہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی  
اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن نماہر  
ہے کہ قابلیت صرف اُنہی لوگوں میں تھی دوسرے لوگ بھی بہترین قابلیتوں کے مالک  
موجود تھے اور ان میں زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے“ (ص ۱۰۸)

یمنطق تراہی اور ناقابل فہم ہے کہ قابلیت صرف اُنہی لوگوں میں تھی دوسرے لوگ بھی  
بہترین قابلیتوں کے مالک موجود تھے، حالانکہ ظاہریات ہے کہ بیک ملک کے تمام اہل تر  
افراد کو عہدہ و منصب نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں سے چند افراد ہی ملک حکومت  
پر فائز ہو سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو عہدہ و منصب سے  
سر فراز کیا حضرت ابو بکر و عمرؓ نے جن حضرات کو مناصب حکومت دیئے کیا اُس وقت  
امن کے علاوہ دوسرے لوگ بہترین قابلیتوں کے مالک موجود نہ تھے؛ اس منطق کی  
رو سے تو پھر ان پر بھی یہ اعتراض پاسانی کیا جا سکتا ہے جو حالانکہ کوئی ہوش مندادی  
یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اعتراض کی بجائاش اُس وقت ہوتی ہے جب اہل ترا فراد کو  
چھوڑ کر ناہل افراد کو حکومت کے مناصب دے دیئے جائیں، مولانا کوجب یہ تسلیم  
ہے کہ جن لوگوں کو عہدے دیے گئے اُنہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں  
کا ثبوت دیا تو اب اعتراض کی بجائاش رہ جاتی ہے؛

فہرست عمار، عثمانی!  
دیوارہ لکھتے ہیں :-

”محض قابلیت اس بات کے لئے کافی دلیل نہ تھی کہ خراسان سے لے کر  
شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماحصلتی میں  
ہے دیا جاتا اور مرکزی سیکرٹریٹ پر بھی اسی خاندان کا آدمی مامور کر دیا  
جاتا“ (ص ۱۰۸-۱۰۹)

ہم مولانا کے اس بیان کی حقیقت پہلے واضح کر چکے ہیں کہ یہ سرتا یا غلط ہے، نیز اس کا

بُطلان عَمَّار عَثَافِي کی اس فہرست سے بھی ہو جاتا ہے جو طبری نے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے وقت کی دی ہے، بوقتِ شہادت مختلف ملاقوں پر یہ لوگ حاکم دا افسر تھے:-

عبدالله بن الحضرمي	ملہ
قاسم بن ربيع المتفق	طاائف
يعليٌ بن أمية	منعاء
عبدالله بن أبي ربيع	المحمد
عبد الرحمن بن خالد بن ولید	رحمض
جعيب بن مسلمة فهری رض	قنسرين
ابوالأخورين سفيان	اردن
فلقمة بن حكيم الكناني	فلسطين
عبد الله بن قيس اللئافي	البحر
ابوداؤد رض	قضاء دمشق
جابر بن عمر و المفرجي اور سمائی الانصاری	خراج کوفہ
قطنیان بن عمرو	حرب کوفہ
جريراً بن عبد الله	قرقيسیاء
أشعث بن قيس الكندي رض	آذربيجان
عبيدة بن التهابس	حلوان
مالك بن جعيب	ماہ
المسير	همدان
سعید بن قيس	رستی
سائب بن الاقرع	راصمان
مجييش	سبستان

بیت المال	عقبہ بن عامر
قسطنطینیہ	زید بن شابت رضی
بصره	عبداللہ بن عامر بن گریز اموی
کوفہ	ابو موسیٰ اشعری رضی
شام	حضرت معاویہ اموی
مصر	عبداللہ بن سعد اموی

اس میں بصرہ، شام اور مصر صرف یہ تین صوبے ایسے ہیں جن میں حضرت عثمان نے رشته دار کو رکھ رہیں کوئی قوکے متعلق طبری نے لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری عازم طحہ کے لئے مقرر تھے نیکن ہم پہلے بتاچکے ہیں کہ ان کو سعید بن العاص کی جگہ وہیں کا کوئی مقرر کر دیا گیا تھا، ایک پوتھے رشته دار مروان بن الحکم تھے جو حضرت عثمان نے کے سیکرٹری تھے، ان کے علاوہ باقی تمام عُمال غیر اموی تھے، یعنی حضرت عثمان نے کے خاندان میں سے نہ تھے۔

اس کے بعد مولانا نے مزید تین اسباب لیے گئے ہیں جو کی وجہ سے عوام کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا، ہمارے تزدیک تینوں اسباب من گھڑت ہیں، عوام میں کوئی یہ چینی نہ تھی صرف وہ ایک گروہ بے چین ہو رہا تھا جس نے یا ہم ۷ کو ایک سازش تیار کر لکھی تھی، مولانا کے بیان کردہ اسباب بعینہ وہی ہیں جو ان سازشیوں نے بعض اپنی سازش کو بروئے کار لانے کے لئے گھڑ سے تھے جن کی کوئی مضبوط بنیاد نہ تھی، ملائحتہ فرمائی۔

### ۱۔ ملائحة بھیثت عُمال حکومت

یہ بات اول تو بھائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا ریسیل علی ہم خاندان کا ہو، مملکت کے تمام عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو بیٹھائیے

جایئں مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس صورتِ حال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی اول یہ کہ جو لوگ دُور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلاقاءِ عین سے تھے، "طلقاء" سے مراد مکہ کے وہ خاندان، میں جو آخر وقت تک بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوتِ اسلامی کے خلاف رہے، فتح مکہ کے بعد حضورؐ نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت معاویہ، ولید بن عمیم، مروان بن الحکم ابھی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے اور عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح تو مسلمان ہوتے کے بعد متبرہ ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پر دوں سے بھی پیٹھ ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے، حضرت عثمانؓ انہیں لے کر اچانک حضورؐ کے سامنے پہنچ گئے اور آپ نے محض ان کے پاسِ خاطر سے ان کو معاف فرمادیا تھا نہ فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آسکتی تھی کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کو سربلند کرنے کے لئے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی سے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پسچے ہشادیسے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ موت کے سرخیل ہو جائیں؟ (ص ۱۰۹)

مولانا کا یہ پورا بیان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اہلسنت کے قلم کا نہیں یا کہ کسی غالی را فتح کے ذہن رسم کا شاہکار ہے۔

اوہاً ان سب کو طلاقاء میں شمار کرنا تاریخی طور پر غلط ہے ان میں سے صرف ایک حضرت عبد اللہ بن سعد طلاقاء میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔

---

لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمادیا تھا لیکن مولانا مودودی حرام ان کو معاف فرمائے کے لئے تیار نہیں، چہرے خوبی؟

ثانية "طلقاء" کی جو تعریف مولانا نے کی ہے وہ خلاف واقعہ ہے، یعنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بھوپام معافی کا اعلان کیا تھا وہ خاندانوں اور قبیلوں کے لئے نہیں، لئے کے تمام پاشندگان کے لئے تھا، ان میں بیشتر خاندان اور قبائل ایسے تھے جن کے بعض افراد ہزوں پہلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان میں سے باقی ماندہ افراد فتح مکہ کے دن یا کچھ عرصہ بعد مسلمان ہوئے، برٹے برٹے جلیل القدر اصحاب رسول لیسے ہیں جو ابتداء میں اسلام قبول کر چکے تھے، اس کی راہ میں انہوں نے جان مال کی قربانیاں دیں لیکن ان کے خاندان کے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق فوجیسے فدائی رسول کے والد بھی آخر وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے مخالفت رہے، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ اس طرح آپ ہر جلیل القدر صحابی حتیٰ کہ ابو بکر صدیق تھے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان خاندانوں کے افراد ہیں جن کو فتح مکہ کے دن حضورؐ نے معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں گویا اس تعریف کی رو سے جس سے مولانا عاملین عثمانؐ کو ہلکا گر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی صحابی نہیں پچ سکتا، اس استدلال کو فرا وسعت دے کر عام کر دیا جائے تو اس طرح برٹے سے برٹے صحابی کو ہلکا کر کے دکھایا جاسکتا ہے، ابو بکرؓ و عمرؓ ہوں یا عثمانؐ و علیؓ یا ان جیسے اور جلیل القدر اصحاب رسول ان کے متعلق کوئی یہ شایستہ نہیں کر سکتا کہ ان کے خاندان کے تمام افراد نے ان کی طرح ابتداء ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، بلکہ سب خاندان تبدیع اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ مذکورہ جلیل القدر اصحاب

له الاستیعاب، ج ۲، ص ۲۸۲-۴۸۵۔

مولانا نے "طلقاء" کی جو تعریف کی ہے، اُس کی رو سے حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی "طلقاء" میں سے ہوئے۔

سلی شیخ اسلام ابن تیمیہؓ اس اعتراض کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

"یہ چیز جہوں قریشی میں مشترک ہے، ان میں سے ہر ایک کے رغبتدار (باقی اگلے صفحہ کجھ)

رسول کے خاندانوں کے بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے لیکن کسی نے ان کی وجہ سامن کے خاندان کے ان لوگوں کو مطعون نہیں کیا جو ابتداء میں اسلام قبول کرچکے تھے، نہ کسی نے یہ کہا کہ فلاں جلیل القدر صحابی ایسا ہے جو معافی یا فتح خاندان کے افراد میں سے ہے، ابو بکر صدیق ان لوگوں میں سے ہیں جن کے باپ نے آخر وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کی مخالفت کی، پھر آخر یہ استدلال ان اصحاب رسول کے لئے کہ کس طرح صحیح ہو سکت ہے جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گورت رہنا یا ہے حضرت معاویہؓ فتح نکر سے قبل اسلام قبول کرچکے تھے، حضرت ہروانؓ اس وقت کم و بیش چھ سال کے بچے تھے، ان کے اندر نہ اسلام کی مخالفت کی طاقت تھی نہ اسلام کو قبول کرنے کا شعور، فتح مکہ کے بعد ان کو انداز اسلام لائے تو گویا ان کی پروردش اسلام ہی میں ہوئی، ان حضرات کی شخصیت کو

(ریقیہ حاشیہ صفوہ سابق) ایسے رہے ہیں جو کافر تھے، کفر کی حالت میں انہوں نے مسلمانوں سے جنگیں لڑیں اور اسی میں مارے گئے اور بہت سے کفر کی حالت ہی میں طبعی موت مر گئے کیا یہ بات ان مسلمانوں کے لئے باعثِ رسواں سمجھی جائے گی جو ان کے خاندانوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے ہ مکرمہ بن ابی جہل اور صفوہ بن ابی حمید دونوں خیار مسلمین سے تھے دراں علیکم ان دونوں کے باپ جنگ بدر میں کفر میں حالتِ کفر میں مارے گئے، اسی طرح حارث بن ہشام ہیں جن کے بھائی جنگ بدر میں قتل کر دیئے گئے، منقرپیہ کہ اس طرح اگر طعن کی ایجازت فری دی جائے تو پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، تمام اہل ایمان پر طیعن کیا جا سکتا ہے، کیا کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ حضرت علیؓ کو اس بناء پر موت و طعن بنائے کہ ان کے چھا ابوبکرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، یا حضرت عباس رضی کی اس بناء پر عیب گیری کرے کہ ان کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے یا حضرت علیؓ کو ان کے باپ ابوبکرؓ کے کفر کی وجہ سے ننگ و عار دیائے یا حضرت عباس رضی کے متعلق اس طرح کہا جائے۔ یاد رکھو اس قسم کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔

ہلکا کرنے کے لئے یہ کہنا کہ یہ ان خاندانوں کے افراد ہیں جو فتح مکّہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ بڑا ہی غیر منصفانہ اندراست دلال ہے جس کی کوئی انصاف پسند آدمی داد نہیں دے سکتا۔

شالش، ملکا، میں سے ہونا یا عاشت ذمّ نہیں، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ”آئُتُمُ الظَّلْقَاءَ“ کہہ کر خطاب فرمایا، اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ میں قوت و اقتدار آنے سے پہلے تم لوگ جو ہماری مخالفت کرتے رہے، آج جب کہ ہم قوت و اقتدار سے بہرہ مند ہو چکے ہیں ہم تمہاری مخالفانہ سرگرمیوں کو نظر انداز کر کے تمہارے لئے عام معافی کا حکم دیتے ہیں، تم یہ نہ سمجھنا کہ قوت حاصل ہونے کے بعد ہم تمہاری دشمنیوں کا انتقام لیں گے، یا اب تمہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں گے، یہ دونوں باتیں نہیں، تم مطلاقاً آزاد ہو میہ ان حضرات کی شرافت و نجابت کا بین ثبوت ہے کہ انہوں نے آپ کے اس اخلاق و کردار کا وہی جواب دیا جو احسان شناس آدمی کو دینا چاہئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ از خود آپ کے اخلاقی کریمانہ سے متاثر ہو کر برضاء و غبت اسلام قبول کیا۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تب بھی ان کو شہری و تمدنی حقوق اسی طرح ملے تب اس طرح مکّہ کے ایک عام مسلمان کو حاصل ہوتے، فتح مکّہ کے بعد ان کا قبول اسلام باعث ذمّ اُس صورت میں بن سکتا تھا کہ ان پر جبر کیا گیا ہوتا ریا انہیں شہری حقوق سے محروم کرو یا گیا ہوتا اور پھر انہیں قبول اسلام کے بغیر چارہ کار نہ رہتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اس تاخیر کی وجہ سے وہ اُس شرف و فضل سے ضرور محروم رہے جو سابقین اولین کے حصہ میں آیا، لیکن کم اذم اُس شرف صحابتؓ ضرور وہ مشرف ہو گئے جس کے مقابلے میں کروڑوں عابدو زابد بھی مل کر ایک ادنیٰ ترین صحابیؓ کے برابر نہیں ہو سکتے۔

رابعیہ بات بھی مولانا کے ذہنی مفردہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ سابقین اولین کو پچھی پہاڑ کران لوگوں کو مناصب حکومت پر فائز کرنا فطری ہو چکا

لوگوں کو پسند نہیں تھا، سوال یہ ہے کہ سابقین اولین میں سے کس نے اس بات پر ناپسندیدگی کا افہار کیا ہے؟ چند قابل ذکر اصحاب رسول کے نام اس ضمن میں بتائے جاسکتے ہیں؟

نیز اس ناپسندیدگی کا افہار اگر فی الواقع .....  
 ہوا ہے تو حضرت عثمان رضی کے دو مریض کیوں ہوا؟ یہ کیفیت تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اور عمر فاروق رضی کے دو مریض بھی رہی ہے، حضرت عثمان رضی سے پہلے تینوں آذوار کو دیکھو جائیئے، مناصب حکومت پر بیشتر افراد نہیں۔ نظر آئیں گے جو فتح مکہ بعد یا اس سے چند میہنے قبل مسلمان ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تربیت سے اس طرح فائدہ اٹھائے کا انہیں موقع نہ مل سکا تھا جو سالا بقین اولین کو ملا تھا، ان تینوں ادوا مریض تدبیر و انتظام کی ذاتی صلاحیت و اہلیت کو سابقت وغیرہ سابقت پر ترجیح دی گئی ہے، ان ادوا مریض یہ معیار کبھی نہیں رہا کہ یہ شخص ابتداء میں اسلام لایا تھا اس لئے گورنری کا اہل بھی ہے، یا فلاں شخص نے معرکہ جہاد میں شجاعت و بہادری کا مسئلہ زیادہ اچھا ریکارڈ قائم کیا ہے اس بناء وہ بنسیت دوسرے لوگوں کے گورنرنے کا اہل تر ہے، بلکہ اس کے بر عکس ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان سابقین اولین کو چھوڑ کر جنہوں نے اسلام کئے جانیں اطرافی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی سے دین کو فروغ ہوا تھا، ان لوگوں کو مناصب حکومت پر فائز کیا گیا جو سابقین اولین میں سے نہ تھے، ان غیر سابقین کی ایک فہرست ملاحظہ فرمائیے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اور عمر فاروق رضی نے مناصب حکومت عطا کئے۔

### عمالِ تبوی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ حضرت عبد اللہ بن ابی زینع، فتح مکہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوتِ اسلامی کے مخالف رہتے، مسلمان جس وقت بھرت کر کے جلسہ کئے، قریش نے ان کو اور عمرو بن العاص کو مسلمانوں کو وہاں سے واپس کرنا نہ کئے

نماشی شاہ جلبشہ کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے اکتوبر وقت تک دعوتِ اسلامی کی جس شدت سے مخالفت کی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت علیؓ ان کو قتل کرنے کی فکریں تھے، انہوں نے اُمّہٗ ہانی کے گھر میں پناہ رکھی تھی، انہوں نے حضرت علیؓ کو روک دیا اور انہیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں، آپ نے انہیں پناہ دی، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو "الجند" کا عامل مقرر فرمادیا، حالانکہ یہ طلاقاً میں سے تھے، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، عمر بن اوس و عثمانؓ کے دور تک اپنے اس عہد پر فائز رہے، کسی نے انھیں معزول کر کے ان کی جگہ سابقین اولین میں سے کسی کو مقرر نہیں کیا۔

۲۔ ابو سفیانؓ اسلام کے جیسے کچھ مخالف تھے، سب کو معلوم ہے، فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخراج کا گورنر تقرر فرمایا، جو ایک قول کے مطابق وفات بنوی تک اس عہد پر فائز رہے، دوسرے قول کے مطابق سنایا ہے میں ان کی جگہ ایک اور سترہ سالہ توجوہن حمزہ بن حروم کو مقرر کر دیا گیا تھا، دونوں، ہماں بہر حال زمرة سابقین میں شمار نہیں کئے جاتے۔

۳۔ بعد اللہ بن اوزقم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کاتب (سیکرٹری)، بنایا تا اپنے کے لئے وحی بھی لکھا کر تے اور بادشاہی کے نام آپ جو خطوط روانہ فرماتے تھے وہ بھی لکھتے تھے، آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضیؓ کے سیکرٹری رہے، اس کے بعد کچھ عمر فاروقؓ کے بھی سیکرٹری رہے انہیں عمر فاروقؓ نے ان لویست المال کا اچھار ج مقرر کر دیا اور آخر تک اس عہد پر فائز رہے، حضرت عثمانؓ کے خلیفہ بن جانتے کے دو سال بعد تک بھی اسی عہد پر رہے۔

لله الاستیعاب، ج ۱، ص ۳۵۱، دائرة المعارف جیدر آباد دکن۔

لله الاستیعاب، ج ۱، ص ۳۱۹، ج ۲، ص ۴۳۷۔

فائز رہے۔

۳۔ عکرمہ رضا اور ان کے والد ابو جہل کے کردار و مخالفت سے کون ناواقف ہے  
عکرمہ کو فتح مدینہ کے کچھ عرصہ بعد ائمہ تعالیٰ نے قبولِ اسلام کی توفیق بخشی، آپ نے انکو  
قبیلہ ہوازن پر عامل مقرر فرمایا، آپ کے بعد ابو بکر صدیقؓ نے ان کی قیادت میں  
عمان میں متدين کی سرکوبی کے لئے شکر بھیجا، وہاں انہیں فتح ہوتی، اس کے بعد  
حضرت ابو بکرؓ نے عمان پر حضیرۃ القلعہ اُنی کو دالی بنادیا اور عکرمہ کو میں کے علاقے  
میں بیج دیا، حضرت ابو بکرؓ کے بعد عفار و قثیب نے بھی ان کی صلاحیتوں سے فائزہ اٹھایا  
اور شام کے معروکہ لا راز میں دادِ شجاعت دیتے رہے، حالانکہ یہ بھی ان میں سے ایک  
تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ الگ خازکیہ  
کے پردوں سے بھی لپٹتے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، جس طرح کہ مولانا  
نے عبد اللہ بن سعد میں ابی سرح کے متعلق لہا ہے، قتل کا یہ حکم اگر حضرت عثمانؓ  
کے مقرر کردہ عامل حضرت عبد اللہ بن سعد کے متعلق موجب قدر ح ہو سکتا ہے تو  
حضرت عکرمہ کو اس سے کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے؟

۴۔ عتاب بن یاسینؓ فتح مدینہ کے دن مسلمان ہوئے، آپ نے انہیں سکتے کا  
گورنر مقرر فرمایا، جس پر وہ ابو بکر صدیقؓ کی وفات تک حاضر رہے، حضرت ابو بکرؓ  
اور ان کی وفات ایک ہی دن ہوتی۔

۵۔ جابر بن عبد اللہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پانچ پھر مہینے قبل  
مسلمان ہوئے انہیں حضورؐ نے یہ میں کے بعض قبیلوں، ذو الکلاع اور ذور عین کی طرف  
عامل بنا کر بھیجا۔

لہ الاستیعاب، مج ۱، ص ۳۳۶۔

لہ الاستیعاب، ح ۲، ص ۵۰۶۔

لہ الاستیعاب، ح ۲، ص ۵۰۸۔

لہ الاستیعاب، ح ۱، ص ۴۰۔

۔ زبڑی قان بن بدرا کو شہ میں مسلمان ہوئے، آپ نے انھیں اپنی قوم کے مددگار و صول کرتے پر مقرر فرمایا، آپ کے بعد ابو بکر رضوی و عمر رضوی کے دور میں بھی وہ اس عہدے پر فائز رہے۔<sup>۱۷</sup>

۸۔ مالک بن عمَّان عَوْف جنگِ خنیں میں شکر کفار کے سردار تھے، جنگ کے بعد مسلمان ہوئے تو آپ نے انھیں ان کی قوم اور قبائل نہیں پر عامل مقرر فرمایا۔

۹۔ قمرُوْبْن عبد اللہ الاَزْدِی شاہِ میں اپنی قوم سمیت مسلمان ہوئے۔ آپ نے انھیں اپنی قوم کا حاکم مقرر کر دیا اور ساتھ یہی یہ بھی حکم دیا کہ اپنی قوم کے مسلمان افراد کو ملا کر ان قبائل کفار سے جہاد کریں جو تمہارے قریب لیتے ہیں۔<sup>۱۸</sup>

یہ تدوہ حضرات ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، گویا مظلومین میں سے ہیں، اس کے علاوہ چندوہ حضرات بھی ہیں جو فتح مکہ سے تھوڑے ہی عرصہ قبل مسلمان ہوئے یہیں آپ نے انھیں سابقین اولین کے مقابلے میں ترجیح دی۔

۱۰۔ ان میں سے ایک حضرت عمر بن العاص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں عثمان کا گورنر مقرر کیا، آپ کے بعد ابو بکر رضوی و عمر نے ان کو ہر موقع پر ہم عہدے اور جنگی مہات میں قائد بنایا، جن کی تفصیلات سے ہر شخص واقف ہے، لیکن یہ سُن کی آپ حیران ہو گئے کہ یہ بھی سابقین اولین میں سے جہیں ہیں بلکہ فتح کو سے صرف چھہ بھیتیہ قبل مسلمان ہوئے تھے، نیز ایک موقع پر حضور نے انہیں ابو عبیدہ کی مدد کئے ایک فوج کا قائد بنانکر بھیجا، جس میں حضرت ابو بکر رضوی و عمر رضوی بھی انکے مامنعت تھے۔<sup>۱۹</sup>

سلہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۳۰۴م۔

سلہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۲۲۷م۔

سلہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۳۲۳م۔

سلہ الاستیعاب، ج ۲، ص ۲۳۴م۔ ۲۳۵م، البدریہ والنہایہ، ج ۸، ص ۲۵۔

۱۱۔ سعید بن سعید بن العاص، فتح مکہ سے پچھے عرصہ قبل مسلمان ہوئے آپ نے انہیں لکھ کی مندرجی پر عامل مقرر کیا۔<sup>۱</sup>

۱۲۔ جبیر و بن سبل، حذیۃ بنی سعید کے موقعہ پر مسلمان ہوئے، آپ نے جنگ طائف کے موقعہ پر ان کو کہے پڑا پینا تائب مقرر کیا، حالانکہ ان کو مسلمان ہوئے ابھی تھوڑا بھی عرصہ گذرا تھا۔

ان کے علاوہ چند عمالِ تبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے متعلق اس چیز کی صراحت نہیں ملتی کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا، ان میں سے ایک عثمان بن ابی العاص ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر مقرر کیا، ابو بکرؓ مدلیق کے دور میں بھی اس پر قرار رہے، رکھا ہیں حضرت عمرؓ نے انہیں دہان سے معزز کر کے عمان و بحرین کا گورنمنٹ مقرر کر دیا، دوسرے علاء بن الحضری ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا گورنمنٹ مقرر کیا، جس پر وہ اپنی وفاتِ سکلہ تک برقرار رہے تیسرا عکاشہ بن فور بن اصغر القرشی ہیں، جو سکلا سکا، سکون اور قبیلہ کنڈہ کی ایک شاخ بن معاویہ پر آپ کی طرف سے حاکم تھے، ایک اور صاحب زیاد بن خنفلہ نبی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل رہے، اغلب یہی ہے کہ یہ سب حضرات غیر سابقین میں سے ہی ہیں،

### عمال ابو بکرؓ

حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں بیشتر عمال و ریاست جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تھے، آپ کے دور میں ان کے علاوہ جن غیر سابقین کو آگے

لئے الاستیعاب، ج ۲، ص ۵۳۰۔

لئے الاستیعاب، ج ۲، ص ۴۰۰۔

لئے الاستیعاب، ج ۲، صفات بالترتیب ۳۸۳، ۵۰۵، ۵۰۵، ۵۰۹۔

لئے الاستیعاب، ج ۱، ص ۱۹۵۔

بڑھایا گیا ان میں چند درج ذیل ہیں :-  
 مثنی بن حارثہ شبیانی، فتحیہ یا ساتھ میں مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق نے انکو  
 صدر خلافت (الله) میڈری عراق کی جنگ میں قائد بنائے اور پیغام دیا، اس جنگ میں ہبھو  
 نے جو حصہ لیا، اس کو دوسرا کوئی شحف نہیں پہنچ سکا، اللہ میں جب حضرت عمر  
 خلیفہ نے قوان کی مدد کے لئے مزید ایک فوج ابو عبدیل بن مسعود کی سرکردگی میں روانہ  
 کی۔

یعلیٰ بن امیہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق نے انھیں بلا دھلوان پر  
 عامل مقرر کیا، حضرت عمر نے انھیں میں کے بعض حصوں پر عامل مقرر کئے رکھا،  
 بعد میں حضرت عثمانؓ نے انھیں سنگاء کا عامل مقرر کیا۔

یزید بن ابی سفیان فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق نے انھیں عامل  
 بنایا، اور شام کی جنگی مہماں میں ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا،  
 بعد میں حضرت عمر نے انھیں فلسطین اور اس کے اطراف کا گورنر مقرر کر دیا، اپنی  
 وفات تک یہ اس عہدے پر رہے، وفات کے بعد ان کے زیر حکم علاقے کو حضرت  
 عمر نے ان کے بھائی حضرت معاویہؓ کی گورنری میں دے دیا۔

ابو مسلم خواصی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند روز قبل مسلمان ہوئے  
 آپؐ کی زیارت نہ کر سکے، کیا رتا بعین میں ان کا شمار ہے، بعض موقعوں پر ان کو  
 ابو بکرؓ نے نائب مقرر کیا۔

حضرت عمرؓ کی بیگم غماں پر حذیفہ القلعانی کو عامل مقرر کیا، ان کے متعلق معلوم

لکھ الاستیعاب، ج ۱، ص ۲۹۰۔

لکھ الاستیعاب، ج ۲، ص ۶۱۳۔

لکھ الاستیعاب، ج ۲، ص ۶۱۰۔

لکھ الاستیعاب، ج ۲، ص ۶۶۶۔

نہیں کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا، سابقین میں سے ہوتے تو ان کی خدمات ضرور مذکور ہوئیں، اس لئے اغلب یہی ہے کہ یہ بھی غیر سابقین میں سے ہیں۔

حضرت خالد بن ولید کبھی ان لوگوں میں سے ہی جو سابقین اولین میں شامل نہیں ہوتے یہیں! ابو بکر صدیقؓ نے سابقین کے مقابلے میں انہیں آگے بڑھایا، اسی پار میں اختلاف ہے کہ کس سن میں یہ مسلمان ہوئے، ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی غزوہ بن العاصؓ کے ساتھ فتح مدینہ سے چند ہفتے قبل مسلمان ہوئے، یہی قول صحیح نظر آتا ہے کیونکہ فتح مکہؓ سے قبل کسی غزوہ میں ان کی شرکت کا ثبوت نہیں ملتا، لا یصح لخالد بن الولید شہید (مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) قبل الفتحؓ، اسی لئے ابن سعد اور ابن کثیرؓ نے ان کے مسلمان ہونے کی صرف وہی ایک روایت ذکر کی ہے جسے ہم نے ترجیح دی ہے گویا ان کے نزدیک ان کے قبول اسلام کی تاریخ مختلف فیہ نہیں بلکہ صحیح طور پر صفر ۱۷ؓ ہی ہے، حضرت ابو بکرؓ نے ان کو آگے بڑھا کر ان کی صلاحیتوں سے جس طرح فائدہ اٹھایا ان کی تفصیلات سے کتب تواریخ بھری پڑی ہیں، کہنے کو گنج تواریخ میں ان کے عظیم کازnamوں کے ساتھ ان کے کوڑا پر بھی بعض راویوں نے بعض بنداداع ثبت کر رکھی ہیں، جو اگرچہ ہمارے خیال میں محل نظر ہیں، لیکن ان لوگوں کی نظروں میں تو سوچی صدی صحیح ہوں گے جو حضرت عثمانؓ و معاویہؓ کے متعلق تمام رطب اور ایس روایات کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اسکے باوجود وہ حضرت خالدؓ کی ان مکزوریوں کی بنیاء ابو بکر صدیقؓ کو مطعون نہیں کرتے، دراں حالیکہ وہ حضرت عثمانؓ کے مقرر کردہ بعض عمال کی مکزوریوں کو بنیاء دینا کر خود حضرت عثمانؓ کو مطعون کر رہے ہیں۔

### عُمَّالٍ عَسْمَرَ

دَوِيرِ رسالتِ وا بو بکرؓ میں جو عمال مختلف مقامات پر تھے، حضرت عمرؓ کے دور

لہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۱۰۳ -

لہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۱۵۳ -

لہ لبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۲۵۲ - البداپہ والہبایہ، ج ۷، ص ۱۱۳، ج ۸، ص ۲۳ -

میں ان کی بوجوہیست پہلے تھی، اس پر بتار رہے، ان میں سے کسی کو بغیر کسی معقول وجہ کے معزول نہیں کیا گیا، حضرت عمرؓ کے دو دو میں جو غیر سابقین نمایاں خدمات پر ملکور تھے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:-

عبدشی بن قوقل جب سال مفتخر ہوا اسلام ہائے، حضرت عمرؓ نے انہیں حضروت کا گورنر بنیا یا، حضرت عثمانؓ کے دور میں بھی وہ اس پر فائز رہے۔  
ہاشم بن عقیدہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، حضرت عمرؓ نے جنگی مہماں میں ان کو قائد بنایا، جنگ قادسیہ میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، جلوہ لار کی فتح کا سہرا انہی کے سر ہے۔

جذبی بن معاویہ، ان کا صحابی ہونا ثابت نہیں، حضرت عمرؓ کی طرف سے آصواز پر گورنر مقرر تھے۔

حکم بن ابی العاص، عثمان بن ابی العاص کے بھائی، ان کی صحابیت مختلف فیہ ہے بھرپور حضرت عمرؓ نے اولاً اپنے بہنوئی قدادہ بن منظومؑ کو گورنر مقرر کیا، ان پر شراب نوشی کے الزام میں حدجاری کی اور معزول کر دیا، ان کی جگہ پر عثمان بن ابی العاص، کو مقرر کیا، یہ کب مسلمان ہوئے نامعلوم ہے، حضرت عمرؓ نے ان کو بھرپور کے ساتھ عثمان کا ملاقبہ بھی دے دیا، انہوں نے بھرپور کی گورنری اپنے بھائی حکم بن ابی العاص کو دے دی۔<sup>۵۵</sup>

عبداللہ بن حلف خُذاعی، ان کی صحبت بھی مختلف فیہ ہے، حضرت عمرؓ کی طرف

لہ الاستیعاب، ج ۲، ص ۵۰۲۔

۲۵ الاستیعاب، ج ۲، ص ۶۰۰۔

۲۶ الاستیعاب، ج ۱، ص ۹۹۔

۲۷ الاستیعاب، ج ۳، ص ۵۳۴۔

۲۸ الاستیعاب، ج ۱، ص ۱۱۸۔

دیوان بصرہ پر کاتب مقرر تھے۔<sup>۱</sup>

تفقیدین عمریہ تمیی، ان کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ اسلام کب قبول کیا، حضرت عمرؓ نے انہیں گورنر کم مقرر کیا، ان کے بعد اسی عہدے پر زافع بن عبد الحارث خوارجی کو مقرر کیا، جن کی صحبت مختلف فیہ ہے، بعض نے ان کی صحابت کا انکار کیا ہے، بعض کا خیال ہے کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، ان کے بعد کئے کی گورنری خالد بن اعاصی کو عطا کر دی، جن کے متعلق بھی معلوم نہیں کہ وہ کب مسلمان ہوئے تینوں ہی چہار سال بقیں اولین میں سے نہیں ہیں۔

کعب بن سوڑا الأزدی صحابی نہیں، کیا رتابیں میں ان کا شماز ہے، حضرت عمرؓ کی طرف سے قاضی بصرہ تھے۔<sup>۲</sup>

عبداللہ بن علیہ، عبداللہ بن مسعود کے بھیجی، حضرت عمرؓ کی طرف سے کسی مقام پر عامل تھے، کیا رتابیں میں سے ہیں؟<sup>۳</sup>

شروع بن الحارث الکندي، کیا رتابیں میں سے ہیں، حضرت عمرؓ کی طرف سے قاضی کوفہ تھے، سالہ سال عہدہ قضا پر فائز ہے، یعنی عبد الملک بن ہروان کے زمانے تک ہے۔<sup>۴</sup>

عبد الرحمن بن ریبعہ باصلی ہبہ رسالت پایا ہے لیکن آپ سے ساعٹ ثابت نہیں حضرت سعد بن جعفر وقت جنگ قادسیہ کیلئے مجشی، ان کو عہدہ قضا پر مقرر کر گئے تھے اور مال غیرت و فتنہ کا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں تھا، حضرت عمرؓ نے انہیں مال

سلہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۳۲۸۔

سلہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۱۵۵، ۲۹۳، ۵۳۷۔

سلہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۲۷۱۔

سلہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۳۲۸۔

فہ " " ج ۲، ص ۵۹۰۔

بنی اسحاق پر حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد حضرت عثمانؓ کے دو خلافت میں بھی آٹھ سالی  
تک بدستور وہ فائز رہے، اس کے بعد مغلی کر دئے گئے۔  
عبد الرحمن بن عبد القاری، کتاب تابعین میں سے میں، خلافت عمرؓ میں بیت المال  
پر مقرر تھے۔

علیہ السلام ابن سفیانؓ حضرت معاویہ کے بھائی عہد رسالت میں ان کی ولادت  
ہوئی، گویا کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت عمرؓ اخیل طائف کا عالی مقرر کیا، ان سے  
قبل یا ان کے بعد یہی عہدہ بالترتیب عثمانؓ بن ابن العاص اور سفیانؓ بن عبد اللہ بن  
ربیع کو دیا گیا، آخر الذکر دونوں صحابی میں نیک ساتھیں اولین میں سے ہیں، میں نے  
سائب بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ۷۸۸ میں  
حضرت عمرؓ کے زمانے میں ان کی طرف سے مدینے کی منڈی پر عامل مقرر تھے  
ان کے علاوہ بعض ایسے عمال ہیں جنکے سلطنت مسلم نہیں کر اñھوں نے کب کب اسلام  
قیوں کیا، ان میں ایک عثمان بن حنفی ہیں دوسرے سائب بن القرع الشقی ہیں جو مدائی  
کے گورنر تھے، ایک شریک بن عامر الشعدي گورنر بصرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کے ساتھ غزوات میں ان کی عدم شرکت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ غیر  
ساتھیں میں سے ہیں، اگر ساتھیں میں سے ہوتے تو غزوات میں ان کی شرکت کاسی نہ کسما  
انہا میں ضرور ذکر ہتا۔

یہ ۳۷۲ عمال ہیں جن میں سے ۱۴۵ ا تو صرف طلاقاء میں سے ہیں میں بفرع مکر کے

لئے الاستیعاب، ج ۲، ص ۲۰۰۔

بلئے الاستیعاب، ج ۲، ص ۲۰۲۔

سلئے الاستیعاب، ج ۲، ص ۲۹۵، ۵۶۰۔

لئے الاستیعاب، ج ۲، ص ۵۷۔

ھھ الاستیعاب، ج ۲، صفحیات بالترتیب ۵، ۳۶۳، ۵۷۷۔

بعد مسلمان ہوئے، باقی بھی سابقین اولین کے مقابلے میں فروتیں، ان لوگوں کے علاوہ جن سابقین اولین کو مناسب حکومت دیتے گئے انہیں فہرست ہم نے پیش نہیں کی ہے۔ ان کی تعداد اگر شمار کی جائے تو غیر سابقین سے نصف بھی نہیں ہوگی، پھر غیر سابقین کی بو فہرست ہم نے پیش کی ہے پورے شیع اور استقصاً کے بعد ہمیں بلکہ سرسری سے مطالعہ کے بعد ایک ناتام سی فہرست پیش کی گئی ہے، پورے استقصاً کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ مقصود اس تفصیل سے یہ ہے کہ سابقین اولین کے مقابلے میں غیر سابقین کو آگے بڑھاتے اور مناسب حکومت عطا کرنے سے الرفتاری طور پر لوگوں کے اندلناگواری کے اثرات پیدا ہو سکتے ہوتے تو ان تینوں ادواد میں ان کا لفڑیوں بینجا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو اونچے مناصب پیدا فراز کرنا اگر کوئی جرم، کوئی فعل حرام یا سیاسی تدبیر کے خلاف تھا تو اس کا ایک کتاب تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بھر صدیق رضا اور سعید فاروق نے کیا ہے، عثمان عنیہ پر فرموم جائز کرنے سے پہلے ان حضرات کو جو من کے تدبیر سے میں کھڑا کر کے پھر ان سے اس حق تلقی کے متعلق باز پرس کرنی چاہئے جو انہوں نے ان سابقین اولین کے ساتھ روارکھی جو کی پدولت اسلام کو سرپلندی فیض اور دین کو فروغ ہوا تھا

لہ مرید رہاں ابن سعد نے صراحت کی ہے کہ عمر بن الخطاب صحابہ میں سے افضل اوس سابقین کی بجائے بوجوہ غیر سابقین کو عامل بنانے میں ترجیح دیتے تھے، اس کی ایک وجہ اس ہوئی ہے کہ غیر سابقین قوتِ عمل اور سیاسی بصیرت کے مالک تھے (طبقات ابن حجر، ص ۴۸۷، ۴۸۳، ۲۸۳) حافظ ابن حزم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظرِ عمل بھی یہی تبایہ ہے کہ آپ نے بھی سابقین کی بجائے غیر سابقین کو زیادہ تمواقع عمل ہیساکے، اس سے ابن حزم نے انسداد لال کیا ہے کہ امارت و خلافت کے لئے افضل ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ اس بصیرت و قوتِ عمل میں ممتاز ہوتا چاہئے جو حکمرانی کے لئے ضروری ہے۔ (الفصل، ح ۳، ص ۱۶۵، شیع الاسلام ابن تیمیہ نے بھی صراحت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یادہ تر عامل بنو امیہ میں سے تھے، پھر ابن تیمیہ نے انکے جو نام (باقی حاشیہ الکتب صفحہ کیجئے)

حضرت عثمانؓ کے مقرر کردہ جن عمال پر رسولانکو اعتراض ہے وہ سب وہیں ہیں جنہیں حضرت عثمانؓ سے پہلے خود عمر فاروقؓ نے مختلف مقامات پر قابل مقرر کیا ہوا تھا، ولید بن عقبہ عبداللہ بن سعد، حضرت معاویہؓ اسلام سے پہلے ان کا ماضی جیسا کچھ بھی رہا ہو، اس سے ہمیں بحث نہیں، قبول اسلام کے بعد یہ صحیح مذکونوں میں پہلے پہلے مسلمان ہیں چکے تھے۔ عبد اللہ بن سعد کے شغلیت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا تھا، تھیک ہے لیکن یہی حکم آپؐ نے حضرت علیؓ کے شغلیت بنی اکرم کے شغلیت جسی تعلق جسی تو دیا تھا، یعنی قبول اسلام کے بعد آپؐ نے دونوں کو معاف کر دیا، حضرت علیؓ کو کہ آپؐ نے گورنریہ خفر فراہما، ابو بکرؓ کو اپنے ان کو اہم خدمات پر مأمور کیا، عبد اللہ بن سعد کو عمر فاروقؓ نے عالی مقرر کیا، ولید بن عقبہ کو ابو بکرؓ صدیقؓ اور عمر فاروقؓ دونوں نے اہم خدمات پر منصون کیا۔ گویا ان حضرات نے ان کے ماضی کو فراموش کر کے انہیں اسلامی معاشرہ میں نایاب مقام عطا کیا۔ لیکن مولانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کے عطاکارہ اس نایاب مقام کو فراموش کر کے ان کے ماضی پر نوحہ کنائی ہیں، ٹھر لو و طوبی و قامت بیار۔ فلکر کس تقدیرِ ہمت اوست پھر یہی جماعت اسلامی کے لوگ کس سادگی سے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں عثمانؓ و معاویہؓ کی توہین نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کے متعلق تاریخی حقائق بیان کئے گئے ہیں لیکن راقم کے خیال میں تو بات صرف عثمانؓ و معاویہؓ تک نہیں رہتی، اس سے تو نوات رسالت مائب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ صدیقؓ اور عمر فاروقؓؓ تک کے اختلاف کا پہلو بھی واضح طور پر مکمل رہا ہے۔

---

(ابن حاشیہ صفحہ سالیقؓ ذکر کئے ہیں، آن میں سابقین اولین میں سے کوئی نہیں نیز امین تحریر نے حضرت ابو بکرؓ عمرؓ کی بالیغی یہی یہی تبلیغی ہے، اسی لئے حضرت عثمانؓ نے کہا "انما ر استعمل الامان ستعلم" البی اصلہ اللہ علیہ وسلم و من جنسہم و من قبیلہم و کذا لک ابو بکرؓ و عمن بعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ عمرؓ نے جنہیں عالی نبایا میں نے آنہیں ہی یا پھر ان ہی تباہ کی اور ان ہی جنس کے لوگوں کو عامل نبایا۔ ملاحظہ ہو نہیاج الشیخ ۱۷۵، ص ۳، ج ۱۷۴، ص ۱۷۵۔)

۲۔ سیرت و کردار کی قلب ما ہیستا؟

پسینی کا دوسرا سبب مولانا نے یہ بیان کیا ہے:-

”اسلامی تحریک کی سربراہی کے لئے یہ لوگ سوندوں بھی نہ ہو سکتے تھے کیونکہ وہ ایمان تو ضروری آئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے انکو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کاران کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قلب ما ہیستہ ہو جاتی، وہ بہترین مشتمل اور اعلیٰ درجہ کے فائیع ہو سکتے تھے اور فی الواقع دلیل ہی شایستہ بھی ہوئے، لیکن اسلام ختن بلکہ گیری و ملک داری کے لئے تو نہیں آیا تھا وہ تو اولاد بالذات ایک دعوتِ خیر و صالح تھا جس کی سربراہی کے لئے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی اور اس کے اختبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کی الگی صفوتوں میں نہیں بلکہ بچھلی صفوتوں میں آتے تھے۔“ (ص ۱۰۹-۱۱۰)

اگر واقعہ ہی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے ان کے ذہن اور سیرت و کردار کی قلب ما ہیستہ نہیں ہوئی تھی تو یہ اعتراف بھی حضرت عثمانؓ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخوں پر دار رہتا ہے کہ انہوں نے اکثر ایسے ہی لوگوں کو کیوں آگے بڑھایا جنہیں آپؐ کی صحبت و تربیت کا موقع بہت کم ملا تھا؛ جیس طرح کہ پہلے ایسے عمال کی فہرست پیش کی جا چکی ہے جن کو آپؐ کی صحبت و تربیت کا موقع بہت کم ملا تھا۔

حضرت عثمانؓ کے سامنے تحضور ارشدین کا طرز عمل تھا کہ انہوں نے غیرتابعین کا ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کو متابعین پر ترجیح دی ہے دوسری چیز حضرت عثمانؓ کی نظر میں ان کی تحریک کاری تھی۔ ولیذن بن عقیدہ ابو یکرہ مصدقیق کے دور سے یعنی چودہ پندرہ سال سے سیاسی و انتظامی معاملات سے منسلک چلے آ رہے تھے، بعد اشہدین تعدد بھی حضرت عمرؑ کے دور میں منسلک کئی سال سے مصکی انتظامی معاملات سے منسلک تھے حضرت عثمانؓ کے دوڑ میں بھی وہ پار سال اسی عہد پر رہے جس پر حضرت عمرؑ ان کو چھوڑ

گئے تھے، حضرت معاویہؓ جس وقت سے سماں ہوئے اُسی وقت سے متار سہیت پر فائز ہوتے چلے آ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیقؓ، اور عمر فاروقؓ تینوں نے ان کو سہیشہ اسلامی معاشرے میں نمایاں مقام عطا کئے رکھا، شہزادہ سے ۲۴ حضرت عثمانؓ کے خلیفہ بننے تک کے طویل عرصہ میں اسلامی معاشرے میں نمایاں خدمات انجام دیتے میں جہاں ایک طرف ان کی عقل میں بختی، تدبیر، دوراندیشی، تجربہ میں وسعت اور انتظامی و سیاسی صلاحیتوں میں چلا پیدا ہوئی تو دوسرا طرف ابو بکرؓ و عمرؓ کی زیر مگرائی رہنے کی وجہ سے ان کے اسلامی خدمات میں ابو بکرؓ و عمرؓ کی اسپرٹ پیدا ہو گئی تھی، یہ خام کا راور تربیت کردار میں ناقص اُس وقت ہو سکتے تھے جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے یا اُس وقت جب حضرت ابو بکرؓ نے ان کو کام پر لگایا یا اُس وقت جب عمرؓ فاروقؓ نے انہیں سیادت و قیادت پر مامور کیا، نہ کہ اُس وقت جب کہ انہیں اسلامی معاشرے میں جذب ہوئے رسول سال کا طویل عرصہ گزر یہ کا تھا۔ اگر انہیں لگے بہاءنا تاہل اغراض تھا تو یہ اغراض ریحاذ اللہ / ذات رسالت پر کیجئے۔ ابو بکرؓ و عمرؓ پر کچھ کہ ان کے دور میں یہ خام کا رجھی کہے جاسکتے ہیں اور اسلامی تربیت میں ناقص بھی لیکن حضرت عثمانؓ کے دور تک تو ان کی تربیت مکمل اور ان کے تجربے میں وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑھائی سالہ صحبت و تربیت اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی چودہ سالہ رفاقت سے بھی ان کے ذہن اور سیرت و کدار کی قلبِ ماہیت نہیں ہوئی تھی اور یہ لوگ اُن تابعین سے بھی فرو تریں جنہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ حضرت ابو بکرؓ کی صحبت اُٹھا جائی۔ نہ عمرؓ فاروقؓ کے عدل و انصاف کا شاہدہ کیا، ایسے لوگوں کے لئے ہم صرف یہ دعا ہی کو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحبت کے احترام کی توفیق عطا فرمائے جو اصحاب رسول کے لئے تابعین سے بھی فرو تر مقام تجویز کر کے صحبت کی تو، یہ کر رہے ہیں۔

پھر لطف کی بات ہے کہ جن حضرات کے متعلق مولانا فرماتا ہے ہیں کہ ان کی ذہنی و اخلاقی تربیت پورے طور پر نہ ہو سکی تھی اور وہ دینی و اخلاقی قیادت کے اہل نہ ہو سکتے

تھے، اکابر صحابہ ان کے بھیچے پنج وقتہ نمازیں پڑھتے رہے، خطباتِ جموعہ و عیدیں مشتمل  
بنتے رہے لوران کے ماتحت ہو کر بصدقی دل غزوتوں میں شرکت کرتے رہے، کسی صحابی  
نے جعلی یا غیری نظفوں میں یہ اعتراض نہیں کاٹھایا کہ یہ لوگ ہماری دینی و اخلاقی قیمت  
کے اہل نہیں، ہمیں ان کی یہ سیادت و قیادت ناگوار گزرتی ہے، ہم مولانا کی خیالی  
با توں کو صحیح بھیجنیں یا اس کے بر عکس ان کے معاصر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے  
طرز عمل کو سامنے رکھ کر ان کو اخلاقی و دینی سیادت کا اہل تسلیم کریں؟  
حکم بن ابی العاص کی جلاوطنی سے غلط استدلال

مولانا نے ان کو ذہنی و اخلاقی تربیت کے اعتبار سے تابعین سے بھی چھپی صفوں میں  
رکھنے کی بوجداز وقت سفارش کی ہے، اس کے لئے دلیل میں مروان کو بطور مثال پیش  
کیا ہے کہ ان کے والد کو جو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعض حرکاتِ ناشائستہ کی بناد  
پر مدینے سے نکال دیا تھا، یہ اپنے بیٹے مروان کو ساتھ لے کر جو اس وقت ۷-۸ ریس کے تھے  
ٹالف پچھے لگئے، حضرت عثمان نے اپنے دو خلافت میں انہیں حضور کے وعدے کے مطابق  
مدینے والیں بلا لیا، اس پر مولانا لکھتے ہیں :-

”مروان کے اس لپس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی  
ہے کہ اس کا سکر طریقہ کے منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوارا نہ ہو سکتا۔“

تعالیٰ (ص ۱۱۰)

(۱) اول مروان کے والد حکم کی جلاوطنی کا قصہ ہی صحیح مندرجہ شایستہ نہیں، رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ اہم واقعہ اگر فی الواقع رونما ہو لے تو کسی صحابی نے اسے  
بیان کیوں نہیں کیا؟ حدیث کی کسی کتاب میں اس کا سراغ نہیں ملتا، مولانا نے جیسی  
کتب تواریخ کو معتبر قرار دیا ہے ان میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا، ابن سند، ابن جریر طبری اور  
ابن الاشیری کے نقل نہیں کیا، (صرف ابن عبد البر نے اس کو بغیر مندرجہ  
کے ذکر کیا ہے، بحال انکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے جس کی  
پوری صحیح مندرجہ ہوئی چاہئے، اس واقعہ کی مندرجہ ہیں تلاش و جستجو کے باوجود انساب الاشیری

کے سوا کہیں نہ مل سکی، اس سند میں کسی صحابی کا ذکر نہیں، سب راوی یا تو سپلی صدی تھی  
کے بالکل آخر یا دوسری صدی کے ہیں، اس میں بھی عجیس اور اس کا باپ ہشام  
الکلبی کذاب ابن الکذاب ہیں، پھر ہشام آگے اپنے باپ اور دادا سے روایت کرتا  
ہے جو مجموعہ ہیں، ایک نام تک کا پتہ نہیں بلکہ اسی لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس  
واقعہ کے متعلق لکھا ہے:-

”اکثر اہل علم نے اس واقعہ کی صحت سے انکار کیا ہے، نیز اس کی کوئی سند  
بھی نہیں ہے .....“  
دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

”اکثر اہل علم نے اس قصہ میں طعن کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر  
طاائف گئے تھے، ان کو کالا نہیں گیا تھا، پھر یہ قصہ نہ صحاح میں ہے نہ  
اس کی کوئی سند ہے کہ جس کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم کی جاسکے۔  
..... اسے جن لوگوں نے بھی ذکر کیا مرسل ذکر کیا ہے، اسے نقل کرنے والے  
بھی وہ موڑھیں ہیں جن کے ہاں جھوٹ کی کثرت ہے، اور جن کی نقل کردہ  
روایت کی بیشی سے کم ہی محفوظ رہتی ہے، بنا بریں اس واقعہ کی ایسی کوئی صحیح  
نقل نہیں ہے جس کی بناء پر کسی کی قدرح کی جاسکے.....“

جب اس کی سند اور حقیقت ہی کا علم نہیں تو پھر ایک امر مشتبہ کی نیاز  
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو گوئند مجرم گردانا جاسکتا ہے؟ ایسا تو صرف وہی لوگ کہتے  
ہیں جو محکم کے مقابلے میں متشابہات پر مدار استدلال رکھتے ہیں، اور جن کے  
دلوں میں بھی اور جو فتنوں کے جو یا ہیں ..... یہ

(ثانياً) اگر یہ مان لیا جائے کہ ایسا ضرور ہو لے یہ تو اس فلسفی کا صدور حکم سے ہوا ہے نہ کہ

لہ ملاحظہ سو اس اب لا شراف، ج ۵، ص ۷۲، مکتبۃ المتنی، بغداد۔  
لہ مباحثۃ السنۃ، ج ۳، ص ۹۶۸، ۱۹۶۷ء۔

ان کے بیٹے مروان سے بیا پ کی غلطی بیٹے کے سرکس اصول کی رو سے مند ہی جاستی ہے؛ لیہ ضروری تو نہیں کہ بیا پ کے کروار میں انگر گزوری پائی جائے تو اس کا بیٹا بھی لازماً مگزور کردار کا مالک نہیں ہو ستا۔ اگر اس طرح صحابہ کرام کے رشتہ داروں کی کوتاہیوں کو خود آن صحابہ کرام کی شخصیتوں کو سوتاڑ کرنے کے لئے بنیاد بنا لیا جائے جن سے خود کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تو اس طرح آخر کون سا صحابی محفوظ رہ سکے گا؟ (اس قسم کے پس منظر کو سامنے رکھ کر بآسانی اکثر صحابہ کو ناہل قرار دیا جاسکتا ہے کوئی شخص ابو بکر صدیق کے صرف اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ان کے والد فتح کو کے بعد مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیقؓ کے اپنے ذاتی کردار و شخصیت کو نظر انداز کر کے، ان پر یہ اعتراض جردوں کے انہیں خلیفہ نہیں بنانا چاہئے تھا، کون شخص ہے جو ایسے تحریکی عقل کو خراج تھیں پیش کر سکتا ہے حضرت عثمانؓ نے حکم بن ابی العاص کو نہیں، ان کے بیٹے مروان کو سکرٹری بنایا تھا، غلطی اور کی تھی تو بیا پ نے کی تھی، بیٹے کا اس میں کیا قصور ہو وہ تو اس وقت تھا۔ مسال کا بچہ تھا، بیٹے کی تربیت اُس خالص اسلامی معاشرے میں ہوئی تھی جس کے ہمکمل حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ جیسے افراد تھے، حضرت عثمانؓ نے ان میں صلحیت دیکھی ان کو سکرٹری بنالیا، کسی کو ناگوار نہیں گزرا، اگر کسی شخص کے ماتھے پرجی ناگواری کا بیل پڑتا، تو یہ حضرت ابو بکر و عمرؓ کی بات نہ تھی، اُس عثمانؓ کا اقدام تھا جس کی معنوی کوتاہی کو بھی یار لوگ ہمالیہ بنانے کر دکھلتے کی کوشش کرتے تھے، ناگواری کے یہ اثاثات بھی تاریخ میں ضرور مرقوم ہوئے، مولانا یوہیہ کو شمشک کرتے تھے، اس کے لئے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سوال یہ ہے کہ کون لوگوں نے اس نوگوار نہیں کیا، ذرا دو چار قام تو نے کہ تلاعیجے جنہوں نے اس تقریری پر اعتراض کیا ہو، مولانا اسی بات کو دوبارہ ذہراتے ہیں :-

”یہ مان لینا لوگوں سے لئے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معموق ب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سکرٹری بنایا جائے، خصوصاً جبکہ اس کا وہ معموق ب اپنے زندہ موجود تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر ارشاد انداز ہو سکتا تھا، (ص ۱۱۱)

مولانا ہوایں تیراندازی کر رہے ہیں، مولانا تاریخ سے دو چار نام کیوں اب بے ہمیں  
گناہ یتے جن کے لئے یہ مائن سخت مشکل تھا، پھر عقوب یا پ تھا نہ کہیا، آنرا خلاق و  
شریعت کے کون سے اصول یا ضابطے کی رو سے یہ ضروری تھا کہ یا پ کی سزا بیٹھ کو  
دی جاتی؟ پھر یہ بھی ایک مفردہ ہی ہے کہ باب زندہ تھا اور وہ بیٹھ کے ذریعے حکومت  
کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا، اسلامی حکومت پر اثر انداز ہونے کا کیا مطلب؟ کیا  
اس کا باب ایک لغتش کی بنابر کافر یا مسلمانوں کا ہی دشمن بن گیا تھا؟ جو حکومت  
پر اثر انداز ہو کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، اگر یہ مطلب ہے  
تو اس کے کفر اور اسلام دشمنی کے دلائل دیئے جائیں، اور باب اگر مسلمان ہی رہا تو پھر  
یہ اثر انداز ہونے کا مطلب ہماری بسمجھ میں نہیں آیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نے اپنی غلطی  
پر نادم ہو کر خدا کے حضور قریبی ہو، تو بہ سعادت و ازہ تو اس کے لئے بند نہیں ہو گیا تھا،  
ایک سخط اکار مسلمان جس سے کسی سنا پر لغتش کا صدور ہو گیا، اس کے ساتھ ہمیں  
حشقِ قلب رکھنا چاہئے یا اس سے یغض و عداوت اور نفرت و استکراه کا انہار؟ وہ تو  
پھر بھی ایک صحابی تھا اگر اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کے  
بغیرِ ہم کوئی اور خیال رکھیں، تو اس کی مغفرت تو اتنی لیکنی ہے جتنی ان کے بعد ہونے والے  
مسئلے و اتفاقیوں کی بھی نہیں۔

ثالثاً مولانا بات تو کہ رہے ہیں ان عمثال کی جنہیں حضرت عثمانؓ نے مناصیحت  
عطل کئے، حضرت ولیمؓ، عبداللہ ذین تسعہ بن سعد بن ابی سرخ اور حضرت محاویہ وغیرہ کے  
متعلق مولانا فرماتا ہے کہ یہ لوگ ذہنی و اخلاقی تربیت کے اعتبار سے نابیعین سے  
بھی ذوق تراویہ اسلامی تحریک کے لئے ناموزوں تھے اور عمثال دے رہے ہیں سروانؓ کی جو  
کسی جگہ کے گورنر نہ تھے، صرف حضرت عثمانؓ کے سکریٹری تھے، سکریٹری کی جو اہمیت  
موجودہ ذوق میں سمجھی جاتی ہے، اُس ذوق میں اس کی نہ اتنی اہمیت تھی نہ اُس اتنے  
زیادہ افتیارات حاصل ہوتے تھے، اسلامی تحریک کی سربراہی فی الواقع جن کے ہاتھوں  
میں تھی ان کے متعلق مولانا ایک ثبوت بھی الیسا پیش نہ کر سکے جس سے معلوم ہو کر یہ

لوگ تحریکیں اسلامی کی سربراہی کے لئے فی الواقع موزوں نہ تھے۔  
۳۔ بُرے کردار کا قلمبُور؟

بے چینی کا تیسرا سیدب مولانا بیان فرماتے ہیں:-

”ان میں بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان بھی لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کیا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا۔“ (ص ۱۱)

اس کے لئے بطور مثال مولانا نے ولید کے کردار کو پیش کیا ہے، یہاں بھی ایک مثال کے علاوہ مولانا کوئی دوسرا مثال پیش نہ کر سکے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کردار کی کمزوری صرف ایک شخص سے صادر ہوئی یعنی مولانا تمام عاملین عثمانی کو اس رسمے میں شاہی کر کے یہ عمومی حکم صادر فرمائے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا، سوال یہ ہے کہ ولید کے متعلق مولانا نے جو ثابت کرنا چاہا ہے اگر اسے صحیح تسلیم کر دیا جائے تو یہ چیز یہ بھی حل طلب ہے کہ اس جیسے کردار کے لوگ کون کون نہ تھے؟ اور کتنے تھے؟ کیا عاملین عثمانی سب اسی کردار کے تھے؟ اگر ایسا تھا تو مولانا نے ان کی مثالیں کیوں نہیں بیان کیں؟ ظاہریات ہے کہ جب بغیر قصور کے مولانا ان کو ولید کے ساتھ لٹا کر ولید کی کوشش کر رہے ہیں تو مولانا کو اگر نایابی مل پڑی تو کہ کردار کی بھی بعض کمزوریاں مل جائیں تو مولانا نہیں معاف کرنے والے نہ تھے، ضرور ان کی مثالیں بھی پیش کرتے۔

### ولید کے متعلق ایک تفسیری روایت

### اور اس کی اسنادی تحقیق

ولید کے کردار کے بارے میں مولانا نے جو یہ تفسیری روایت پیش کی ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبی المصلحت کے صدقات و صویں کرنے کے لئے مأمور فرمایا تھا، لیکن انہیوں نے وہاں گئے بغیر اگر یہ پورٹ دے دی کہ انہیوں نے زکوٰۃ دینے سامنے کارکویا ہے، اس پر آپ نے ان کے خلاف کارروائی کا ارادہ کر لیا اکاس قبیلے کے لوگوں کو علم ہو گیا اور انہیوں نے آکر صورت حال سے آپ کو آگاہ کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا یہ تھا۔

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُفَّارٌ مُّغَاثِقٌ يُنَبِّأُ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تَقْسِيمُوا قَوْمًا بِحَهَا لَهُ قَسْطٌ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ هُنَّا مُمْنَنَ، الْأَرْتَهارِيَّ پاس کوئی فاسق آکر کوئی خبر نہ تو تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف نہ اوقیانس میں کوئی کارروائی کر لیطمہو اور پھر اپنے کئے پر پھختاتے رہ جاؤ، (رس ۱۱۱)

## روایت کے مختلف طریق

یہیں یہ واقعہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، اس روایت کے جتنے بھی طرق مروی ہیں، ان میں سے کوئی بھی شعاع سے غالی نہیں، سب میں کوئی نہ کوئی ایسا فتنی و اصولی نقش پایا جاتا ہے جس سے اس کی اسنادی حیثیت محروم ہو جاتی ہے، مختصل مُنقطع دونوں طریقوں سے یہ روایت آتی ہے، مقطوع و مُرسَل سلسلے مجاہد قادہ، ابن ابی یعلی، عُمر مہ اور یزید بن رومان پر جاگر ختم ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے یہ سب طبقہ تابعین سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ولقتے کا عینی شاہد نہیں، واقعہ ان حضرات سے ایک صندی قبل کا ہے، یہ واقعہ ان کوکس نے بیان کیا اُنہوں نے کون سے میتی گواہوں سے یہ واقعہ سننا؟ ان کے سلسلہ روایات میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی، اس لحاظ سے ان میں سے کوئی بھی روایت قابلِ جست نہیں۔

انکے علاوہ اس روایت کے بعض طرق جو موجود ہیں میں ایک روایت اُم سلہ فری کی ہے جسے یہ نکتہ ثابت ہے کہ شخص اُم سلہ سے بیان کرتا ہے اور اپنے کو اُم سلہ کا مولیٰ کہا جاتا ہے، لیکن اس بات کو کہیں مزاح مہین ملتی کہ اس نام کا کوئی شخص حضرت اُم سلہ کا مولیٰ تھا، دوسرے اُم سلہ سے جتنی بھی روایات مروی ہیں وہ سب تند احمد میں موجود ہیں، ان میں یہ روایت کہیں نہیں ہے  
البتہ حافظہ میشی اور حافظہ سیوطی نے حضرت اُم سلہ کی یہ روایت بہرانی کے سوابے سے نقل کی ہے، لیکن ان دونوں نے اس کی سند ذکر نہیں کی، حافظہ میشی نے اتنا اشارہ ضرور کیا ہے کہ اس میں ایک راوی موسیٰ بن عبد اللہ ضعیف تھے، اس راوی کے ضعف

پر ائمہ جرج و قعدیل کا اتفاق ہے، سعید بن سعید کہتے ہیں، نتیجی حدایت ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں، الضعف علی روایاتہ بین و ابن معین کہتے ہیں، آئیں بشی لایحتجج بحدایتہ۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں، حدا و ق ضعیف الحدایت چند اعلیٰ بن مدینی کہتے ہیں، ضعیف الحدایت حدایت بالحدایت منکروں امام احمد کہتے ہیں، لا یکتب حدایت لَا تَهْمِلُنَّ الرِّدَائِيَةَ عَنْدَنِي هُوَ مُنْكَرُ الْحَدَىتِ۔ عبارات کا ترتیب بالترتیب یہ ہے، اس کی حدیثوں سے بچتے ہیں۔ اس کی روایات کا ضعف بالکل واضح ہے۔ وہ لاشی ہے اس کی حدیث قابل صحبت نہیں۔ حدیث میں کمزور ہے اس نے بہت سی منکر روایات بیان کی ہیں۔ اس کی حدیث ہی نہ لکھی جائے، وہ منکر الحدایت ہے اس سے روایت بیان کرنا بائز نہیں ہے۔

دوسری موصول روایت جابر بن عبد اللہ سے حافظہ شیخی نے ہی طبرانی کے حوالے سے بیان کی ہے جس میں ایک راوی عبد اللہ بن عبد القدوس تیکی ضعیف ہے، حافظہ شیخی نے قد ضعف الجھود کہہ کر اس کے ضعف کی صراحت کر دی ہے، یہ راوی بالاتفاق رافضی ہے، حافظہ ذہبی لکھتے ہیں، تقویق رافضی۔ امام احمد کے صاحبزادے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن معین سے اس راوی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا، لیس بشی رافضی خبیث۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں، ضعیف الحدایت یورنی بالمرتضی۔ امام بخاری کہتے ہیں، یزوقی عن اقوام ضعاف۔

تیسرا روایت بھی حافظہ شیخی نے طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے جس کا سلسلہ مکتبہ بن ناجیہ صاحبی تک پہنچا یا گیا ہے، اس کے متعلق بھی انہوں نے خودی صراحت کر دی ہے کہ اس میں یعقوب بن حمید راوی ہے جس کو تمہور لے ضعیف

سلہ میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۲۱۴، تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۵۵۹، ۳۵۹۔

سلہ مجمع الزوائد، ج ۱۱، ص ۱۱۔ مطبعة القدسی، تصریح ۱۳۷۰ھ

سلہ میزان الاعتدال، ج ۳، ص ۳۵۵، تہذیب، ج ۵، ص ۳۰۳۔

کہا ہے۔

جو تھی روایت حافظ شیوطی نے تفسیر مربوط منشور میں ابن جریر وغیرہ کے حوالے سے نقل کی ہے، جس کا سلسلہ حضرت عبد اللہ بن عباس تک چینچایا گیا ہے، تفسیر ابن جریر میں اس کی سند اس طرح بیان کی گئی ہے، حدائقی محمد بن سعد قال ثنی ابی، حدائقی عی، قال حدائقی ابی عن ابیه عن ابی عباس، اس سند میں اول تویر پتہ نہیں پہلا کہ ابن سعد کا باپ کون اور یا پا کا پچاکوں ہے، پھر اس کے عسم کا باپ اور دادا کوں ہے؟ گویا اس میں چار محبول راوی، میں جن کا کوئی اتر پتہ نہیں، اسی لئے حدائق وقت اشیخ احمد شاکر مصری مرحوم نے اس سلسلہ سند کے متعلق کہا ہے، سند مسلسل بالضعفاء من اسرار و احادیث۔

پانچوں روایت سند احمد میں آتی ہے جسے شیوطی نے "سنجدہ" اور ابن کثیر نے احسن الطرق کہا ہے جس کے صاف معنی یہ ہیا کہ اس کے دیگر تمام طرق ان کے نزدیک بھی ضعف و خلل سے عالم نہیں، اس روایت کا حال بھی لاطخ فرمائیں، اس کی سند میں ایک راوی محمد بن ساقی تھی ہے جس کے متعلق ابو حاتم کہتے ہیں "یکتب حدایہ ولا یصحیحہ"، اس کی حدیث الکھلی جعلی میکن وہ قابلِ صحّت نہیں، یعقوب بن شیعیۃ کہتے ہیں "راستہ گواؤ می ہے فیکن ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو حدیث میں موصوف بالضبط ہیں" چلمین حسین نے ضعیف کہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو جال بخاری میں شمار کیا ہے، امام بخاری نے باب قضاء الوضي دیومن المیت میں ایک روایت اس سند کے

لئے مجمع الزوائد، ج ۱۰، ص ۱۱۰۔ اس کے ضعف کی مرید صراحت کے لئے دیکھئے عین زان اللعنة  
ج ۲، ص ۳۵۔ مقدمہ فتح الباری ج ۴، ص ۳۱۔

ملہ - تفسیر البطیری، ج ۱، ص ۳۴۴، دارال المعارف مصر، ۱۳۷۷ھ

ملہ - تہذیب التہذیب، ج ۹، ص ۱۷۵

کے ساتھ بیان کی ہے، حدثانہ احمد ابن ساقی افالفضل بن یعقوب حدث شاشی بن اگر یہاں محمد بن ساقی ہی کو صحیح مان لیا جائے پھر بھی اُس کے ضعف میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بخاری میں اس روایت کا تاریخ موجود ہے، کتاب المغازی باب اذکہمت طائفۃ بنو میں شیبان سے محمد بن ساقی یا فضل بن یعقوب کی بحکمے ایک اور راوی عبد اللہ بن موسیٰ بیان کرتا ہے، گویا یہ ضعیف راوی مستقل بخاری کا راوی نہیں بلکہ متابعتہ ہے، اور اگر اس کو رجال بخاری میں شمار کر لیا جائے تو بھی یہ ضروری نہیں کہ اس راوی کی دیگر روایات جو بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں میں ہوں لازماً صحیح ہوں، عین ممکن ہے کہ اس کی روایت صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ ہو لیکن دوسرے مقام پر اس کی بیان کردہ روایت نقد و جرح کی کسوٹی پر پوری نہ اُتر سکے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:-

لا يلزّم من كون رجال الأسناد من كسي راوی کا بهال بخاری میں ہونا اس بات كومسلزم نہیں کہ اس کی دوسری روایات بھی ضرور صحیح ہوں، ممکن ہے اس کی دوسری روایات میں شذوذ اور علت ہو۔	رجال الصحيح ان يكون الحديث الوارد به معيناً لاحتمال ان يكون فيه شذوذ أو علةً
--	--

یہ ہے خصر آن مختلت روایات کا حال کہ کوئی روایت بھی فتنی عیب ہے حالی نہیں بر روایت یا تو مرسل ہے یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی ایسا راوی موجود ہے جس کی الہمہ جرح و تعذیل نے تضعیف کی ہے غالباً یہ آیت جس کے بارے میں اُتری ہے وہ کوئی مجهول اور غیر معروف آدمی ہے، لئے بعض لوگوں نے ولیدہ پرچسپاں کر دیا، نقل کرنے والوں نے اپنے روایتی تساؤل کی بناء پر زیادہ غور و فکر نہیں کیا اور اسے نقل کرتے چلے ہیں، اس کی

لئے واضح تجہیل الشك علی ابن الصلاح تعلیمیہ تہذیب خانہ آنہ چہر جنہد (مسند) یعنی ایت پیریوب اللہ شاه صاحب  
 چہارسی لئے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں کثرت نقل کے باوجود اس واقعی کی صحت میں شک کا انہرہ  
 کیا ہے ذکر کرد لک غیرہ واحد من المفسرین والله اعلم بستہ ذلک اللہ "فاصی بیکر  
 ابن العرب" نے بھی اس کی صحت سے انکار کیا ہے ملاحظہ ہو الیہ یہ و المہا یہ راجح ۱۳، ص ۲۱۳، العوام  
 من القواعد، ص ۹۲-۹۳

تائید روایات کے بعض طریق سے بھی ہوتی ہے مثلاً تفسیر طبری میں ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً من اصحابہ المی قوم بصلتہ حشم فاتاهم الجبل، نیز حضرت آم سلمہؓ کی مذکورہ بالاضعف روایت جس میں صراحتاً ولید کا ذکر ہے، وہی روایت طبری نے بھی نقل کی ہے مگر اس میں ہر جگہ ولید کی بجائے "رجل" کا لفظ ہے پھر اس کی مزید تائید خلفاء راشدین کے طرزِ عمل سے ہو جاتی ہے، اس چیز کی پہلی سراجت اُزرِ حکی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے گورنر بنانے سے پہلے خود ابو بکرؓ و عمرؓ نے ان کو ایم خدمات پر مامور کیا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر فی الواقع یہ آیت ولید کے بارے میں اترتی ہے اور آیت کی رو سے وہ فاسق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو دسوکہ بینے والے قرار پاتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود ایسے شخص پہا بوبکرؓ نے اعتماد کر کے ایم معاملات ان کے سپرد کیوں کئے؟ عمر فاروقؓؒ جیسے سخت گیر غلیظ نے کیوں ان کو عامل بنائے رکھا؟ کیا اس وقت سالقین اولین کی کوئی کمی تھی جو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ ان سے کام لیتے پر محروم ہوئے؟ ان حضراتِ خلفاء کا طرزِ عمل اس بات کا واضح ترقیت ہے کہ یہ آیت ولید کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، خود مودودی صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ابو بکرؓ و عمرؓ نے خود ان کو خدت کا موقع دیا:-

"اس کے چند سال بعد حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا اور حضرت عمرؓ کے آئز زمانے میں وہ الجزیرہ کے عرب ملکے پر جہاں بھی شب رہتے تھے، عامل مقرر کئے گئے۔" (ص ۱۱۲-۱۱۳)

سوال یہ ہے ایسے شخص کو انہوں نے خدمت کا موقع ہی کیوں دیا؟ اگر ان بارے میں شیخین پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا تو حضرت عثمانؓ پر اعتراض کرنے کے لئے ہی اس پر منظر کو بنیاد بنا لئے میں کیا تکشیب ہے؟ اس پر منظر کو سامنے رکھ کر حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ پر اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟

**ولیدؑ کی شراب نوشی کا واقعہ**

حضرت ولیدؑ کی بدرداری کی دوسری مثال مولانا نے یہ بیان کی ہے کہ کوئی جاگر

یہ رائے فاش ہوا کہ یہ شراب نوشی کے عادی ہیں، اس کی مختصر روایت اپنے بیان کیجا چکی ہے کہ شراب نوشی کا الزام ان لوگوں کی سوپی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا جو شریندا و رحمت ولید کے مخالف تھے، طبری اور ابن الاشر نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب سے ان کے رشتہ داروں کو بطور قصاصی قتل کیا اُسی وقت سے وہ ان سے بعض رکھتے اور عیوب کی تلاش میں ہستے تھے، وہم یقین دن مذقت قتل ایثار ہم و یصونون له العیوب، ابن کثیر نے بھی اس کی صراحت کی ہے، آنہ تصدی لہ جامعہ۔ یقال له کان بینہم و بینہ شنان ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابو زبید شاعر ولید کے پاس اُٹھتا ہیٹھتا تھا، اس کی سہیشی کی وجہ سے بعض یورفوں نے شراب نوشی کی نسبت ولید کی طرف کروی، کان بعض السفها میتحدات بذللک فی الولید للزاد مته ایا یا یا

خود ولید سے جب حضرت عثمان بن نے بازیرس کی تو ولید نے حلف اٹھا کر اس کی نفی کی اور انہیں اصل صورتِ حال سے آگاہ کیا، خلف لم الولید و اخبرہ خلدهم، سعید بن العاص جن کو حضرت عثمان بن نے مدد باری کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے بھی حلیفہ بیان دیا کہ یہ گواہ ولید کے دشمن ہیں، لیکن آپ نے ولید کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-  
”هم مدد باری کریں گے، جھوپ لے گواہ خود جہنم کی سزا بھلکتیں گے، میرے عزیز بھائی دنیا کی اس معنوی تکلیف پر صبر کر۔“  
سعید بن العاص کے ہواب میں آپ نے لکھا:-

”تم مدد باری کرو، ہم تک جو چیز پہنچی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے جیلے کسی پر دست درانتی کی، اشد تعالیٰ خود اس کے بدلے میں دست درانتی کرنے والے سنبھل لیگا اور نظیم کو اس کی جزاء دے دیگا۔“

مولانا نے اس مقام پر جو کتب احادیث کے حوالوں کی بحثوار کی ہے، ان سے کسی سے بھی

لئے ملاحظہ ہوا طبری، ج ۲، ص ۲۷۳۔ انکامل، ج ۳، ص ۱۶۱۔ البدریہ والہایہ، ج ۱، ص ۱۵۵۔

تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۱۰۶۔

سلہ الطبری، ج ۲، ص ۲۷۵۔

شراب نوشی کا الزام ثابت نہیں ہوتا ان سے صرف اتنا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عثمانؓ کے سامنے گواہوں نے گواہی دی اور آپ نے مددگاری کی، فی الواقع گواہوں کا بیان صحیح تھا یا غلط؟ اس کے متعلق ہم وضاحت کرچکے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا، مولانا نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہنا قابلِ ابخار شہادتوں کی بنی پر ایک مسلمان کو پھر سزا کیوں دی گئی؟ یہ اعتراض واقعی امتحان سے پہنچنے اندک کوئی ورنہ نہیں رکھتا، کیونکہ یہ کوئی امر مستبعد یا محال نہیں، عین ممکن ہے کہ بعض موقوعوں پر گواہ حموٹے ہوں لیکن وہ عدالتی کارروائیوں کے ذریعے کسی طرح اپنے حق میں فیصلہ حاصل کر لیں، آئئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، خود مولانا اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ عدالت کو حقیقت کا علم حاصل ہونا ضروری نہیں، بلکہ عرف وہ علم کافی ہے جو شہادتوں سے حاصل ہو گا۔

نیز مولانا کا اندراز بیان دیکھئے گا کوئہ جاکر یہ راز فاش ہوا کہ یہ شراب کے عادی ہیں گواہی دینے والوں نے تو صرف یہ کہا کہ انہوں نے ایک موقعے پر شراب پی ہے لیکن مولانا کہتے ہیں کہ یہ شراب کے عادی ہیں۔ اس کی صحت تسلیم کر لی جائے تب بھی واقعہ اور الزام میں کچھ تو تسلیب ہونا چاہئے، ایک سہ تباہ کی کوتا ہمی کو نیا دن کرا سکے مرتکب کو عمر بھر کا عادی کہنا اس کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن نے مسلمانوں کو کیا اپھا حکم دیا ہے؟ لا یَعْجُرْ مَنْ كُثُرَ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْذِلُ الدُّنْيَا، کسی قوم کے ساتھ بُغض و علاوہت تھیں بے انصافی پر نہ ابھار دے۔ مولانا کو اس آیت کے مفہوم پر غور کر کے سوچنا چاہئے کہ ایک صحابی پر فرد جنم عائد کرتے ہوئے انہوں نے کس قدر انسان سے کام لیا ہے؟

مزید برآں واقعہ کی صحت شک سے بالا صحیحی جائے، پھر بھی یہ بات حل طلب ہے کہ یہ تو عاملین عثمانؓ میں سے صرف ایک شخص کا کردار ہوا، ان میں سے کوئی اور تو اس کردار کا شامل نہ تھا۔ دنیا کی پوری تاریخ میں سے ایک آدھہ مثال بھی ایسی نہیں دکھلائی

چاہکتی کہ کسی دورِ حکومت میں حکومت کے تمام چھوٹے بڑے اپلکا و فرشتے ہوں ان میں سے کسی سے بھی کسی موقع پر کردار کی کوئی مکروہی صادر نہ ہوئی ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عمال میں سے کسی سے مکروہ کردار کا ظہور نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیقؓ کے مقرر کردہ عمال میں سے کسی سے ایسے واقعہ کا ظہور نہیں ہوا جو پاکیزہ کردار کے منافی ہو؛ کیا اغْرِفَلُوْقَ کے مقرر کردہ گورنمنٹ میں سے کسی سے اس فتنم کی غلطی کا صدور نہیں ہوا جیسا ولیدؓ سے ہوا؟ اگر جواب نقی میں ہے تو اس واقعہ کی کیا توجیہ ہے جسے مولانا نے صحیح سمجھ کر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیدؓ کو عامل مقرر کیا اور ان سے ایسی غلطی کا صدور ہوا جس پر قرآن نے تنبیہ کی، ابو بکرؓ صدیقؓ کے دورِ خلافت کے اہم ترین جریں حضرت خالد بن ولید کی اس کرداری کی کیا توجیہ ہے جو ان کے متعلق کتب تواریخ نے بیان کی ہے جس کی رو سے انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کو اپنے جا لے عقد میں لے لیا، حالانکہ کئی مجاہیوں نے گواہی دی کہ وہ مسلمان ہے، مورخین نے اسی انداز کا ایک اور واقعہ بھی ان کے متعلق ذر کیا ہے، حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ بخترين کے گورنر جو حضرت عمرؓ کے بہنوئی بھی تھے، انہوں نے شراب نوشی کی، حضرت عمرؓ نے ہدیجاري کر کے ان کو معزول کر دیا، اس کی کیا توجیہ کی جائے گی؟ اور اگر جواب اثبات میں ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضورؐ ارشادِ حنینؓ کے مقرر کردہ عمال میں سے بھی بعض سے مکروہ کردار کا صدور ہوا ہے تو اب اس کی وجہ سے کیا ان حضرات کو مطعون کیا جائے گا جنہوں نے ان کو مقرر کیا؟ یا ان کے عمال کو محیثت مجموعی دیکھ کر بعض کے کردار کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ دوسرا طرز فکر ہے افتخار کیا جائے گا، کیونکہ ہرچھے سے اچھے دورِ حکومت میں بھی ایک دو عامل ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مکروہ کردار کے مالک ہوتے ہیں، شراؤ خیر کا فیصلہ یا حکم مجموعی حیثیت سے

اہ چنانچہ ایک شیعہ حضرت خالدؓ کے اس کردار کو بنیاد بنا کر حضرت ابو بکرؓ کو مورد مطعن بھی بننا پہنچا ہے، دیکھئے مہملح السنۃ، ج ۳، ص ۱۲۸۔

کیا جاتا ہے نہ کہ مجموعی حیثیت کو نظر انداز کر کے اسکے مذکور کے واقعات کی بناء پر حضرت عثمانؓ کے مقرر کردہ عمل کی اگر اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی جن سے بُرے کردار کا غمہ ہو رہا ہوتا پھر تو مولانا کا یہ اعتراض بھاوا درست ہوتا کہ ایسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا اچھا نہیں تھا، لیکن الگ امر واقعہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی اکثریت اچھے کردار کی حامل تھی، ان میں سے صرف ایک آدھے شخص سی ایسا تھا جس سے کسی موقع پر لغزش کا صدر ہو گیا، تو پھر اس ایک شخص کی وجہ سے عمومی حکم لٹکا کر یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا ایک پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا، کس طرح درست ہو سکتا ہے، «اس انداز سے تو خود ذات رسالت تاب سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے اور حضرت ابو بکر و عمر رضوی کو بھی مورد طعن بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لئے ابن حجر ذہبی نے ایسے لوگوں کو عقل و فہم سے عاری بتایا ہے جو حضرت عثمانؓ پر اکابر صحابہ کو معزول کر کے اپنے رشته داروں کو گورنر بنائے کا الزام لگاتے ہیں: لکن اولئک الملاعین المعتصمون لاقهم هر بل ولا عقل یا ہے۔

### حضرت علیؑ اور ان کے عمل کا طرزِ عمل

مزید برآں مولانا نے حضرت عثمانؓ کو ان کے اپنے رشته داروں کو مناصبِ حکومت دینے اور ان کے مقرر کردہ بعض عمل کی کوتا ہیوں کو جو بدقسم تفہید بنایا ہے اُسے بھی اُسی طرح صحیح تسلیم کر لیا جائے، جس طرح مولانا کا دعویٰ ہے، تب یہ سوال سامنہ آتا ہے کہ خود حضرت علیؑ کی پالیسی بھی بعینہ وہی تھی جو یقیناً حضرت عثمانؓ کی تھی، پھر حضرت علیؑ پر اقرار یا نوازی کا الزام کیوں نہیں عائد کیا جاتا؟ اور ان کے عمل حکومت کی شامیوں کی بناء پر کیوں نہ خود حضرت علیؑ کو مورد طعن بنایا جاتا؟ حضرت علیؑ نے شام کے علاوہ تمام صوبوں میں اپنے رشته داروں کو مناصبِ حکومت پر فائز کیا، مثلاً میں پر جلید اللہ بن عباسؓ، تکمیل پرمعد بن عباسؓ، مدینہ پر قشمؓ بن عباسؓ، عراق پر عبد اللہ بن عباسؓ،

خواسان پر اپنے بھائی اور داماد جعفر بن ہبیہ، مصر پر اپنے سوتیلے بیٹے محمد بن ابی بکر فراور نوج کا سپریم کمانڈر اپنے فرزند حقیقی محمد بن الحنفیہ کو مقرر فرمایا، یہ سب نوجوان اور ناجیرہ کا رتھے اور گفت تو ارشح کی روس سے ان کا کردار بھی اتنا اچھا تھا کہ اُسے حضرت عثمانؓ کے عمال کے کردار سے بہتر یا کم اُنکے برابر ہی قرار دیا جاسکے، اس کے علاوہ اُشتر شنی جلیسے فتنہ پر داڑ لوگوں کو اپنا مسیر بتانے رکھا۔ بعد میں اسے مصر کا پروانہ گورنری بھی عطا فرمایا۔ کئی علمائے اہل سنت نے بھی واضح طور پر اس چیز کی صراحت کی ہے کہ حضرت عثمانؓ کے عمال کے مقابلے میں حضرت علیؓ کے عمال کا کردار بہت خراب تھا اور شرف و فضل اور اموی سیاست میں بھی وہ عثمانی عمال سے فرورت تھے۔ بیرون حضرت علیؓ کی پالیسی کے تھوڑا کم اور درس ناتائج نکلے وہ عثمانی پالیسی کے نتائج سے کمیت و کیفیت کے اعتبار سے کہیں زیادہ تھے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے بھی اپنے رشتہ راروں کو بڑے بڑے اہم ہدایتے عطا کئے اور مملکت کے پوئے دروبست پر لیکن خاندان کا اثر و نفوذ قائم کر دیا۔

دوسرے وہ عمال غیر سابقین اور اکابر صحابہ کے مقابلے میں یا انکل سکریٹریٹ کے مالک تھے، حضرت علیؓ نے سابقین کی بجائے جنہوں نے اسلام کو سنبھال کر نے کے لئے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں سے دین کو فروع نصیب ہوا تھا، ایسے لوگوں

لئے ملاحظہ ہو منہاج السنۃ ج ۳، ص ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۸۹، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵۔ تحقیق اثنا عشریہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ص ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷ (طبع نولی کشور، بھارت)

جسے حضرت علیؓ کی اس "اقریانواز" پالیسی کو خود اُشتر شنی نے جو حضرت علیؓ کا بڑا خیر نواہ بنا ہوا تھا، بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا، چنانچہ اس نے یہ دیکھا تو وہ چنی پڑا تھیں پر عبید اللہ، جماز پر قلم، بصرے پر عبد اللہ اور کوفہ پر خود علیؓ براجمان ہیں، اگر یہی ہوتا تھا تو ہم نے خواجہ ارشح (عثمانؓ) کو قتل کیا۔

کو اُنست کا سنتیل بنادیا ہو فطری طور پر کسی کو پسند نہ سکتا تھا۔

نیز یہ لوگ اسلامی تحریک کی سربراہی کی بنی بھی موزوں نہ تھے، لیکن کہ انہیں یا تو عمار عثمانی سے بھی کم بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے فائدہ اٹھلتے کام موقع ملا تھا یا اس شرف سے ہی محروم رہتے، جس کی وجہ سے ان کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قابل مانیت نہیں ہوئی تھی۔

نیزان میں سے بعض کا کردار بھی ایسا تھا کہ اُس وَدر کے پاکیزہ ترین اسلامی شاہزادیں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا۔

یہ تمام نکتہ سنی جو مولانا نے حضرت عثمانؓ کے لئے کی ہے، لفظ بد لفظ اُس سے کہیں زیادہ بجا طور پر حضرت علیؓ کے لئے بھی کی جاسکتی ہے، اس کی جو توجیہ کی جاسکتی ہے، وہ توجیہ آخر حضرت عثمانؓ کے لئے کیوں نہیں کی جاسکتی؟

### خانہ ساز وجوہ بے چینی

بے چینی کے ذکورہ اسبابِ جن کی حقیقت ہم واضح کرچکے ہیں اذکر کرنے کے بعد مولانا تھے ہیں :

”یہ تھے وہ وجہ جن کی بنا پر حضرت عثمانؓ کی یہ پالیسی لوگوں کے لئے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کی موجب بن گئی تھی خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمیوں کو پسند پر مملکت کے ایم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کافی دبجو اعتراض تھا، اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ لئے گئے بھی لائے جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص تو فطری طور پر اس کی بے چینی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ (ص ۱۱۳-۱۱۵)

مولانا ہر قام پر اپنے ذہن میں ایک مفروضہ قائم کر کے کہہ دیتے ہیں کہ فطری طور پر ایسا ہو رہا تھا، لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں دیتے کہ واقعہ ”ایسا ہوا بھی“ ہے، اس بحارت میں مولانا نے وہی دو مفروضے دھرائے ہیں جو نہ پرہم تنقید کر آئے ہیں، ہماری اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں باقتوں کا ملتفج صرف مولانا کا اپنا نہیں خانہ دلمغ ہے، خارج میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہاتھی عظیم مملکت میں صرف تین یا چار افراد خلیفہ وقت کے

اپنے خاندان کے تھے، یا قبیلہ سب دوسرے خاندانوں کے لوگ تھے، بلے امینانی کی کوئی وجہ ہی نہ تھی، پھر جو آگے بڑھائے جا رہے تھے وہ سب اشخاص اچھے کردار کے مالک تھے، ان کے کردار پر کوئی شخص انگشت نمائی تھیں کر سکتا، اگر غلط روایات کی صحت پر اصرار کیا جائے تو ان کی رو سے صرف ایک شخص کے کردار کی کمزوری کا ثبوت ہبھیا ہوتا ہے اور وہ بھی صرف ایک موقع پر یا شانِ نزول کو درست تسلیم کر لینے کی صورت میں دو موقوں پر اس کے علاوہ بھیت مجوعی خود تاریخ نے اس کے کردار کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔ فطری طور پر بے حدی تو کیا، بغیر فطری طریقے پر بھی صرف ایک شخص کی وقتی کمزوری بلے حدی میں افضل فی کا سبب نہ بن سکتی تھی۔

### حضرت معاویہ کا طویل دور امارت

وجوہِ مذکورہ کے علاوہ جن کی حقیقت ہم واضح کر جکے ہیں مولانا عوچیزیں اور الیسی بتلاتے ہیں جو بڑے دور رہن اور خطراں کی تاریخ کی حامل ثابت ہوئیں:-

۱۰ ایک یہ کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت معاویہؓ کو مسلسل بڑی طویل درست مکمل کیا، یہی صوبیے کی گورنری پر مامور کئے رکھا، وہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں چار سال ہے، دمشق کی ولایت پر مامور چلے آرہے تھے، حضرت عثمانؓ نے شام کا پورا علاقہ اٹھی وکایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت میں ان کو اسی صوبے پر پفراد رکھا: (ص ۵۱)

اس کے متعلق ہم وضاحت کر آئئے ہیں کہ ملک شام کے بیشتر حصے خود حضرت عمرؓ نے حضرت معاویہؓ کی ولایت میں جمع کر دیئے تھے، حضرت عثمانؓ نے ان کے حدود اختیاراً میں صرف ایک آدھ صوبے کا مزید اضافہ کیا تھا، ان کو مسلسل پورے زمانہ خلافت میں اس عہدے پر پفراد رکھنا بھی کوئی امر ناجائز یا سیاسی مذہب کے خلاف نہ تھا۔ حضور ارشد شجاعین کے عمال کی جو فہرست ہم نے پیش کی ہے اُسے دیکھ لیجئے۔ اس میں کئی عامل لیسے میں گے جنہیں حضور نے مقرر کیا تھا اور وہ اپنی فکلت یا حضرت عمرؓ کی وفات اور ان کے بعد تک ان پر فائز رہے، بغیر کسی وجہ کے انہیں محض اس بناء پر معزول نہیں

کیا گا کہ اس شخص کو ایک ہی صوبے پر گورنمنی کرتے بڑی طویل مدت گز رکھی ہے، اس کو  
ڈسچارج کر دینا چاہئے یا اسی کا کسی اور جگہ تبادلہ کر دینا چاہئے، مولانا نے یہاں جونکٹی سجنی  
کی ہے کہ ایک صوبے پر اتنی طویل مدت رکھے جانے کی وجہ سے حضرت معاویہؓ سرکز کے  
قابلیں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر مختصر ہو گیا، اور اس کا خیازہ حضرت علیؓ کو  
بھلکتا پڑا۔ یہ واقعات کی غلط توجیہ ہے، مرکز کو اتنا کمزور سمجھ لینا کہ وہ اپنے ماتحت کے  
رحم و کرم کا محتاج ہو گرہ یا شے، معاف کرنا ایسے مرکز کو مرکز کہنا ہی مرکز کی توہین ہے،  
ایسے مرکز کو اور سب کچھ کہہ لیجئے اس کو پھر مرکزؓ کے نام سے تعمیر نہ کیجئے، حضرت علیؓ  
کو جو خیازہ بھلکتا پڑا، خیال رہے یہ الفاظ خود مولانا کے ہیں، اس کی وجہ یہ توہین تھی،  
اس کی اصل وجہ تو خود حضرت علیؓ کی اپنی پالیسی تھی کہ انہوں نے تخت خلافت پر  
ستکن ہوتے ہی اہل الرائے کے مشورے کو نظر انداز کر کے قاتلین عثمانؓ کے اشارے پر  
حضرت معاویہؓ کی معزولی کا فرمان صادر کر دیا۔ اگر حضرت علیؓ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے مشورے کو شرف پذیری ائمہ شیعہ اور حضرت معاویہؓ کو فی الحال ان کے عہد پر  
رہتے دیتے، ان سے افہام و فہم کے ذریعے اپنے مسائل اور باغیوں کی پیدا کردہ مشکلات کو  
حل کرنے کی کوشش کرتے تو کوئی وجہ تھی کہ پھر بھی وہ حالات پیدا ہو جاتے جس کو مولانا  
خیازہ بھلکتے سے تعمیر کر لے ہیں، پھر یہ پہلو میقاب غور و فکر ہے کہ اگر فی الواقع مرکز  
انشکر و تھاکر وہ حضرت معاویہؓ کے رحم و کرم پر مختصر تھا، حالات کا وہ کایہ نقشہ اس  
وقت کے اہل فکر و نظر کو زیادہ مسیح طور پر نظر آسکتا تھا یا ان سے زیادہ چودہ سوال  
کے بعد مولانا مودودی صاحب کو ان حالات میں تو مرکز کو فی الواقع باہمی افہام و

(۱) وَلَمَّا وَلَى عَلَى بْنِ إِيْيَى طَالِبُ الْخِلَافَةِ اشَارَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَاشْوَقَتْلِ  
عُثْمَانَ أَنْ يَغْزِي مَعَاوِيَةَ عَنِ الشَّامِ وَيُولَى عَلَيْهَا سَهْلُ بْنُ حَنْيفٍ فَغَزَلَهُ (حضرت)  
عَلِيُّؑ كَخَلِيفَتِهِ ہی قاتلین عثمانؑ نے ان کو اشارہ کیا کہ معاویہؓ کو معزول کر کے ان کی جگہ سہل  
بن حنیف کو مقرر کر دیں حضرت علیؑ نے ایسا ہی کیا، (البدایہ، ج ۸، ص ۲۱)

تضمیم اور رفق و ملائحت کے ساتھ ایسے گورنر سے معاہلات کوٹے کرنا چاہئے تھا ذکر کا اس بخوبی  
مکر کر کو ایسے منبیوط گورنر کے ساتھ تلوار کی زیان استعمال کرنی چاہئے تھی، اس مرکز کا جسیکے  
ہاتھ میں اختیارات نہ تھے، اُس شخص کو یک قلم معزول کر دیتا یا واختیارات کا منع تھا،  
بیسا سی زیان میں شدید دالش منہجی کا منظہر کیا مسلسل ہے؟

### ۵۔ حضرت مروان کی سکرٹری شش

دوسری چیزوں سے زیادہ فلتان انگریز نایاب ہوئی، مولانا نے یہ بتلائی ہے کہ حضرت  
عثمانؑ نے مروان کو اپنا سکرٹری بنایا تھا، مولانہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سے کام حضرت عثمانؑ  
کی اجازت اور علم کے بغیر بھی کردا تھا تھے، جن کی ذمہ داری حضرت عثمانؑ پر پڑتی تھی، اکابر  
صحابہ اور حضرت عثمانؑ کے باہم خوشگوار تعلقات خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے  
رہتے تھے، صحابہ کے مجمع میں متعدد بالائی تهدید آمیز تقریبین کیں جنہیں طلاقاء کی زیان سے  
سُننا سا بیفیں اولین کے لئے ناقابل برداشت تھا، اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار  
خود حضرت عثمانؑ کی اہلیہ محترمہ بھوی رائے رکھتی تھیں کہ حضرت عثمانؑ کے لئے مشکلات  
پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے  
شوہر مترجم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہے پر جلوں گے تو یہ آپ کو قتل کراکے  
چھوڑے گا، اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے نہ بہلیت نہ محبت (مطہض ص ۱۱۴-۱۱۵)  
وہ کوئی سے امور تھے جو انہوں نے حضرت عثمانؑ کی اجازت اور علم کے بغیر کئے جنکی  
ذمہ داری حضرت عثمانؑ پر پڑتی؟ اس کی ایک مثال بھی مولانا نے پیش نہیں کی، مولانا کی  
یہ ساری بُنیاد معلوم ہوتی ہے اُس افسانے پر ہے جو جعلی خط کے متعلق لوگوں نے گھر کھا  
ہے، جس کی حقیقت ہم ابھی بتلائیں گے، حضرت عثمانؑ اور اکابر صحابہ کے باہمی تعلقات  
خراب کرنے کے الزام میں اگر ذرا بھی صلاحت ہے تو اس سے تو خود حضرت عثمانؑ کی  
شخصیت بھجا محرور ہوتی ہے، پھر یہ ماننا پر طے کا کہ خود حضرت عثمانؑ بھی کان کے کچھ  
اور دل کے صاف نہ تھے، جب ہی تو مروان مسلسل کوشش کرتے رہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو  
حضرت عثمانؑ پہلی دفعہ بھی ایسی سختی سے اس کو ڈاٹ نہ دیتے کہ آئندہ اس کو ایسی جرأۃ پری

نہ ہوتی، پھر یہ تقریروں والی بات بھی تعجب ہے مولانا صبح سمجھتے ہیں، الیسی بعض تقریروں ہم نے بھی تاریخ میں پڑھی ہیں، لیکن ہمیں تو ان کا لذب نمایاں طور پر نظر آگیا، ذرا اہدازہ کیجئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مکتبہ حیثیت کا آدمی اپنے سے اوپنے لوگوں کے مجھ میں اوپنے لوگوں کو مارے باپلکی گائیاں دے، پھر مزید لطف یہ کہ وہ سابقین اولین بھی جواب آں غزل کے طور پر اسی لب و لہجہ میں اس کو جواب دیں اور اپنی واقعی حیثیت کو نظر انداز کر کے اُسی پستی میں اُتر جائیں، یہیں نہ آئے تو طبری وغیرہ اُنھا کر دیکھ لیجئے اگر کوئی شخص مروان کی زبان سے ادا کرائے ہوئے فقرات کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر سابقین اولین کا کوئی بھی خالک بدھن کو نسا ایسا قابل تعریف ادا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کی زبان میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کی اہلیہ مخرمہ کی اگر یہ رائے تھی کہ ان کے شوہر کے لئے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے، حقیقی کہ انہوں نے یہ بھی کہہ لیا ہے یہ آپ کو قتل کرائے چھوڑتے گما، تو سوال یہ ہے کہ ان کی اہلیہ مخرمہ نے اپنی اس رائے کا اظہار عین اُس وقت کیوں کیا جبکہ پانی سر سے گزر چکا تھا اور با غنی برینے میں آچکے تھے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو اس خطروں سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ ان کی اہلیہ مخرمہ نے مرض کی تشخیص کے باوجود، علاج کی طرف اُس وقت تک کوئی توجہ نہ کی جب تک کہ مرلیض جان بلب نہ ہو گیا؛ عجیب ہمہ ہے سمجھنے کا ذمہ سمجھنا گا۔

مروان کی طرف منسوب خط اور اس کی حقیقت۔

(حضرت مردان کو قتل عثمانؓ میں جو سبے زیادہ ذمہ دار بڑھ ریا جاتا ہے اس کی بنیاد اُس خط کا انسان ہے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے باغیوں کے خلاف عامل مصر کے نام لکھا تھا، وہ خط راستے ہی میں باغیوں کے ماتھے آگیا۔ اور اس طرح بغاوت کی دی ہوئی پنگاری ایک مرتبہ پھر شہزادت سے سلا۔۔۔ اٹھی اور باغیوں کا گیا ہوا فائل پھر مریئے والیس آگیا، لیکن کتب تواریخ میں اس کی جو تفصیلات ملتی ہیں اس سے ادنی اہمیت سے یہ حقیقت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خط خود باغیوں نے دوبارہ

مدینے میں آئتے کے لئے بطور ایک سازش کے تیار کیا تھا۔

تاریخی تفصیلات کے مطابق واقعات یوں بیان کئے جاتے ہیں، یا غیوں کا یہ گر جو مصہد کو قہ او بصرے کے شرپسند عناصر اور ان کے دام ہم زنگ زمین کا شکار ہونیوں سادہ لوح افراد پر مشتمل تھا، مدینے کے قریب آکر آنہوں نے بڑا ڈال دیا، ان سیں چند آدمیوں نے کہا کہ آپ سب لوگ یہیں ٹھریں ہم مدینے جا کر حالات کا اندازہ کر کرے ہیں کیونکہ ہمیں اطلاع می ہے کہ اہل مدینے نے ہمارے خلاف پوری تیاری کی ہوئی ہے، ایسے ہے تو پس ہمارا بنا بنا یا سارا کھیل بیکٹا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں تو ہم اگر اس اطلاع تمہیں دیں گے، دو آدمی مدینے آئے اور ازاواجِ مُطہرات، حضرت علیؑ، حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ سے ملے، ان سماں ہوں نے اپنے ارادے کا اٹھا رکیا، رہنماء نعمہ قادر خلیفہ وقت کو معزول کر انہیں، یعنی اس مقصد کے لئے مدینے میں آئنے کی ادائی جائے، ان سب سے سختی سے انکار کر دیا، دونوں نے واپس آگراں چڑی کی جبڑی، اس سے پھر تین خضر سے وقار آئے، مصری حضرت علیؑ کے پاس، بصری حضرت طلحہؓ پاس اور کوفی حضرت زبیرؓ کے پاس تینوں بزرگوں نے ان کو سختی سے ٹھیٹا، لہ ملامت کی اور انہیں دھتکا ر دیا، انہوں نے بظاہر اپنے ارادوں سے دست بردا کا اٹھا کر کے اہل مدینہ کو یہ تاشردیا کہ ہم اپنے شہروں کو واپس جا رہے ہیں اس تاشر سے مقصد ان کا یہ تھا کہ جن باشند گانہ مکہ کو ہمارے عزائم کا پتہ لگ گی اور وہ ہمارے خلاف ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں وہ منتشر ہو جائیں، چنانچہ ایسا ہوا، اہل مدینہ بے نکر ہو کر منتشر ہو گئے، لیکن کچھ روز بعد وہ سب ایک و میں آؤ دیکھے، حضرت علیؑ اور دیگر اصحاب رسول ﷺ نے مجھے ہوئے کہ یہ لوگ وقت دوبارہ کس طرح مدینے لوٹ آئے، ان سب کی منزل مقصود تو الگ الگ مصر کو قہ او بصرہ ان تینوں کے مابین راستوں میں بڑا فرق اور بُعد المشرقین سازش کا ایسا نایا پہلو نہ کاہر شخص نے اسواض طور پر محسوس کیا حضرت علیؑ باغیوں سے دوبارہ وجد آمد پوچھی، تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک خط پکڑا ہے تو حضرت علیؑ

لے عامل مصركے نام لکھا ہے، جس میں ہمارے قتل کا حکم دیا گیا ہے: حضرت علیؑ اور ویگر اصحاب رسول سب نے ان سے یہ سوال کیا کہ خط اہل مصركو، مصركے راستے میں ملا، لیکن اس طبق اسی کوفہ و بصرہ تہیں اس بات کا علم کس طرح ہوا کہ مصريوں کے اس طرح ایک خط ہاتھ لگا ہے؟ تم تو اپنے اپنے شہروں کو وہ لوٹھے چکے تھے، ہمارے اور مصريوں کے راستے میں تو بڑا اختلاف اور بعد المشرقین ہے، بخدا یہ ایک سازشو معلوم ہوتی ہے جس کو خود تم لوگوں نے تیار کیا ہے، اس پر انہوں نے اس کا اعتراف کیا اور کہنے لگے، اس کو آپ لوگ جو جاہیں سمجھیں، ہمارا مقصد تو اس شخص کو تخت خلافت سے بٹانی ہے۔<sup>۱۷</sup>

اس روئاد سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس خط کی کوئی حقیقت نہیں یہ دوبارہ دینے میں کتنے کی ایک سازش تھی، جس کے لئے انہوں نے یہ مشتمل کڑا کیا، علامہ ابن خلدون نے بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے:-

”انہوں نے ایک مدرس (مشتبہ خط) کی بنیا تو بلکیں کی روشن اختیار کی، جس کے متعلق اُن کا زعم یہ تھا کہ وہ انہوں نے ایسے شخص کے ہاتھ سے بکڑا بیٹوں سے عامل مصركے پاس لے جا رہا تھا، جس میں اُن کے قتل کا حکم تھا۔ لیکن حضرت عثمانؓ نے حلفیہ خط سے لاعلیٰ کا انہما کیا انہوں نے تہاروان کو ہمارے سپرد کر دیں، وہ آپ کے سکرٹری (کاتب) ہیں ناس پرروان نے یعنی حلف اٹھا کے اس بات سے آنکار کیا کہ یہ خط انہوں نے لکھا ہے یہ۔<sup>۱۸</sup>

ابن کثیرؓ (بخارت ۳۱) سلسلے میں یہ ہے:-

”صحابہ کے نام سے بہت سے فرضی خطوط لکھے گئے، جس طرح باغیوں نے اپنے ساتھ ملنے والے سادہ لوح لوگوں کو مخفیٰ کرنے کے لئے اُن کی طرف علیغنا

<sup>۱۷</sup> الحطبری، ج ۲، ص ۳۹، ۴۵، ۳۶۰۔ الحکای، ج ۲، ص ۱۵۹۔ البدریہ و الشہابی، ج ۲، ص ۱۷۷۔  
<sup>۱۸</sup> محمد مقدم ابن خلدون، فصل ولایت العہد، ص ۳۸۲، ۳۸۳، دار الکتاب الباقي، بیرونی۔

طلویہ اور زیرِ رفہ کے نام سے من گھڑت خطوط لکھے۔ بن کا مذکورہ حضرات نے بعد میں انکار کیا، اسی طرح یہ خط بھی حضرت عثمانؓ کے نام سے گھڑا گیا، دراں حاصلکہ عثمانؓ نے اس کا حکم دیا تھا اپنے اس کا کوئی علم تھا یہ  
حضرت عثمانؓ کی پالیسی کے یہ پانچ وجہ تھے جو مولانا کے نزدیک آغازِ تغیر اور بے چینی کے اسباب تھے، یہ کن بھاری وضاحت سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ وجہ مذکورہ ایسے تھے جو بے چینی کا سبب بن سکتے یا بنے، یہ مغض مولانا کا قوتِ تختیل کی ایک کوشش اکرائی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔)

### سازش اور ترمی، شورش کے تحقیقی اسباب

پہلے مرحلے میں مولانا نے حضرت عثمانؓ کی جن پیسیوں کو آغازِ تغیر تبلیا ہے، ان کی حقیقت ہم واضح کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک آغازِ تغیر حضرت عثمانؓ کی پالیسی نہ تھی، ان کی پالیسی کم و بیش وہی تھی جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تھی، حالات جو رو و بہ تنزل ہوئے اس کی سبب بڑی وجہ سازشی گروہ تھا جس نے معقولیت کا راست چھوڑ کر انہیاں نے اور مجموعی خیر کو نظر انداز کر کے خورد بینی کی روشن اختیار کی، وہ ایسا کرنے میں اپنے نقطہ نظر سے صحیح تھے، وہ ایسا نہ کرتے تو اس کے بغیر ان کی سازش کا یہاں بھی کیسہ ہو سکتی تھی؟ تعجب تو ان اہل سنت پر ہے جو تحقیق کا دعوے لے کر اٹھتے ہیں میکن ان کے تحقیقی شائع ان سبائیوں کے چیائے ہوئے لقوں سے مختلف نہیں ہوتے جن سے انہوں نے اپنی سازش کا تحریر اٹھایا تھا، دوسرا اہم وجہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے، حضرت عثمانؓ کی فطری نرمی و ملائکت اور رفت و ہوانست کا برتراؤ تھا، جہاں قی الواقع سمعتی کی صورت تھی وہاں بھی انہوں نے نرمی اختیار کی، یہ اُن کے اپنے مزاج و طبع کی افداد تھی جس کی بنا پر وہ ایسا کرنے پر

من المعاشر والنهایہ، ج ۷، ص ۲۵۱، خط کی وضعیت کے مزید دلائل کے لئے ملاحظہ ہو تو علیقات

بجور تھے، اس سرایا شفقت و رحمت کی فطرت کا اندازہ لگائیے، یا غبیوں نے اغترافت کئے، حضرت علیؓ نے ایک ایک اعتراض کا جواب دے کر حضرت عثمانؓ کی پوزیشن صاف کی جب ان کے سب اغترافات کو دور کر دیا گیا، کوئی شبہ باقی نہ رہا تو صاحبؑ کی ایک جماعت نے حضرت عثمانؓ سے عرض کیا کہ ان لوگوں کی ذرا گوشانی کر دی جائے تاکہ آئندہ ان کو جڑات نہ ہو لیکن آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ بیل اعاص لے بھی اس موقع پر آپ کی اس نرمی کا شکوہ کیا:-

”میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کے لئے نرم اور ڈھیٹے ہیں، حضرت عمرؓ سے بھی زیادہ ان پر فواز شیشیں کیں، آپ کو چاہئے کہ اپنے صاحبین کی روشن احتیاں کریں، سختی کی یا سختی اور نرمی کی جگہ نرمی، شرپندوں کے لئے سختی ہی مناسب ہے، نرمی ان لوگوں کے لئے ہوتی چاہئے جو عوام کے خیرخواہ ہوں، لیکن آپ بیک وقت دونوں کے لئے نرم ہیں۔“

نحو حضرت عثمانؓ نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ شرپندوں کو جواتی ہدایات ہوتی ہے وہ خود میری اپنی نرمی کا یتیجہ ہے، آپ نے فرمایا:-

”بخدا! تم نے میری ایسی چیزوں پر عیوب گیری کی جن کو ابن الخطاب (عزہ) نے کیا تو تم نے ان کی تعویب کی۔ بات دراصل یہ ہے، انہوں نے تم کو پروں سے روندا، ہاتھوں سے مارا اور زبان سے تمہاری نہری، عمرؓ کے اقدامات پر، جا ہے تمہیں پسند تھے یا ناپسند تھے، تم قرار زیر پر رہے۔ میں نے نرمی احتیا کی، تمہارے لئے سرایا شفقت بنارہا، تم پر کبھی لا تھا اٹھایا نہ زبان جلا گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم مجھ پر چڑھائے اور مجھ پر دلیر ہو گئے۔ سے۔“

له البرایہ والنهایۃ، ج ۷، ص ۱۷۱۔

سلہ الطبری، ج ۳، ص ۳۴۷۔

سلہ الطبری، ج ۳، ص ۳۳۸۔ الکامل، ج ۳، ص ۵۶۔ البدایۃ والنهایۃ، ج ۴، ص ۱۴۹۔

النائب الاضراف، ج ۵، ص ۶۱، طبع بغداد۔

ایک اور موقع پر آپ نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اُن کے ایک ایسے کام پر اعتراض کیا جس کو ان سے پہلے خود عمر فاروقی بھی کرچکے تھے:-

«تم جانتے ہو تم کوں چیز نے میرے خلاف دلیر بنادیا ہے؟ وہ صرف میرا حلم ہے جس نے تمہاری جسماں توں کو بڑھا دیا ہے اس سے پہلے پھر کام عمر نے کیا، اُس وقت تم میں سے کسی نے ان کے خلاف آواز نہ مٹھائی۔»

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی عنہ فرماتے ہیں:-

«عثمانؑ کے بہت سے ایسے کاموں پر نکتہ چینی کی گئی، یو عمر زانے کئے ہوتے تو کوئی اعتراض نہ کرتا۔»

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی عنہ فرماتے ہیں:-

«عثمانؑ کے معتبر ممین کی ایک جماعت مجھ سے ملی اور ان پر نکتہ چینی کرنے لگی، میں نے ان سے ابو بکرؓ و عمرؓ کی سیرت پر گفتگو کی اور ان کے ایسے اقدامات ذکر کئے جن پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن انہی اقدامات پر عثمانؑ ہر ف طعن و تشنج بن گئے، میری ان یا توں سے وہ ایسے لا جواب ہونے بھی سکتے۔

الگو ٹھاپو سنے والے بچے۔

یہ حضرت عثمانؑ کے اپنے معاصرین کی رائے ہے، آخر میں شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے بھی مندرجہ ہے، وہ فرماتے ہیں:-

«قدمائے اصحاب میں سے بعض کو معزول کر کے اگر انہوں نے بعض تو عمر افراد کو گورنمنٹ مقرر کیا تو اس میں کوئی وجہ اعتراض نہیں، یا شخصوں جب ان واقعات پر غور کیا جائے جو ان کے عزل کے بارے میں منقول ہیں (جن کوئم

بیان کر آئے ہیں، تو حضرت ذوالنورین کی اصابت رائے سورج سے زیادہ روشن  
اور واضح نظر آئے گی، اس لئے کہ عزل و نصب یا تو شکر و رعیت کے فتنہ  
اختلاف دیانت کو متفہمن تھا یا کسی دارالکفر کی فتح کا سبب، لیکن خواہشات  
نفسانی نے مُبتدِ عین کی آنکھوں کو اندر ھاگر دیا ہے  
عین الرضا عن کل عیب کلیلة ہے۔ ولکن میں السخط بدل المساوا یا  
محبت و پسندیدگی کی آنکھ برعیب سے اغماض برداشتی ہے، لیکن ناراضی  
کی آنکھ کو سوائے عیب کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔<sup>۱۷</sup>  
(عبدالملک بن مروان نے ایک موقع پر کہا:-)

”عثمان نے عمر ہنگامی سیرت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا سوائے نرمی کے۔  
عثمان نے لوگوں کے لئے نرم ہو گئے تو لوگ اُن پر چڑھ دو طے، اگر وہ اُسی  
طرح سخت گیری سے کام لیتے جس طرح ابن الخطاب نے یا تو کبھی لوگ  
اُن سے ایسا سلوک نہ کرتے جو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا۔“<sup>۱۸</sup>

### دوسرہ مرحلہ، شورش و لغاوت

مولانا ارشاد فروتے ہیں:-

”حضرت عثمان رضی اندھ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشبہ غلط تھا، اور غلط  
کام بہر حال غلط ہے، خواہ وہ کمی نے کیا ہے۔ اس کو خواہ خواہ کی سخن سازی  
سے سچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا عقل و انصاف کا تقاضہ ہے اور نہ دین  
ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی عطاوی و غلطی نہ مانا جائے؟“ (ص ۱۱۶)  
لیکن یہ تو عقل و انصاف اور دین کا تقاضا ہے کہجب کسی بے گناہ آدمی کی طرف ایسے  
جرائم کا انتساب کیا جائے جن کا حدود رأس سے نہ ہوا ہو یا اُن میں مبالغہ آمیزی کر کے

انھیں غلط رنگ میں پیش کیا جائے تو معقول طریقے سے اُس کی صفائی پیش کی جائے، اہل سنت کے کئی اکابر علماء و محققین ایسا کرتے آٹے ہیں۔ جو اعتراضات آج مولانا نے حضرت عثمان پر کئے ہیں تاریخ میں یہ بہامو قبیر نہیں ہے، اس سے قبل یہی اعتراضات متعدد مرتبہ حضرت عثمان پر کئے جا چکے ہیں جس کا علمائے اہل سنت سے کئی مرتبہ جواب دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج الشنۃ میں، فاضلی ابو بکر ابن العربي نے انواعِ حکم من القواسم میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء میں، شاہ عبد العزیز نے تحفہ الشاعریہ میں ان اعتراضات کی وضاحت کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے اعتراضات اُن لوگوں نے کہتے بودشمن صحابہ مشہور ہیں لیکن اب ڈیجٹی یہ ہوئی ہے کہ یہ اعتراضات اہل سنت ہی کے ایک نمایاں فرد کی طرف سے کئے گئے ہیں کیا مذکورہ علماء و محققین نے ان اعتراضات کی لغویت واضح کر کے خواجہ نواد کی سخن سازی کی ہے؟ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی تسلیم کرنے سے انکار نہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پہلے غلطی کو مضبوط دلائل سے ثابت کیا جائے یا خود مولانا حضرت علیؓ کی غلطیوں کو غلطیاں نہیں مانتے، کیا یہ عقل و انصاف کا تقاضہ ہے کہ ایسا کیا جائے؟ ظاہر ہے مولانا انہیں اس نے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ان کے مجموعی کردار سے مناسب نہیں رکھتیں۔ ہم تھیں اس کے سوا اور کیا کہتے ہیں؟ یہ اگر محسن نواد نواد کی سخن سازی ہے تو مولانا یہ سخن سازی حضرت علیؓ کے لئے کیون کرتے ہیں؟ اگر وہ حضرت علیؓ کے دامن کرواؤ کوئی عیب ثابت کرنے کے لئے ایسا ضروری سمجھتے ہیں تو علمائے اہل سنت کے نزدیک بھی یہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان و معاویہ وغیرہم پر لگائے ہوئے اعتراضات کی صحیح نوعیت و خلائق و اضع کریں۔ آگے مولانا لکھتے ہیں:-

”واقعہ ہے کہ اس ایک پہلو کو چھوڑ کر یاقی جملہ پہلوؤں سے ان کا کردار بحیثیت خلیفہ ایک مثالی کردار تھا جس پر اعتراض کی توئی کنجماں نہیں ہے، علاوہ بریں ان کی خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب تھی اور

اسلام کی سریندی کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا کہ ان کی پالیسی کے اس خاص پہلو سے غیر مطین ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف بخاوت کا خیال تک دل میں لانے کے لئے تیار نہ تھے؟ (۱۱۶)

یعنی اس پہلو کو مولانا نے جس انداز سے سنایا کر کے پیش کیا ہے اس کے بعد حضرت عثمانؓ کے کردار میں ایسی کون سی خوبی رہ جاتی ہے جس کی بنا پر ہم ان کے لئے بھیثیت خلیفہ ایک مشائی کردار تسلیم کریں؟ اگر مولانا کا بیان کردہ قابل اعتراض پہلو سو فی صدی صحیح ہے تو حضرت عثمانؓ کا کردار بھیثیت خلیفہ راشد کسی صورت قابل تعریف قرار نہیں دیا جاسکتا۔ آجے بخستے ہیں۔

”یہی دبہ ہے کہ جو مختصر سارگروہ ان کے خلاف شورش برپا کرنے اٹھا اس نے بغاوت کی دعوتِ عام دینے کے بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا۔“ (۱۱۷)

اس کے بعد اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ حضرت عثمانؓ پر کئے گئے اعتراضات مبنی بر تحقیقت نہ تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو صلح ترین معاشرے میں غلطیوں کی اصلاح کے لئے ذہن ہر وقت آمادہ عمل رہتے ہیں، اس دور سے بڑھ کر اور کون سا معاشرہ زیاد صلح اور اسلامی ہو سکتا ہے؟ ان کو سازش کی بجائے دعوتِ عام کا راستہ اختیار کرنا چاہئے تھا۔

### الزامات؟ اور ان کے معقول جوابات

سازشی گروہ کے متعلق مختصر جو وضاحت ہے کچھ پہلے صفات میں کوئی بھی اس مقام پر اس کا اعتراض خود مولانا بھی کر رہے ہیں اور یہ کہ اعتراضات انہی باغیوں کے گھرے ہوئے تھے جس کے پیچھے کوئی منسوب طبقیاد نہ تھی اس کا بھی مولانا کو اغلفت ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:-

”اس تحریک کے علیحدہ امام، کوفہ اور بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے باہم خط و کتابت کر کے خفیہ طریقے سے یہ طے کیا کہ اپنائک مدینہ پہنچ کر حضرت عثمانؓ پر دباؤڈالیں۔ انہوں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف الزامات

کی ایک طویل فہرست مرتب کی جو زیادہ تر بالکل بے بنیاد، یا ایسے کمزور  
الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیئے جاسکتے تھے اور بعد میں نیئے  
بھی گئے، پھر باہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ جن کی تعداد دو ہزار سے زیادہ  
نہ تھی، مصر، کوفہ اور بصرے سے بیک وقت مدینہ پہنچے، یہ کسی علاقہ کے  
بھی نہایت نہ تھے، بلکہ ساز بانسے انہوں نے اپنی ایک پانٹی بنالی تھی،  
جب یہ مدینہ کے باہر پہنچ پتو، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کو  
انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر تنیوں بزرگوں نے ان کو جھوٹ  
دیا اور حضرت علیؓ نے ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت  
عثمانؓ کی پوزیشن صاف کی، مدینہ کے ہباجرین و انصار بھی جو دراصل استقت  
ملکتِ اسلامیہ میں اہل حل و عقد کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے ہنواہ نے  
کے لئے تیار نہ ہوتے؟ (۱۱۷)

یہ پیدا تفصیل سامنے رکھ کر سوچئے کہ مولانا نے بے چینی کے وجود بوجہ بیان کئے ہیں جن سے  
عوام و خواص حتیٰ کہ اکابر صحابہ تک مضطرب و بے چین ہو رہے تھے، اگر بیان کردہ تفصیل  
صحیح ہے تو ان کو خفیہ طریقے سے باہم خط و کتابت کر کے اچانک مدینے پہنچنے کی یاد فرماتے  
تھی، ان حالات میں تو عوام کا جنم غیفار اکابر صحابہ کی ایک معقول تعداد ان کے ساتھ  
مل سکتی تھی، ان کو ساتھ ملا کر مناسب و معقول طریقے سے حضرت عثمانؓ پر دباؤ ڈالا  
جاسکتا تھا، یہ سامنہ کا راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟

ان لوگوں نے آپ کے خلاف الزامات کی جو طویل فہرست مرتب کی جس کو مولانا  
بھی بے بنیاد تسلیم کرتے ہیں، وہ کیا تھی؟ اور ان کے جوابات خود حضرت عثمانؓ اور  
حضرت علیؓ نے دیئے وہ کیا تھے؟ الزامات کے وہ جوابات تاریخ کی زبانی سن لیجئے اور خو  
فیصلہ کر لیجئے کہ الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ اور مولانا کے عائد کردہ الزامات  
انہی الزامات کی صدائے بازگشت ہیں یا ان سے مختلف کوئی اور چیز؟  
حضرت علیؓ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تمہیں عثمانؓ کی کہن کہن بالتوں پر

اعتراف ہے؟ کہنے لگے، انہوں نے چراگاہ میں اپنے لئے مخصوص کر لیں، مصاحف جلا  
ڈالے، منی میں نماز پوری پڑھی، فغمروں کو والی بنایا اور بنو امیہ کی نسبت دوسرے  
لوگوں کے زیادہ علیات دیئے، حضرت علیؓ نے جواب دیا:-

چراگاہ انہوں نے اپنے ذاتی مال و اسیاب کے لئے نہیں، زکوٰۃ و صدقات کے  
اوٹوں کے لئے مخصوص کی ہے تاکہ وہاں صحیح طور پر ان کی نشوونما ہو سکے،  
ان سے قبل حضرت عمرؓ نے بھی ایسا کیا تھا۔

مصطفیٰ انہوں نے وہ جلالے جن کی بنابر اخلاف کا اندازہ تھا ایسا  
کر کے انہوں نے لوگوں کو ایک متفق علیہ صورت پر جمع کر دیا۔  
لکھ میں انہوں نے نماز قصر کی بجائے پوری اس لئے پڑھی کر دیا،  
ان کے اہل و عیال تھے اور وہاں ان کی چیخت مقیم کی تھی۔

جن تو غمروں کو انہوں نے والی بتایا ان میں کوئی بھی نا اہل نہیں، سب  
کامل، باہمتوں اور عدل پرور ہیں، ان سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم نے عنایت فرمائی آسید کو کہے کا گو نز مرقر فرمایا دراں حالیہ کا سبق  
ان کی عمر کل ۴۰ سال تھی، آسامہ بن زیدؓ کو ایسا بنایا اور لوگوں نے اسکی  
امارت پر طعن کیا۔

اپنی قوم کے لوگوں کو بعض مراعات میں ترجیح دینا، یہ بھی کوئی جرم نہیں،  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قوم قریش کو دوسروں پر ترجیح دیتے  
تھے، بخدا! اگر میرے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہو تو سب بنو امیہ کو اُس میں  
داخل کر دوں لیے۔

حضرت عثمانؓ اپنے انداز میں قدرے و صفات سے ان سوالات کے جوابات  
دیتے ہیں، فرماتے ہیں:-

”لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میں میں نے نماز پوری پڑھی، حالانکہ وہاں پوری نہیں پڑھنی چاہئی، لیکن یہ تو دیکھو دہاں میرا لکھ رہا ہے، میری حیثیت وہاں سافر کی نہیں مقیم کی ہے، اس وجہ سے میں نے نماز پوری پڑھی، کیا امر واقع ایسا نہیں؟ سب نے بیک زبان اثبات میں جواب دیا۔

اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نے چراکاہیں مخصوص کر لی ہیں، لیکن یہ چراکاہیں تو دہی، میں جو مجھ سے پہلے کی مخصوص کی ہوئی ہیں، اور یہ سب ان جانوروں کے لئے ہیں جو مددقات و غنائم کی صورت میں مدینہ آتے ہیں، پھر کسی کو ان سے فائدہ اٹھانے سے روکا نہیں جانا سوائے اُس شخص کے جو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، ان چراکاہیوں کو مجھے اپنے لئے مخصوص کرنے کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس لے دے کے دواونٹ ہیں، حالانکہ تمہیں معلوم نہ کہ خلیفہ بننے سے پہلے پورے عرب میں جانوروں کے لحاظ سے مجھ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا، لیکن آج میرے پاس سوائے ان دواونٹوں کے اور کچھ نہیں جو میں نے سفرِ حج کے لئے رکھے ہوئے ہیں، کیا ایسا نہیں؟ سب نے کہا ٹھیک ہے۔

کہتے ہیں، قرآن مختلف، تھے، میں نے سب کو ایک کر دیا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن ایک ہی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے آیا ہے، میں نے اُس کی رسی حیثیت ہی کو تویر قرار رکھا ہے، کچھ اور تو نہیں کیا یہ ٹھیک نہیں؟ کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے۔

کہتے ہیں میں نے اُس حکم بن ابی العاص کو واپس بلا لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جلا وطن کر دیا تھا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلا لیا تھا، کیا یہ صحیح نہیں؟ کہنے لگے! ٹھیک ہے۔

اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نے فوجوں کو گورنمنٹ بنا لیا، ٹھیک ہے،

لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ سب یہا در، اہل، یا صلاحیت اور عوام میں ہر دلعزیز ہیں، تمہارے سامنے ان کا متحف اسٹاف اور باشندگان شہر موجود ہیں ان سے پوچھ کر اس کی تصدیق کر سکتے ہو، مجھ سے پہلے ان سے بھی زیادہ کم عمر لوگوں کو گورنر بنا یا کیا، اور مجھ سے بھی زیادہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان شہری نارت پر صحبت اعتراض کئے گئے، کیا یہ حقیقت نہیں، کہنے لگے! ہاں - جن چیزوں کی حقیقت کا علم نہیں ان پر لوگ عجب گیری کرتے ہیں۔

ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن سعید بن ابی سرح کو خمسا دیا، ٹھیک ہے، میں نے ایسا کیا تھا، اور وہ ایک لاکھ کی رقم سنتی، مجھ سے پہلے ابو بکر و عمر ختنے بھی ایسا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اہل شکر کو وہ ناگوار گزرا تو میں نے وہ واپس لے کر اہل شکر پر ہی اس کو تقسیم کر دیا، کیا ایسا نہیں ہوا؟ سب نے کہا، ایسا ہی ہوا ہے۔

کہا جاتا ہے میں نے بعض لوگوں کو زمینیں عطا کی ہیں، حالانکہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ جو مقامات فتح ہوئے وہاں ہمابریں و انصار کو زمینیں میں، پچھے لوگ وہیں رہ گئے، پچھے یہاں واپس آگئے، واپس آنے والے چونکہ اپنی زمینوں سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے، میں نے ان پہنچنے والے کے پیش نظر ان کی زمینوں کو مقامی باشندوں کے ہاتھ پیچ دیا اور ان کی رقم اصل ماںکوں کے حوالے کر دی۔

رشته داروں کو عملیات دینے کے متعلق حضرت عثمانؓ نے جو وضاحت اس مقدم

پر کی ہے وہ صفحہ ۲۷۵ پر گزر چکی ہے۔

یہ تھے وہ الزام جن کے محتول جوابات حضرت علیؓ و حضرت عثمانؓ نے اسی

وقت دے دئیے تھے، ان ہی میں مولانا کے الزامات بھی شامل ہیں، اس وقت تمام لوگوں نے ان حضرات کی وصاحت کو قبول کر لیا اور کسی نے مزید جرخ نہیں کی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خود انہوں نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے اعتراضات صحیح نہیں، اگر وہ یہ اعتراضات اٹھانے میں مخلص ہوتے تو اس کے بعد ان کے لئے شورش و بغاوت کے لئے کوئی وجہ جوازہ باقی نہ رکھی تھی، لیکن وہ مخلص ہی کب تھے انہوں نے تو یہ اعتراضات پیدا ہی اس لئے کہ تھے تاکہ وہ اپنے ناپاک مشن کو پایہ تتمیل تک پہنچا سکیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، پوری دلیلی اور طلاقٹانی سے وہ سب پکھ کر کڑرے جو انہوں نے باہم مل کر سوچ رکھا تھا اور خود مولانا مودودی صاحبؒ کے الفاظ میں یہ لوگ شریعت کا نام لے کر حضرت عثمان پر معرض تھے، مگر انہوں نے خود شریعت کا کوئی عاظذ کیا اور ان کا خون ہی نہیں ان کا مال بھی اپنے اور جلال

کر لیا۔ رضنی اللہ عنہ وارضاہ

ان تاریخی حادثوں کی موجودگی میں اب بھی کوئی شخص ان اعتراضات کو دوبارہ اٹھاتا ہے تو اس سے ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو قرآن نے کہہ دیا ہے، لا  
تَنِسْتُوا التَّعْقِيْدَ بِالْبَاطِلِ وَ تَكُمُوا الْحَقَّ وَ آتُنُّمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

~~~~~

## فصل دوم

# حضرت علیؑ کی خلافت

**تیسرا مرحلہ**

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ درپیش آیا، اس کی مختصر توضیح، انتخاب علیؑ کے عنوان میں ہم کرائے ہیں، اس کو ملاحظہ فرمایا جائے، مولانا نے اس مقام پر بھی تھائق کو منسخ کر کے پیش کیا ہے، حضرت علیؑ کی فضیلت اور انکی صحت خلافت ان دونوں سے کسی کو اختلاف نہیں، لیکن مولانا نے ان ہی دونوں امور کو ثابت کرنے پر ذور قلم صرف کیا ہے، مابعد الزراع دیگر دو امور ہیں ان پر مولانا نے کوئی خاص دلائل نہیں دیئے بلکہ یہاں نمایاں طور پر ان کے یہاں تفاسیر پایا جاتا ہے۔

پہلا مسئلہ یہ کہ حضرت علیؑ کو اولاً خلیفہ بنانے میں کون لوگ پیش پیش رہے، اصحاب رسول اور دیگر اہل مدینہ یا وہ عناصر جن کے ہاتھ قتل عثمانؓ سے زلگیں تھے؛ دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت علیؑ کی خلافت پچھلے خلفاء علیہ السلام کی طرح متفق علیہ تھی یا امت کا ایک عظیم گروہ ان کی بیعت سے کنارہ کش رہا؟ مولانا نے مسئلہ اول کے متعلق کہا ہے کہ:-

شہادت عثمانؓ کے بعد اصحاب رسول اور دوسرے اہل مدینہ حضرت علیؑ کے پاس گئے اور ان کو خلافت کے لئے مجبور کیا، انہوں نے اس سے انکار کیا، آنکہ انصار کے بعد وہ رضا مند ہو گئے، مسجد بنوی میں اجتماع عام ہوا اور تمام مہاجرین و انصار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، صحابہ میں سے ۱۵۰ یا ۱۲۲ بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی؟ (ملحق ص ۱۲۱-۱۲۲)

مولانا کا یہ بیان تاریخی طور پر صحیح نہیں، حضرت علیؓ کو اصحاب رسول و اہل مدینہ نے نہیں، قاتلین عثمانؓ نے خلیفہ بنایا تھا، اس کی روئاد پہنچے بیان کی جا پکی ہے، مولانا نے اس مقام پر ظیری اور الیڈیا کا حوالہ دیا ہے، الیڈیا یہ میں یہ چیز کہیں نہیں ہے جو مولانا نے بیان کی ہے، ظیری میں وہ روایت ضرور پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ دوسری روایت بھی اس میں موجود ہے جو تم پہنچے بیان کر آئے ہیں جس کی رو سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ کو قاتلین عثمانؓ نے اصحاب رسول اور اہل مدینہ کی رائے کے بغیر پینے کو محفوظ کرنے کے لئے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنایا تھا، اس روایت کی واقعات سے بھی تائید ہوتی ہے، جس کی وضاحت گزر چکی ہے، خود مونتا ہا اپنا ایک بیان ان کے اپنے بیان کی تردید اور ہماری تائید کرتا ہے، مولانا لکھتے ہیں :-

”حضرت علیؓ کو خلیفہ بنانے میں وہ لوگ شریک تھے جو حضرت عثمانؓ کے

خلاف شورش برپا کرنے کے لئے باہر سے آئے ہوئے تھے، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا انتکاب کیا اور وہ بھی جو قتل کے مجرم اور اس میں اعانت کے مرتكب ہوئے اور ویسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہداری ان سب پر عائد ہوتی تھی، خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی۔“ (ص ۱۲۳)

مولانا کے اس بیان اور مذکورہ الصدر بیان میں کتنا گھلا اور واضح تضاد ہے اسے ہر شخص بآسانی دیکھ سکتا ہے، پہنچے بیان میں مولانا نے کہا ہے کہ حضرت علیؓ کو اصحاب رسول اور دوسرے اہل مدینہ نے خلیفہ منتخب کیا، قاتلین عثمانؓ کی شرکت کا ادنیٰ سا اشارہ بھی اس بیان میں نہیں، لیکن اس دوسرے بیان میں خود یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ ان کو خلیفہ بنانے میں باہر سے آئے والے باغی شریک تھے، اور ان کی شرکت بھی براۓ نام نہ تھی بلکہ انہی نمایاں اور گھل کر تھی کہ اس معلمے میں ان کی شرکت بہت بڑے فتنے کا موجب بن گئی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ فتنہ یہی تھا کہ اس دوہجہ سے لوگ حضرت علیؓ کی خلافت کو مستقہ طور پر قبول نہ کر سکے، مولانا کا اگل

بیان اس کی مزید تائید کرتا ہے۔

”بعض اکابر صحابہ حضرت علیؓ کی بیعت سے الگ رہے،..... وہ امت کے  
نہایت باثر لوگ تھے، ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کو  
اعتداد تھا ان کی علیحدگی نے دلوں میں شک ڈال دیئے“ (ص ۱۲۳)

پچھے بیان میں مولانا نے صرف اتنا اقرار کیا تھا کہ، ایسا ۲۰ صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی  
و اس دوسرے بیان میں مولانا نے اگرچہ تعداد کا ذکر نہیں کیا ہے تاہم اس سے اتنا ثابت  
ہو جاتا ہے کہ ان اکابر صحابہ کی علیحدگی نے ہزاروں مسلمانوں کو شک میں ڈال دیا تھا۔  
.....  
علیؓ محروم ہو گئے، اس کے بعد یہ رٹ لگانا کہ صرف، ایسا ۲۰۔ آکو می حضرت علیؓ کی بیعت  
سے الگ رہے، کہاں تک واقعات کی صحیح عکاسی ہے؟

مولانا نے ایک اور عجیب و غریب دلیل دی ہے کہ جنگ صفين کے موقع پر ہم سو  
ایسے اصحاب حضرت علیؓ کے ساتھ تھے جو بیعت الرضوان کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ  
و سلم کے ساتھ تھے۔ (ص ۱۲۲)، اولًا اس دلیل کا تعلق اس امر سے کیا ہوا کہ حضرت  
علیؓ کو خلیفہ بنانے میں کون لوگ آگے تھے؟ خلیفہ بن جانے کے بعد خلافت قسمی کر کے خلیفہ  
کے ساتھ تعاون کی روشن اختیار کرنا و سری چیز ہے اور اس کی خلافت اس طریقے پر اور  
کن لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آئی؟ یہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے، اول الذکر کے لئے  
اسلام نے حکم دیا ہے کہ خلیفہ فاسق و فاجر ہوتا ہے بھی اس کے ساتھ تعاون کرنے سے  
کمزی نہ کرو، حضرت علیؓ تو پھر بھی ایک جلیل القدر صحابی اور صاحبِ فضل و شرف بزرگ  
تھے، ان کی خلافت کی صورتِ انعقاد سے اختلاف کرنے کے باوجود بالفعل انعقاد  
خلافت قسمی کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنا اسلام کے مذاق کے میں مطابق تھا، اگر یہ  
روایت صحیح ہے تو ان کا طرزِ عمل اسی بنیاد پر تھا ماص سے یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے  
کہ انہیں خلیفہ بھی قاتلین عثمان نہ ہیں، انہی لوگوں نے بنایا تھا، شاید یہ روایت  
ہی سرے سے من گھڑت اور صحیح روایات سے متصادم ہے، ابن عبدالبر جنہوں نے اس کو

بیان کیا ہے، پانچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں، اور اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی۔ اس کے بال مقابل صحیح روایت جسے امام احمد نے باسنہ بیان کیا ہے اور علفۃ ابن کثیر اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی جسے تقلیل کیا ہے نیز ابن تیمیہ نے اس روایت کی سند کے متعلق لکھا ہے، اصح اسناد علی وجہ الارض (روئے زمین کی صحیح نزین سند) اس روایت میں لکھا ہے کہ ان جنگوں کے موقع پر دس ہزار اصحاب رسول موجود تھے مگر ان میں شرکت کرنے لوگوں نے کی؟ طرفین کے کل اصحاب کی تعداد ملاکر۔ ۳۰ تک بھی نہیں پہنچی۔

ایک طرف جنگِ جمل و صفين میں شرکیہ ہونے والے کل اصحاب رسول کی تعداد ہے جو صحیح روایت سے ثابت ہے دوسری طرف وہ من گھڑت روایت ہے جو کوئی سند نہیں، کون سی روایت مانتے کے قابل ہے اہل علم و انصاف خود فیصلہ کر لیں گے۔

### خلافت علیؑ کا انقاد۔

ذکورہ حقائق کے باوجود مولانا کس مختار سے ان کا انکار کرتے ہوئے لکھتے

ہیں:-

”اس رواداد سے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علیؑ کی خلافت قاطعی طور پر ٹھیک ٹھیک اپنی اصولوں کے مطابق منعقد ہوئی تھی جن پر خلافتِ رشاد کا انقاد ہو سکتا تھا، وہ تبردستی اقتدار پر قالب نہیں ہوئے، انہوں نے خلافتِ حاصل کرنے کے لئے براۓ نام بھی کوشش نہیں کی، لوگوں نے آزاداً مشاورت سے ان کو خلیفہ منتخب کیا۔ صحابہ کی غلیم اکثریت نے ان کے ناتبور بیعت کی اور بعد میں شام کے سواتمام بلا د اسلامیہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب اگر حضرت سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت ابو بکر رضوی عمرؓ کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی تو ۴۰ صاحبہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علیؑ کی خلافت کیجیئے مشتبہ قرار پاسکتی ہے؟“ (ص ۱۲۲)

اس رویداد سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علیؓ کی خلافت ٹھیک ان اصولوں پر منعقد ہوئی تھی جن پر خلافت راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا، اس سے قبل خلافتے راشدین کو اپل حل و عقد نے منتخب کیا تھا یا خود خلیفہ نے اپنے طور پر کسی کو نامزد کر دیا تھا، حضرت علیؓ ان دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی خلیفہ نہیں ہے تھے، اُس وقت حالات ہی ایسے سازگار نہ تھے کہ آزادانہ مشاورت کا اہتمام ممکن ہوتا، نہ علوم مولانا کے نزدیک "آزادانہ مشاورت" کا مفہوم کیا ہے؟ اس سے قبل حضرت ابو بکر و عمرؓ کے متعلق بھی مولانا یہی دعویٰ کرائے ہیں، حالانکہ ان کی خلافت بھی حضرت علیؓ کی طرح آزادانہ مشاورت سے خالی ہے، فرق دونوں جگہ ضرور ہے، حضرت علیؓ کو آزادانہ مشاورت کے بغیر ان لوگوں نے خلیفہ چنانچہ مدینے سے باہر کے آئے ہوئے یا غیب تھے، اور حضرت ابو بکر و عمرؓ کو مدینے کے اہل حل و عقد نے یا پھر خود خلیفۃ الرسول نے منتخب و نامزد کیا تھا۔

نیز یہ بھی تاریخی طور پر غلط ہے کہ شام کے سواتام بلا و اسلامیہ نے حضرت علیؓ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، ہم پھر بتاچکے ہیں کہ شام کے علاوہ مصر کوہ اور بصرہ اور تینوں مقامات پر بھی ہزاروں لوگوں نے بیعت نہیں کی، مصر کا ایک شہر "خربت" صرف دہاک کے آن افراد کی تعداد جو بیعت علیؓ سے کنارہ نش رہے، ابین کثیر اور نبیری نے دس ہزار سلالی ہے، خود ہی نے کے بہت سے اصحاب و افراد بیعت سے پچھنے کی خاطر ہی نے شام چلے گئے تھے، لہیز ابین کثیر نے لکھا ہے کہ شہادت عثمانؓؓ کے وقت الکثراء میں مدینہ وہاں نہ تھے، حج و عمرہ کے نئے گئے ہوئے تھے یہ کویا بیعت علیؓؓ کے وقت خود باشندگانِ مدینہ کی اکثریت غیر حاضر تھی، ابین خلدون نے اس وقت کے حالات کا جو تجزیہ کیا ہے وہ کافی حد تک تاریخی واقعوں کے مطابق ہے، وہ

اپنے شہرہ آفاق مقدمہ میں رقمطرانہ میں :-

”شہادت عثمانؑ کے وقت لوگ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اب حضرت علیؓ کی بیعت کے موقع پر حماصرہ ہو سکے، اور جو حماصرہ کے ان میں سے بھی سب نے بیعت نہیں کی، بعض لئے کی اور بعض نے اُس وقت تک توقف کی روشن اختیار کی جب تک لوگ ایک امام پر جمع نہ ہو جائیں گے، ان میں حضرت سعید، سعید، ابن عمر، اسامة بن زید، مغیرہ بن شعبہ، عبد اللہ بن سلام، قاسمہ بن مظعون، ابو سعید خدراوی، کعبہ بن مالک، عثمان بن شیبڑ حسان بن ثابت، مسلمہ بن مخلد، قصالہ بن عبید اور ان جیسے دیگر اکابر صحابہ ہیں، جو لوگ مدینہ کے علاوہ دیگر شہروں میں تھے انہوں نے بھی بیعت کرنے کے اسوقت تک اعلیٰ کیا جب تک خونِ عثمانؑ کا مطالیبہ پورا نہ ہو جائے اور جب تک مجلس شوریٰ خود کسی شخص کو خلیفہ منعیت نہ کر لے حضرت علیؓ کے متعلق یہ لوگ اگرچہ یہ خیال تو نہیں رکھتے تھے کہ وہ بھی خونِ عثمانؑ میں شریک ہیں، تاہم قاتلین عثمانؑ کے معاملے میں ان کے سکوت کو انہوں نے ان کی کمزوری اور مستقیم پر محمود کیا، حضرت معاویہؓ بھی اس معاملے میں حضرت علیؓ کو جو کچھ کہتے تھے، اس کی بُنیاد بھی حضرت علیؓ کا یہی سکوت تھا۔

خلافت علیؓ جس طرح بھی ہوئی، منعقد ہو جانے کے بعد بھیاتفاق کی صورت پیدا نہ ہو سکی، اختلاف موجود رہا، حضرت علیؓ کا خیال تھا کہ ان کی بیعت منعقد ہو گئی ہے، اور مدینہ جو شہر رسول اور مسکن صواب یہ ہے وہاں کے باشندے ان پر مجمع ہو چکے ہیں اس لئے بیعت سے پچھے رہنے والوں کے لئے

لہ گویا ان کی نظر میں خلافت علیؓ خلافتِ شیعہ کی طرح اجماعی نہ تھی، لہ گویا اس وقت مملکت اسلامیہ کے ہر حصے میں یہ احساس موجود تھا کہ خلافت علیؓ شورہ کے بغیر ان لوگوں کے ہاتھوں منعقد ہوئی ہے جن کے ہاتھوں تسلی عثمانؑ ہوا ہے، اسی بنا پر انہوں نے توقف کے ساتھ خونِ عثمانؑ کے قصاص کا مطالیبہ بھی کیا

اب بیعت ضروری ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی مطالیبہ قصاص کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اسے اُس وقت تک منتوی رکھا جائے جب تک ایک کلمہ پر لوگوں کا اتفاق و اجتماع نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر وہ طاقت ملن نہیں جو اس کام کے لئے ضروری ہے۔

دوسرے حضرات کا خیال تھا کہ جو صحابہ اہل محل و عقد ہیں وہ بیعتِ علی کے وقت میتے میں نہ تھے یا ان کی قلیل تعداد تھی، وہ اُس وقت دیگر شہروں میں متفرق تھے، ان کے بغیر یا ان کی قلیل تعداد کے ساتھ بیعت منعقد نہیں ہو سکتی، اس لئے بیعتِ بی سرے سے منعقد نہیں ہوئی، مسلمانِ نجہ انتشار میں ہیں، اس بنا پر ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے خونِ عثمانؓ کا مطالیبہ پورا کیا جائے، اجتماع علی الامام کا مرحلہ دوسرا نمبر پر ہے، اس نقطہ نظر کے لوگوں میں حضرت معاویہؓ، عمر بن العاص، ام المؤمنین حضرت عالیشہؓ، حضرت زبیرؓ، ان کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ، مسلم بن اوس و ان کے صاحبزادے محمدؓ، حضرت سعدؓ، حضرت سعیدؓ، فuhanؓ، بن بشیرؓ، معاویہؓ، بن خدیجؓ اور ان کے علاوہ ان کے ہم رائے وہ اکابر صحابہ تھے جو میتے میں بیعتِ علی سے پہچپے رہے تھے، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

ابن خلدون کا یہ پورا بیان اُن واقعات کے مطابق ہے جس کی تفصیل ابن جریر طبری، ابن الأثیر اور حافظ ابن کثیر نے اپنی اپنی تاریخوں میں بیان کی ہے اس کی دو سیہ بات کھل کر سامنے آجائی ہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت اگرچہ منعقد ہو گئی تھی لیکن اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو سکا تھا، شام کے علاوہ کئی شہر تھے جہاں ہزاروں لوگ بیعت سے کنارہ کش رہے، اکابر صحابہ کی ایک معقول تعداد اس سے مجتنب رہی، مؤمنین نے جن اکابر صحابہ کے نام لگائے ہیں وہ چند نام بطور مثال لگائے ہیں نہ کہ

بیعت نہ کرنے والوں کی کل تعداد، انہوں نے تو واضح طور پر نام گناہ کر آفرمی لکھ دیا ہے، و امثالہم من اکابر الصحابة اور ان جیسے دیگر اکابر صحابہ نے بھی بیعت نہیں کی۔ لیکن مولانا نے ان ناموں کو کل قرار سمجھ کر یہ حکم لگادیا ہے کہ ایسا ۲۰ صاحب اپنے بیعت نہیں کی، ہم نہیں سمجھ سکتے مگر مولانا عربی عبارت کے سمجھنے میں اتنا دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں کہ بطور مثال دیئے گئے، ایسا ۲۰ ناموں کو کل تعداد سمجھ لیں؟ پھر مزید تلفیق یہ کہ حضرت علیؓ کی خلافت کو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

”ایک سعد بن جعاد کے بیعت نہ کرنے سے ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت مشتبہ نہیں

ہوتی تو، ایسا ۲۰ صاحب اپنے بیعت نہ کرنے سے حضرت علیؓ کی خلافت کیسے مشتبہ

قرار دی جاسکتی ہے؟“

اسے کہتے ہیں قیاس مع الفارق، مولانا کی تلاٹی ہوئی تعداد ہی اگر صحیح مان لی جائے تب بھی کہاں ایک شخص اور کہاں ۲۰۔ افرو، ان دونوں کا کیا مقابلہ و موازنہ؟ پھر خلافت علیؓ کو مشتبہ کون کہتا ہے؟ خلافت علیؓ غیر مشتبہ طور پر منعقد ہو گئی تھی، اس سے انکار نہیں، مسئلہ تو اتفاق و عدم اتفاق کا ہے، کیا اکابر صحابہ کی یہ علیحدگی اس امر کی دلیل نہیں کہ حضرت علیؓ کی خلافت پچھلے خلفاء کی طرح متعدد تھی، بالخصوص جب مولانا یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اکابر صحابہ کی علیحدگی نے ہزاروں لوں کو شک میں مکال دیا تھا اور انہوں نے حضرت علیؓ کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔

خلافت کی راہ میں تین رخنے۔

مولانا کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطناک رخنے حضرت عثمانؓ کی شہادت سے پیدا ہو گیا تھا وہ حضرت علیؓ کے علیفہ بن جانے کے بعد بھر جاتا، لیکن تین چیزوں ایسی قصیں جنہوں نے اس رخنے کو نہ بھرنے دیا۔

ایک حضرت علیؓ کو خلیفہ بنائے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمانؓ کے خلاف خورش برپا کر لئے کے لئے باہر سے آئے تھے..... خلافت کے کام میں انہی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی۔

دوسرے بعض اکابر صحابہ کا حضرت علیؓ کی بیعت سے الگ رہنا۔  
تیسرا ہے حضرت عثمانؓ کے خون کا مطالبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فرقی

۱۳ شہ کھڑے ہوتے ہیں (ملفظ ص ۱۲۳-۱۲۴)  
امراؤں کے متعلق مولانا نے یہ وضاحت کی ہے کہ امیر خلافت میں قاتلین عثمانؓ کی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا ہے جیسا نہ فیصلہ تھا اور اگر امانت کے تمام پا اثر اصحاب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علیؓ کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین عثمانؓ کی فیصلہ کو پہنچا دیتے جاتے اور فتنے کی یہ صورت جو یقینتی سے رو نہ ہو گئی تھی بآسانی ختم ہو جاتی ہے (ص ۱۲۳)

یہاں دو چیزیں قابلِ مناقب ہیں:-

اول یہ کہ مولانا تو سرے سے یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ با اثر اصحاب نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، مولانا تو بار بار یہ کہدے ہیں کہ حضرت علیؓ کو آزادانہ مشاہد سے خلیفہ منتخب کیا گیا تھا، صحابہ کی عظیم اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی صرف ۱۴۰ صاحابہ نے نہیں کی تھی، شام کے سوا تمام بلا دا اسلام میرے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، لیکن یہاں مولانا شکوہ کر رہے ہیں کہ امانت کے با اثر اصحاب اگر حضرت علیؓ کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین کی فیصلہ کو پہنچا دیتے جاتے، سوال یہ ہے کہ اتنی عظامیہ مملکت میں کیا صرف یہ ۱۴۰ بزرگ ہی اتنے با اثر تھے کہ ان کے بغیر کوئی تمیم سرانجام نہیں دی جاسکتی تھی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مولانا کی یہ تصویر کشی اگر واقعات کے مطابق ہوتی تو یہ ایسا ۱۴۰ آدمی تو کیا اگر، ایسا ۱۴۰ ہزار آدمی بھی حضرت علیؓ کے ساتھ قاون نہ کرتے تب بھی مولانا کے بتلائے ہوئے حالات کے مطابق حضرت علیؓ بآسانی قاتلین عثمان کو کیف کردا تو کب پہنچا سکتے تھے۔

دوسرے یہ قول بھی محل نظر ہے کہ خلافت علیؓ کا جو فیصلہ ان قاتلین نے کیا تھا وہ بجا نہ خود صحیح تھا، فیصلہ اگر صحیح ہوتا تو یہ صورتِ حال پیدا ہی نہ ہوتی جس کا مولانا شکوہ کر رہے ہیں، مولانا نے صرف حضرت علیؓ کی ملکہست کو

پیش نظر رکھ کر فیصلہ کی صحت کا حکم لگادیا ہے حالانکہ خوب و ناخوب کا معیار  
ذوات و اشخاص نہیں، اصول ہو اکتے ہیں، اصل الاصول معرفۃ الحق بالرجال  
نہیں، معرفۃ الرجال بالحق ہے، اگر اشخاص رسی صحیح وغیر صحیح کے لئے مدار حکم نہیں  
تو پھر حضرت عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہما پر اعتراضات کس کھلے جائز ہو سکتے ہیں  
ان کے اقدامات کو بھی ان کی عظیم و جلیل شخصیات کے لیس منظر میں رکھ کر دیکھنے  
چاہئیں تھے کہ ان کی شخصیات کو نظر انداز کر کے بعض ان کے اقدامات کو، مولانا نے ہر  
مقام پر دوڑخی پالیسی اختیار کی ہے، جہاں حضرت عثمان و معاویہ اُمّ المُؤمنین حضرت  
عائشہ اور حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کا معاملہ ہوتا ہے وہاں مولانا کہتے ہیں کہ ان کی  
عقلت و جلالتِ قدر ایک طرف لیکن ان کے فلاں فلاں اقدامات آیک طرف، ان کے  
اقدامات پر بحث کرتے ہوئے ان کی شخصی عقلت را ہمیں حائل نہیں ہونی چاہئے،  
بلکہ "جزلت" کے ساتھ کام لے کر ان کے حسن و قبح پر روشنی ڈالنی چاہئے، لیکن حضرت  
علیؑ کے اقدامات پر بحث کرتے ہوئے مولانا کے زبان و قلم حضرت علیؑ کی شخصی عقلت  
و جلالت کے سامنے ہٹھیا رہاں دیتے ہیں یہ عجیب غیر جائز رازہ طرز عمل ہے؟

حضرت علیؑ کی عقلت و جلالت قدر سے کسی کو انکار نہیں، خلافت کے وہ پوری  
طرح ایں تھے، اس سے بھی کوئی بحث نہیں، اصل چیز مان کا طریق انتخاب ہے جس کی  
وجہ سے وہ اپنی تمام بزرگیوں کے باوجود متفق علیہ خلیفہ بن سکے، مولانا نے بڑا  
زور لٹکا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اُسی طریقے سے خلیفہ بنے تھے جس  
طرح پچھلے خلفاء راشدین، لیکن ہم نے وضاحت کی ہے کہ مولانا کیہ بیان ایسا ہے  
جس کی نفع خود مولانا کی تصریحات کر دیتی ہیں۔

حضرت علیؑ کی خلافت پر عدم اتفاق کے وجود۔

ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ حضرت علیؑ کی خلافت پر امت متفق کیوں نہ ہو سکی؟  
اس کی سب سے بڑی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اُمت کے سوادِ عظم نے خلافت  
علیؑ کے قیصلے کو اس بناء پر صحیح نہیں سمجھا اس موالیے میں تو تین عثمان پیش پیش

تھے، ان کی شرکت نے خلافتِ علیؑ کو لوگوں کی نظر میں مشکوک بتا دیا تھا، پھر حضرت علیؑ کے طرزِ عمل کی وجہ سبب روئے کارند آسکیں۔ تین صورتیں تھیں، تینوں حضرت علیؑ کے طرزِ عمل کی وجہ سبب روئے کارند آسکیں۔ ایک ایسا یہ کہ حضرت علیؑ قاتلین عثمانؓ کے مشورے اور اصرار سے خلافت قول نہ کرتے، بلکہ حضرت حسنؓ کے مشورے کے مطابق اس وقت تک زمام خلافت نہ بن جائے جب تک کہ جلیل القدر اصحاب رسول اور مختلف شہروں کے وفاد اس تجویز کی مائید نہ کر دیتے۔

دوسرے زمام خلافت بن جائے کے بعد غیر واضح طرزِ عمل کی بجائے کوئی واضح طرزِ عمل اور حالات کو سازگار بنانے کی بجائے، قاتلین عثمانؓ کے ساتھ سخت روتیہ اختیار کر کے مطابق قصاص کو فوراً شرف پذیرائی بخش کر قصاص کا مطابق کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے، ان کی تعداد و قوّت بہر صورت فسادیوں سے کہیں زیادہ تھی، فسادیوں پر قابو پانے کی بجائے طالبین قصاص کو آمادہ تعاون کر لیا جاتا تو باغیوں پر قابو پانے کا مرحلہ یا سانی طے ہو سکتا تھا۔

تیسرا ہمال عثمانی کی یہ قلم معزولی کا حکم دینے کی بجائے اگر کچھ عرصے کے لئے اپنے اپنے عہدوں پر فائز رہنے دیا جاتا اور حالات کے پُرسکون ہونے تک جدید تقریب سے اجتناب کیا جاتا تو ممکن تھا کہ اس سیاسی تدبیر سے بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دیا جاسکتا۔

لیکن افسوس ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی بروری کا رنہ آسکی، ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک اپنی جگہ لوگوں کو مشکوک و شیہات میں ڈالنے کے لئے کافی تھی، لیکن جب لوگوں کے سامنے پے در پے یہ تینوں چیزیں آگئیں تو ان کی نظوروں میں خلافتِ علیؑ کی جو حیثیت رہ گئی تھی اس کے پیش نظر ان کا جو طرزِ عمل غیر جانبدار اور یا عدم تعاون اور بعض جگہ تصادم کی صورتیں نظر آتی ہے اس کے کچھ مزور کچھ نکھلے یا کم از کم انہیں محدود ماننا پڑتا ہے بالخصوص جب کہ اس صفت میں ہیں

اکابر صحابہ کی ایک معقول تعداد نظر آتی ہے۔

امروdom اکابر صحابہ کی علیحدگی کے بارے میں مولانا فہمہ کہے کہ "یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا۔ لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھاں سے بدجہ زیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل آٹا مددگار بن گیا" (ص ۱۲۳)۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے فعل کو فتنے میں مددگار بنانے میں خود حضرت علیؓ کے طرزِ عمل کو سب سے زیادہ دخل ہے، حضرت علیؓ اتفاق کی مذکورہ صورتوں کو بڑے کار لانے کی کوشش کرتے تو اکابر صحابہ کے دلوں میں شک و شبہ کی جو گروہ پر گئی تھیں وہ تھُل جاتیں، اُن کا طرزِ عمل، ردِ عمل تھا حضرت علیؓ کے اُن اقدامات کبوترخان کی راہ میں اصل رکاوٹ تھے، اعتراض اگر ہو سکتا ہے تو اس فعل پر جس کے ردِ عمل کے طور پر یہ سب کچھ ہوا، نہ کہ اصل فعل کو نظر انداز کر کے ردِ عمل پر، یہ الگ بات ہے کہ خود حضرت علیؓ بھی اپنے طرزِ عمل میں خلص و مجتہد تھے اور صدقِ نیت کے اعتبار سے حق بجا باندھا۔

اکابر صحابہ، جاہلیت و لاقا تو نیت کی راہ پر...!

حضرت علیؓ کی راہ میں جو تیسرا خون تھا وہ مولانا کے خیال کے مطابق خواجہ عثمان فہم کا مطالبه تھا، اس کو کہ کرو لوگ، کھڑے ہوئے تھے وہ ہمہ شاھی قسم کے افراد نہ تھے جلیل العصر اصحاب رسول تھے، جسی میں اُمّۃ المؤمنین حضرت عائشہؓؑ جیسی شخصیت بھی تھی، ان بزرگوں سے اقسام و عمل اور فکر و نظر کی غلطی ناممکن نہیں، میں ممکن ہے اُن سنت کے اکثر علماء اسی موقف کے قائل رہے ہی کہ ان کے مقابلے میں حضرت علیؓ اولیٰ بالحق تھے، مولانا بھی اسی نقطہ نظر کو درست سمجھتے تو یہ کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کی بنا پر مولانا ہدفِ اعتراض نہتے، لیکن افسوس مولانا نے اتنے پر لیں نہیں کی، اس سے بڑھ کر مولانا نے ان بزرگوں کے متعلق جوزبان استعمال کی ہے، آئین و شریعت کا جو سبق انہیں پڑھانے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑھ کر ان کو لاقا تو نیت اور جاہلیت بلکہ تھلیل جاہلیت کا پیر و بتلا یا ہے، مولانا لکھتے ہی اوپنے کیوں نہ ہوں لیکن اکابر صحابہ

کے متعلق ایسی زبان کا استعمال ان کے لئے باائز نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے مولانا اور ارمل سنت کے علماء کے درمیان خط تفرقہ کھینچ دیا ہے، اکابر علماء اہل سنت ان کے یا ہمی اختلافات کو حق و باطل کے ساتھ نسبت نہیں دیتے بلکہ حق اور احقیقی صلح و اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں، وہ باطل و ضلال کسی کو نہیں کہتے، دونوں کو اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق حق پر کہتے ہیں ابتدۂ حضرت علیؑ کو اولیٰ یا الحق، حق کے قریب تر رکھتے ہیں، خود مولانا بھی ”خلافت و ملوکیت“ لکھتے چند سال قبل تک یہی رائے رکھتے تھے، بعدهر عکس کے ایک مضمون میں مولانا لکھتے ہیں :-

”وہ جنگ بخل و صفیین میں نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے رکٹے تھے، نفسانی عداؤتوں اور اغراض کی خاطر نہیں رکٹے تھے۔ انھیں افسوس تھا کہ دوسرا فرقہ ان کی پوزیشن غلط سمجھ رہا ہے اور خود غلط پوزیشن اختیار کرتے ہوئے بھی اپنی غلطی محسوس نہیں کر رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو فنا کر دینے پر تسلی ہوئے نہیں تھے بلکہ اپنی دانست میں دوسرے فرقہ کو راستی پر لانا چاہتے تھے..... ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر، عزّت، محبت، اسلامی حقوق کی مراعات اس شدید خانہ جنگی کی حالت میں بھی جوں کی توں برقرار رہی، اس میں یک سرموفرقہ نہ آیا بعد کے لوگ کسی کے حامی بن کر کسی کو گایاں دیں تو یہ ان کی اپنی بد تیزی ہے مگر وہ لوگ آپس کی عداوت میں نہیں رکٹے تھے اور لڑ کر بھی ایک دوسرے کے دشمن نہ رہتے تھے۔“ (رسائل و مسائل، حصہ سوم، ص ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۵)

لیکن اب خود مولانا ایک کے حامی بن کر دوسرے کو گایاں دے کر اسی حرکت کا آرکاپ کر رہے ہیں جس کو خود انہوں نے ”بد تیزی“ سے تعبیر کیا ہے گایاں صرف یہی نہیں ہیں کہ غریباں گایاں دی جائیں، یہ تو کوئی شخص بھی نہیں کرتا، شیعہ بھی ایسا نہیں کرتے، ان کی شان میں نامناسب الفاظ کا استعمال یہی سب و شتم ہے ”خلافت و ملوکیت“ میں اس کا نمایاں ثبوت ملتا ہے، نیز مولانا کے موجودہ اندازِ بیان ستد یہ بات مکمل کر سامنے

آجاتی ہے کہ وہ اہل سنت کے عقیدے کے برعکس، فرقی شانی کے طرزِ عمل کے لئے کوئی وجہ جواز تسلیم نہیں کرتے، بلکہ نایاں طور پر ان کے طرزِ عمل کو انہوں نے جاہلیت بلکہ طبیعت جاہلیت قدیر سے تعبیر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

”حضرت عثمانؓ کے خون کا مطالیبہ جسے لے کر دو طرف سے دو فرقی اٹھ کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت عائشہؓ اور حضرت طلحہؓ و زبیرؓ اور دوسری طرف معاویہؓ، ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام محفوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں کر دنوں کی پوزیشن آئندی حیثیت سے درست نہیں مانی جاسکتی۔ ظاہر ہے یہ جاہلیت کے دو کارہاتی نظام تو تھا کسی کے مقتول کے خون کا مطالیبہ لے کر جو چاہے اور ہیں طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرنے کے لئے استعمال کرے۔“ (ص ۱۲۴)

گویا ایک خلیفۃ المسلمين کے خون کا مطالیبہ قصاص مولانا کے نزدیک ایک عام آدمی کے قتل کے مطالیبہ قصاص سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، پھر اکابر صحابہ کا یہ مطالیبہ سبی جاہلیت کی صدائے بازگشت تھا، انا للہ وَا نَا الیہ رَاجِعُوْنَ۔

”یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لئے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔“

یہکن یہ ضابطہ اور قانون اگر نہیں تھا تو صرف ان لوگوں کے لئے نہیں تھا جو قتل عثمانؓ کے بالفعل یا اس کی اعانت کے مرتکب ہوئے تھے، ان کے علاوہ ہر ایک کے لئے ضابطہ اور قانون موجود تھا۔

”خون کا مطالیبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے دارشوں کو تھا جو زندہ تھے، اور وہیں موجود تھے، حکومت اگر مجرموں کو بکٹنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ ہی تسلیم کر رہی تھی تو بلاشبہ دوسرے لوگ اس سے انصاف کا مطالیبہ کر سکتے تھے؟“ (ص ۱۲۷)

یہ قانونی نکتہ اس وقت کسی کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ کہ مقتول کے خون کے مطالیبہ

کا حق اس کے وارثوں کو ہے نہ کہ دوسروں کو، پھر اس کے ساتھ یہ تضاد بیانی بھی عجیب ہے کہ دوسرے لوگ بھی بلاشبہ انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے ایک طرف یہ بیان کردہ وارثوں کے علاوہ کسی دوسرے کو حق ہی نہیں تھا اور دوسری طرف اس حق کو دوسروں کے لئے تسلیم بھی کرتے ہیں، صحابہ کرامؐ تو قانونی نکات سکھانے سے پہلے مولانا کو خود اپنا تضاد فکر درکرنا چاہیے۔

”یہیں کسی حکومت سے انصاف کے مقابلے کا یہ کون ساطریقہ ہے اور شریعت میں کہاں اس کی نشان دہی کی جاسکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ آپ کے اس مطالبہ کے مطابق عمل درآمدہ کر دے، حضرت علیؓ اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مقابلے کے آخر کیا معنی تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑ دیں اور سزادیں؟ کیا وہ کوئی قائمی سردار تھے؟ جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہیں پکڑ لیں اور سزادے ڈالیں؟“ (ص ۱۲۳)

یہیں دہ تو ان کو جائز خلیفہ تسلیم کرتے تھے، اس کے بعد ہی تو انہوں نے حضرت علیؓ سے یہ مطالبہ کیا تھا، خود مولانا نے آگے چل کر اس کا اعتراف کیا ہے:-  
”حضرات ظلم و زبردستی اندھعنہا چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقامتِ حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے اب ان سے قصاص لیجئے۔“

اس کے بعد اس قانونی نکتے کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے جو مولانا نے یہاں آٹھایا ہے؟ حضرت علیؓ بلاشبہ قائمی سردار نہ تھے کہ بغیر قانونی اختیار کے جسے چاہتے پکڑ کر سزا دے ڈالتے، یہیں وہ ایک با اختیار خلیفہ المسلمين تو تھے، کیا خلیفہ کے پاس بھی قانونی اختیارات نہیں ہوتے؟

”اس سے بھی زیادہ غیر ایمنی طریقہ کاری تھا کہ پہلے فرقے نے بجا لئے اس کے کروہ مریتے جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا، جہاں خلیفہ اور مجرموں اور

مقتول کے ورثاء سب موجود تھے اور عدالتی کا روائی کی جاسکتی تھی، یہ رے کا رخ کیا اور فون جمع کر کے خون عثمانؓ کا بدل لینے کی کوشش کی جسکالازی نیت ہے یہ ہونا تھا کہ ایک خون کے بجائے دس ہزار مزید خون ہوں اور حملت کا نظام الگ دریم بریم ہو جائے، شریعت الہی تو درکنار، دنیا کے کسی آئین و قانون کی رو سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جا سکتا؟ (۱۲۵، ۱۲۷)

صورت حال کا یہ نقشبھی خلاف واقعہ ہے ماں سے قبل وہ تمام طریقے استعمال کرچکے تھے جو اس کے لئے مناسب ہو سکتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے مدینے میں ہی عدالتی کا روائی کا مطابق کیا تھا، خود مولانا نے اسے تسليم کیا ہے، یہ کن حضرت علیؓ نے اپنی بے بسی کا اکابر کر کے اس کو العوام میں ڈال دیا، ان حضرات نے حضرت علیؓ کے عذر کو تسليم کیا، اور اس سے نعمتی کے لئے حضرات اللہ عزیز بیرون یہ معقول تجویز بھی پیش کی تھی کہ کوفہ و یصہر کی امارت ہمارے سپرد کر دی جائے، ہم وہاں سے فوج اور طاقت جمع کر کے باغیوں کے غلبہ و سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس تجویز کو بھی حضرت علیؓ نے تسليم نہیں کیا دراں حالیکہ اس سے بہتر اور معقول تجویز اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی، یہ لوگ پچھے عرصہ خاموشی کے ساتھ صورت احوال کا جائزہ لیتھ رہئے اس دوران ان کو حضرت علیؓ کی بیسی اور باغیوں کی سرکشی کا پوری طرح اندازہ کرنا کا موقع مل گیا، ایک موقع پر حضرت علیؓ نے باغیوں کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا لیکن انہوں نے تعیین حکم سے صاف انکار کر دیا، یہ دیکھ کر انکی یہ لائے پختہ ہو گئی کہ موجودہ حالات میں مطابق قصاص پورا ہونے کی کوئی امید نہیں، ہمیں از خود اس کے لئے کوئی کوشش کرنی چاہئے، مدینے میں ہی ان کو انتظار کرتے کرتے چار مہینے کا عرصہ لگ رکھا تھا، بالآخر

لئے الطبری، ج ۲، ص ۳۳۸۔ البلاۃ، ج ۲، ص ۲۲۸-۲۲۹۔ لکھاں، ج ۳، ص ۱۹۶۔

لئے حالہ بحثِ مذکورہ

لئے الطبری، ج ۲، ص ۲۲۹۔

وہ مدینہ پھوٹنے پر مجبور ہو گئے، اس طرزِ عمل کو کون شخص غیر آئینی طریق کار سے تعبیر کر سکتا ہے؟ یہ اقسام غیر آئینی اُس وقت ہو سکتا تھا جب وہ ابتداؤ وہ طریقے اختیار نہ کرتے جن کی ہم نے تفصیل بیان کی ہے۔

پھر شریعت کا علم اکابر صحابہ کو زیادہ تھا یا ہم اس کے زیادہ ماہر ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ حضرت عائشہؓ اور حضرات طلحہؓ و زبیرؓؓ کی اس کارروائی کو خدا اس دور کے دیگر صحابہؓ کرام نے کیا جیشیت دی؟ ظلا ہر ہے کہ صحابہؓ کرام اس کارروائی کو اگر شریعت الہی کے خلاف اور آئین و قانون کی رو سے ناجائز سمجھتے تو وہ غیر جائز اسی کی وجہ پر غیر آئینی اور خلاف شرع امر کرو رکنے کے لئے حضرت علیؓ کا ساتھ دیتے، پھر سب سے بڑھ کر خود حضرت علیؓ نے اس کارروائی کو جائز اور شریعت کے مطابق قرار دیا، حضرت علیؓ اپنی قبل سے مقابلہ کرنے کے لئے بصرہ تشریف لائے، ہم اُس وقت جیکہ طرفین کی فوجیں آئنے سامنے کھڑی ہیں، ایک شخص نے اُس دوران حضرت علیؓ سے سوال کیا کہ:-

”یہ لوگ جو خونِ عثمانؓ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس بارے میں آپ کے نزدیک ان کے لئے کوئی مجتہد شرعی ہے، اگر اس سے ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں! اس نے پھر سوال کیا، آپ اس بارے میں جو تاخیر وار کہ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل ہے؟“  
آپ نے فرمایا، ہاں بھا۔

حضرت علیؓ بیان کے فرقی عناوف تھے، انہوں نے خود ان کے لئے جنت شرعی کو تسلیم کیا یہیں آج حضرت علیؓ کے حامی ان کی حمایت میں حضرت عائشہؓ و حضرت طلحہؓ و زبیرؓؓ کے لئے جنت شرعی تو کجا کسی بھی آئین و قانون کی رو سے ان کی کارروائی کو جائز تسلیم نہیں کر رہے ہیں، ع سیدنا شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا

حضرت معاویہ ٹھیکھ جاہلیت قدیم کے طریقے پر؟

(حضرت معاویہ کے متعلق بولب وہجہ مولانا نے اختیار کیا وہ بھی ملاحظہ فرمائی، لکھتے ہیں:-)

”اس سے بد رجہ ازیادہ غیر آئینی طرزِ عمل دوسرا فرقہ یعنی حضرت معاویہ“

کا تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے تھیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خونِ عثمانؑ کا بد لیلنے کے لئے اٹھے، مرکزی حکومت کی اطاعت

سے انکار کیا، گورنر کی طاقت اپنے اس مقصد کے لئے استعمال کی اور مطالبہ

بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علیؓ قاتلین عثمانؑ پر مقدمہ جلاکر انہیں سزا دیں، بلکہ

یہ کیا کہ وہ قاتلین عثمانؑ کو ان کے حوالہ کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ (ص ۱۷)

خونِ عثمانؑ کا بد لیلنے کے لئے اٹھے، یہ تعبیر خلاف واقعیت ہے، حضرت معاویہ نے جنگ

کی اتنا کی ہوتی یا اس کا اعلان کیا ہوتا، تب یہ تعبیر واقعیت کے مطابق ہوتی، جنگ کی

اتنا حضرت علیؓ نے کہ، حضرت معاویہ نے صرف مدافعت کی ہے، حضرت معاویہ

یا ہمی افہام و تفہیم اور آئینی طریقے سے معاملات کو سلمانے کی کوشش کر رہے تھے،

لیکن حضرت علیؓ نے باقاعدہ اعلانِ جنگ کر کے ان کے لئے پڑا من راوی مقامیت بند

کر دی، گویا حضرت معاویہ یہ بد لیلنے کے لئے اٹھے نہیں بلکہ اٹھوئے گئے۔

مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، اگر فی الواقع مرکزی حکومت قائم ہو چکی

تھی تو اس تحریم کا ارتکاب اکیلہ معاویہ نے نہیں کیا ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد نے کیا،

چاڑ، مصر، کوفہ اور بصرہ، ان تمام صوبوں میں ہزاروں افراد ایسے تھے جنہوں نے

مرکزی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، خود باشندگانِ مدینہ نے تسلیم نہیں کیا، جس کی بناء

پر مرکزی حکومت کو اپنا مرکز مہینکی چھائے کو فد بناتا پڑا، میسیلوں جلیل القدر

اصحاب رسول نے بیعتِ علیؓ سے تو قف کیا۔

مرکز کی اطاعت مسلم، لیکن پہلے مرکز کا وجود تو ثابت کیجئے، مرکز کی جو حیثیت تھی اس کے لئے مولانا کے وہ الفاظ پڑھئے جو مولانا نے حضرت علیؓ کی طرف سے نقل کئے ہیں

حضرت علیؑ قصاص کامطالبہ کرنے والوں سے کہتے ہیں : -  
 ”میں ان لوگوں کو کیجھ پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں نہ کہ  
 ہم ان پر .....“ (صل ۱۷۲)

مرکزی کی یہی دینیت تھی جس نے ہزاروں دلوں میں شک ڈال دیتھے، اس پر  
 حقیقت باغیوں کا قبضہ تھا، ان کی نظر میں مرکز کو ماننے کا مطلب باغیوں کے آگے گھٹنے  
 فیکنے کے مترادف تھا، ممکن ہے ان کی یہ رائے فی الواقع صحیح نہ ہو لیکن جن بناوں پر  
 پر یہ رائے قائم تھی اس کو دیکھنے ہوئے ان کے نظریے کو بالکل بے دلیل نہیں کہہ سکتے،  
 کم از کم معدود اور اپنے نقطہ نظر میں وہ حق بجانب ہی بھے جائیں گے۔

”گورنری کی طاقت اس مقصد کے لئے استعمال کی وجہ و دستیحہ ہی یہ تھے  
 کہ حضرت علیؑ پر باعث قابو یافتہ ہیں ایسے میں دوسری طرف سے مسلط کی ہوئی جنگ  
 میں آرودہ طاقت استعمال نہ کرتے تو کیا کرتے، اس موقع پر طاقت کا استعمال مرکز  
 کے خلاف نہیں دراصل ان باغیوں کے خلاف تھا جو نظریہ خلافت میں پناہ گزیں  
 تھے۔

پھر جب وہ دیکھ چکے تھے کہ جن لوگوں نے قاتلین پر مقدمہ چلا کر ان کو سزا دینے کا  
 مطالبہ کیا ان کی کوئی شناوی نہیں ہوئی، بلکہ ان سے فوبت قتال و جدال تک پہنچ  
 چکی ہے، قواب دوبارہ پھر پر مطالبہ کہ ان پر مقدمہ چلا کر سزا دی جائے، اس کے پروار  
 ہوئے کا کتنا امکان تھا پھر حضرت معاویہؓ نے مطالبہ کرتے، اس لئے انہوں نے یہ  
 مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمانؓ کو ان کے حوالے کر دیا جائے وہ خدا نہیں کیف کردار کو  
 پہنچا لیں گے، ان کے مطالبے کے بو الفاظ دستب تواریخ میں مرقوم ہیں اس سے بات  
 بالکل واضح ہو جاتی ہے، حضرت علیؑ کی طرف سے آئے ہوئے وفد کو حضرت معاویہؓ  
 نے کہا:-

”تمہارے خلیفہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ قتل عثمانؓ میں  
 شرکیک ہیں، ہم ان کی اس بات کو مانے لیتے ہیں، ہم ان کی ترید کرتے

ہیں نہ ان کو اس سے منع، لیکن اگر واقعہ یہی ہے تو پھر ان کو چاہئے کہ انہوں نے قاتلین کو جو بناہ دے رکھی ہے اس سے دستیوار ہو کر ان کو ہمارے پسروں کی دین ہم خود ان کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد ہم ان کی اماعت کے لئے تیار ہیں لہجے

حضرت معاویہؓ کے اس بیان سے یہ بات مکمل کر سامنہ جاتی ہے کہ حضرت علیؓ کی خلافت پر باغی چھائے ہوئے تھے اور اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ حضرت علیؓ کی حکومت قاتلین پر باقاعدہ مقدمہ چلا کر ان کے خلاف عدالتی کارروائی کر سکے، حضرت علیؓ کو نہ دیپنی اس پوزیشن کا اعتراف تھا جیسا کہ چلے ان کا بیان نقل کیا جا چکا ہے، ان حالات میں حضرت معاویہؓ کا جو مطابر تھا وہ بالکل معقول تھا اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر آپ اپنے کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں تو ان سے اپنی سر پرستی کا ہاتھ اٹھالیں اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، ہم خود ان سے منت ہیں گے۔ مولانا لکھتے ہیں:-

”یہ سب کچھ دُورِ اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی

بقایا بدنظری سے زیادہ اشتبہ ہے؟“ (ص ۱۲۵)  
ہم چلے ہی کرکھے ہیں کہ اس مہا بیس میں حضرت معاویہؓ ایک نہ تھے ان کے ساتھ جلیل اصحاب رسولؐ کی ایک معقول تعداد تھی، اور صحابہؐ کی ایک کثیر تعداد غیر جانبدار تھی انہوں نے حضرت علیؓ کا ساتھ دیا اور حضرت معاویہؓ کا، دونوں میں سے کوئی حقیقت ہے اور کون حق پر نہیں؟ اس حقیقت سے آخر وقت تک اکثر صحابہؐ نا آشنا رہے ان میں سے کسی ایک کا حق پر ہونا ان پر اگر واسخ ہو جاتا تو وہ دوسرے فرقی کو راستی پر لانے کے لئے ایک فرقی کا ضرور ساتھ دیتے، امام نوویؓ لکھتے ہیں:-

”ان چھکڑوں میں حق شبہ تھا، اس نئے صحابہ کی ایک جماعت اس بارے

میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی، ہیран و سرگردان رہی، اور اسی بناء پر انہوں نے دونوں گروہوں سے کٹ کر راٹائی کی جائے گوشہ گیری اختیار کر لی، اگر ان پر

حق واضح ہو جاتا تو اس کی راد میں پھر ان کے قدم سمجھنے رہتے ہیں۔

حتیٰ کہ وہ غیر صحابی جو حضرت علیؓ کی طرف سے لڑ رہے تھے ان پر بھی حق اپنی طرح واضح نہ تھا، وہ بدلستور اس معلمے میں شبہ میں رہے، لڑائی کے دوران حضرت علیؓ کے گروہ کا ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک قبیلے کا حصہ ایسی تھا کہتا ہے:-

"اے اللہ! تو نے ہمیں ضلالت و جہالت سنے کا کام کر را، وہ دیانت فصیب کی

لیکن آج پھر ہم آزمائش میں ڈال دیئے گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے؟ ہم ریب و شک میں مبتلا ہیں۔"

یہ حرف ایک ہی شخص کا نیا نہ تھا، دوسرے بہت سے افراد بھی اس شبہ میں مبتلا تھے، چنانچہ وہ کہتے ہیں:-

"ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان جو معاملہ درپیشی ہے، اس میں جانپ ترجیح مشتبہ ہے، بخدا اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقہ کو اختیار کرتے تھے اُس کے حق و صداقت کا ان کو علم ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ حادثہ پیش آگیا، یہاں اگر ان کی قوت فیصلہ جواب دے گئی اور وہ نہیں جانتے کہ اس معلمے میں ان کو پیش قدمی کرنی چاہئے یا پیچے رہنا پاہئے، ایک چیز آج ہمارے نزدیک اچھی اور ہمارے بھائیوں کے نزدیک بُری ہوتی ہے لیکن گل کو وہی چیز ہمارے نزدیک بُری ہے کہ اس کے نزدیک مستحسن ہو جاتی ہے، ہم ان کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں لیکن وہ ان کو جھٹ نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں بھروسہ دلائل وہ ہمارے سامنے بطور حجت پیش کرنے کا گ باتے ہیں۔"

سیف الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں:-

بنگ جمل و صفیین ایک نئے تھا جس میں شرکت کو فضل اصحاب و تابعین اور

لهم النووى شرح مسلم، ج ۲، کتاب المفتق، الیضا، ج ۲، کتاب فضائل الصحابة،

تلمذ الطبرى، ج ۲، ص ۵۵، الکامل، ج ۲، ص ۲۲۶۔

تلمذ الطبرى، ج ۲، ص ۵۹، حتیٰ کہ اہل مدینہ تک پڑھانے سمجھ واضح نہ ہو سکی وہ اس کو امر مشتبہ سمجھتے رہے۔

ابن القاسم، حفص صورت، الطبرى، ج ۲، ص ۱۷۸، ج ۲، ص ۱۷۹۔

تمام علاوہ نے مکروہ بنا کیا ہے، جس طرح کنوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں، حتیٰ کہ خود وہ لوگ جنہوں نے اس میں شرکت کی اس کو مکروہ جانتے رہے، گویا امت میں اس کو مکروہ جانتے والے آثار و افضل ہیں بنسپت ان لوگوں کے جنہوں نے اس میں شرکت کو محمود قرار دیا ہے۔

ہم لوگوں کو اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہتے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کو جاہلیت کا پرتو بتلا دیتے ہیں، یہ بات کبھی دینی جس قدر انسان ہے عواقب کے لحاظ سے اتنی بھی سخت ہے، اس طرح ہمیں اکثر صواب کو یا تو جاہلیت کا پیر و ماننا پڑ جائے یا علم شریعت سے ورنہ کہ ان پر یہ بات بھی واضح نہ ہو سکی کہ حضرت مالک شریعتی، حضرات مسلم و زبیر اور حضرت معاویہ و غیرہم جس روشن پر قائم ہیں وہ تو ٹھیک جاہلیت قدر یہ کا طریقہ ہے، ان کو جاہلیت سے بحال کر اسلام کی طرف لانے کی سخت ضرورت ہے، ترکِ عجمی ہوئی جاہلیت کے مقابلے میں غیر جانبداری اور گوشہ گیری کوئی صحیح راستہ ہے یا پھر ان کو بُرذلی و دلوں ہمتوں ماننا پڑ جائے کہ جاہلیت کو جانتے یوں جھتے آنہوں نے حق کی حیات نہ کی اور اس موقع پر ہماہنست سے کام لیا۔  
 خونِ عثمان کا مطالبه بیشیست اگر نہ شام میں مولانا لکھتے ہیں:-

”خونِ عثمان“ کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ کے بجائے حضرت عثمانؓ کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا، تاہم مگر رشتہ داری کی بناء پر حضرت معاویہ اس مطالبہ کے مجاز ہو سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں حضرت عثمانؓ کا رشتہ جو کچھ بھی تھا، معاویہ بن ابی سفیان سے تھا شام کی گورنری اس کی رشتہ دار نہیں؟ (من ۱۲۵)

ہم پہلے بھی وضاحت کر آئے ہیں کہ یہ قانونی نکتہ جو پودہ سوسائی کے بعد مولانا کو سوچ لے اس وقت کسی کے ذہن میں کیوں نہ آیا؟ حضرات مسلم و زبیرؓ نے جسی وقت یہ مطالبہ کیا اس وقت حضرت علیؓ نے ان سے یہ کیوں نہ کہا کہ تم حضرت عثمانؓ کے کیا لگتے ہو؟ اس مطالبے کا حق تو مقتول کے شرعی وارثوں کو ہے، حضرت معاویہؓ کو کیوں نہ آنہوں نے اس قانون کے

ذریعہ چپ کرانے کی کوشش کی؟ اس کے صاف معنی یہ ہی کہ ان کی نظر میں یہ صرف شخص  
و احتمال کے قتل اور اس کے مطالبہ قصاص کا معاملہ نہ تھا کہ اس کا حق صرف مقتول کے  
شرمنی وارثوں کو ہوتا بلکہ یہ ایک محبوب عوام خلیفہ لا شد کے قتل کا معاملہ تھا جس کے  
مطالبہ قصاص کے لئے مملکت کا ہر فرد آواز اٹھا سکتا تھا اور فی الواقع سب دور و  
زندگی سے یہ آواز اٹھی، حجاز، مصر، کوفہ، بصرہ، مدینہ اور شام سب علاقوں سے بیک  
وقت یہ آواز پوری شدت سے آٹھی کہ قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس سے  
برطاح کر اور کون سا ثبوت اس امر کا ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ بجا طور پر خون عشاہ کے  
مطلوبے کے حق دارتھے،

جب پوری مملکت میں مطالبہ قصاص کی آواز گونج رہی تھی تو حضرت معاویہ  
کے لئے بھیشت گورنر شام عوامی آفان کو عملی اقلام دینے کے لئے وجد جاز پوری طرح  
موجود تھی میکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کو گورنری کی طاقت استعمال  
کرنے پر خود حضرت علیؓ نے مجبور کیا، ورنہ بھیشت گورنر انہوں نے کبھی یہ مطالبہ  
نہیں کیا، ان پر گورنری کی طاقت استعمال کرنے کا الزام اس وقت چنپاں ہو سکتا  
تھا اگر وہ مطالبے کے ساتھ یہ درستی بھی دیتے کہ مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں  
بندیعہ طاقت یہ مطالبہ پورا کرایا جائے گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، پر امن  
طریقے سے مطالبہ قصاص کرنے سے تا آنکہ انہیں طاقت استعمال کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔  
مولانا بتکرا لکھتے ہیں :-

”اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث ہیں کہ جا سکتے تھے میرن  
کو گرفتار کئے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے گورنر کی حیثیت سے  
انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر یاقا عده آئینی طریقے سے بیعت  
ہو جیکی تھی جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سواباقی پوری  
مملکت تسلیم کر جیکی اس کی امانت سے انکار کر دیتے اور اپنے زیر انتظام  
علائقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابیہ میں استعمال کرتے اور

ٹھیک بابلیت قدیر کے طریقہ پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے مذموموں کو عالیٰ کارروائی کے بجائے مدعیٰ تھا صن کے حوالہ کر دیا جائے تاکہ وہ خود اُن سے بدلتے ہیں (ص ۱۲۵-۱۲۶)

اس بحارت میں جو کچھ بھی ہے اس کی ہم متعدد بار و مناحت کر جچھے ہیں، ذاتی حیثیت سے مستفیض بن کر وہ کس امید پر جاتے جبکہ ان کی نظر میں اس کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا، حضرات طلحہ وزیرؓ نے ایسا کیا تھا اس کا کیا فائدہ ہے؟ مدرسوا؟ جب خلافت ہوتی مولانا کے الفاظ میں "قابل یا فتہ" ہی وہ لوگ تھے جو قتل عثمانؓ میں شریک تھے تو حضرت معاویہؓ اگر ذاتی طور پر مستفیض بن کر مطالبہ کرتے، ایسی صورت میں کیا وہ اس سے مختلف کوئی جواب پاتے جو حضرات طلحہ وزیرؓ کو دیا گیا تھا؟  
بار بار مولانا یہ ریڑ لگا رہے ہیں کہ بھیثیت گورنر انہیں برحق نہ تھا، حالانکہ انہوں نے کبھی اس طاقت کو استعمال کرنے کی دھمکی نہ دی، ان کو تو مجبوراً یہ طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی ان کے نقطہ نظر کے مطابق اس کا استعمال مرکز کے خلاف نہیں بلکہ باعیوں کے خلاف تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مرکز باعیوں کے ہاتھ میں ہے، خود مولانا کو اس سے اکار نہیں۔

یہ دعویٰ بھی جسے مولانا باریا ردِ صراحت ہے ہیں کہ "صرف شام کا ایک صوبہ یا غیر تھا باقی پوری مملکت میں حضرت علیؓ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقہ سے بیعت ہو چکی تھی غلط ہے، اگر ایسا ہوتا تو جنگِ جل جل کبھی برپا نہ ہوتی، حضرت عائشہؓ اور حضرات طلحہ وزیرؓ کی

لہشیۃ الاسلام ابن تیمیہ تکفیر ہیں تو کلم یا یعمر الحکل بعد عثمانؓ ممن اظہر اللذ بـ فان کثیر میں المسلمين اما النصف واما اقل اواکثر میں یا یعورۃ، یہ دعویٰ کہ حضرت عثمانؓ کے بعد سب سے حضرت علیؓ کی بیعت کر لی تھی واضح ترین جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ اکثر مسلمان ہیں کی تعداد کم ویلیش نصف تھی انہوں نے حضرت علیؓ کی بیعت نہیں کی تھی:

(منہاج السنۃ، ج ۲، ص ۲۳۵ الی ۲۵۵)

۳۰ ہزار کی فوج ہجن افراد پر مشتمل تھی وہ شام کے لوگ تھے بلکہ میتے تھے اور بصرے دغیرہ کے ہی تمام افراد تھے، اس کے مقابل حضرت علیؓ کی فوج ۲۰ ہزار افراد پر مشتمل تھی، یہ اس ریات کا بین ثبوت ہے کہ ان صوبوں میں بھی حضرت علیؓ کی باقاعدہ آنکھی بیعت نہیں ہوتی تھی، اگر ایسا ہوتا تو ان صوبوں سے اتنی بڑی فوج بھی ان کو میسر نہ آتی کہ جتنی بڑی خود حضرت علیؓ بھی فلام نہ کرسکے۔

حضرت معاویہؓ پر ٹھیکھ جاہلیت قدمیہ کا الراہم ایک بہت بڑی چسارت ہے، ہمیں اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہئے، یہ اکیلے معاویہؓ کا معاملہ نہیں ان کے ساتھ بیسیوں جلیل القدر اصحاب رسول تھے پھر اس کی نزد ان ہزاروں اصحاب رسول پر کھاپڑتی ہے جو غیر جائزدار ہے کہ انہوں نے ٹھیکھ جاہلیت قدمیہ کے مقابلہ میں حق کی حیات نہ کی اور گوشہ گیر ہو کر ملبوخ گئے۔

حضرت مجید الف ثانیؓ لکھتے ہیں :-

"اے برادر! معاویہؓ اس معاملہ میں اکیلے نہیں نیست بلکہ نصفہ از اصحاب کرام کم و بیش دریں معاملہ باوسے شریک ان، پس تحریک ایسا کفر یا فسق یا شرک نہیں، اگر حضرت علیؓ کے ساتھ دریں وائے حضرات کافر یا فاسق سمجھ جائیں تو گویا نصف دین سے اعتقاد از شطر دین سے خیزد کہ انہوں تبلیغ ایشان بار سیدہ است و تحریز نکند ایں معنی را انگر زندلی کہ مقصودش ابطال دین است، مکتوبات امام رضاؑ دفتر اول حصہ چہارم ص ۵۹ دین ہو۔ (مکتب ۲۵۱)

نیز اگر یہ جاہلیت قدمیہ ہوتی تو اس کے خلاف جنگ کرنا فرض اور واجب ہوتا، لیکن اکابر صحابہ و تابعین نے اس کے خلاف جنگ کو فرض و واجب تو کیا مستحب بھی نہ سمجھا بلکہ ترک قتال کو بہتر قرار دیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ جنگ مفہوم کے بارے میں مختلف

اقوال ذکر کرتے ہوئے ایک قول یہ ذکر کرتے ہیں:-

جنگ سے اخزا صواب تھا اور ترک قتال دونوں گروہوں کے لئے پہنچ رجھنگ  
میں کوئی پہنچی البتہ حضرت علیؑ نسبت صرف معاویہ کے اقرب الی الحق تھے لہذا ایک  
فتنه تھی واجب یا مستحب تھی، امام احمد، ابن حذیث و ائمۃ فہارم کی اکثریت،  
اکابر صحابہ و تابعین، حیران بن جعفر، اسامة بن زید، ابن عمر، سعد بن ابی وقاص  
اور مہاجرین و انصار میں سابقین اولین کی اکثریت اسی بات کی قائل تھی،  
اسی لئے مشاہرات صحابہ کے بارے میں خاموشی ایں سنت کا طریب ہے، کیونکہ  
ان کے فضائل ثابت اور ان سے محبت واجب ہے، ان سے جن واقعات کا  
صدور ہوا، ان کے بارے میں ان کے نزدیک ایسے عذر ہو گئے جنکے بعد ہر انسان  
کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اکثر لوگوں سے وہ مخفی ہیں، نیز ان میں سے بعض تابعین  
ہو گئے ہوئے اور بعض مغفور ہوئے، ان کے بارے میں جملگر دوں میں بحث کا نتیجہ یہ  
ہو گا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف بعض و مدت کے  
جنذبات پیدا ہو جائیں گے، اس طرح وہ شخص خطا کار بیکہ گناہ کار ہو گا اور  
ابتنے ساتھ اس کو بھی نعمان میں ڈال دیکا جو اس کے ساتھ اس بارے میں  
بحث کرے گا، جس طرح کہ اکثر کلام کرنے والوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے، وہ عموماً  
ایسی یادیں کرتے ہیں جنہیں اللذاء، اس کا ستوں ناپسند کرتا ہے، جو فی الواقع  
مستحق ذم نہیں ہوتے، ان کی مذمت اور بوجائزین قابلِ معجز نہیں ہوتیں،  
ان کی درح کر جلتے ہیں، اسی لئے افضل سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس  
بارے میں گفتگونہ کی جائے .. . . . .

بنی اسرائیل میں علمہ نے حضرت حسنؓ کی اس بنا پر تعریف فرمائی ہے کہ وہ انی  
دونوں گروہوں میں صلح کرائیں گے۔ اور آپ نے دونوں گروہوں کو مومنی کے ذریعے  
میں ختم کیا۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ قتال کی نسبت صلح محرّم تھی اگر  
قتال واجب یا مستحب ہے تو اس کا ترک محمد نہ ہوتا بلکہ قتال محمد ہوتا ..... نہیں

## فصل سوم

# جنگِ جمل

### پوچھا مرحلہ

حضرت علیؑ کے طریق انتساب اور ان کے طرزِ عمل نے جو صورت حال پیدا کر دی تھی، افسوس اس سے متعدد ہوتے کی کوئی امید نہیں اور جنگِ جمل اسی کا قدرتی نتیجہ تھی۔ لیکن سولانے جنگِ جمل کی جو منظر کشی فرمائی ہے اس کی بنیاد زیادہ تر نکے اپنے ذہنی مفروضوں پر قائم ہے، تاریخی روایات ان کا ساتھ نہیں دیتیں ہم ختنصر جنگِ جمل کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سولانے کے قائم کردہ مفروضوں کی حقیقت واضح کریں گے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت جس بے دردی سے باغیوں کے ہاتھوں ہوتی، اس نے پوری مملکتِ اسلامیہ میں ایک آگ سی چادری تھی، پر صوبے سے بیک وقت یا اوازِ اٹھی کہ قاتلین کو بیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حالانکہ باہم کوئی مشاورت یا بات چیز نہیں ہوتی، از خود اپنے اپنے طور پر سب طرف سے یہ آواز اس طرح اٹھی جیسے باہمی مشاورت کے بعد بالاتفاق اٹھائی گئی ہو، کونسے کے ایک گروہ نے بیعتِ علیؑ سے انکار کر دیا، بصرے میں بھی ایسا ہی ہوا، مصر کے دس ہزار آدمیوں نے صاف طور پر حضرت علیؑ کے مقرر کردہ گورنر قیسس بن سعد کو کہہ دیا: اگر قاتلین عثمانؓ کو بیفر کردار کوئی نہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورشہم بیعتِ علیؑ کے نئے تیار نہیں ہے اہل جماز بالکل غیر جانبدار ہوئے۔ حضرت علیؑ نے گورنر کو فہرست ابو موسیٰ

ابن الطبری ج ۲ ص ۲۲۲۔ الکامل ج ۳ ص ۲۰۱۔ البخاری ج ۷ ص ۲۲۹، ۴۵۱، ۲۲۹

ابن الطبری ج ۲ ص ۲۸۶۔ الکامل ج ۷ ص ۲۳۰۔ ابیداریہ ج ۷ ص ۲۳۶۔

اشعریؒ کو نکھاکہ کوفے سے میری حمایت کے لئے فوجی امداد روانہ کرو۔ انہوں نے صدین کو صاف طور پر کہہ دیا۔ ”میری اور تمہارے خلیفہ دونوں کی گردان میں عثمانؑ کی بیعت موجود ہے، اگر کسی سے جنگ ناگزیر ہے تو وہ قاتلین عثمانؑ ہیں، جب تک ان سے نہ مٹ لیں ہم کسی کے خلاف فوجی کارروائی کرنیکو۔“ نیاز نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاؓ کے سے عمرہ کر کے مدینہ والپس جانے کا ارادہ کرتی ہیں، راستے میں ایک رشتہ دار ملتا ہے، اُس سے مدینے کا حال پوچھتی ہیں، وہ صورت حال میں آگاہ کرتا ہے، کہ وہاں حضرت عثمانؑ کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت علیؓ نبی خلیفہ بنائے گئے ہیں لیکن معاملہ سب شرپندوؓ کے ہاتھ میں ہے۔ ”والامرا موال الغوغاء“ یہ سن کر حضرت اُمّ المؤمنینؓ میں ہی والپس آجائی ہیں، عبد اللہ بن عمار والپسی کی وجہ پوچھتے ہیں، تو وہی جواب دیتی ہیں جو ان کے رشتہ دار نے مدینے کی صورت حال بتلاتے ہوئے دیا تھا اور ان کے ساتھ ہی حضرت عائشہؓ خانپسے اس ارادے کا انہما کرتی ہیں کہ مدینے میں شہرپند عنصر کا غلبہ ہے وہاں اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ان پر قابو پایا جاسکے، ہمیں ارخوذخون عثمانؑ کے لئے کوشش کرنی چاہیئے عبد اللہ بن عمار ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔

اوہر مدینے میں حضرت طیبؓ نو زبیرؓ اور دیگر اکابر صحابہؓ نے حضرت علیؓ سے کہا۔ ”ہم نے اقامتِ حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے، اب آپ ان لوگوں سے قصاص میں چھوڑ جو حضرت عثمانؑ کے قتل میں شرکیک ہیں۔“ حضرت علیؓ نے جواب دیا۔ ”بھائیو، جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں،“

مگر میں ان لوگوں کو کہیے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں نہ کہ ہم ان پر کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی تجھنگاش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کہنا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا "نہیں" اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا "خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے، تو احوالات سکون پر آنے دیجئے تاکہ لوگوں کے حواس بر جا ہو جائیں، خیالات کی پر اگندہ گی دور ہو اور حقوق و صول کرتا مکن ہو جائے یہ تاریخ کی یہ روایت ہم نے مولانا کے الفاظ میں ہی نقش کی ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مطابق قصاص نہ کرنے والوں نے اولاً باقاعدہ طور پر مدینے میں ہی عدالتی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، وو صرے حضرت علیؓ نے بھی مطالبے کی تصویب کی۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کا حق تو مقتول کے شرعی وارثوں کو پہنچتا ہے نہ کہ تم کو۔ تمہیں یہ مطالبہ کرنے کا آئینی طور پر کوئی حق نہیں۔ تیسرے حضرت علیؓ نے جو عذر پیش کیا اس کو مطالبہ کرنے والوں نے صحیح قرار دیا، اگر ان کا مقصد غیر آئینی صورت حال پیدا کرنا ہوتا تو وہ ابتدا میں ہی حضرت علیؓ کے اعتذار کو غیر مقبول قرار دے دیتے، تو یا نفس مطالبہ قصاص میں اگر حضرت علیؓ اُن سے الفاق رکھتے تھے تو سرہست التوابے قصاص میں حضرات ٹلمجہؓ نو زبریر غیر ہم حضرت علیؓ کے ہمنوا تھے دو فوں ذہن ایک رائے پر متفق ہو گئے ماس کے بعد چار ہجینے تک مدعاہن قصاص خاموشی کے ساتھ دفاتر کار اور حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ حضرت علیؓ کے طرزِ عمل اور یاغیوں کی خاد افگیز لیوں کا مشاہدہ کر کے اُنہوں نے اندازہ لگایا کہ صورت حال اگر یہی رہی تو پھر ایسے ساز کار حالات کبھی پیدا نہیں ہو سکتے جس میں مطالبہ قصاص کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس مقام پر اگر حضرت علیؓ اور ان کے نقطہ نظر میں پھر اختلاف ہو گیا۔

حضرت علیؑ پرستور عالات کے پنج وخم کا حوالہ دیتے رہے۔ لیکن وہ اپنے مشاپھات کی بنا پر یہ سمجھنے لگے کہ اس طرح اس مطابق کی افادیت دلن یعنی کم اعد اس کے پورے ہونے کی آمید بالکل ختم ہو جائے گی، انہوں نے اب مزید تاخیر والوں کو مناسب نہ سمجھا اور وہ بالآخر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، حضرات طلحہؓ و زبیرؓ و نویؓ مکر روانہ ہو گئے۔ باشدگان مدینہ میں سے ایک جم غیر بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ تبعہم خلق کشید جم غذیرؓ ان کے مکہ پہنچنے سے قبل ان کے ہم رائے بہت سے لوگ اور اُبصالحاء کی ایک تعداد حضرت عائشہؓ کی قیادت میں پہلے ہی دہان موجود تھی۔ فاجتیح فیما خلق من سادات الصحابة و امہات المؤمنینؓ۔ اس طرح ہم خیال لوگ سب ایک بُلگے جمع ہو گئے۔

### مقصد اجتماع

ان کے اجتماع کا جو مقصد تھا وہ ذکورہ تفصیلات سے واضح ہو جائے کہ اس کی مزید صاحت حضرت زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ کا ان بیانات سے ہو جاتی ہے، جو انہوں نے مختلف مقامات پر دیئے، حضرت زبیرؓ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، "امیر المؤمنین عثمانؓ کو ملا سبب خلف شہروں اور دیہاتوں کے شرپند عناصر نے قتل کر دیا ہے، ہمارا مقصد ان خاتموں کے خلاف لوگوں کو آمادہ عمل کرنا ہے، تاکہ ان سے عثمانؓ کے خون کا بدال کیا جائے، کیونکہ اس کو اگر یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو اس طرح ہمیشہ خلفاء کی توہین ہوتی رہے گی، کوئی امام اور خلیفہ اس انجام سے محفوظ نہ سمجھا جائے گا۔"

لئے الطبری ج ۲ ص ۴۳۳، ۴۹۵۔ الکامل ج ۲ ص ۷۲۷۔

لئے البدایۃ والنہایۃ ج ۲ ص ۴۳۰۔

لئے حوالہ مذکور۔

حمد الطبری ج ۲ ص ۴۶۱۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا،  
 "حضرات! مختلف شہروں اور مدینہ تلوں کے خدامی لوگوں نے حضرت عثمانؓ  
 کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے عثمانؓ کے نعمتوں کو گورنمنٹ پر اعتراض کیا،  
 دراں حالیکہ ان جیسے لوگوں کو اس سے قبل بھی مناصبِ حکومت پر فائز کیا  
 جاتا رہا ہے، چراکا ہوں پر اعتراض کیا، حالانکہ اس میں بھی کوئی معقولیت نہ  
 تھی، ان کے لئے جب کوئی بھادرا اور عذر نہ رہتا تو انہوں نے اخلاقی و شریعت  
 کی قوامِ حدود کو توڑ کر ایک حرام خون نیز بلدر حرام، شہرِ حرام اور مالِ حرام کو  
 بھاپنے لے سکال کر لیا، بخدا: عثمانؓ کی ایک اٹکی روئے زمین کے ان جیسے  
 لوگوں سے بہتر ہے، پس ان لوگوں کے خلاف جمع ہو جاؤ تاکہ انہیں ایسی عبرت کا  
 سزادی جائے کہ دوسرا لوگوں کو بھی اس سے عبرت ہو اور آیندہ کسی کو اس طرح  
 دبیہ دلیری کی جسارت نہ ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرات ملکہ وزیری سے مدینہ کے حالات پوچھتے تو انہوں نے  
 کہ "مدینہ میں با غیول کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے مدینہ دن بدن خالی ہوتا جا رہا ہے،  
 لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، حق کو پہچانتے ہیں نہ باطل کو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ  
 کہا: یا ہمی مشادرت سے فیصلہ کر کے ہمیں با غیول کے خلاف اٹکھڑا ہونا چاہئے۔" صلح  
 و مشورے کے بعد اس کام کے لئے بصرے کا انتخاب کریا گیا اور عام منادی کرادی  
 گئی کہ "جو شخص اسلام کی سر بلندی، با غیول کے استعمال اور خونِ عثمانؓ کے  
 بدست کا خذیہ رکھتا ہو وہ اس قائلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرات ملکہ وزیری کے  
 ساتھ شریک ہو جائے یہ بصرے کے قریب پنج کران سب بنزگوں نے اہل بعزو  
 اور بیان کے گورنر کے نام چھیٹاں لکھ کران کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا، گورنر زیرہ

عثمان بن عفیف نے بھی ان کی طرف فاصلہ بھیج کر حالات معلوم کرنے کی کوشش کی،  
حضرت عائشہؓ نے فاصلہ دین کے حامیوں اپنے مقصد اور صورتِ حال کی وضاحت کی:

”مختلف شہروں اور قبائل کے نامہجاار اور شرپندوں نے حرم رسول کی  
بے حرمتی اور اس میں یدعوتوں کا ازٹکاب کیا، اور وہ انہی لوگوں کے لئے آمادگا  
بنا ہوا ہے، انہوں نے ماں ایسی حکمات کا ازٹکاب کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ  
اور اس کے رسول کی نعمت ان پر واعظ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے  
اماں المسلمين کو بلاگسی سبب کے قتل کر کے اس کی جان اور مال کو لپٹنے لئے  
حلال کر لیا تین بلدر حرام اور شہر حرام اور باشندگانِ شہر کی بے حرمتی کی، پھر  
دو باغی دہائیں ایسے حرم کل بیٹھ چکئے میں جو دہائیں کے باشندوں کے لئے گران  
اور مضر ہے، وہ ان سے نہ بے خوف ہیں نہ اپنے کو ان سے بچانے کی قدرت  
رکھتے ہیں، میرا مقصد آمدی ہی ہے کہ میں ان کے کرتوں، باشندگانِ مدینہ کی  
حالات اور اصلاح کے طریقوں سے مسلمانوں کو آنکاہ کروں.... اللہ اور اس کے  
رسول نے مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے کو جو اصلاح کا حکم دیا ہے، اسی کی طبق  
ہم اٹھے ہیں، معروف کا حکم اور اس پر لوگوں کو آنماڈہ عمل کرنا، منکر کا انکار  
اور اس کو بدلنے کے لئے لوگوں کے جذباتِ عمل کو ایجادنا، ہمارا تمام تر  
مقصود و صرف یہی ہے۔“

فاصلہ دین عثمان بن عفیف کے سامنے جا کر یہ مقصد بیان کرتے ہیں، وہاں سے  
مشورہ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہئے؟ انہوں نے غیر جانبدار اور  
خاموش رہنے کا مشورہ دیا، لیکن گورنر بصرہ عثمان بن عفیف نے تسلیم نہیں کیا، اور  
گورنر نے ایک اجتماعِ عام طلب کیا، ایک شخص کو تیار کر کے گورنر نے اس اجتماع میں  
اس مقصد کے لئے کھڑا کیا کہ وہ اہلِ جمل کے موقف کو غلط رنگ میں پیش کرے تاکہ

اہل بصرہ ان کی طرف اپنا دستِ تعاون نہیں رکھائیں۔ اُس نے اجتماع میں بھڑے ہو کر کہا:

”یہ لوگ جو تمہارے پاس مدینے سے آئے ہیں، اگر قدر کر تمہارے پاس پناہ لینے کے لئے آئے ہیں تو یہ کوئی معقول وجہ ان کی آہنگی نہیں۔ کیونکہ وہ شہر تو ایسا ہے جہاں پرندوں کو بھی پوری طرح امن حاصل ہے، اور اگر خونِ عثمانؑ کا بدل لیتے آئے ہیں تو یہاں آتے کا کیا مقصد؟ ہم تو عثمانؑ کے قاتل نہیں ہیں“، اسی مجموع میں سے ایک شخص کھڑا ہوئے صورتِ حال کی صبح و صاحت کر کے اس استدلال کے تارو پوڈ بکھیر دیتا ہے، وہ کہتا ہے:

”وہ کب یہ سمجھتے ہیں کہ قاتلینِ عثمانؑ ہم ہیں؟ وہ تو یہاں اس لئے آئے ہیں کہ قاتلینِ عثمانؑ سے مقابلے کے لیے ہماری مدد حاصل کریں“

اس کے بعد حضرت عائشہؓ اور حضرت طلحہؓ وزبیرِ مقامِ حربہ میں آجاتے ہیں اور ہر بھرے سے عثمان بن حنفیف اپنے ہم خیال لوگوں کو سے کریہاں آجاتے ہیں، دعویوں کا یہاں انتشار ہو جاتا ہے، حضرات طلحہؓ وزبیرؓ اور حضرت عائشہؓ پر بھرا پناہ مقصد بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہؓ نے باغیوں کے متعلق تقریبی کی وہ

”یہ لوگ عثمانؑ اور ان کے مقرر کردہ گورنمنٹ کی حیثیت گیری کرتے تھے، میں ہمارے پاس آکر یہ سے بھی بعض دفعہ مشورہ کرتے تھے، میکن ان کی بیان کرد़ یا توں پر جب ہم خور کرتے تو عثمانؑ کو ان باقتوں سے بیری، خدا ترس اور مسلمانوں کے تمام حقوق پورا کرنے والا پاتے، اور معتزضین کو فاجرِ دھوکے باز اور دروغ نہ گو۔ جن باقتوں کا یہ انہمار کرتے تھے، اس سے ان کا مقصد وہ نہیں، در پرده کچھ اور ہوتا تھا، جب ان کو کچھ قوت حاصل ہو گئی تو سرکشی اور ذیادتی پر اُتر آئے اور بیشتر کسی حقوق و وجہ کے خونِ حرام، شہرِ حرام اور بلدِ حرام کو اپنے سے حلال کر لیا، اس وقت ہمارے پیش نظر جو حرام ہے وہ اخحد قتلہ نہ عثمانؑ ماقا مقا کتاب اللہ، (قاتلینِ عثمانؑ کا موانعہ مگر کے ان پر ایٹھوں کی تباہی)

حکم کا نفاذ ہے، تمہارے نزدیک بھی اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا چاہئے۔  
 اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آجائی ہے کہ ان کا مقصد اس کے سوا اور پچھے نہ تھا  
 قاتلین عثمانؑ کو جو بوجہ خلافت کے زیر سایہ فذ ناتے پھر ہے ہیں، لورڈ یونیورسٹیز جن کا وجود  
 وہاں کے باشندوں کے لئے ایک مستقل علاوہ ہے، یعنی کروڑ اتنک بہنچا یا جائے اور صرف  
 میں حضرت علیؓ قاتلین کے خلبلو و سلطان کے متعلق تایپر اخیار کرنے کی وجہے اہل شام کے  
 خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، اہل الرائے نے آپ کو اس سے رُک جلانے کا  
 مشورہ دیا، چنانچہ خود حضرت حسنؓ نے منع کیا، یا ابتدی دع هداfan فیہ سفلی  
 و ماہ المسلمين و وقوع الاختلاف بینم فلم يقبل منه ذلك بل صمم على القتال  
 (ابا جان! ایسا نہ کجھ)۔ اس میں خواہ مخواہ مسلمانوں کی خون ریزی ہوگی اور باہمی اختلاف  
 میں اضافہ ہوگا، حضرت علیؓ نے یہ خود قبول نہیں کیا اور جنگ پر اصرار کیا، اہل مدینہ کو  
 حضرت حسنؓ کی اس رائے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اس کو اچھا سمجھا، اور اپنے ذور پر  
 حضرت علیؓ کی اس بارے میں رائے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ معاویہ اور اہل قبلہ کے  
 ساتھ قبال جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علیؓ نے ان کو بھی جنگ کا حکم دیا۔  
 اس دوران حضرت علیؓ کو حضرت عائشہؓ اور حضرات طلحہ و زبیرؓ کی کوششوں  
 کی خبر پہنچ جاتی ہے، حضرت علیؓ شام کی بجائے پناہ بصرے کی طرف موڑ دیتے ہیں  
 اور اہل مدینہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس کا بھی خاطر خواہ  
 جواب نہیں دیتے بلکہ یہ حکم ان پر اُسی طرح گراں گزرتا ہے جس طرح اس سے پہلے حضرت  
 معاویہؓ کے خلاف اعلان جنگ ان پر گراں گزرا تھا، طبیری کے بیان کے مطابق انصار  
 کے بزرگوں میں سے صرف دو آدمیوں نے حضرت علیؓ کے ساتھ تھاون کے لئے آمد کی  
 کا انتہا رکیا، فاچا پر رحلان من اعلام الانصار اور ۔۔ یا م بد ری اصحابؓ۔

ابن کثیر نے کبار صحابہ میں سے چار کے نام بطور مثال ذکر کئے ہیں نیو کہا ہے کہ بعض کے  
علاوہ اکثر اہل مدینہ پر حضرت علیؓ کا یہ عکم گراں گزارنا منتقل عنہ اکثر اہل المدینۃ  
و استحباب لہ بعضہم۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے صاف طور پر حضرت علیؓ کو یہ کہہ  
جسکے روکنے کی کوشش کی کہ آپ اگرچہ یہا درآدمی ہیں لیکن فن حرب سے نا آشنائی،  
انت رجل شجاع لست صاحب مرادی فی الحروب۔ نیز حضرت حسنؓ عبد اللہ بن  
سلامؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ تینوں حضرات نے مدینہ پر ٹھیک پر جو اعتراض کیا اور حضرت  
علیؓ کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی، افسوس حضرت علیؓ اس پر بھی راضی نہ ہوئے  
اور باغیوں کی رائے کو ترجیح دی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اکابر صحابہ اور دیگر اہل الرأی خوش دلی کے ساتھ حضرت  
علیؓ کے ساتھ تعاون پر آمادہ نہ ہوئے، ان حالات میں حضرت علیؓ کے لئے بہتر صورت یہ تھی  
کہ وہ جنگی اقدام کی بجائے اقہام و تفہیم سے کام لیتے، مدینہ میں ہی بیٹھ کر حضرت مالک شافعیؓ  
حضرات طلوب و زیریغ کے پاس اپنا وفد بصحیح کر مفاہمت کی راہ تلاش کرتے، حضرت مالک شافعیؓ  
وغیرہ نے اگر جذبات سے مجبور ہو کر ایک ایسا قوم اٹھایا تھا، جسے حضرت علیؓ نامناسب  
سمیحتے تھے، تو اس کا صحیح علاج یہ تھا کہ حضرت علیؓ خود ایسے اقدام سے اجتناب کرتے ہوئے  
یہ کہ خود بھی جوابی کارروائی کر کے حالات کے سازگار ہونے کی رہی ہی امید بھی ختم کر دیتے،  
لیکن حضرت علیؓ نے اکابر صحابہ کے عدم تعاون کے باوجود ایسا قوم اٹھا دا لاء، بسہاسوت  
تک نہ اٹھانا چاہئے تھا جیسے تک کہ یا ہمی انہیام و تفہیم کی کوشش ناکام نہ ہو جاتی، یا  
پھر اہل مدینہ اور اکابر صحابہ آمارہ تعاون نہ ہو جاتے، ایک کی غلطی دوسرے کے غلط اقدام  
کے لئے وجہ جواز نہیں بن سکتی، ہم ماننے لیتے ہیں کہ اہل جمل کا موقف صحیح نہ تھا، لیکن یہ

ابن الطبری، ج ۷، ص ۲۷۷۔ البدریۃ، ج ۷، ص ۲۳۳۔ الکامل، ج ۳، ص ۲۲۱۔

ابن الطبری، ج ۷، ص ۳۲۱۔ الکامل، ج ۳، ص ۱۹۸۔

سلہ البدریۃ، ج ۷، ص ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۳۳۔ ابن الطبری، ج ۷، ص ۲۵۵، ۲۵۸۔ الکامل، ج ۳، ص ۲۱۲۔

سوچنا چاہئے کہ وہ نہیں تھے، یہ اختیار اور بے اقتدار تھے، ایسے لوگوں کے جذبات میں اشتعال کا پیدا ہونا قرین قیاس ہے، حضرت علیؓ جیسے کچھ بھی تھے با اختیار اور صاحب اقتدار تھے، انہیں آگ کے مقابلے میں پانی بن کر آنا چاہئے تھا نہ کہ آگ کے مقابلے میں آگ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس پر انتظار کرنا منظور نہیں کرتا، اہل جمل کے موقف کو کسی فلسطینی سمجھنے والوں کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہئے کہ انہیں راہ راست پر لانے کے لئے کیا جنگ کے سوا اور کوئی حریب، طریقہ یا صورت نہ تھی اور کہ پہلے اُس کو آزمایا جاتا بعد میں یہ انتہائی قدم آٹھایا جاتا۔

بہر حال حضرت علیؓ بھی اپنا شکر لے کر بیان پر بصرہ روانہ ہو جاتے ہیں، ایک مقام پر بیکر پڑا اور دوآل لیتے ہیں، دونوں گروہوں کا طریقہ کاراگرچہ نامناسب تھا، تاہم مقصد دونوں کا نیک اور بیہمی صلح تھا، صلح کی بات چیت جو مدینے میں بیٹھ کر ہوئی چاہئے تھی اس کے لئے سلسہ نبیانی کا آغاز میدان کارزار میں ہوا، جہاں طرفین کی فوجیں آئنے ساختے گھرڑی تھیں، پھر یہ قسمتی سے حضرت علیؓ کی فوج میں یافیوں کا وہ پورا ٹولہ موجود تھا جنکی نظر میں صلح اُن کی موت کے مترادف تھی۔

### مساعیٰ صلح

(حضرت علیؓ نے حضرت قعیاذؑ کو صلح کی بات چیت کے لئے اہل جمل کی طرف بیجا۔) انہوں نے اُمّۃ المؤمنین حضرت مالک شریفی المدح خاں سے ان کی غرض و غایت پوچھی، انہوں نے کہا ہمارا مقصد صرف اصلاح بین المسلمین ہے، حضرات اللہؐ وزیر خان نے بھی یہی جواب دیا، حضرت قعیاذؑ نے کہا ہمارا مقصد بھی یہی کچھ ہے، لیکن حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح کا طریقہ کارکیا ہو، اس کی اگر نشاندہی ہو جائے تو اصلاح ممکن ہے، وگرہ نہیں، حضرات طلوعؓ وزیر خان نے کہا: «قاتلین عثمانؓ کو گیفر کرواتا ہے، پہنچایا یا ٹائے کیونکہ مطالبہ قصاص کو پورا کرنا قرآن کو زندہ کرنا ہے اور اس کا ترک قرآن کو ترک کرنا ہے، حضرت قعیاذؑ نے انہیں سمجھایا، آپ کا مطالبہ بالکل درست ہے نیکن موجودہ حالات میں اسے فی الواقع پورا کرنا ممکن ہے، حالات کو سکون پر آئینے دیجئے، آپ کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے گا، اہل

جمل کی رائے اس سے پہلے اگرچہ مختلف تھی، لیکن موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے اپنی پھیلی رائے پر اصرار کرنے کی بجائے اس تاثیر والتواء کی تجویز کو قبول کر لیا، انہوں نے دیکھا طرفین کی فوجیں آئنے سامنے کھڑی ہیں، اس موقع پر اپنی رائے پر اصرار دعوتِ جنگ کے مترادف ہے، ان کا مقصد قتال و جدال ہوتا تو اصرار کرتے، ان کا مقصد تو صرف اصلاح تھا، قتال و جدال کئے بغیر اگر محض اپنے طریق کا رسیدست بردار ہونے سے ہی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کیا ضرور ہے کہ آدمی اصل مقصد کو چھوڑ کر اپنے دفعع کردہ طریق کا پر ہی اصرار کرے، انہوں نے عفتتِ قلعے کو کہا "ہم آپ کی تجویز کو قبول کرتے ہیں، حضرت علیؓ یہی اگر اس سے متفق ہوں تو مطیک ہے" حضرت قلعے نے واپس آگر حضرت علیؓ کے سامنے تفصیل پیش کی، آپ سنن کر بہت خوش ہو تو دو نوں گروہ اتفاق و اتحاد کی اس صورت سے ٹھے خوش ہوئے، فخر حمولاء دھوؤلاء، حضرت علیؓ نے اس موقع پر تقریر کی جیسیں میں جاہلیت کی زندگی اور اس کے بعد نعمتِ اسلام سے سفر از ہونے کا ذکر کیا، اہل اسلام کے اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر روشنی ڈالی، حضرت ابو یکرہؓ و عمرؓ اور عثمانؓ کا ذکر خیر کیا، پھر کہا: "عثمانؓ کے دوسرے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دنیا کے طلب کار اور اللہ کی نعمتوں اور اہل فضل و کرم پر کڑھتے والے تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو خشم کر کے پھر وہی حالات پیدا کر دیے جائیں جو اسلام سے پہلے تھے" اس کے بعد آپ نے شکر میں عام منادی کر ادمی کہ کل ہم صلح کی خاطر اہل جمل کے پاس جائیں گے، وہ لوگ ہمارے شکر سے الگ ہو جائیں جنہوں نے قتلِ عثمانؓ میں شرکت یا اعانت کی، کل کو شکر کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ نہ جائیں۔

### آغازِ جنگ، سبائیوں کی شرارت

صلح کی یہ صورت ڈیکھ کر سبائی قتنہ پرداز گھیرا ٹھے، انہوں نے صلح کی موت کو فساد میں برلنے کے لئے باہم مشورہ کیا، اور کہنے لگے، رَأَى النَّاسُ فِينَا وَاللَّهُ وَاحْدَهُ وَان يصطلعوا مع عَلَى فَعْلِ دَمَاسَاءِ دِيمَ لَوْگُونَ کے بارے میں ان کی

راہے ایک ہے، ان میں اگر بایہم صلح ہوئی تو وہ ہمارے نون پر ہی ہوگی، اس سلسلے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہئے، کسی نے کہا حضرت علیؑ کو بھی وہیں پہنچا دو جہاں عثمان کو پہنچا لیا ہے، کسی نے کہا ہمیں یہاں سے بھائی جانا چاہئے بعد اندھین مہماں جو اس گروہ کا بانی اور سرفہرست تھا، اس نے کہا سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جب دونوں گروہ بایہم ملیں تو چیلے سے عنگ کی آگ بھر لادی جائے اور انہیں غور و فکر کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اذَا تَقِيَ النَّاسُ هَمْدًا فَأَنْشِبُوا الْقَتْالَ وَلَا تَفْرَغُوا هُمْ لِلنَّظَرِ إِنَّ رَبَّكَ  
پران کا اتفاق ہو گیا، دوسرے تمام لوگ ان کی اس سازش سے بے خبر تھے، و تفرقوا  
عَلَيْهِ وَالنَّاسُ لَا يَشْعُرُونَ -

حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اپنا شکر لے کر اہلِ بیتل کے قریب چلتے، باہمیوں کا شکر  
بھی سمجھی طرح ان کے ساتھ لوگ کروہاں پہنچ گیا، حضرت علیؑ نے اپنے نایندے اُن کی  
طرف اور انہوں نے اپنے نایندے حضرت علیؑ کی طرف بھیجی، فضاپوری طرح صلح کے  
لئے ہمارے ہو گئی۔ دونوں گروہوں کے لوگ آگر بایہم ملتے رہے۔ سب کے نزدیک صلح  
یقینی تھی، کسی کے دل میں شک نہ تھا، وہم لا یشکون فی الصلح، اس رات ایسی  
آرام کی نیتدی سوئے کہ اس سے قبل ایسی نیتدی کیجئے نہ سوئے تھے، فیما قواعی الصلح و باقی  
بلیلة لم يبیتوا به مثلها للعافية من الذي اش فوا عليهم۔ نیکن سیاقی فتنہ پدازوں  
کی نیتدیں اُس رات حرام ہو گئیں، ایک پل نہ سوئے، ساری رات بایہم مشورہ کرتے  
رہے، بات المذین اثار و امر قتل عثمان بشری لیلۃ بیتلہ مھا قط... و جعلو  
یتشاردوں لیلۃ کلماء، صبح اندر ہیرے مٹے جنگ چھیر دینے کی خفیہ اسیکم انہوں نے  
تیار کر لی، اس بات کا پورا خیال رکھا گیا کہ کسی طرح یہ راز افشا نہ ہو، اجتماعوا علی  
انشاب المرء ب فی السر و استنسن وابدلا لک خشیة ان یغطن یماحا ولو  
من المشہ، رات کی تاریکی ابھی چھٹتے شیاٹی تھی کہ انہوں نے اچانک اہلِ بیتل پر حملہ  
کر دیا، اہلِ بیتل کو مجبوراً مدافعت میں ہتھیار اٹھانے پڑے، انہوں نے سمجھا کہ حضرت  
علیؑ کے شکر لے ہمیں دھوکے میں رکھ کر اس طرح اچانک حملہ کر دیا۔ یہی خیال حضرت

علیٰ کے گروہ نے اہل جمل کے متعلق کیا، نیز ان سبائیوں نے اس سے قبل ایک اور حرکت یہ کی کہ بصرے میں حضرت علیؑ کے متعلق یہ غلط افواہ آزادی کو حضرت علیؑ اگر اہل بصرہ پر غالب آگئے تو وہ ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو باندھنی بنالیں گے، اور عین جنگ کے آغاز کے وقت اپنا ایک آدمی حضرت علیؑ کے پاس مقرر کر دیا کہ جب وہ جنگ کا شورش کر اس کے متعلق دریافت کریں تو وہ حضرت علیؑ کو یہ خبر دے کہ اہل جمل نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے صلح کا مینداں کا روز ایک جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے، حقیقی صورت حال کیا ہوئی اس سے دونوں گروہوں نے خبر رہے، ولایشعمر محمد منہم بما واقع الامر في نفس الامر۔ اور اس طرح ان سبائیوں کی فتنہ اگلی یہ کی وجہ سے ایک مرتبہ امت مسلمہ پھر گردابِ مصیبت میں مبتلا ہو گئی، یہ جنگ اس بات کا نتیجہ تھی کہ ایک گروہ کے غلط اقدام کو روکنے کے لئے وہی اقدام کیا گیا جس کو روکنے والوں نے غلط سمجھا تھا، حضرت علیؑ اگر قویح کشی کی جائے مدینے میں بیٹھ کر ہی صلح کی کوشش فرماتے تو سبائیوں کو ایسی شرارت کا موقع ہی نہ ملتا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں باہم خون رینی ہوتی، وکان امر اللہ قدر امقداد۔

واقعات کی غلط تصویر کشی

واقعات کی غلط تصویرگشی

جنگِ جمل کی مذکورہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں گروہ تھاں میں کی بجا اُس صلح کے ممتنع تھے، اور ان کی حسب خواہش صلح بھی تقریباً ہو چکی تھی، مگر اس موقع پر اُسی گروہ نے آگے بڑھ کر جنگ کی آگ بھڑکائی، جس نے اس سے قبل حضرت عثمان بن عُثَمَنْ کو شہید کر کے اُمّت میں افراط و انتشار کا بیج بویا تھا، اس گروہ کے علاوہ طرفین کے کسی ایسے آدمی کا نام نہیں کسی کتاب سے نہیں دکھایا جاسکتا جس نے جنگ بھڑکانے کے لئے ادنیٰ اسی کوشش بھی کی ہو، لیکن مولانا نے جنگِ جمل کی جو تصویر کی

کی ہے، اس میں کئی باتیں محل نظر اور خلاف واقعہ ہیں۔ ہم فتحراً ان کی وضاحت کرتے ہیں، مولانا لکھتے ہیں :-

یہ قافلہ (ابن جبل کا) لگتے سے بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنی امیہ میں سے سعید بن العاص اور مروان بن الحکم بھی ان کے ساتھ نہیں، مرزا ظہیر ان (موجود) دادی فاطمہ پڑھ کر سعید بن العاص نے اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم قاتلین عثمانؑ کا بدله لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس مشکل میں موجود ہیں۔ عہدؑ کا شارہ حضرت طلحہؓ و زبیرؓ و غیرہ و زرگوں کی طرف تھا، کیونکہ بنی امیہ کا مامن خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمانؑ تصرف دہی نہیں میں جنہوں نے آن کو قتل کیا یا جو ان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لئے باہر سے آئے، ہدکہ وہ سب لوگ جنہوں نے وقتاً فوقاً حضرت عثمانؑ کی پالیسی پر اعتراضات کئے تھے، اور وہ سب لوگ بھی قاتلین عثمانؑ کے نہ رہے، مروان نے کہا کہ "نہیں میں موجود تھے مگر قتل عثمانؑ کو روکنے کے نہ رہے"، مروان نے کہا کہ "نہیں ہم ان کو (یعنی طلحہؓ و زبیرؓ اور حضرت علیؓ و عسکر عثیمؓ کو) ایک دوسرے سے رہا گئیں گے۔ دونوں میں سے جس کوشکست ہو گی وہ تو یوں ختم ہو جائے گا اور یہ حقیقاب ہو گا وہ اتنا لکز و رہو جائے گا کہ ہم باسانی اس سے منٹ لیں گے"۔  
(خلافت و ملوکیت، ص ۱۲۸)

اول تو یہ روایت استادی حیثیت سے قابلِ التفات نہیں، اس میں ایک تو دو اقدی ہے، واقعی کے اوپر تین واسطے اور ہیں، تیسرا واسطہ جو واقعہ کا اصل راوی ہے وہ جمیل العین والحال ہے، جس کے نام کا پتہ ہے نہ کیفیت کا، پھر معنوی حیثیت سے بھی یہ روایت محل نظر ہے۔

اکسی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں کہ حضرات طلحہؓ و زبیرؓ نے حضرت عثمانؑ کی پالیسی پر اعتراضات کئے ہوں، انہوں نے تو بلکہ ان کی طرف سے دفعہ کیا، ۶۔ اس عجروہ روایت کی رو سے تو سعید بن العاص کی اس رائے سے ایک

جلیل القدر صحابی (متغیر بن شعیب) کا اتفاق معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا تھا ان المرائی ما رائی سعید بن العاص، جس کا مطلب یہ ہوا کہ خود صحابہ اصل قاتلوں کو چھوڑ کر اکابر صحابہ کے درپے آزار ہونے کی فکر میں تھے۔ نعمود بالله من ذلک.

۴۔ بنی امیہ کا اگر یہ عام خیال تھا تو جیس وقت انہوں نے اس کام کے لئے جگہ کا انتخاب کیا، تو پھر وہ کام کے لئے تو پھر مدینہ کا انتخاب کرنا چاہئے تھا، کیونکہ مولانا مودودی صاحب کی تشریح کے مطابق تمام باشندگانِ مدینہ ان کی نظر میں قاتلین عثمانؓ ہی تھے، ان کو پہلے تمام اہل مدینہ کو تربیح کرنا چاہئے تھا، پھر بنی امیہ کو یہ خیال آئے جا کر کیوں آیا؟ آنماز ہی میں اس کے مطابق منصوبہ بندی کیوں نہ کر لی گئی جبکہ کہ شروع سے ان کا عام خیال یہ تھا کہ سب اہل مدینہ بھی قاتلین عثمانؓ ہیں؟

۵۔ نیز جب بنی امیہ کا یہ عام خیال تھا تو انہوں نے سعید بن العاص کی اس بحث کو قبول کیوں نہ کر لیا؟ اس بحث کی تائید میں اگر اوازُ عٹی بھی تو وہ ایک غیرِ اموی صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تھی، ایسا کیوں ہوا؟ بنی امیہ نے اس بحث کی تائید کیوں نہ کی جو ان کے خیالات کے مطابق تھی؟

۶۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک عظیم شکر کے چند آدمی مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں کہ ان سب سالاروں کو ہی تربیح کر دیا جائے جی کے ہاتھوں میں شکر کی قیادت ہے، کون شخص ایسی جڑات کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی جڑات کر جبی بیٹھے تو سن طرح ممکن ہے کہ اس کے بعد اس کا سر بھی اس کے جسم کے ساتھ لگا ہے؟

پھر یہ روایت ابن جریر طبری اور ابن الاشیر نے بھی ذکر کی ہے جن کا مولانا نے حوالہ نہیں دیا، ان دونوں نے اس روایت کو جس انداز سے ذکر کیا ہے اس سے روایت کا مفہوم ہوتا ہے کہ مولانا بالکل واضح ہو جاتا ہے یا پھر اس سے وہ مفہوم نہیں نکلتا جو مولانا نے مروان کے متعلق یا اور کرانا چاہا ہے، طبری و ابن الاشیر کی روایت کے مطابق "سعید بن العاص، مروان اور اس کے ساتھیوں کو ذاتِ عرق میں اگر ٹھے اور ان سے وہی بات کی جو مولانا نے ذکر کی ہے، اس کے جواب میں ان حضرات نے کہا (یہاں مروان کا لفظ نہیں "الموا" ہے) کہ ہم نے بوطی کا ر

اختیار کیا ہے مکن ہے اس طرح ہم تمام قالمین عثمانؓ کو کیفر کردار تک پہنچا دیں، بل نسلیعتنا  
نقتل قتلہ عثمان جسمیاً (دونوں کو ایک دوسرا سے لڑاتے کا ذکر نہیں) اس کے بعد  
سعید بن العاص حضرات طلحہ و زبیرؓ سے باکر ہے (یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اگر انہوں نے  
اہل قانطہ کو انؓ کے قتل کرنے کا مشورہ دیا ہوتا تو پھر خود انؓ سے جاکر ملتے کیوں؟) اور انؓ  
پوچھا کہ اگر آپ لوگ کامیاب ہو گئے تو امیر خلافت کس کو سونپیں گے؟ وہ کہنے لگے: "ہم دونوں  
میں سے جس کو لوگ پسند کریں گے" سعید بن العاص نے کہا۔ یہ صحیح نہیں بلکہ کامیابی کی  
صورت میں ہمیں امیر خلافت عثمانؓ کے صاحبزادے کو سونپنا چاہئے کیونکہ ہم ان ہی کے تون  
کے مطابق کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں؟ انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تاریخ ابن خلدون  
میں بھی یہ روایت اسی طرح ہے، جس کا مولانا نے حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ مولانا کو این خلدون  
کا حوالہ نہیں دینا چاہئے تھا، مولانا نے طبقات ابن سعد کی جس روایت کا ترجیح دیا ہے وہاں  
روایت سے بہت مختلف ہے، اس کی کچوں شان دہی ہم نے تو سین میں کر دی ہے۔

اس روایت سے ایک تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے جس کی نسبت حضرت مروانؓ کی طرف  
کی گئی ہے کہ ہم صحابہؓ کرامؓ کو آپس میں لڑائیں گے، پھر اس روایت کا جو آخری حصہ ہے  
وہ اس کے من گھر ہوت ہونے کی صاف طور پر شہادت دیتا ہے، اہل جبل کا موقف امیر خلافت  
سبھالنا تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف قالمین عثمانؓ سے ملننا تھا جیسا کہ پہلے ان کے بیانات  
گذر چکے ہیں۔ ان میں سے بالخصوص حضرات طلحہ و زبیرؓ کا قطعاً یہ مقصد نہ تھا کہ حضرت  
عثمانؓ کی بجائے ان میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہئے، دونوں حضرات میں قطعاً خلافت کی طبع  
نہ تھی، اس سے قبل دو موقعے ایسے آپ چکے تھے جب ان میں سے کسی نہ کسی تے خلیفہ بن جائز کا  
امکان تھا، لیکن دونوں موقوں پر انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، ایک حضرت  
عثمانؓ کے اختاب کے موقعے پر، دوسرے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جب باغیوں نے  
انہیں خلیفہ بنانا چاہا۔ حافظ ابن حجر نے بھی محدث مہلب کا یہ قول نقل کیا ہے:-

”ان احمد الْمِنْقَلُ ان عَائِشَةَ وَمَنْ مَعَهَا نَازَ عَوَاعِيْلَى فِي الْخَلَّا  
وَلَادْعُوا إِلَى احْدَامِهِمْ لِيُولُوهُ الْخِلَافَةَ وَأَنَّمَا انكَرَتْ هِيَ وَمَنْ  
مَعَهَا عَلَى عَلَيْهِ مَنْعَهُ، مَنْ قُتِلَ قَتْلَةَ عَثَمَانَ وَتَرَكَ الْاقْصَاصَ مِنْهُمْ  
كُسْيَ لَيْزِيْرْ نَقْلُ نَهْرِیْنِ كَيَا كَيْ حَفَرَتْ عَائِشَةَ أَوْ إِنَّ كَيْ سَاتِھِیْوَنَ كَاهْ، قَصْدَ وَضَرَتْ  
عَلَيْهِ خِلَافَتِ مِنْ جَهَنَّمَ اتَّهَا، نَهْرِیْنِ نَزَّلَ اپْنِیْ مِنْ سَتَّ كَسْیِ اِيكَسَكَ مَتَّلِعَنَ  
يَهْ دَعَوْتَ رَیْ كَأْسَهَ ضَلِيلَهَ تَبَا يَا جَاهَسَهَ، إِنْ كَاتَمَ تَرْجِمَهَ اِحْفَرَتْ عَلَيْهِ سَيَرَهَ  
تَهَا كَهْ وَهَ قَصَاصِ عَثَمَانَ کَے بَارَے مِنْ آرَطَے آرَبَهَ بِهِنْ اور خُودِ بِھِیْ قَاتَلِیْنَ سَے  
قَصَاصِ نَهْرِیْنِ لَے رَهَبَهَ بِهِنْ“  
حَاظَ اَبِنِ حَزَمَ لَكَّھَتَھَ ہِیْ :-

حضرت اُمُّ الْمُؤْمِنِینَ عَائِشَةَ، خَلِجَهَ، زَبِيرَہَ اورِ اَنَّ کَے دِیْگَرِ سَاتِھِیْوَنَ نَزَّلَ کَبُھِی  
حضرت عَلَيْهِ مَسَّ کَی خِلَافَتِ کُونَهَ مُلْطَّبَهَا، نَهْرِیْسَ پَرْ کَوْئَیِّ مَعْنَیِّ کَیَا، نَهْرِیْسَ پَرْ اِلِیْسِی  
کَوْئَیِّ بَرْجَ کَی جِسْسَ سَے اَنَّ کَامِقَصَدِ حَفَرَتْ عَلَیْهِ کَوْسِیَا رَخِلَافَتِ سَے گَرَانَا ہُوَ  
دَأَنَّ کَے مَقْبَلَیِّ مِنْ اُنْہِوں نَتَّ کَسِیِّ اَوْرَکَی خِلَافَتِ قَاتِمَ کَیِّ، نَهْ کَسِیِّ کَی بِعْتَ  
کَیِّ... ... یَصْبَحُ طَوْرِ پَرْ ثَابَتِ ہے جِسْسَ مِنْ کَوْئَیِّ اِشْكَالِ بِھِیْ کَوْهَ بَعْرَ حَضَرَ  
عَلَيْهِ سَے جَنَگَ کَرَنَے، یَا اَنَّ کَے خِلَافَتِ لوَگُوں کَوْ اِبْهَارَنَے یَا اَنَّ کَی بِعْتَ قَوْلَنَے  
کَے لَے نَہْرِیْنِ نَگَّتَهَ، اَنَّ مِنْ سَے کَوْئَیِّ اِيكَ چِیزِ بِھِیْ اَنَّ کَامِقَصَدِ ہُوَقِیِّ تو  
سَبَ سَے پَہْلَے وَهَ حَضَرَتِ عَلَیْهِ اَلْكَ اپَنَا کَوْئَیِّ ضَلِيلَهَ تَبَا کَرَ اَسَ کَے ہَا تَهَ پَر  
بِعْتَ کَرَتَهَ، پِسْ مَعْلُومَ ہُوَکَرَ بِعْرَمَوْرَفَ اَسْ شَكَافَ کَوْ بَنَدَکَرَنَے کَے لَئِے  
نَگَّتَهَ جَوْ حَفَرَتْ عَثَمَانَ، نَزَّکَهَ لَلِمَانَ شَهِیدَ کَرَ عَتَیَّنَے جَانَے سَے اِسلامَ مِنْ پَرِدا ہُوَکَا  
تَھَا ہَلَكَ

لِلْفَعْلِ الْمَبَارِيِّ، كِتَابُ الْفَقْنِ، جِنْ، صِ ۵۷۸، طَبْعَ دِهْلِيَّ -

لِلْفَعْلِ الْمَبَارِيِّ، كِتَابُ الْفَقْنِ، جِنْ، صِ ۵۷۸، طَبْعَ اَوَّلَ، المَطبَعَ الْادِبِيِّ مِصْرِ، ۱۴۱۳ھ

یکن مذکورہ روایت سے اس کے برعکس حضرات طلحہ و زبیرؓ کا یہ مقصد سامنے آتا ہے کہ وہ حضرت علیؓ کی خلافت کی بجائے اپنی خلافت منوانجاہتے تھے۔ غالباً ہر ہے یہ تصور جس طرح تاریخ کی دوسری روایات کے خلاف ہے، اسی طرح صحابہؓ کرام کے جموعی سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ بنابریں یہ روایت نہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے نہ معنوی (درایت) لحاظ سے قابلی محنت۔

مزید برآں سعید بن العاص جن سے متعلق روایت میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے حضرات طلحہ و زبیرؓ کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا، سرے سے اس رفقاء میں شرکیں ہی نہ تھے، شہادت عثمانؓ کے فوراً بعد انہوں نے گوشہ گیر کا اختیار کر لیا تھا۔ ابن عبد البرؓ لکھتے ہیں، «ما قتل عثمان لزم سعید بن العاص هذا بيته و اعتزل الجمل و صفين خلم يشهد شيئاً من تلك الحروب، (شہادت عثمانؓ کے بعد سعید بن العاص گھر تی میں بیٹھ رہے، اور جنگ جمل و صفين کے دونوں میں گوشہ گیر رہے، ان جنگوں میں وہ گئے ہی نہیں ہے»

طبری کی ایک دوسری روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے باشد ذکر کی ہے، جس کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے روز افزون بڑھتے ہوئے ناشکلا حلالات کے سیش نظر بنتگاموں کی بجائے پر امن زندگی کو ترجیح دی، الفاظ روایت یہ ہیں:

”مغیرہ بن شعبہ اور سعید بن العاص ابی قافلہ کے ساتھ لگئے سے ایسی چند قدم ہی آگے گئے تھے کہ سعید نے مغیرہ سے کہا، آپ کی کیا لائے ہی؟“ مغیرہ نے جواب میں کہا، ”خدائی کی قسم علیودگی مناسب ہے، مجھا س طریقے سے بھی حالت

له الاستیحاب، ح ۱۰۵ ص ۱۴۵۔ حافظ ابن کثیر اور ابن حجر کے بیانات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ابین محرر نے ”تہذیب“ میں ابین عبد البرؓ کے حوالے میں لکھا ہے کہ ان میں اعتماد الجمل و صفين الاصحایہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کان معاویۃ عاتیہ علی تخلفہ عنده فی حرویہ ابین کثیر کہتے ہیں لما مات عثمان اعتماد لافتہ فلم يشهد الجمل ولا صفين (تہذیب، ح ۲، ص ۵۔ الاصحایہ، ح ۲ ص ۹۹۔ البدایۃ، ح ۸، ص ۳۴)

سُدھر لئے کی کوئی امید نہ رہیں تھے.....، اس رائے پر دونوں نے اتفاق کیا تو  
ان سے الگ ہو کر بٹھ گئے، سعید بن العاص و اپنے مکہ آگئے۔

گویا تو اُن توانوں نے ابتداء ہی سے قافلہ میں شرکت نہیں کی اور شرکت صحیح تسلیم کر لی  
جائے تو یہی انہوں نے چند قدم میل کر ہی حالات کا اندازہ کر کے میخدانی کو ترجیح دی،  
ان کی تھے مردانہ سے کوئی لفظ کو ہوئی نہ حضرات طلحہ و زبیرؓ سے خلافت کے معاملے  
میں کوئی اختلاف، بغیر کسی وجہ کے ان خود ان کے ذہن میں کھٹک پیدا ہوئی، اس کا  
الہمار انہوں نے ایک صحابی رسول مغیرہؓ میں شعبہ سے کیا، انہوں نے اعتزال کا مشورہ  
دیا اور دونوں الگ ہو گئے (وصف اللہ عنہ ما کہاں) ان کی یہ امن پسندی اور کہاں  
ان کی یہ تجویز کہ قاتلین عثمانؓ پہلے اکابر صحابہ حضرات طلحہ و زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ  
وغیرہ کو قتل کیا جائے؟ امن پسند صحابہ کرام کے فقط نظر کو دشمنان صحابہؓ نے کس قدر  
مسخ کر کے رکھ دیا ہے، الامان والمحفیظ۔

جنگ سے کنارہ کشی نصوص شرعیہ کی بناء پر تھی -

اگے مولانا لکھتے ہیں:-

"دوسری طرف حضرت علیؓ جو حضرت معاویہؓ کو تابع فرمان بنانے کے لئے شام  
کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، بھرے کے اس اجتماع کی اطلاعات سن کر  
پہلے اس صورتِ حال سنتنے کے لئے بجور ہو گئے، لیکن بکثرت صحابہ اور  
ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جگی کو فطری طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے  
تھے، اس ہم میں ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا  
کہ وہی قاتلین عثمانؓ پر جن سے پچھا چھڑانے کے لئے حضرت علیؓ فتح موقع کا انتظار  
کر رہے تھے اُس تھوڑی سی قوعی میں جو حضرت علیؓ نے فراہم کی تھی ان کے ساتھ  
شامل رہے۔ یہ چیز اُن کے لئے بدنامی کی وجہ بھی ہوئی اعد فتنے کی بھی۔ (ص ۱۲۹)

گویا مولانا کو بھی اعتراف ہے کہ صحابہ کی اکثریت اور ان کے زیر اثر مسلمانوں نے حضرت علیؓ کا ساتھ نہیں دیا، اور حضرت علیؓ نے "تھوڑی سی فوج ہی فراہم کر سکے، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہا ہیں جمل کا موقف غیر آئینی یا مجاہدیت پر مبنی تھا، کچھ تپکھنے بیان کے پاس ضرور ایسی تھیں جن کی بناء پر لوگوں نے حضرت علیؓ کی بجائے ان کا ساتھ زیادہ دیا، یا پھر کنارہ کشی اختیار کر لی، اگر ایسا نہ ہوتا تو صحابہ کی اکثریت غیر جانبدہ ہوئے کی بجائے "غیر آئینی" صورت حال اور "جہادیت" کے خلاف فرو رہضرت علیؓ کے ساتھ مل کر آمادہ پیکار ہوتی۔

پھر عن حضرات نے اس مہم میں حضرت علیؓ کا ساتھ نہیں دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، بلکہ اُن کا یہ عدم تعاون اُن نصوص کی بناء پر تھا جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع مسلمانوں کی اس خانہ جنگی کو فتنے سے تعبیر کیا تھا، پھر اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ کو لکھتے ہیں:-

"بِمَلْوَسْقِينَ كَيْ جَنَّگَ مِنْ حَضْرَتِ عَلِيٍّ كَيْ پَاسِ إِلَيْسِيْ كَوْئِيْ نَصْرَ نَهْ تَحْصِيْ جُوْ نَهْ تَوْتِيْ  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنی ہو، اس کی زیاد محض اُن کی ذاتی رائے پر تھی اور اکثر  
صحابہ نماں جنگوں میں حضرت علیؓ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ بیشتر صفا  
سرکے جنگ میں شریک ہی تھیں ہوئے نہ اس طرف نہ اُس طرف.....  
ان صحابہ کے پاس ایسی نصوص تھیں جو انہوں نے تبی صلی اللہ علیہ وسلم سے  
سُنی تھیں جو اس طرف رہنمائی کرتی تھیں کہ جنگ و جلال سے اجتناب اسیں  
شریک ہونے سے بہتر ہے، ان میں سے بعض نصوص ایسی بھی تھیں جن میں صراحت  
ان جنگوں میں شریک ہوتے رہ کا گیا ہے، اس سلسلے میں بہت سے آثار مشہور ہیں،  
شرح الطحاوی فی العقیدة السلفیة میں ہے:-

وَقَدْ دَعَ عَنِ الْقَتْالِ أَكْبَرُ الْأَكْبَارِ مَا سَمِعَهُ مِنَ النَّصْوصِ فِي الْأَمْرِ

بِالْقَعْدَةِ وَمَا رَأَوْهُ مِنَ الْفَتْنَةِ الَّتِي تَرَبَّوْا مَفْسِدًا تَجَاعَلُ  
مَصْلَحَتَهَا دَلْلَوْلَ فِي الْجَمِيعِ الْمُحْسَنِيِّ -

اکابر ترین صحابہ نے جب وہ شخص سینیں جی میں فتوؤں سے الگ تھاگ ہو کر بیٹھ  
جائے کا حکم تھا، تو انہوں نے جنگ سے کرہ کشی اختیار کر لی نیز ان کی نظر میں  
اس میں شرکت کے قابلے کم اولاد اس کے نقصانات زیادہ تھے، ہمیں ان سیکے  
لچھے لفظوں سے یاد کرنا پہاڑتے ہیں ۔

### موہوم سہارے پر ایک غلط دعوے

مولانا لکھتے ہیں :-

بصرے کے باہر جب اُمّ المُونِين حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ کی قربیں ایک  
دوسرے کے سامنے آئیں، اُس وقت دردمند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد  
اس بات کے لئے کوشش کی ایمان کے ان دونوں گروہوں کو مقتول  
نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ ان کے درمیان مصالحت کی بات چیت قریب  
قریب طے ہو چکی تھی مگر ایک طرف حضرت علیؓ کی فوج میں وہ قاتلین عثمانؓ  
موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی تو پھر ساری  
خیر نہیں، اور دوسری طرف اُمّ المُونِینؓ کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو  
دونوں کو ردا کر کر کر دینا پہاڑتے تھے اس نئے نہوں نے یہ قاعدہ طریقے  
سے جنگ برپا کر دی اور وہ جنگِ جمل برپا ہو کر ہی جسے دونوں طرف کے  
اہل خیر و کنایا پہاڑتے تھے۔ (ص ۱۲۹)

یہاں بھی مولانا نے تھائق کی بجائے زیادہ تر اپنے زہنی مفرد نہیں پر اس دعوے کی مبنیاد رکھی ہے،  
اُول تو وہ روایت ہی بالکل من گھرست ہے جس میں دونوں کو ردا کر کر کرنے کا ذکر ہے۔  
جس طرح کہ وضاحت کی جا چکی ہے، بالفرض اس کی صحت تسلیم کر لی جائے تب بھی یہ ریات

خدیج دلیل ہے کہ صلح ہوتے دیکھ کر انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپا کرنے کی کوئی کوشش کی؟ مخصوص اس بات سے کہ ان کا ارادہ دونوں کو لڑاکہ کمزور کرنا تھا، یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ جنگ برپا کرنے میں ضرور انہوں نے حصہ لیا ہو گا، اس کے لئے واضح دلیل چاہئے کہ فی الواقع انہوں نے اس کے لئے کوشش کی جہاں تک ہمارے علم و مطالعہ کا تعلق ہے ایسا کوئی کمزور سے کمزور شیوٹ بھی اس امر کے ثبوت میں پیش نہیں کیا جاسکتا، اگر کسی کی نگاہ میں ہوتا وہ منظرِ عام پر لائے، مولانا نے البدایت کا حوالہ دیا ہے لیکن اس میں کہیں اس کی طرف ادقی اس اشارہ بھی نہیں ہے، اُس میں بھی تملکتار بخوبی کی طرح بھی ہے کہ بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپا کرنے میں صرف ان سبائیوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے قتل عثمان کا ارتکاب کیا تھا، جن کو صلح کی صورت میں اپنی موت نظر آرہی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو انجام بدھے بچانے کے لئے پوچھنے سے پہلے ہی رات کی تاریکی میں اہل جمل پر حملہ کر دیا، درنہ اُم المؤمنین فی فوج کا ایک فرد بھی جنگ کے لئے تیار نہ تھا، سب صلح کے منسق اور صلح ہو جانے پر مطمئن تھے، مولانا کے دل میں اگر حضرت مروان وغیرہ وضوان اللہ علیہم السلام کے خلاف جذبات بخشن مخفی ہی تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ناکردار گئی ہوں کا بوجہ بھی اُن پر لاد دیا جائے، کتب تواریخ میں ملن کے خلاف تھوڑا مولود ہے؟ کہ ہم مزید کچھ جرام اپنی طرف سے لھڑ کر ان کی طرف منسوب کریں ہا۔

## حضرات طلحہ و زبیرؑ کی کنارہ کشی

ارشاد ہوتا ہے۔

”جنگِ جمل کے آغاز میں حضرت علیؓ نے حضرت طلحہ و زبیرؑ کو سیاقام بھیجا کہ میں آپ سے دونوں بات کرنا چاہتا ہوں، دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علیؓ نے ان کو بنی اہل اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیرؑ میلان جنگ سے بہت کراچک چلے گئے اور حضرت طلحہؓ آگے کی صفوف سے بہت کریمی پی کی صفوف میں جا کھڑے ہوئے۔ لیکن ایک خالق عالم عنوں پر ہر موز نے حضرت زبیرؑ کو قتل کر دیا۔ اور شہور روایات کے مطابق حضرت طلحہؓ

کو مروان بن الحکم نے قتل کر دیا (ص ۱۴۹-۱۳۴)

اگر یہ تفصیل صحیح ہے تو سوال یہ ہے کہ حضرت علیؓ کو حضورؐ کے ارشادات میں میدان جنگ ہی میں کیوں یاد کئے؟ اس سے پہلے ان کو کیوں نہ یاد آئے؟ اگر واقعیہ تھا تو حضرت علیؓ کو فوج نے کریب صورت آئے کی کیا امروخت تھی؟ بظیر کسی جنگی اتفاقات کے ان کو پہلے ہی اپنے پاس ملا کر حضورؐ کے ارشادات کیوں نہ یاد کیے گئے؟ پھر یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ حضرات طلحہ و زبیرؓ ارشادات رسولؐ کر خود تو اپنے طور پر علحدہ ہو گئے ہوں، اور ان کی زیر قیادت جو فوج لڑ رہی تھی، ان کو اُنہوں نے اس امر کی کوئی اطلاع نہ دی۔ حالانکہ جب اُن پر اپنی غلطی واضح ہو گئی تھی تو ان کا فرض تھا کہ وہ اپنے ماتحت رکھنے والوں کو بھی اس سے آگاہ کرتے، ورنہ اس کے بغیر خود ان کی اپنی علوحدگی نہ کوئی معنی رکھتی ہے، نہ شریعت کی رو سے وہ صرف اتنی سی بات ہے بری الدائمہ قرار پا سکتے ہیں؟ وہ فوج نہ ہم اُنمی شرت تھے، کمانڈر اور قائد تھے، ان کی علیحدگی کے بعد ان کی زیر کمان فوج آخر پھر کس کے اشارے پر لڑتی رہی؟ جنگی تاریخ کا یہ انوکھا واقعہ ہو گا کہ کمانڈر وہ نے تو کنارہ کشی اختیار کر لیا ہے اسی فوج پر استور بر سر پہنچا کر رہی۔ ان ہذا الائشی عجائب ایک اور پہلو قابل غور ہے کہ یعنی اس موقع پر جب کہ طرفین کی فوجیں آئنے سامنے کھڑی تھیں، اُس وقت حضرت علیؓ نے حضرت قحاشؓ کو ان کی طرف صلح کے لئے بھجا تو ان کو بھی حضرت علیؓ نے وہ ارشادات نہ تلاشیں جن کی رو سے حضرات طلحہ و زبیرؓ کے موقف کی غلطی واضح ہو رہی تھی اور جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کو شن کر لله و زبیرؓ میدان جنگ سے الگ ہو گئے تھے، حالانکہ اُس وقت اس کی نشاندہی کر دی جاتی تو عالتِ جنگ یکسر ختم ہو کر فوراً صلح ہو جاتی، لیکن وہ ارشادات رسولؐ اُس وقت نہ حضرت علیؓ کو یاد آئے، نہ حضرت طلحہ و زبیرؓ کو عین حالتِ جنگ میں نہ معلوم پھر وہ کس طرح دونوں کے بوج حافظہ پر دفعۃؓ اُبھر آئے؟

طلحہ کا قاتل؟

حضرت طلحہؓ کو کس نے قتل کیا؟ اس کے متعلق تمام مؤرخین نے حوطہ کی روایات

ذکر کی ہیں، ایک کی رُو سے ان کا قاتل حضرت مروان قتل را پتے ہیں، اور دوسرا روایات کی رُو سے کوئی اور، مولانا نے اول الذکر روایات کو مشہور قرار دیا ہے، تیز حاشیہ میں این گھیر کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے یہی مشہور روایت اسی کو مانا ہے اور ابن عبد البر کا یہ قول بھی نقل کیا ہے :-

” ثقات میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت طلحہؓ کا قاتل مروان ہی ہے، حالانکہ وہ ان کی فوج میں شامل تھا۔ ” (ص۔ ۱۳۰)

جن ثقates کے اندر اس بارے میں اختلاف نہیں ہے ان میں سے اگر ایک دو کا نام بھی لے کر بتلا دیا جاتا تو ہمیں ان ” ثقات ” کی ثقابت کا کچھ اندازہ ہو جاتا، جب تک وہ ” ثقات ” ہی پر دہ ختمیں ہیں، ان کے نام کا پتہ ہونہ کیفیت کا، ان کی بات کس طرح قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ پھر الشمشود خلین نے عموماً و طرح کی روایات ذکر کی ہیں، ابن الاشیر نے لکھا ہے ” مَنْ الَّذِي رَأَى طَلْحَةَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكْمَ وَقَيْلَ غَيْرَهُ قَاتِلَ طَلْحَةَ مَرْوَانَ ہے اور بعض کہتے ہیں کوئی اور ہے؟ ” ابن جریر طبری نے ایک مقام پر لکھا ہے ” طلحہؓ کو ایک تیرگر لگا بس سے وہ جاں بحق ہو گئے، تو گوں کا گمان ہے کہ وہ تیر انداز مروان ہے، ایک دوسرے مقام پر صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ ایک نامعلوم تیرگران کو لگا، فجی ہو سہم غرب۔ ” ابن کثیر نے ایک مقام پر لکھا ہے ” طلحہؓ کو تیر اگر لگا جس کا مارنے والا نامعلوم ہے، بعض کا شیال ہے وہ مروان بن الحکم ہے، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے ” اما طلحۃ بن نجاء، فی المعرفة سہم غرب یقال رماه بید مروان بن الحکم غالله اعلم ” دوسرے مقام پر اس طرح لکھا ہے :-

” یقال اَنَّ الَّذِي رَمَاهُ بِهِذَا السَّهْمِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكْمِ... وَقَدْ قَيْلَ اَنَّ الَّذِي رَمَاهُ غَيْرُهُ وَهَذَا أَعْنَدِي اَقْرَبُ وَانْ كَلَنْ الْأَعْلَمُ مَشْهُورٌ وَاللَّهُ اَعْلَمُ . ”

” مذہب اس بات ہے کہ یہ تیر انداز مروان بن الحکم تھے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نہیں، ان کے ملاوہ کوئی اور ہے، میرے نزدیک یہی قول صحت کے قریب تر ہے اگرچہ مشہور بیلا قول ہے ” لئے

علامہ ابن خلدون نے اس کے متعلق سرے سے کوئی قول ہی نقل نہیں کیا، اب آپ نداو  
ٹکالیئے کہ کسی مؤرخ نے بھی جتنی طور پر ایک شخص کو متعین کر کے یہ نہیں کہا کہ یہی قاتل طلب ہے،  
کسی نے اُسے نامعلوم قرار دیا ہے، کسی نے گمان کے طور پر وان کا نام ذکر کیا ہے لیقین کے طور  
پر نہیں ہا اور این کیش نے تو بصراحت یہ کہہ دیا ہے کہ طبعاً ضم کا قاتل اگرچہ مروان مشهور ہے یہاں میرے  
نزدیک صحت کے زیادہ قربیہ بایہ بات ہے کہ ان کا قاتل مروان نہیں، کوئی اور ہے، اس کے  
بعد یہ کہنا اکس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے؟ پھر موذانا کی  
چاہیک دستی طلاختہ ہو کہ این کثیر کا ادھور افetro نقل کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ اُنہوں نے بھی مشہور  
روایت "اسی کو مانا ہے حالانکہ وہ شہرت کے باوجود اس کے مقابلے میں دوسرے قول کو زیادہ  
صحیح قرار دیتے ہیں، یہ بعدینہ وہی تکمیک ہے جو کوئی مستحہ و انتہم سکاری کو مذف کرنے  
اور لالقریب والصلوٰۃ "نقل کر کے یہ کہہ دے کہ قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب بھی مت پھٹکو۔

### الوکھا فلسفہ تاریخ!

مولانا نے حضرت علیؑ کی حیات و مدافعت میں ایک اور انکا فلسفہ تاریخ مرتب کیا ہے،

ملاحظہ فرمائیں:-

"حضرت علیؑ کے مقابلے میں جو فونج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ و کوفہ ہی سے فراہم ہوئی  
تھی جب حضرت علیؑ کے ہاتھوں اس کے پانچ ہزار آدمی شہید اور ہزاروں آدمی معروف  
ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جا سکتی تھی کہ اب عراق کے لوگ اُسی یک جہتی کے ساتھ اُنکی  
حایات کر سیں گے جس یک جہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہؓ کی حایات کر رہے  
تھے، جنگ صفين اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہؓ کے یہ پہ کا اتحاد اور جنگ  
علیؑ کے یہ پہ کا تفرقہ بنیادی طور پر اسی جنگِ جمل کا نتیجہ تھا۔ یہ اگر پیش نہ آئی ہوتی تو  
پھری ساری خرابیوں کے باوجود ملوکت کی آمد کو روکنا عین ممکن تھا۔ حقیقت میں  
حضرت علیؑ اور حضرات طلحہ و زبیرؓ کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا جس کے روپ  
ہوئے کی توقع مردان بن الحکم رکھتا تھا، اسی لئے وہ حضرات طلحہ و زبیرؓ کے ساتھ لگ کے  
بھرے گیا تھا، اور افسوس کہ اس کی یہ توقع سونی صدی پوری ہو گئی۔ (ص۔ ۳)

مولانا نے جنگِ جمل کو حضرت معاویہؓ کے کمپ کے اتحاد اور حضرت علیؓ کے کمپ کے تفرقہ کے لئے بیان دیا ہے، لیکن اگر واقعہ یہی ہے تو جنگِ جمل سے پہلے اہل مدینہ اکابر معاویہ اور دیگر ہزاروں مسلمانوں نے حضرت علیؓ کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا؟ بلکہ جنگِ جمل سے پہلے خود اہل عراق نے بھی کب یا کب جھتی کے ساتھ حضرت علیؓ کی حمایت کی تھی؟ کہ وہ اپنے ہزاروں مقتول و مجروح آدمیوں کو دیکھ کر اس سے دست بردار ہو جاتے، مولانا کا یہ فلسفہ تائیخِ اُس وقت صحیح ہو سکتا تھا جب کہ جنگِ جمل کے موقع پر تمام اہل عراق نے پوری یا کب جھتی کے ساتھ حضرت علیؓ کی حمایت کی ہوتی، لیکن انہوں نے تو اُس موقع پر بھی پوری یا کب جھتی کے ساتھ حضرت علیؓ کی حمایت نہ کی تھی، کوہہ اور بعضہ دونوں عراق کے شہر تھے، کوفہ کے تمام لوگوں نے حضرت علیؓ کی حمایت نہ کی بعض محلہ کی بعض نے نہیں کی۔ بصرے کے لوگ تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے، ایک اُمّ المؤمنین کی فوج کے ساتھ، دوسرا حضرت علیؓ کے ساتھ، اور ایک گروہ مکسر غیر جانبدار رہا۔ خود اُمّ المؤمنین کی فوج کی اکثریت باشندگان عراق پر مشتمل تھی۔ اہل جمل کا قافلہ جس وقت تھے سے روانہ ہوا، اُس وقت تھے اور مدینے کے ہزار یا نو سو ادمی اس میں شریک تھے، بعد میں یہ تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی، حالانکہ جنگ کے موقع پر اہل جمل کی تعداد میں ہزار تھی۔ ظاہر ہے اُمّ المؤمنین کی فوج کے باقی ۲۷ ہزار افراد خود عراق کے تھے، اس کے مقابل حضرت علیؓ کی فوج کی کل تعداد ۴۰ ہزار تھی، جس میں ظاہر ہے تھوڑی بہت تعداد اہل مدینہ کی بھی ہو گئی، تقریباً دو ہزار کی تعداد اس میں فاتحین عثمان کی تھی، جو سارے عراقی رہتے، بلکہ مختلف علاقوں کے تھے، گویا جنگِ جمل کے موقع پر بھی اہل عراق نے اُتی یا کب جھتی کے ساتھ حضرت علیؓ کی حمایت نہ کی جتنی اہل جمل نے ان کے خلاف کیمپ کی کی۔ ان حقائق کی موجودگی میں حضرت علیؓ کے کمپ کے تفرقہ کی ذکر کوہہ توجیہ کس طرح صحیح سمجھی جاسکتی ہے؛ پہلے یہ ثابت کیجئے کہ آغازِ کار میں تمام

عراقيوں نے پوری یک جہتی اور اتحاد کے ساتھ حضرت علیؑ کا ساتھ دیا تھا، اس کے بعد تفرقہ کی مذکورہ توجیہ قرینِ قیاس بھی جاسکتی ہے، اس کے بغیر مولانا کی اس نکتہ آفرینی کی کوئی احیثیت نہیں۔

نیز حضرت علیؑ کی خلافت کے متعلق مولانا یار باری کہہ رہے ہیں کہ شام کے سوا پوری ملکتِ اسلامیہ میں ان کو متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کیا جا پچا تھا، اگر فی الواقع ایسا ہی تھا تو قابل غور بات یہ ہے کہ جنگِ جمل کے موقعے پر حضرت علیؑ کے ساتھ جو عراقی فوج اپنی تھی اُس کے ساتھ چھڑا رکھی مقتول ہو رہی اودی مجموع ہو گئے تھے جس کی بنابردار و مدد برداشت ہو گئی تھی اور یہ امید نہیں کی جاسکتی تھی کہ اب وہ اُس یک جہتی کے ساتھ حضرت علیؑ کی حمایت کر سکیں گے جس یک جہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہؓ کی حمایت کر رہے تھے، تو پھر حضرت علیؑ ایسی دل بروائشہ فوج کو اپنے ساتھ لے کر کیوں حضرت معاویہؓ کے خلاف فوج کشی کے لئے تیار ہوئے ہاں میں صورت حال میں تو ان کو پہلے یہ چاہئے تھا کہ دوسرے صوبوں سے فوج منگو کر بیم جمع کر لیتے، یا اقدام لٹکر کشی کی جائے پر امن راوی مفاہمت اختیار کرتے، اُنہوں نے دونوں صورتیں اختیار نہ کیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے اس کی بھی وجہ ہے کہ اُنہیں دوسرے صوبوں سے تعاون کی امید نہ تھی، ورنہ وہ فتویٰ ایسا کرتے۔ پر امن راوی مفاہمت کا راستہ اپنے گرد و پیش کی غیر شوری گرفت کی وجہ سے اُنہوں نے اقل روز سے ہی اختیار نہ کیا، اس لئے یہ چیز ان کے دائرہ فکر سے باہر رہی اور اس پہلو پر اُنہوں نے غور کرنے کی خاص ضرورت ہی محسوس نہ کی۔

نیز اس کی تمام تر ذمہ داری حضرت مروانؓ پر ڈال دینا بھی انتہائی غلط ہے، جنگِ جمل سبائیوں نے بربپا کی، کسی ضعیف سے ضعیف قول سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ مروانؓ نے اس کے لئے ادنیٰ سی کوشش دی کی ہو، لیکن اس کی ذمہ داری سبائیوں کی بجائے ایک صحابیؓ رسول پر ڈال دینا بہت ہی نامنصفانہ نقطہ نظر ہے۔

حضرت مروانؓ ان صغار صحابہ میں شامل ہیں، جن میں حضرت حسن و حسین و فیض اللہ

عنهما کاشمار ہے۔ شرفِ صحابیت کی بنا پر حسین بن علی کی توہن عزت کرتے ہیں لیکن حضرت مروان کے نام کے ساتھ عزت و احترام کا لفظ بولتے اور لکھتے بھی ہمارے دلوں میں انقباضِ محسوس ہوتا ہے، پھر تم بالائے ستم یہ کہ صحابہ کرام کی بجائے ہر مقام پر آن سبائیوں کی حمایت کی جائے جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کیا اور ہر موقع پر تحریب و فساد میں کاشیوہ رہا، ان سے برپا کوہ فساد کو ہر ممکن طریقے سے یہ یا اور کرنا کہ دراصل اس کے پیچے کسی نہ کسی صحابیؓ کا ہاتھ تھا صحابہ کرام کے خلاف بعض اور سبائیوں کی حمایت و دکالت ہی کا ایک منظا ہرہ ہے، خدا ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

---

## فصل چہارم

# جنگِ صفين

### پانچواں مرحلہ

جنگِ جمل کے بعد مسلمانوں کو ایک اور جنگ سے کیوں دوچار ہونا پڑا؟ اس کی وجہ بھی بعینہ وہی ہے جو جنگِ جمل کی تھی، پر امن را و مفاہمت کو آزمائے بغیر بیک قلم اقدام لشکر کشی، اہل جمل کا موقف حضرت علیؓ یا مرکز خلافت سے ٹکر لینا نہیں بلکہ قاتلین عثمانؓ سے ملننا تھا، حضرت علیؓ بھی ان کے اس موقف کے ہم نوا تھے، اختلاف صرف تاثیر و تعمیل کا تھا، بصرے میں ہاگر یہ اختلاف بھی دور ہو گیا تھا۔ اور اہل جمل نے حضرت علیؓ کی راستے سے آتفاق کر لیا تھا۔ لیکن پیاسائیوں نے باہمی سازش سے جنگ برپا کر کے ملا جاتے کا پانسہ میسر پیٹا دیا جنگِ صفين کے وقوع میں بھی کم و بیش یہی عوامل ووجہ کار فرا تھے۔ حضرت علیؓ اقدام لشکر کشی سے اعتذاب کرتے تو ملن تھا کہ دوسری جنگ سے سابقہ پیش نہ آتا۔ دونوں مقام پر حضرت علیؓ نے غلط اقدام کرو رکنے کے لئے خود جو اعلام کیا اسکو بھی مشکل ہی سے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، بہر حال یہ جنگ بھی برپا ہو کر ہی اس کی جو تفصیلات مولانا نے بیان کی ہیں اس میں قابل نقد چیزوں کی ہم نشان دیتی کرتے ہیں، اس کے ضمن میں اس کی دوسری صحیح تفصیلات خود آجائیں گی، مولانا لکھتے ہیں:

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد حضرت نعیان بن بشیرؓ کا خون سے بھرا ہوا

قیص اور ان کی مہلیہ محترم حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہؓ کے پاس دہشت لے گئے اور انہوں نے یہ چیزوں منتظرِ عام پر لے کا دین تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہؓ رضا خونِ عثمانؓ کا بدله قانون کے راستہ سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا پڑتا۔

ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ شہادت عثمانؓ کی خبری لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کیلئے کافی تھی، اس قیص اور ان انجلیسوں کا منظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ (ص ۱۴۲)

مولانا نے اس روایت کے لئے "البدایہ والنہایہ" کا والہ بھی دیا ہے، اس روایت میں آگے یہ افاظ ہیں کہ "منظر عام پر ٹکانے کے بعد حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی کھڑے ہو کر خونِ عثمان کے مطابق کیا تھا، جن میں عبادہ بن صامت، ابوالذر رداء، ابو امامہ بن عمر و بن عثیہ اور دیگر صحابہ تھے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں، اول یہ کہ لوگوں کے جذبات حضرت علیؓ کے خلاف نہیں بلکہ باغیوں کے خلاف اُبھارے گئے، روایت میں یہ صراحت صاف موجود ہے، کیا باغیوں کی ذمۃ بھی مولانا کے نزدیک قابل ذمۃ ہے؟ دوم یہ کہ ان پیروں کو مدینے سے دمشق نے جانے والے بھی ایک جمیل القدر صحابی حضرت نعماں بن بشیر ہیں اور ان پیروں کو منظر عام پر لٹکا کر اہل شام کے جذبات بھڑکانے والے بھی حضرت معاویہ سیست جمیل القدر صحابہ کی ایک جماعت ہے، کیا ہم اس فعل کو "غیر قانونی" کہہ سکتے ہیں؟ اس کا تو مطلب پھر یہ ہو گا کہ خود صحابہ کرام ملک میں "لاقانونیت" پھیلانا چاہتے تھے، مولانا کا اس کو غیر قانونی طریقے سے تعبیر کرنا یکسر غلط ہے، اس میں آخر لاقانونیت" کا کون سا پہلو ہے؟ ان کی نظر میں باغیوں کا یہ ارتکاب قتل ایک بہت بڑا جرم اور اسلام کے خلاف ایک سازش تھی، ایسے لوگوں کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرنا غیر قانونی طریقہ نہیں کہلا سکتا، معلوم ہوتا ہے مولانا کے نزدیک قانونی طریقہ یہ تھا کہ باغیوں کے اس اقدام کی تعریف کی جاتی یا پھر اس کو تنظر انداز کر دیا جاتا۔

لہ البدایہ والنہایہ، ج ۷، ص ۴۲۶۔ اصل عبارت اس طرح ہے، وقام فی الناس معاویۃ وجماعتہ من الصحابة تعمد عیضاً یعنی حضون الناس علی المطالبہ بدم عثمان من قتلہ من أولئک المخوارج: منهم عبادہ بن الصامت، وابوالذر رداء وابو امامہ عمر وبن عثیہ وغیرہم من الصحابة.....

## خلیفہ کی اطاعت سے نہیں خلافت کی آئینی حیثیت سے انکارا!

مولانا نگفتہ ہیں :-

”ادھر حضرت علیؓ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام سببے پہلے کئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محرم ۱۳۷۶ء میں حضرت معاویہ کو شام سے معزول کر کے حضرت سہل بن حنفی کو ان کی جگہ مقرر کر دیا، مگر ابھی یہ نئے گورنر تیوک تک ہی پہنچ تھے کہ شام کے سواروں کا ایک دستہ آن سے اکڑا اور اس نے کہا۔ اگر آپ حضرت عثمانؓ کی طرف سے آئے ہیں تو اپاؤ سہل اور اگر کسی اور کسی طرف سے آئے ہیں تو وہاں پس تشریف لے جائیے“ یہ اس بات کا اضاف نوٹس تھا کہ شام کا عوہ نئے خلیفہ کی اطاعت کے لئے تیار نہیں۔ (ص ۱۳۷)

اولاً، مولانا نے اس امر کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت علیؓ نے سبے پہلے یہی کام کیوں کیا؟ اس میں آخر کریمی سیاسی و ملی مصلحت تھی؟ کہ حالات انتہائی ناسازگا رہیں، خود خلیفہ اپنے آپ کو یہ اختیار سمجھتا ہے، اہل الرائے بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ حالات کے پُرسکون ہونے تک عمال عثمانی کو بالعلوم اور حضرت معاویہؓ کو بالخصوص انجام عہدوں پر بحال رکھا جائے تاکہ بگڑے ہوئے حالات سدھرنے کی بجائے مزید خراب نہ ہوں، حضرت علیؓ نے شک اپنے اعلان خلافت میں حق بجانب تھے لیکن ان کو اپنے اس فیصلے کے لئے پہلے کوئی صحیح بنیاد فراہم کر لیتی چاہئے تھی، حضرت معاویہؓ ۱۶-۱۷ء میں مسلسل اس اہم خدمت پر ماورچلے آ رہے تھے، آن کے خلاف کسی کو کسی قسم کی شکایت بھی نہ تھی، ایک معتمد علیہ اور سلیع اثر و رسوخ کے حامل گورنر کو ایسے موقع پر جب کہ ملک کو ایسے لوگوں کی اتنی شدید ضرورت تھی جنہی اس سے پہلے کبھی نہ تھی، بلا کسی معقول وجہ اور شکایت سے معزول کر دینا کہاں تک صحیح تھا؟ مولانا نے خلافتِ راشدہ کی خصوصیات میں دو خصوصیات یہ بھی بتلائی ہیں کہ وہ ایک شوروی حکومت تھی، دوسرا اس میں روحِ جمہوریت پائی جاتی تھی، حضرت علیؓ کے اس فیصلے میں مشاورت اور روحِ جمہوریت کس حد تک کار فرمائے؟ اس کی وضاحت آج تک کوئی نہیں کر سکا اور نہ مولانا ہی کر سکھ۔

ثانیاً، اس روایت کے الفاظ پر غور کریں تو اس سے قطعاً وہ مفہوم نہیں بکھرا جو مولانا نے  
نمکالا ہے کہ حنفی معاویہ خلیفہ کی امامت کے لئے تیار نہ تھے، نہ گورنر کو حضرت معاویہ  
کہتے ہیں۔ آپ اگر حضرت عثمانؓ کی طرف سے آئے ہیں تو اہل سہیلؓ گویا مولانا نے متعدد جگہ  
جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت معاویہ سلسل ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔  
خود سر ہو گئے اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے تھے، روایت کے الفاظ سے اس غلط تصویر کی کلیت  
نفی ہو جاتی ہے، حضرت معاویہ نے گورنر کو چارج دینے کے لئے بالکل تیار ہیں اور اس کو  
اہلاؤ سہیلؓ کہتے ہیں، حضرت علیؓ کے مقرر کردہ گورنر کے حق میں جو ہبھوں نے دست بردار  
ہوئے سے انکار کیا، اس کی وجہ ان کا استیکبار یا خود سری نہ تھی، اس کی وجہ مغضوب تھی کہ  
وہ حضرت علیؓ کی خلافت کو آئینی طور پر صحیح نہ سمجھتے تھے، ان کو خلیق بنانے میں بھی  
زیادہ تر دخل باغیوں کا تھا اور ان کے خلیفین جانے کے بعد مرکز خلافت پر بالفعل قبضہ  
بھی انہی باغیوں کا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ صحیح طور پر خلیفہ بننے والا شخص ایسے حالات میں  
چھپے گورنروں کو معزول کرنے میں اتنی عجلت کا منظاہرہ نہیں کرسکتا، اس میں ضرول انہی  
باغیوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کیا ہے، ایسے موقع پر گورنری سے  
دست برداری باغیوں کے آگے گھٹنے میکنے کے مترادف ہے، حضرت معاویہ کا یہ نظری معن  
طن تعمین پر نہیں فی الواقع حقیقت پر بنی تھا، حضرت معاویہ کو معزول کرانے کے لئے باغیوں  
نے ہری حضرت علیؓ پر آور ڈالا تھا۔

### خونِ عثمانؓ کا مطالبہ، حضرت معاویہ کا نقطہ نظر

مولانا ہری لکھتے ہیں :-

”حضرت علیؓ نے ایک اور صاحب کو اپنے ایک سخن کے ساتھ حضرت معاویہ

لہ ایک موقع پر حضرت معاویہ نے کہا لوگ ان امیر المؤمنین لم اقاتلم، اگر وہ امیر المؤمنین  
ہوتے تو میں ان سے جنگ نہ کرما (البدایۃ ج ۷ ص ۲۲۴)۔  
تم البدایۃ والہایۃ (رج ۸، ص ۲۱)۔ اصل عبارت مع ترجمہ کے اس سے قبل صفحہ ۲۲۴ پر گذجھی ہے۔

کے پاس بھی انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور صفر ۷ تا ۱۰ میں اپنی طرف سے ایک لفاظ اپنے ایک پیغامبر کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا، حضرت علیؑ نے فائدہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا، حضرت علیؑ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا "میرے پیغمبر دشمن میں ۴۰ ہزار آدمی خونِ عثمانؓ کا بلسلیئن کے لئے یہ تاب میں" حضرت علیؑ نے پوچھا، کس سے یہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کی رگِ گردن سے؟ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ شام کا گورنر صرف اطاعت ہی سے منحر نہیں ہے بلکہ اپنے صوبے کی پوری فوجی ماتحت مرکزی حکومت سے رط نے کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیش نظر قاتلین عثمانؓ سے نہیں خلیفہ وقت سے خونِ عثمانؓ کا بدال لینا ہے؟ (ص ۱۳۳)

مولانا نے بس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ کا نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے، یہ قاصد کے اپنے الفاظ اور اپنی تعبیر تھی، اس میں حضرت معاویہ کا نقطہ نظر پوری طرح ادا نہیں ہوا، مولانا کو ان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لئے ان روایات کو بنیاد بنا چاہتے تھا، جن میں حضرت معاویہ نے اپنے نقطہ نظر کی ترجیحی خود اپنے الفاظ میں کی ہے، حضرت معاویہ نے مختلف ادوات میں اپنے نقطہ نظر کی ترجیحی کی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت معاویہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا "قصاصِ عثمانؓ" لوگوں نے کہا۔ آپ اس کا مطالبہ کس سے کرتے ہیں؟ کہنے لگے "علیؑ" لوگوں نے کہا، کیا انہوں نے عثمانؓ کو قتل کیا ہے؟ "معاویہ نے کہا" نہیں" انہوں نے قاتلین کو پناہ بخوبی دی، لیکن لوگ حضرت علیؑ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا، انہوں نے جواب میں کہا "معاویہ نے غلط کیا ہے میں نے انہیں قتل نہیں کیا ہے جیسا کہ تم بھی جانتے ہو اس طرح یہ لوگ کبھی ادھر آتے اور کبھی ادھر جاتے۔ بالآخر حضرت معاویہ نے کہا، الگیلیں پسکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ قاتلین عثمانؓ سے قصاص لیں۔ دیوال رجھے نہیں کہا، کہ ان کو ہمارے ہوالے کر دیں، وہ ان کی گوج اور شکر میں موجود ہیں" لہ

حضرت ابوالدرداء او ابوامامہ رضی اللہ عنہما حضرت معاویہ کے پاس گئے اور ان سے جاکر کہا، "آپ ان (حضرت علی) سے کیوں رہتے ہیں، بخدا وہ آپ سے اور آپ کے والوں سے پہلے اسلام لائے اور آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آپ سے زیادہ حقدار خلافت میں، حضرت معاویہ نے ان چیزوں کو تسلیم کیا اور کہا میں ان سے محض نہون عثمان بن عفیٰ نے اپنے لڑکے ہسوس، انہوں نے ان کے قاتلین کو پناہ دے رکھی ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ قاتلین سے قصاص ملنے لیں، اسکے بعد اہل شام میں سے سب سے پہلے میں ان کی بیعت کروں گا، حضرت علیؑ کی طرف سے آئے ہوئے وفد کے ساتھ بھی حضرت معاویہ نے یہی کہا کہ ہم آپ کے خلیفہ کو قتل عثمانؑ سے نہ ستم کرتے ہیں نہ ان کی طرف سے اس کی تردید، لیکن انہیں چاہئے کہ انہوں نے جو قاتلین کو پناہ دے رکھی ہے اُس سے دست بردار ہو جائیں اور انہیں ہمارے سپرد کروں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے اُس کے بعد ہم ان کی اطاعت کے لئے تیار ہیں۔" ۱۷

ان روایات سے حضرت معاویہؓ کا نقطہ نظر واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے، وہ حضرت علیؑ کے شرف و فضل کے قائل اور ان کو اپنے سے زیادہ حقدار خلافت سمجھتے تھے، بعینگ بندی کے بعد معاویہؓ تحریم نکھلتے وقت خود حضرت معاویہؓ نے یہ ہدایت کی تھی کہ معاویہؓ میں سیرے نام سے پہلے حضرت علیؑ کا نام لکھا جائے، کیونکہ وہ شرف و فضل میں مجھ سے متاز پہنچتا ہے۔ انہوں نے صاف طور پر یہ یہی نہیں کہا کہ قتل عثمانؑ میں ضرور ان کا ہاتھ ہے، انہوں نے اُس کی نسبت حضرت علیؑ کی طرف الگ کی ہے تو وہ محض اس بنا پر کہ انہوں نے ان کے قاتلین کو پناہ دے رکھی تھی، پھر انہوں نے یہ یہی نہیں کہا کہ قاتلین کو ضرور ہمارے ہی جو کیا جائے بلکہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ ان سے قصاص لیا جائے، اگر وہ خود اس پر قادر

سلہ البدایہ والنہایۃ بح ۷، ص ۲۵۹۔

سلہ الطبری، ج ۵، ص ۶۔ الكامل، ج ۳، ص ۲۹۰، البدایہ، ج ۷، ص ۲۵۷۔

سلہ البدایہ والنہایۃ، ج ۷، ص ۷۷۷

نہیں تو کم سے کم ان کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں، ہم خود پھر ان سے قصاص لے لیں گے۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ یہ حضرت معاویہؓ کی ذاتی رئے نہ تھی بلکہ تمام روشنائی شام نے مل کر انہیں یہ مشورہ دیا تھا، ابین کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ کو اپنی بیعت میں شامل کر لئے ہے لیکن جریر بن عبد اللہ کو ان کی طرف بھیجا، قاصد نے جاکر وہ خط معاویہؓ کو دیا، فطلب معاویہؓ علیؓ دین العاص و رؤس اهل الشام فا سشارہم فابوا ان یہا یعوہ حق یقتل قتلہ عثمان ادیسلم الیهم قتلہ عثمان حضرت حعلویہؓ نے عمر بن العاص اور رؤسائے شام کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا، اُنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تا آنکہ قاتلین عثمانؓ کیفر کردار کو پڑھا دیئے جائیں یا آن کو ان کے سپردگر دیا جائے، اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، وان لم يفعل فاتواه ولهم یبا یعوہ حق یقتل قتلہ عثمان، اگر وہ ان دونوں باقوں میں سکھئی بھی نہیں کرتے تو پھر ان سے قتال کیا جائے یہاں تک کہ قاتلین عثمان قتل کر دیے جائیں۔ اس روشنی میں حضرت معاویہؓ کا وہ نقطہ نظر یہ سب اہل ہو جائیں یہ جو مولانا نے بیان کیا ہے کہ ان کے پیش نظر قاتلین عثمانؓ سننہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان کا بدله لینا تھا۔

مولانا پھر وہی اپنی پرانی بات دُہراتے ہیں جو اس سے پہلے بھی کہر چکے ہیں:-  
”سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاویہؓ مسلسل“۔ اسال ایک ہی صوبے اور وہ بھی جتنی نقطہ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنری پر رکھ گئے۔ اسی وجہ سے شام خلافت اسلامیہ کے ایک حصوں کی بہ نسبت آن کی ریاست

لہ البدل والنهایۃ، ج ۱، ص ۲۵۳۔ ۲۵۲۔ الاصابیہ کی ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ حضرت علیؓ کے پیشے ہوئے قاصد حضرت جریر بن عبد اللہ حسن وقت حضرت معاویہؓ کے پاس گئے، اس وقت جو رؤسائے شام داں موجود تھے اُنہوں نے سخت ترین الفاظ میں حضرت جریرؓ کے موقف کو رد کر دیا اور خود حضرت معاویہؓ کو اُنہوں نے پوری سختی کے ساتھ اس بات سے منع کر دیا کہ کہروں وہ جریرؓ کے موقف کو تسلیم کر کے خون عثمانؓ کا مطابصرہ ہی نہ ترک کر دیں۔ فتنکاموا بکلام شدید ردد اشد الردود تھا وہ امام عادیہ ان ہوا جواب ذلک و مرکز الطبل بدم عثمان۔

زیادہ بن گیا تھا۔ (ص ۱۳۲)

اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ حضرت معاویہؓ کی خود سری کا یہ تصویر قطعاً غلط ہے اور اس نے  
اس بن اپر اquat عبّت علیؓ سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ محض یہ شک و شبہ تھا کہ جب خلیفہ  
سابق کے قتل میں خلیفہؓ موجود کا بات نہیں ہے تو پھر اس کے آس پاس قاتلین نے یہ حصار  
کیوں کھینچ رکھا ہے؟ نیز انہوں نے دیکھا کہ خلیفہؓ وقت ایک طرف اپنی بے بسی کا انہمار  
کر رہا ہے اور دوسرا طرف مطالیہ قصاص کرنے والوں سے برپا رکار بھی ہے، اگر وہ واقعی  
بلے بس ہے تو پھر یہ جنگ و پیکار کے کیا معنی؟ یہ شکوک و شبہات تھے جن کی بنابردار  
دیکھنے والوں افراد کی طرح بیعت علیؓ سے محترم ہے ورنہ انہیں حضرت علیؓ کے شرف و فضل  
کا انکار تھا اس کی بیعت سے گزریں۔ اگر ان کا بیعت سے انکار اور خون عنان کا مطالیہ بھن  
اس پیڑے کا نتیجہ تھا کہ دہ مسلسل ایک صوبے کی گورنری پر فائز چلے آرہے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ  
کوئی بعواد و محشر کے ہزاروں افراد نے بھی بیعت سے انکار کر کے خون عنان کا مطالیہ  
کیا، ان کی پست پر کون سی حاصل تھی؟

### بے ولیل و کمال

مودودی محدث میں :-

”مؤرخین نے حضرت علیؓ کے حضرت معاویہؓ کو معروول کرنے کا واقع پھائیے انداز  
سے سلسلن کیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ مدبر سے بالکل ہی کوئے تھے  
مُحیِّرہ بن حبیب نے ان کو حل کی بات بتائی تھی کہ معاویہؓ کو نہ چھپیاں، مگر انہوں نے  
ابتنی نہوانی کے لیے رائے نہانی اور حضرت معاویہؓ کو خواہ خواہ بھردا کر تھیں اسی  
حوالی سے حالانکو اتفاقات کا جو نقشہ خود انہی مؤرخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے  
ہے۔ مثلاً تائبؑ نے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس  
گئے بھی نہیں رہ سکتا کہ حضرت علیؓ اگر حضرت معاویہؓ کی مجزوی کا حکم صادر  
کر رہے ہیں اسی کرتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اس اقدام سے ابتدا  
ہی میں بیباختیل گئی کہ حضرت معاویہؓ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیریک

ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھو کے کاپر وہ ہوتا، جوز یادہ خطرناک  
ہوتا ہے۔ (ص ۱۳۳ - ۱۳۴)

اگر مورخین نے ایسے ہی بیان کیا ہے تو اس پر تو ایمان لانا فرض ہے، جب حضرت عثمان و معاویہ  
وغیرہ کے لئے سب کچھ قبول کیا جاسکتا ہے تو پھر تاریخ کی بتائی ہوئی اس حقیقت کو کیوں تسلیم  
نہیں کیا جاتا کہ اس موقع پر حضرت علیؓ سے اُس سیاسی تدبیر کا ظہور نہیں ہوا جو ایک خلیفہ  
راشد سے موقع ہو سکتا تھا۔ پھر یہ رائے صرف حضرت معاویہ کے متعلق ہی نہیں، تمام عمال  
عثمانیؓ کے متعلق دی گئی تھی۔ نیز یہ رائے دینے میں مغروثین شیعہ ایکٹے نہیں تھے حضرت عبداللہ بن  
جہاسؓ بھی ان کے ہم تواترے۔ ان دونوں چیزوں کو مولانا نے کیوں بیان نہیں کیا؟  
نیز یہ تعبیر بھی غلط ہے کہ ”معاویہ گورن چھیرا ہیں“ گویا ان الفاظ سے مولانا یہ باور کرتا  
چاہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کا خال بھی ان کی خود سری کے متعلق وہی تھا جس کی طرف  
مولانا نے اشارہ کیا ہے حالانکہ یہ سراسر خلاف واقع ہے، اس کی وجہ آنہوں نے بیان کی  
تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح آپ کی بیعت پر طرف آسانی سے ہو سکے گی نیز شہروں کا امن و  
امان بھی بحال رہے گا اور لوگ بھی پُر سکون رہیں گے۔ اس رائے کی معقولیت سے کون  
شخص انکا رکرسکتا ہے؟ جد کے واقعات نے اس رائے کی اصابت کو روشن کی طرح دہنے  
کر دیا۔ کہنے کو تو مولانا نے کہہ دیا ہے کہ ”معاویہ گومعروول کرنے میں اگر حضرت علیؓ تاخیر کرتے  
تو بہت بڑی غلطی ہوتی“ یعنی اس امر کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ بہت بڑی غلطی  
کیونکہ ہوتی ہے اس چیز کی وضاحت کی کہ جب آنہوں نے اس بڑی غلطی کا ارتکاب  
نہیں کیا، بلکہ یہ لخت معزوں کا حکم صادر کر دیا، تو اس کے لیے ”ظیم فوائد“ نہیں، تاکہ  
حضرت علیؓ کی اصابت رائے اور دوسرے حضرات کی رائے کی غلطی واضح ہو جاتی،  
وجودہ صورت میں تو یہ بے دلیل وکالت ہے جس سے کوئی شخص مطمئن نہیں ہو سکتا۔  
درحقیقت مولانا کی یہ رائے بھی حضرت علیؓ کی یہے جاگایت کے ضمن میں ہی آتی ہے۔

ہماری نظر سے کسی مالم کا ایسا قول نہیں گزرا ہیں میں حضرت علیؓ کے اس اقدام کی تصویب کی گئی ہے۔ اس کے عکس ایسے اقوال ملتے ہیں جس میں اکابر علماء نے صراحت کی ہے کہ حضرت علیؓ کو حضرت معاویہ کی بجائی کامشوہ دینے والے صحابہ کی رائے درست حقی۔ مثلاً شیعہ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے قد اشارہ علیہ من اشارات یقین معاویۃ علی امارتہ فی ابتداء الامر حقی میستقيم له الامر و كان هذ الرأی احزن عند الذين ينفعونه و یحبونه، اس سے آگا بن تیمیہ حضرت معاویہ کی عظمت و اہمیت اور ان کی قدیم و عظیم خواص کی وضاحت کرنے کے بعد مزید لمحتیں ہیں،

ندل هذا وغيره على ان الذين اشاروا على امیة المؤمنین كانوا  
مازین وعلى امام مجتهد المفعول الاماراً مصلحة لكن المقصو  
انه لو علم الكوئش كان قد علم ان اقتلا على الولاية اصلاحها من  
حرب صفين التي لم يحصل بها الا زيارة الشهادتين وتضاعفت لم يحصل  
بها من اصلاحها شيئاً وكانت ولايتها اکثر خيراً و اقل شرًّا من العترة  
و كل ملطف في ولادتها من اهلها فقد كان في حمل البتداء اعظم منه،  
یہ اور ان جیسی ویک جیوں اس بات پر ولات کرتی ہیں۔ ایک المؤمنین کو بجائی کا  
شورہ دینے والے حازم اور مقاطع تھے، حضرت علی البستان مجتهد تھے، انہوں نے  
اپنے طور پر اس ہرزوں کو بہتر سمجھا ہی کیا، اگر انہیں متقبل ہیں و قوع یہ بیرونیوں  
واقعات کا پہنچیں ٹیکم ہوتا، تو وہ جان لیتے کہ حضرت معاویۃ کو گورنری پر بحال  
رکھنا، اُس جنگ صفين سے بہتر ہے، جس سے فائدہ کچھ اسفل نہ ہوا، شری ہی میں  
افناہ ہوا، ان کا گورنری پر بحال رہنا بحسبت ان سے جنگ کرنے کے زیادہ  
بہتر تھا، ان کی گورنری میں حضرت علیؓ کو جس شرک امکان تھا ان سے جنگ  
کرنے میں اُس سے کہیں زیادہ شر تھا۔

## دنیا کے اسلام کا خیالی نقشہ

مولانا لکھتے ہیں :-

”حضرت علیؑ نے اس کے بعد شام پر حجتھائی کی تیاری شروع کر دی، اُسوقت ان کے لئے شام کو اطاعت پر محیور کر دینا پچھے بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ جزیرہ العرب عراق اور مصر آن کے تابع فرمان تھے، تنہا شام کا صوبہ ان کے مقابلے پر زیادہ درمیک نہ ٹھہر سکتا تھا۔ علاوہ بڑی دنیا کے اسلام کی رائے بھی اس کو ہرگز پسند نہ کرتی کہ ایک صوبے کا گورنر غلیف کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو جائے۔ بلکہ اس صورت میں خود شام کے لوگوں کے لئے بھی ممکن نہ تھا کہ وہ سب متعدد ہو کر غلیف کے مقابلے میں حضرت معاویہؓ کا ساتھ دیتے، لیکن میں وقت پر امام المومنین حضرت عالیٰ اللہ اور حضرت طلحہ و زیمر رضی اللہ عنہم کے اُس اقدام نے جس کا ذکر ہم پہلے کرچکے ہیں، حالات کا نقشہ یکسری دل دیا اور حضرت علیؑ کو شام کی طرف پڑھنے کی بجائے ربیع الثانی ۶۲ھ میں بصرے کا رخ کرنا پڑا۔“ (ص ۱۳۲)

سالات کا یہ نقشہ یکسری غلط ہے اور مولانا کے اپنے ذہن کی اُپج ہے، اگر فی الواقع حالات ایسے ہی ہوتے تو حضرت عائشہؓ اور حضرت طلحہ و زیمرؓ کو ایسا اقدام کرنے کی وجہت ہی نہ ہوتی اور جنگِ جمل سریے سے پیش ہی نہ آتی۔ ایں جمل کی فوج جزیرہ العرب اور عراق ہی کے باشندوں پر مشتمل تھی، اگر وہ کلیٹ حضرت علیؑ کے تابع فرمان ہوتے تو ایں جمل کو دہل سے اتنی عظیم فوج کس طرح مل جاتی؟ پھر یہ دعویٰ بھی انتہائی کمزور ہے کہ خود ایں شام بھی متعدد ہو کر حضرت معاویہؓ کا ساتھ نہ دیتے، حالانکہ ہم پہلے بتاچکے ہیں کہ خود تمام روؤسائے شام نے حضرت معاویہؓ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جب تک قاتلین عثمانؓ کو کیفر کر دا تک دہنچا دیا جائے ہم حضرت علیؑ کی بیعت نہیں کہنے گے۔ نیز آنہوں نے کہ تھا کہ اگر حضرت علیؑ نے ان سے قصاص نہ لیا تو ہم اور کرآن سے مطابق قصاص پورا کروائیں گے۔ گویا ایں شام اس معاملے میں حضرت معاویہؓ سے بھی کئی قدم آگئے تھے، حضرت معاویہؓ نے کبھی ردا تی کا تام نہیں لیا لیکن ایں شام اس کے لئے تیار تھے۔ لیکن

مولانا اکبر رہے ہیں کہ اہل شام بھی حضرت معاویہ کا ساتھ نہ دیتے۔ بہر صورت دنیا سُلَطَّانِ اسلام کا جو نقشہ مولانا پیش کر رہے ہیں وہ تمام ترجیحی ہے، درحقیقت جو صورتِ حال تھی وہ یہی تھی کہ ملکت کے تمام صوبوں میں کم و بلیش ایسے لوگ موجود تھے جو بیعتِ علیؑ سے کنارہ کش تھے، جس کی وجہ سے ہر صوبہ دو متحارب گروہوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی صوبہ بھی پوری طرح حضرت علیؑ کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اقلام ہوپی نہیں سکتا تھا جس کے متعلق مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے حالات کا نقشہ بدلت کر حضرت معاویہ کے لئے حالات سازگار بنادیے۔

### حضرت معاویہ و عمر و بن العاص پر ایک گھناؤ نا الزام

صحیح روایات کو چھوڑ کر غلط روایت کو بنائے استدلال بناتے ہوئے مولانا حضرت معاویہ و عمر و بن العاص پر ایک گھناؤ نا الزام عائد کرتے ہیں :-

جتگ بجل سے فارغ ہو کر حضرت علیؑ نے پھر شام کے معاٹے کی طرف توجہ کی تھد

حضرت جریر بن عبد اللہ البھلی کو حضرت معاویہ کے پاس ایک خطاب کے رسیجا جسیں

اُن کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے اس کی

الملائکت قول کر لیں اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالیں، مگر حضرت معاویہ

نے ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں یا تاریکا کوئی جواب نہ دیا اور انہیں پر ایک

ٹھلٹے رہے۔ پھر حضرت عمر و بن العاص کے مشورے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ

حضرت علیؑ کو خونِ عثمان پر کاذب و اقرار می کر ان سے جنگ کی یادیے دنوں

حضرات کو یقین تھا کہ جنگ بجل کے بعد اس حضرت علیؑ کی قوم پوری طرح متعدد

ہو کر ان کے جھنڈے تلے نہ لڑ سکے گی اور نہ عراق اس دماغی کے ساتھ ان کی

حایت کر سکے گا جو اہل شام میں حضرت معاویہ کے لئے یا تو جاتی تھی (ذاص ۱۳۷)

اس روایت سے مولانا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں جلیل القدر صحابہ

کا اصل مقصد تو حضرت علیؑ سے لڑنا تھا، لیکن اس کے لئے مطالبہ قضاصر کو ایک بہانہ

بنایا اور یا ہمیں فیصلہ کر کے خونِ عثمان کا ذمہ دار حضرت علیؑ کو قرار دیا، حالانکہ یہ مگاں

صحابہ کرام کی مجموعی سیرت و کردار کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور تاریخ کی تصریحات کے بھو  
غافل، ہم پہلے حضرت معاویہ کا نقطہ نظر صراحت سے ذکر کر آئے ہیں کہ وہ حضرت علیؓ کو  
خونِ عثمانؓ کا ذمہ دار قیلیم نہیں کرتے تھے، ان سے اس کا مطابق یہ صن اس بنا پر کہہتے ہیں کہ  
قاتلینِ آن کے زیر اثر اور وہ قاتلین کے زیر اثر تھے، حضرت جریر بن عبد اللہ البجی جو میقامِ ائمہ  
حضرت معاویہ کے پاس گئے تھے، اُس کا جو جواب حضرت معاویہ نے دیا تھا "البیدایہ کی وہ  
روایت ہم پہلے بھی نقل کر آئے ہیں، اُس روایت سے حضرت معاویہ و عمر بن العاص پر وہ  
سنگین الزام عائد نہیں ہوتا جو ایک دوسری روایت سے مولانہ نے اپنی مذکورہ عبارت تھی  
آن پر لگایا ہے، اُس روایت کا ترجمہ دوبارہ یہاں درج کیا جاتا ہے:-

"جریر بن عبد اللہ البجی حضرت معاویہ کے پاس آئے اور ان کو حضرت علیؓ کا خطاب  
حضرت معاویہ نے عمر و بن العاص اور رؤسائے شام کو بنا کر ان سے مشورہ  
طلب کیا، انہوں نے بیعتِ علیؓ سے انکار کر دیا تا آنکہ قاتلینِ عثمانؓ قتل کردے جائیں  
یا آن کو آن کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ یہ دونوں چیزوں نہیں کرتے تو ان سے  
روائی کی جائے تا آنکہ قاتلین قتل کر دیئے جائیں۔"

اس روایت میں جواب نہ دینے اور برا برپا لئے کا کوئی ذکر نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ حضرت معاویہ  
نے صرف عمر و بن العاص سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علیؓ کو خونِ عثمانؓ کا ذمہ دار  
قرار دے کر ان سے جنگ کی جائے (النَّعْوذ بِاللَّهِ) بل اس میں صراحتاً یہ ملتا ہے کہ عمر و بن العاص  
سمیت تمام رسولائے شام نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علیؓ اگر خود قاتلینِ عثمانؓ  
سے قصاص لے لیں یا بصورت دیگران کو ہمارے حوالے کر دیں تو بھیک بے ورنہ اس کے بغیر  
ہم ان کی بیعت کئے تیار نہیں، بلکہ قاتلینِ عثمانؓ کو کیفر کر دا تک پہنچانے کے لئے ان سے  
جنگ کر لیتے، اس روایت کے الفاظ تاریخ کی تمام تصریحات کے قریب بھی ہیں اور صحاہیہ  
کرام کی مجموعی سیرت و کردار کے مطابق بھی۔ میکن مولانا کتب تو ارجمند میں سے چون چون کر دے وابہی  
روایات ذکر کرتے ہیں جن سے صحابہ کرام کا کردار بالعلوم اور حضرت معاویہ کا کردار بالخصوص  
گھناؤ تا نظر آئے اور آن کے کردار و نظریات کی صحیح صیغح تصویر کشی کئے والی روایات کو

یکسر نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اس طرزِ عمل سے ہر شخص اس بات کا باسانی اندازہ کر سکتا ہے کہ مولانا نے صحابہ کرام بالخصوص حضرت معاویہؓ کے ساتھ انصاف و دیانت کے تقاضوں کو کس حد تک محفوظ رکھا ہے، اس کا ایک اور عیاں مظہر مولانا کا وہ احکام اسلام ہے جو اپنے  
لذتیک اور بے سر و پار رفاقت کی مد نیت حضرت معاویہؓ پر لگایا ہے۔

### جھوٹے گواہ یا جھوٹی روایت؟

مولانا کا حصہ ہیں :-

”اس دوران میں جبکہ حضرت معاویہؓ مال مظلوم کر رہے تھے، حضرت جیری بن عبد اللہؓ نے دمشق میں شام کے بااثر لوگوں سے ملا قائم کر کے ان کو یقین دلایا کہ خونِ عثمانؓ کی ذمہ داری سے حضرت ملیخا کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت معاویہؓ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مأمور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کریں جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے دیں کہ حضرت علیؓ ی حضرت عثمانؓ کے قتل کے ذمہ دار ہیں، چنانچہ وہ صاحب پانچ گواہ تیار کر کے لے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علیؓ نے عثمانؓ کو قتل کیا ہے۔ (ص ۱۲۵)

یہ روایت متعدد وجوہ سے من گھرست ہے:-

اوّلًا، یہ روایت اصلًا بے سند ہے، تاریخ و سیرت کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں، صرف ابن عبد البرؓ نے ”الاستیعاب“ میں ذکر کی ہے، ابن عبد البرؓ یا انہوں صعدی یا جوی کے آدمی ہیں، روایت اگر یا سند ہوتی تو اس کے روایۃ کو دیکھ کر صحیح و ضعیف کا پتہ لگا نا آسان ہوتا، لیکن ابن عبد البرؓ نے یہ روایت بالکل بے سند ذکر کی ہے، چار سارے یہ چار سو سال بعد ابن عبد البرؓ کو اس کا علم سس طرح ہوا اہس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، جب تک روایۃ کی یہ کڑیاں نہ ملیں، روایت پائی اعیان سے ساقط سمجھی جائے گی۔

دوسرے، وہ صاحب جن کو حضرت معاویہؓ نے گواہ سازی کے لئے مأمور کیا تھا وہ بھی ایک صحابی رسول شرحبیل بن اسماعیلؓ ہے،

(د) حاشیہ الحجۃ صور پر الحاظہ فرمائیں۔

اول انہوں نے جو پانچ چھوٹے گواہ تیار کئے ان میں بھی چار گواہ متعالیٰ ہیں، بیزید بن ہائے  
بُسر بن ارطاءٰ اور حالمیں بن سعد الطافیؑ اور چھتھ ابوالاعور الشلمی ہیں، انھیں عبد البر  
نے صحابہ میں شمار کیا ہے، الگچہ ساتھ ہی انہوں نے باوحا تم رازی کا عدم صحابیت کا قول  
بھی نقل کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کی صحابیت مختلف فیہ کہی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب  
اب یہ ہوا کہ جھوٹے گواہ بنانے کا حکم دینے والے بھی ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہؓ  
ہیں، جن کو اس کا رشیر پا مور کیا گیا وہ بھی ایک صحابیؓ رسول ہیں اور جن لوگوں نے  
جھوٹے گواہی دی ان میں سے بھی تین یا چار گواہ صحابی رسول ہیں، کیا صحابہ کا یہ کردار  
قابل تسلیم ہے؟

تیسرا، اس روایت کا مضمون دوسری تمام تاریخی روایات سے متعارض ہے تو ان  
عثمانؓ کے مطابق کے بارے میں حضرت معاویہؓ کا ہونقہ بنظر تھا وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے  
اس کی رو سے حضرت معاویہؓ کو اس قسم کی "گواہ سازی" کی منورت ہی نہ تھی، ان کا موقف  
صرف یہ تھا کہ حضرت علیؓ کے شکر میں قاتلین عثمانؓ موجود ہیں، ان سے حضرت علیؓ خود  
قصاص لے لیں یا پھر ان کو ہمارے حوالے کوئی ہمآن سے قصاص لے لیں گے، اس کے  
بعد تم بعیت کر لیں گے، اور یہ رائے بھی خود حضرت معاویہؓ کی ذاتی رائے نہ تھی، خود روسٹا  
شام لئی رائے حضرت معاویہؓ کے سامنے پیش کی تھی اور اس مقصد کے لئے انہوں نے  
لڑائی تک کے لئے آمادگی کا انہما کر دیا تھا، اس نقطہ نظر سے انہیں نہ حضرت علیؓ کو کوئی

لئے جس روایت کے حوالے سے مولانا نے یہ الزام ماند کیا ہے اُسی روایت میں یہ نام اور انکی  
صحابیت کی تصریح موجود ہے۔ (الاستیعاب ج ۲ ص ۵۸۹)

لئے اول الذکر کو ابن عبد البر نے اصحاب رسول میں ذکر کیا ہے اور آخر الذکر دو ہوں حضرات کو  
ابن سعد نے اصحاب رسول کی اُس فہرست میں شمار کیا ہے جو شام میں جا کر رہے ہیں۔

(الاستیعاب ج ۲ ص ۴۱۱۔ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۳۰۹، ۳۳۱۔

لئے الاستیعاب، ج ۲، ص ۶۲۷۔

بنانے کی کوئی ضرورت تھی اور نہ اہل شام کی تسکین طبع کے لئے ایسی ذیلی حرکت کرنے کی کوئی ضرورت تھی، اہل شام تو اس کے بغیر ہی ان کے ساتھ آمادہ تعاون تھے۔

چوتھے، یہ بات بھی بعد ازاں عقل ہے کہ حضرت جو پیر بن عبد اللہ البجی بیشیت ایک سفیر کے دیاں جائیں اور تمام سفارتی آداب کو نظر انداز کر کے حضرت علیؑ کے حق میں کنولینگ شروع کر دیں، ایک سفیر کو نہ اس بات کی اجازت دی جاسکتی ہے ز وہ از خود اس قسم کی جرأت کر سکتا ہے، پھر یہ بھی ناقابل فہم ہے کہ شام میں انہوں نے اتنی سرگرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن والپس آکر حضرت علیؑ کا ساتھ دیتے کی بجائے ان سے علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کر لی، بلکہ ابن خلدون کے بیان کے مطابق وہ بھی حضرت معاویہؓ کے ساتھ آکر مل گئے۔ کو یا ایک الصحابی سب سچے چھوٹے جانتے بوجیتے حق کو چھوڑ کر کھلے جھوٹ کی خایت میں حضرت معاویہؓ کے معاون بن گئے، یہ حال عقل و نقل دونوں حاذف سے یہ روایت بالکل نفوادریکسرنا قابل اعتبار ہے۔

### فُرَاتٌ كَمِيَّةٍ پر قبضہ، ایک اور افسانہ

مولانا تکھتہ بیں:-

”اس بے بعد حضرت علیؑ سے اور حضرت معاویہؓ شام سے جنگ کی تیاریاں کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور متفقین کے مقام پر جو فرات کے مغربی جانب الترقومہ کے قریب فانچ تھا، فرتھین کا آمنا سامنا ہوا حضرت معاویہؓ کا شکر فرات کے پانی پر پہنچا یعنی ہو چکا تھا، انہوں نے شکر مخالفت کو اس سے فائدہ اٹھانے کی ایسا نہ دی، پھر حضرت علیؑ کی فوج نے رکران کو وہاں سمجھے داخل کر دیا اور حضرت علیؑ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی مزوریت بھر بلندی لیتے رہو اور باقی سے شکر مخالفت کو فائدہ اٹھانے دو۔“ (ص ۱۳۵)

دونوں فرتوں جنگ کی تیاریاں کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، یہ دعویٰ خلاف واقعہ

ہے، اس طرح مولانا جنگ کی ذمہ داری دونوں فریقوں پر ڈالتا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی تمام تر ذمہ داری حضرت علیؓ پر ہے۔ انہوں نے ہی اس کی ابتدائی ہے حضرت علیؓ کے فوجی اقدام کی خبر سن کر حضرت معاویۃؓ نے فوجی تیاری کی، اور اپنی شام کو اس کیلئے تیار کیا۔ گویا حضرت معاویۃؓ کو با مریم بیوی م Rafi'a تھے جنگ کے لئے تیار ہونا پڑا۔ شیعۃ الاسلام ابن تیمیہؓ نے بھی متعدد مဂلے اس کی صراحت کی ہے۔

نیز فرات کے پانی پر قبضہ کرنے کی یہ روایت بھی من گھر طرت ہے جس روایت کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے اُس کی رو سے اس کا مشورہ دینے والے عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ اور ولید بن عقبہ تھے۔ حالانکہ ان دونوں حضرات کی جنگِ صفیہ میں شرکت ہی ثابت نہیں۔ ابن الاشیر نے تو یہ روایت ذکر کر کے اپنے اس شبہ کا صاف طور پر اظہار بھی کر دیا ہے، و قداقیل ان الولید و ابن ابی سوچ لم یشهد اصحابین۔ یعنی روایت کا جن دو شخصوں پر مدار ہے، کہتے ہیں وہ صفیین میں حاضر ہی نہیں ہوئے، ابن الاشیر نے ایک دوسرے مقام پر عبداللہ بن سعد کے عدم شرکت کے قول کو دوسرے قول کی نسبت صحیح قرار دیا ہے، ولید بن عقبہ کے عدم شرکت کی صراحت حافظہ ابن حجر، ابن کثیر ابن سعد و رابن عبدالبیر نے بھی کہتے ہیں کہ، اسی طرح عبداللہ بن سعد کے عدم شرکت کی صراحت بھی ابن کثیر و رابن عبدالبیر نے کی ہے۔

### حضرت معاویۃؓ کا جواب نقل کرنے میں نا انصافی

مولانا لکھتے ہیں:-

”ذی الجہر کے آغاز میں باقا عو جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علیؓ نے تمام

اب الطبری، ج ۲، ص ۵۴۳-۵۵۰۔ الکامل، ج ۳، ص ۹۷-۱۰۲۔ منهاج السنۃ، ج ۲، ص ۲۰۲، ۲۳۳، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵۔

ملک طاحظہ ہو الکامل، ج ۳، ص ۳۵۱، ۳۸۷، ۴۸۲۔ طبقات ابن سعد، ج ۶، ص ۲۵-۲۶۔ الاصابہ ج ۶، ص ۳۲۲۔ الاستیعاب، ج ۱، ص ۳۸۲-۴۰۵۔ البلاطیۃ ج ۷، ص ۳۱۱، ج ۸، ص ۲۱۳

جنت کے لئے ایک وحدتی ہے، مگر ان کا جواب یہ تھا کہ "میرے پاس سے چلے جاؤ  
میرے درمیانے درمیان تلوار کے سوا کچھ نہیں" (ص ۱۳۵)

یہاں مولانا نے پوری روایت درج نہیں کی، صرف مفید مطلب تکڑا ایسے انداز سے لیا ہے  
جودیافت داری کے منافقی ہے، پوری روایت اس طرح ہے کہ اس فدی نے آگر حضرت  
معاویہؓ کو وعظ کرتنا شروع کر دیا اور کہا ہے۔

"یہ دنیا فانی ہے، مرکر آپ نے خدا کے سامنے اپنے کئے دھرے کی جواب دیں کتنی  
ہے، ہم آپ کو بھی خون ریزی اور تفرقے سے ڈراتے ہیں، حضرت معاویہؓ نے کہا  
بھی وصیتِ جنم مجھے کر رہے ہو اپنے ساتھی (حضرت علیؑ) کو بھی کہا ہے بھکھنے لگے وہ  
آپ جیسے نہیں ہیں، ہمارا ساتھی شرف و فضل، دینداری، سابقیت اور قرابت  
کے لحاظ سے سب سے زیادہ حقدار خلافت ہے" حضرت معاویہؓ نے پوچھا، تمہارے خلیفہ  
چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے: "وہ آپ کو خداخوی اور اُس دعوتِ حق کو قبول کرنے کا  
حکم دیتے ہیں، جس کی طرف وہ آپ کو بُلارہے ہیں، اس میں آپ کے لئے دین و دنیا  
دو قوں کی بھلائی ہے" حضرت معاویہؓ نے کہا "اچھا آپ کا مطلب ہے کہم خون  
عثمانؓ کا مطالبه ترک کر دیں؟ بخدا ایسا کیمی نہیں ہو سکتا" اس پر وفد کا ایک  
دوسرا کن کہنے لگا، "ہم نے آپ کا مقصد بھانپ لیا ہے، آپ نے خلیفہ، مظلوم کے  
قتل کی مذہبی اور اس کے خون کے مطالبے کو محض لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے  
کے لئے ایک بھانپ بنایا ہے، اور حُب جاہ کا یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے  
آپ نے اُن کی مدد میں مستی کی اور اُن کے قتل کئے جانے کو میدل پسند کیا اور آپ کی  
اس دعوت پر بہت سے بیوقوف اور ادب ایش قسم کے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے  
..... الگ آپ اس مقصد میں ناکام ہو گئے تو یاد رکھئے اس وقت آپ  
عرب میں بدرین آدمی شارکتے جائیں گے اور اگر کامیاب ہو گئے تو چند روز  
دنیا میں عیش کر لیں گے لیکن پسند کے نزدیک آپ مستحق جہنم قرار دے جا چکے  
ہونگے، لیں اسے معاویہ اخلاص سے ڈریئے، اپنے دعوے کو چھوڑ دیجئے اور جو

ستہ خلافت ہے، اُس کے ساتھ جدگر نے سب بان آجائیے اور حضرت معاویہؓ نے اس شخص کی بد تعریزی پر انہمار افسوس کیا، اور اس پر بھی کہ اس نے ہمارا نقطہ نظر بیان کرنے میں کذب بیانی سے کام لیا ہے، اس کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، پھر آپ نے کہا "میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے اور جہارے درمیان تلوار کے سوا کچھ نہیں۔"

اگر یہ روایت قابل قبول ہے تو اس میں خود کیجئے جو وفات امام جلت کے لئے بھیجا گیا تھا اُس نے اپنا مقصد تھیک طریقہ سے ادا کیا ہے جو مسئلہ ماہرا النزاع تھا اُس پر انہوں نے سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی، حضرت علیؑ کی فضیلت و منقبت جاگر شروع کروی، حالانکہ اس پیغمبرؓ کی حضرت معاویہؓ کو بھی انکار رکھا۔ اسی لئے حضرت معاویہؓ نے اس کے جواب میں صرف یہی کہا کہ آپ کا مطلب ہے ہم خون عثمانؓ کا مطالیہ ترک کر دیں ہے یعنی ممکن ہے؟ اس پر انہوں نے بد تعریزی کا منظاہرہ کیا کذب بیانی کی اور ان کی نیتوں پر حکم لئے، نیز ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو احمد و ابا شمس (سفہاء الطفّاعم) کہا، حالانکہ ان میں عصا بڑ کرام کی بھی ایک جماعت موجود تھی، پھر انہوں نے حضرت معاویہؓ اور عرب کا بدر ترین آدمی (شَرْعُّرُّ الْعَرَبِ)، اوستھنی نار سک کہہ ڈالا۔ ان تمام یا تولی کے بعد حضرت معاویہؓ نے وہ الفاظ کہے جن کو مولانا نے نقل کیا ہے "الصاص پسند آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ مولانے وہ الفاظ جس انہوں نے نقل کئے ہیں وہ دیات داری کی مطابق یا اس کے یکسر منافق ہے اور حضرت معاویہؓ کا اصل جواب خط کشیدہ فقرہ ہے، یاد رجو انہوں نے آخر میں ان کی زیادتی اور ان کے حد تک بڑھ جلنے پر کہا ہے؟ مولانا نا لکھتے ہیں :-

"پچھے مدت تک جنگ جاری رہنے کے بعد حبیب حرمؓ کے آخوندک کے لئے التوانے جنگ کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت علیؑ نے پھر ایک وقار حضرت علیؑ بن حاتمؓ کی کرگی

میں بیجا جس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ سب لوگ حضرت علی پر صحیح ہو چکے ہیں اور صرف آپ اور آپ کے ساتھی ہی ان سے الگ ہیں، حضرت معاویہ نے جواب دیا وہ قاتلین عثمانؑ کو بامسے حوالہ کریں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، پھر وہ تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے بعد حضرت معاویہ نے ایک دفعہ حضرت ملیؓ کے پاس بیجا جس کے سردار حضرت جیب بن مسلمہ الفیری تھے، انہوں نے حضرت علیؓ سے کہا: اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمانؑ کو قتل نہیں کیا ہے تو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالہ کر دیں، یہم حضرت عثمانؑ کے بدلتے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ خلافت سے دست بردار ہو جائیں، تاکہ مسلمان آپس کے مشورہ سے جس پراتفاق کریں اسے خلیفہ بنالیں۔ (ص ۱۳۵-۱۳۶)

ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا یہ مطالبه حالات کا طبعی تقاضا تھا، اس مسئلہ میں ان کے ساتھ اکابر صحابہ کی ایک معقول تعداد بھی تھی، یعنی حضرت ملیؓ کی طرف سے اس مطالیہ کو درخواست نہ بسمگیا، اور بالآخر یہ جنگ بھی ہو کر رہی اور ظرفیں کے ہزاروں افراد اس جنگ میں کام تھیں، دکان امور اللہ مقدار مقدم و درا۔

**قتل عمر بن الخطاب کے لئے نصیحت صریح؟**

(مولانا لکھتے ہیں:-)

اس جنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نصیحت صریح سے یہ بات کھوٹ دی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ وہ واقعیت ہے کہ حضرت عمر بن یاسرؓ جو حضرت علیؓ کی فوج میں شامل تھے، حضرت معاویہؓ کی فوج سے رطب ہوتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمرؓ کے متصلی بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ میں مشہور تھا، اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضورؐ کی زبانِ تبادلہ سے سنا تھا کہ قتل لا نفعہ البا غیة (تم کو ایک با غنی گروہ قتل کرے گا)۔ (ص ۱۳۶)

یک سوال یہ ہے کہ حضرت عمرانؑ کے متعلق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہؓ میں مشہور تھا، نیز اس کا مفہوم بھی وہی تھا جو مولانا نے یہاں لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت علیؑ کے شکر میں حضرت عمرانؑ کی موجودگی صحابہؓ کرام کو حضرت علیؑ کے ساتھ آمادہ تعلوں ذکر سکی ہے حالانکہ حضرت عمرانؑ کا ایک گروہ سے لڑنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ عین ملنگ ہے کہ عمرانؑ اس برسر جنگ گروہ کے ہاتھوں قتل کر دئے جائیں، گروہ معاویہؓ اگر فتنہ باعث ہوتا تو اس چیز کو کھوں دینے کے لئے حضرت علیؑ کے گروہ میں حضرت عمرانؑ کی موجودگی ہی کافی تھی نہ کہ اس کے لئے ان کے قتل کرنے جانے کا انتظار کیا جاتا، نیز جنگِ صفين سے قبل اور اس کے درمیانی وقتوں میں متعذر تھا حضرت علیؑ کا وفد حضرت معاویہؓ کی طرف اور حضرت معاویہؓ کا وفد حضرت علیؑ طرف صلح کی بات چیت کے لئے آتیا جاتا رہا، حضرت علیؑ کے گروہ میں حضرت عمرانؑ موجود تھے، حضرت علیؑ اور ان کے اصحاب نے کسی موقع پر بھی حضرت معاویہؓ یا ان کے وفد کو یہ بات یاد نہ دلائی کہ عمرانؑ ہمارے شکر میں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئی کے مطابق ان کو ایک گروہ باغی قتل کرے گا، عمرانؑ ہمارے ساتھ مل کر تھا ارسٹ خلاف جنگ کر دئیے اور اس میں عین ملنگ ہے کہ ہمارے گروہ کے ہاتھوں، ان کا قتل ہو جائے اور تم زیانِ رسالت سے گروہ باعثی قرار پا جاؤ، اس نے تھیں ہمارے خلاف جنگ کرنے سے باز آجاتا چاہئے۔

مزید پر بکاں یہ روایت جن اصحاب رسول سے مردی ہے ان کے نام جو مولانا نے لکھے ہیں ان میں سے چار حضرات، حضرت عثمانؓ، مخدیفہؓ، ابن مسعودؓ اور ابو راقع (بیان اختلاف ہو جنگِ صفين سے پہلے وفات پاچکے تھے، چار حضرات ابوالیوب انصاریؓ، ابوہریرہؓ، اتم سلمہؓ، ابوبیکر شعبانیؓ، خیر جانبدار رہے، اب حضرت عمرانؑ کو چھوڑ کر باقی پانچ حضرات رہے، ان میں سے تین ابو قتادہؓ، حذیرہ بن ثابت اور ابوالیسیر جنگِ صفين میں حضرت علیؑ کے ساتھ تھے اور دو حضرت معاویہؓ کے ساتھ، اب ذرا اخیر سے تجزیہ کر کے دیکھیں جن تین حضرات نے حضرت علیؑ کا ساتھ دیا، کسی صحیح باستدروایت سے یہ ثابت نہیں کہ انہیں نے محض اس حدیث کی پہنچ پر حق و باطل کا اندازہ لگا کر، حضرت علیؑ کا ساتھ دیا ہوا اور

اُن سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمارؓ کی شہادت کے بعد انہوں نے حدیث کو مداراست دل  
بنانکر دوسرا فرقہ کو گردوبغاۃ کہا ہو، حالانکہ ان تین اشخاص میں سے حضرت گزینہ کے  
سوا، دو حضرات اس کے بعد ایک تھے اور دوسرا صاحب شہید یا شہید تک  
زندہ رہے اور جو چار حضرات غیر جانبدار ہے وہ بالترتیب عمارؓ، عویضؓ، سلمہؓ،  
عویضؓ تک زندہ رہے، بقول مولانا قتل عمارؓ حق و باطل کے نقش صریح تھا، اگر یہ  
میں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ان صحابہؓ کرام نے اس کا کوئی اعلان نہیں کیا  
جسیوں سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی، نہ آن سے یہ ثابت ہے کہ حق و  
باطل کے واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے غیر جانبداری کی روشن ترک کر کے حضرت علیؓ  
کے گردہ میں آگر شامل ہو گئے ہوں، حالانکہ ان سے اس اخلاقی گراؤٹ کی ایمیڈیاں کی جا  
سکتی کہ وضوی حق کے بعد بھی وہ اس کی حمایت نہ کریں لور بستور غیر جانبدار رہ کر بالواسطہ  
باطل کے معلوں بنتی رہیں، نہ آن دو حضرات نے حضرت معاویہؓ نے علیحدگی اختیار کی جو ان  
کے ساتھ جنگ متفقین میں لڑتے تھے حالانکہ ان کو بھی شہادت عمارؓ کے بعد حضرت معلویہؓ  
کو چھوڑ کر حضرت علیؓ کا ساتھ دینا چاہئی تھا، لیکن وہ بھی بستور معاویہؓ کے کیپ میں  
شامل رہے۔

پھر سب سے زیادہ خود حضرت علیؓ کا طرز عمل ذہنی الجتنی کا باعث ہے اگر اس نقش  
صریح نہ ہے یہ بات کھوں دی تھی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ تو اولاً حضرت علیؓ نے  
جنگ بندی کیوں قبول کی؟ قرآن تو بتا ہے کہ گروہ باغی جب تک اپنی بغاوت سے باز  
دآجائے اُس وقت تک آن سے قتل جاری رکھا جائے، فَمَا تِلْوَ الْقِبْقَى تَبْقِيْ حَقَّى  
تفقیْ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (الجهوت)، اگر ان داہی روایات کا سہاوارے یا جائے جن میں آتھے  
کہ آپ جنگ بندی کے خلاف تھے، تب بھی یہ باتا محتاج و مناجحت ہے کہ انہوں نے  
جنگ بندی کی مخالفت کیس بنادپر کی تھی؟ اس نقش صریح کی بنادپر یا کسی اور وجہ سے  
روایات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ نے اس نقش صریح اور  
آیت قرآنی کا حوالہ دے کر یہ نہیں کہا کہ اب تو ان کا باغی ہونا ایسی طرح واضح ہو چکا ہے

جنگ بندی کا سوال ہی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک فرقی خلاف آپ نے  
موقت سے رجوع نہیں کر لیتا، گویا جنگ بندی کی مخالفت کی بنائی اور چیز پر تھی اس  
”نص صریح پر نہ تھی، پھر یہ تکمیل (ثالثی) کیوں قبول کی؟“ ثالثی کی ضرورت ہمیشہ وہاں  
پیش آتی ہے جب دنوں مغارب گروہوں کے پاس ایسہ دلائل موجود ہوں کہ جن سے  
کھل کر یہ واضح نہ ہوتا ہو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ دنوں فرقی آپ نے اپنے  
دعاوی کے مطابق آپ نے کو حق پر سمجھتے ہوں، ایسے موقع پر یہ متعین کرنے کے لئے تکمیل الواقع  
اپنے دعوی میں سمجھا کون ہے اور جبوٹا کون؟ فیصلہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے لیکن  
جب شہادتِ عمار نے ہی حق و باطل کو کھول کر رکھ دیا تھا تو پھر تکمیل کی ضرورت ہی  
کیا تھی؟

پھر اداگے ہر یہیے حضرت حسنؑ محضرت معاویہؓ کے حق میں دست بردار ہو گئے، اگر  
”نص صریح“ سے ان کا باعث ہونا ثابت ہو چکا تھا، تو ان سے توقیل فرض تھا نہ مسلمانوں  
کی زمام قیادت ہی ان کے سپرد کر دی جاتی، پھر زید یعنی فیصلہ کی حضرت حسنؑ نے کاس  
فیصلہ کی تائید و تصدیق اُس وقت کی پوری مملکتِ اسلامیہ نے کی، سب دنخوشی  
منانی گئی اور اُس سال کا نام ہی عام الجاہر رکھ دیا گیا یعنی نظم حکومت میں جو  
اختلاف اور اندر وین طک جوانشوار بپا ہو گیا تھا وہ حضرت معاویہؓ کے غلیقہ بنتہ  
ہی نظم و ضبط اور اتحاد و اتفاق میں تبدیل ہو گیا۔ علاوہ برین خود بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے حضرت حسنؑ کے اس فعل کی تحسین و ستائش کی، حالانکہ اگر حضرت معاویہؓ نے الواقع  
باfungی ہوتے تو حضرت حسنؑ کے اس فیصلے سے نہ مسلمانوں کو کوئی خوشی ہوئی چاہئے تھی  
در رسولؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صدح کرنی چاہئے تھی۔  
باfungی گروہ کا مصلاق؟

ذکورہ تفصیلات سے یہ بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہؓ اور  
آن کے اصحاب پر اُس گروہ باfungی کا اطلاق صحیح نہیں ہیں جس نے حضرت عثمانؑ کو شہید کیا ہے  
حضرت عمار کا قاتل وہی گروہ باfungی ہے جس نے خود حضرت عثمانؑ کو شہید کیا، جو حضرت علیؓ

کی فوج میں شامل تھا۔ گھسان کے رہن میں یہ عین ممکن ہے کہ حضرت علی کی فوج میں شامل گروہ یا غیر ہی کے ہاتھوں انہی کی فوج کے چند ادمی بھی مارے گئے ہوں جن میں حضرت عمر بن عثمان بھی شامل ہوں، یا پھر ان سی قاتلین عثمان بن عٹا کے کچھ افراد گروہ معاویہ میں محض اس بنا پر شامل ہو گئے ہوں کہ اس طرح ان کی لرف سے لڑتے ہوئے حضرت عمر بن شیعہ کو شہید کر کے گروہ معاویہ کو گروہ یا غیر یا در کرانے کی کوشش کر لیجی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اگرچہ بعد میں حاکم ان کا یہ مقصد پورا ہو گیا، اس توجیہ کی صورت پر وہ تمام قرائیں دلالت کرتے ہیں جن کی یہم وضیح کرچکے ہیں اُس کی مزید تاثیر خود روایت کے الفاظ سے بھی ہو جاتی ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت جن الفاظ کے ساتھ مروی ہے اس طرح ہے :-

**فِيْحَ عَمَّارٍ قُتِلَهُ الْفَتَّاهُ الْبَاغِيَةُ يَدُ عَوْنَمٍ إِلَى الْجِنَّةِ وَيَدُ عَوْنَمٍ إِلَى النَّارِ۔ (ترجمہ) عَمَّارٌ كُوْرُوْ بَاغِيْ قُتِلَ كَمَا كُوْجَتَتْ كَمَا طَارَتْ بَهْرَفَ۔**

صحیح بخاری کے دوسرے مقام پر اس روایت میں دعوت الی الجنة کی بجائے دعوت الی النار کے لفظ ہیں، ان الفاظ پر غور کیجیہ کہ حضرت معاویہ بن عثمان بن عمار بالکل بکریہ تھے اور اس معاملے میں ان کے ساتھ بہت سے اکابر صحابہ نبی تھے، پھر قصاص کا مطلب ایک طرح سے قرآنی مطالبہ تھا، گویا یہ قرآن کی لرف دعوت تھی، اب اگر حضرت مخلوک

لله شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہی لکھا ہے کہ **قُتِلَهُ الْفَتَّاهُ الْبَاغِيَةُ حَسْبُرَتْ مَعَاوِيَةً اُورَانَ كَمَا طَارَتْ بَهْرَفَ** کے باعث ہونے پر نقص نہیں ساوراً انہوں نے اس کی ایک اور توجیہ میں کہ ہم ان **عَمَّارَ لِتَقْتِلَ اللَّهُ الْبَاغِيَةَ** لدیں مقصداً فی ان **لَمَّا دَلَّ اللَّفْظُ لِمَعَاوِيَةَ وَاصْفَاهَ بِمَبْلِ** یعنی انہا رید بہ تلاع العصماً **الْقِ حَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِلَتْ وَهُوَ طَالِفَةُ مِنَ الْعَسْكَرِ وَمِنْ رَضِيَ بِقُتْلِ عَمَّارٍ كَانَ حَكِيمًا حکمہا و مصنوعہ اند کان فی العسکر من لم یرض بقتل عمار اعبد الله بن عمر وغیرہ میں نہیں **لَمَّا دَلَّ اللَّفْظُ كَافُوا مُنْكِرُنَ لَقْتَلَ عَمَّارَ حَتَّى مَعَاوِيَةَ وَهُرَفَ وَ** آنکھا وی بن تیمیہ (۲، ص ۷۷۷)**

اور اسی کے اصحاب کو اس حدیث کا مصدق سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت معاویہ دیگر اکابر صحابہ سمیت جنت یا اللہ کی طرف دعوت فیتنہ کی وجائے لوگوں کو جہنم کی دعوت فی رہے تھے (نعمود باللہ) حالانکہ صحابہ کرام کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، البته قاتلین عثمان کا گروہ امانت مسلم میں افتراق و انشار کا بیچ بُکر دعوت الی القار کا اہتمام کر رہا تھا، اس میں فتنہ باغیتہ کی جو صفت اس حدیث میں بتلائی گئی ہے وہ اس گروہ پر صادق آتی ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جس نے جنگِ حمل برپائی اور حسین کی بنیوں پری جنگ صفیین کی بھی نوبت آئی اور اسی گروہ نے حضرت عمار کو شہید کیا ہے، اس کی تائید بخاری کی ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کی بھی لڑائی کی خبر دی ہے۔

**لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقْتَلَ فِتْنَاتُنَّ عَظِيمَتَانَ، يُقْتَلَ بَيْنَهُمَا  
مَفْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ لَا - (ترجمہ)، قیامت سے پہلے**

پہلے دو عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے، دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہو گا۔

اس حدیث میں جن دو گروہوں کی لڑائی کا ذکر ہے اس سے بالاتفاق حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ کا گروہ مراد ہے اس سے معلوم ہوا کہ "فتنه عظیمة" اور "فتنة باغية" دو الگ الگ گروہ ہیں، ایک مقام پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے مقابلے میں "فتنة باغية" کا ذکر کیا، جس کی صفت آپ نے یہ بتلائی کہ وہ جہنم کی طرف بلا میں گے اور مسلمان جنت اور اللہ کی طرف بلا میں گے، دوسرا میں آپ نے دونوں جماعتوں کو "عظیم گروہ" سے تعبیر کیا اور دونوں کی دعوت اور دعویٰ ایک ہی بتلایا، اس میں حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ دونوں کے گروہ آگئے ان دو عظیم گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ باقی ہے جو تینیاں ان دونوں سے قطعاً مختلف اور الگ ہے۔

**حق و باطل کی علامت؟**

مولانا مزید لکھتے ہیں۔

"محدود صحابہ و تابعین نے بوضخت علیؓ اور حضرت معاویہ کی بنگ میں مذہب

تھے، حضرت مہارضی شہادت کو بیہ معلوم کرنے کے لئے ایک علامت قرار دیے یا  
تحاکر فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون (ص ۱۳۷)

وہ کون سے متعدد صحابہ و تابعین تھے آن میں سے پانچ دس کے ناموں کی بھی نشان وہی کوئی  
جائے تو ہم منون ہوں گے، مولانا نے جن تابوں کا حوالہ دیا ہے وہاں تو صرف ایک دو ماں  
ہی، میں جن کو متعدد صحابہ و تابعین سے تبیر نہیں کیا جاسکتا، ہم پہلے صراحت کر چکے  
ہیں کہ جن اصحاب رسول نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربان  
جمبارک سے شنی تھی، حق و باطل کے واضح ہو جاتے کے بعد ان کا فرض تحاکر وہ آتت  
ہیں اس کا اعلان کرتے یا غیر مانداری کی روشن ترک کر کے حضرت علیؑ کا ساتھ دیتے  
اور آن صحابہ کو جو حضرت معاویۃؓ کے ساتھ تھے، آن سے علیحدہ ہو جانا چاہیئے تھا، نہ  
اس کے بعد تحلیم وغیرہ کی ہی کوئی مزروت نہ تھی، یہکن عجیب بات ہے کہ ان میں سے  
کوئی چیز بھی نہ ہوئی اور معاملہ جہاں کا تھاں رہا۔

### علماء کے اقوال سے غلط استدلال

اس کے بعد مولانا نے علماء کے بعض اقوال اس میں ذکر کئے کہ حضرت علیؑ  
حق پر تھا اور حضرت معاویۃؓ باطل پر، یہکن تو مولانا نے نقل عبارات میں بعض  
جزگ انصاف سے کام نہیں لیا، وہ حصہ نقل گردیا جس میں حضرت معاویۃؓ کے یاغی  
ہوئے کی صراحت ہے اور وہ حصہ ترک کر دیا ہے جس میں آن کو اس بنا پر مخدور گردانا  
گیا ہے کہ آن کے تمام اخوال کا بنی اجتہاد تھا و سرے وہ کسی عبارت سے بھی یہ ثابت نہ  
کر سکتے کہ معاویۃؓ باطل ہوتے، مولانا بار بار حضرت معاویۃؓ کے لئے باطل کا نفاذ اخوال  
کرتے ہیں، مولانا کو چلہئے تھاکر وہ ایسے اتوال ذکر کرتے جن میں حضرت معاویۃؓ کو  
باطل پر کہا گیا ہو، جو عبارات مولانا نے نقل کی ہیں، ان میں باطل کا لفظ کسی نے  
استعمال نہیں کیا، بعض حضرات نے حق کے مقابلے میں یاغی ضرور استعمال کیا ہے، یہکن  
ملدا نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہاں بغاوت کا وہ مفہوم نہیں جو باطل کے  
مترادف ہوتا ہے یہاں اس کا مفہوم ہے کہ اجتہاد حضرت علیؑ کا صواب تھا، حضرت

معاودتیہ سے خطا ہے اجتہادی ہوئی ہے ان کو حضرت علیؓ کی بیعت میں داخل ہو جانا اور ان کے ساتھ جنگ سے امداد کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا ذکر کیے ایک گونہ بغاوت کا لذکار کیا ہے، حضرت معاویہؓ کے اس طرز عمل کو کلیتیہ باطل اس بنابری نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت معاویہؓ بھی اپنے اقسام میں مجتہد تھا، اور مجتہد خطا کار ہو تب بھی وہ اجر و ثواب کا مستقیم ہوتا ہے، جس طرح کلمت مرجح موجود ہے، لیکن اہل باطل کے نئے اجر و ثواب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بنابریں حضرت معاویہؓ کے لئے باطل کا لفظ استعمال کرنا مسلک اہل سنت کے یکسر خلاف ہے، اب دادا وہ اقوال بھی ملاحظہ فرمائیجئے جو مولانا نے لفظ کئے ہیں۔

ابو بکر جعفر انصاری کی جو عبارت نقل کی گئی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ "اس جنگ میں حضرت علیؓ حق پڑتے اور اس میں اس باقی گروہ کے سوا جو ان سے برسر جنگ تھا اور کوئی بھی ان سے اختلاف نہ رکھتا تھا، یہاں بھی اولاً باطل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے پھر یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ اس پارے میں کوئی حضرت علیؓ سے اختلاف نہ رکھتا تھا، دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کی اکثریت غیر جانبدار رہی اور ان کی وجہ سے ان کے زیر اثر ہزاروں مسلمانوں نے بھی عدم تعاون کی روشن اختیار کئے رکھی، غیر جانبداری اور عدم تعاون اختلاف ہی کی ایک گونہ شکلیں ہیں۔ ابن عبد البر کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ:-

"بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر آثار یہ بات منقول ہے کہ عمر بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا اور یہ صحیح ترین احادیث میں سے ہے۔" (ص ۱۷)

اس میں تو سرے سے حضرت معاویہؓ کو باغی بھی نہیں کہا گیا ہے، حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن باغی گروہ درحقیقت وہی قاتلین عثمانؓ ہیں جن کی ہم پہلے و منہ کر کئے ہیں، نہ کہ حضرت معاویہؓ اور ان کے اصحاب۔

حافظ ابن حجر کے متعلق مولانا لکھتے ہیں :-

"یہ بات حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھی ہے، دوسری جگہ حافظ ابن حجر  
لکھتے ہیں قتل عمار کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق حضرت علیؑ کے ساتھ تھا  
اور اب سنت اس بات پر مستحق ہو گئے، درا خالیک پہلے اس میں اختلاف تھا  
یہاں مولانا ابن حجر کی پوری جبارت قتل نہیں کی، پوری جبارت اس طرح ہے:-

"کل من المقربین مجتهد و كان من الصاببة لم يدأ بالخلاف في  
شيء من القتال و ظلمه يقتل عثمان الصواب كان مع ملء اتفق  
على ذلك اهل السنة بعد اختلاف مكان في القدام:-

دونوں فرقی مجتهد تھے، صحابہ کا ایک گروہ سرسے سے جنگ میں شریک  
ہی نہیں ہوا، قتل عمار سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت علیؑ صواب پر تھے  
اور اب سنت اس بات پر مستحق ہو گئے درا خالیک پہلے اس میں اختلاف  
تھا۔" (الاصابہ، ج ۲، ص ۷۴۰)

اس جبارت میں حافظ ابن حجر نے حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ صرف دو مجتہدوں  
کے اجتہاد کے فلسفہ و صحیح ہونے کے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے کہ حضرت علیؑ اپنے اجتہاد میں  
صواب پر تھے، پھر حضرت علیؑ کا باصواب ہونا بھی قتل عمار کے فرائض بعد نہیں ظاہر ہو گا  
تمباکہ کچھ عرصہ بعد جاکے ہوا اور نہ پھر نہ تکیم کی ضرورت تھی نہ اس بارے میں اب سنت  
کے درمیان اختلاف ہوتا، حالانکہ تکیم سی ہوئی اور اختلاف بھی، اتفاق بحد میں  
چاکر ہوا۔

حافظ ابن حشر کا بھی قول قتل کیا گیا ہے جسی میں انہوں نے حضرت علیؑ کے حق پر اور  
معادوئی کے باغی ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن باطل کا الفاظ انہوں نے بھی استعمال  
نہیں کیا، ان کے نزدیک بھی باغی ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ اجتہاد حضرت علیؑ کا صواب  
تھا، ایک دوسرے مقام پر وہ یا لو صاحت لکھتے ہیں :-

"شہادت عثمانی کے بعد ہو گئے ہوا، اس کی بناء اجتہاد و رائے پر تھی، حق و صواب

حضرت علیؑ کے ساتھ تھا مدد و معاونت اگلے وچھے جہور ملاد کے زریک مخدویں<sup>۱۷</sup>،  
ایک اور دلیل بولا تا نئے یہ دی ہے۔

”جنگِ جمل سے حضرت زیرینہ کے ہدث جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو بنی ہلائند  
عیون و سلم کا یہ ارشاد یاد تھا اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علیؑ کے شکر میں حضرت عمر بن

یارینہ موجود ہیں“ (۳۸)

اس کے متعلق ہم وضاحت کر آئیے ہیں کہ ان کی موجودگی اگر کسی گروہ کے بر سر سقی ہونے کی دلیل ہو تو سر سے سے جنگِ جمل و صفين بپاکستان ہوتی / دوفوں وقت مذکورہ حدیث حضرت علیؑ کے گروہ میں  
موجود ہتھے، اور طرفیں کی فوجوں میں ایسے اصحاب رسول بھی موجود ہتھے جنہوں نے یہ حدیث خود رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی لیکن کسی نے اس وقت اس حدیث کو مداراً استدلال نہیں بنایا تھا حضرت علیؑ  
نے اس کا حوالہ دے کر دوسرے فرقے کو سمجھانے کی کوشش کی ایز زوالا نئے حضرت زیرینہ کے ہدث  
جانے کی بحوث جوابیان کی ہے اس کے لیے حوالہ ”البداية“ کا دیا ہے مالاکہ دبای ابن کیشر نے اس قول کے  
مہم صحت کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کر دیا ہے کہ ان کے وچھے ہدث جانے کی وجہ وہ حدیث ہی ہو سکتی ہے اگر وہ  
صحیح ہو اس کے مطابق اور کوئی دਬہ نہیں اس کے بعد مولانا حکمت پیش کر جب حضرت عمر بن عزیز کے شید ہونے  
کی خبر حضرت معاویہ رضیٰ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کی فرمائی تاویل کی۔

”کیا ہم نے حمار کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو اس نے تسلی کی جوانیں میدان جنگ میں لے لیا“ حمالہ کنیجی حملہ<sup>۱۸</sup>  
عیون و سلم نے یہ دلیل فرمایا تھا کہ حضرت حمار نے کوئی گروہ میدان جنگ میں دے کر بطلیز فرمایا  
تھا کہ پانچی گروہ ان کو قتل کرے گا اور خدا ہر بے کراہ کو قتل حضرت معاویہ رضیٰ کے گروہ نے یہ  
مشادر کر حضرت علیؑ کے گروہ نے“ (ص ۱۳۹ - ۱۴۰)

حضرت معاویہ کی تاویل کا بوسنوم مام طلب پر لیا جاتا ہے، جس سے سلطا نے بھی نقش گیا ہے اور صحیح نہیں،

بلے البدایۃ والنشایۃ ج ۵ ص ۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ایضاً ج ۲ ص ۲۶۹

تھے وہ حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حملہ اللہ علی الحدیث وہم نے حضرت زیرینہ کا کاتل اگر تم فہم سے طلب گئے لیکن تم اس  
رواہ میں خالی ہوئے۔

گله البدایۃ والنشایۃ، ج ۲، ص ۱۴۰

حال بھی اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، حضرت علیؑ کے شکر میں یا نیوں کا دُگہ موجود تھا، جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کیا تھا، حضرت خارہؓ بھی ان کے ساتھ تھے، حضرت معاویہؓ کا مطلب یہ فتنہ اُس کو چار سے گود کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ فی الواقع اسی گود کے کسی آدمی نے قتل کیا جوان کویدان جگ میں لایا اور جن کے ساتھ کردہ تو ہے سختے گریا ان کا قتل اُسکی بھی گود کے ہاتھوں ہوا ہے جو حضرت علیؑ کے شکر میں موجود ہے اور جن کا وجود ہی جنکل کا سبب بھی ہے اگر حضرت معاویہؓ کے قول کا یہ مفہوم نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ قتل خارہؓ کے بعد حضرت معاویہؓ کے گود کو باختم کا جاتا لیکن تکمیل نہ ہو اسی وجہ کی وجہ پر اُنہیں سمجھا گیا۔

### مشاجرات مجاہد اور عقیدہ اہل سنت۔

بهر جل مولانا نے حضرت معاویہؓ کو جو باطل پروٹوپت کر کے یہ بادر کا لمحہ کو مشتمش کی ہے کران کے بیسے حسن طین کی کوئی لگنا نہیں، اور ان کی لڑائی تکمیل اور حصولِ جاہ و اقتدار کی خاطر تھی اسے دو ثابت دو کر سکے اچھا یہ کہ قول یعنی اسی پیش ذکر سے جس میں حضرت معاویہؓ کو باطل پر کامیاب ہوا تاکہ نقطہ نظر اہل سنت کے تنقیۃ عقیدے سے یکر متفہ ہے، اہل سنت نے حضرت معاویہؓ کو اس بتا پر محفوظ رکاوڈ یا ہے کہ ان کی راستے اچھا پرستی کر چکا۔ تھے نفس پر نیزہ سدا غل کرنیں احمدؓ کے سخن ہیں۔ چنانچہ این خلدوں کہتے ہیں۔

حضرت علیؑ معاویہؓ کھدر میان ہو کچھ ہزادہ اگرچہ صیحت کا مقصد تھا لیکن ان کا طریقہ حق اور اچھا پرستی تھا، ان کا مقصود نیزہ سدا غل ہی بیرونی درخواز اس کی بنایکنہ اور بقیہ برحقی جیسا کہ وہم پرستوں اور بسید یونہ کہیا ہے، انہوں نے ایک اہم حق میں اچھا دیکھا، اور اچھاد کی تباہا خلاف ہو گیا جس نے معاشر ایہم تمثیل پر پہنچا دیا اس معاشر میں اچھاد اگرچہ حضرت علیؑ کا صواب مقایل معاویہؓ بھی اپنے حقوق میں باطل پر دستے، منفرد ان کا بھی حق تھا جو ان سے خطا ہو گئی تاہم یہ سب حضرت اپنے مقاصد کے لحاظ سے حق پر تھے۔

اگلے پن کو دوایت عصر کی فصل میں ابن خدود نے پھر اسی بات کے کام مبارکہ ہے کہ ان سے  
انقلبات کی بنیاد اجتہاد پر حقیقت احمد بن حنفی لکھتے ہیں۔

ہب سنت دراہی حق کا ذہب یہ ہے کہ صحابہ کرم کے ساتھ میں علم رکھا جائے اور  
کے باہمی جگہوں میں خوشی اور ان کی لا ائمہ کی تاویل کی جائے وہ سب مجتہد  
حدهما حب را نے حق مصیحت کاری ان کا مقصد تھا ذہن دینداری سبکو ہر  
فریق یہ اختقاد رکھتا تھا کہ وہی حق پر ہے اور بعد سرا فاعلیٰ بانی کے ساتھ لا ائمہ مولانا  
ہے ملکوں اور الٰہی کی طرف لوٹ آتے، اس اختقاد اجتہاد میں بحق مصیب سے اور  
بعض خطا کار، میکن خطا کے باوجود وہ معتقد ہیں کیونکہ اس کی بنیاد اجتہاد پر حقیقت اور  
مجتہد خطا کو گناہ نہ کرنی شہرت اور ان جگہوں میں حق پرستی ایسا ہے

کام ہب ہے۔

شیخ حسین ابن تیمیہ کی ہمارت اس سلسلے میں پہلے گز چکی ہے۔ نیز العقیدۃ الواسطیۃ میں بھی  
نہوں نے ان سنت کے اسی ذہب کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ملاuded اور بھی متعدد حضرات نے اس  
کی توضیح کی ہے۔ ابن حجر الشیعی مکی لکھتے ہیں۔

سر جو شفیع حضرت معاویہ رضا و حمزہ بن العاص کی وقت تکاریں تالی کرے گا اس کو  
یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان سے یہ جگہیں کافی خور و خوض کے بعد ظہور ہیں  
اسی درج سے لگئے وچکے المؤمنین نے ان کو مسند رکو دا تھے، حضرت علی رضا

۷۶۱ شرح سلم الانوفی، کتاب الفتن، ۲۲ ص ۱۳۹۸، ایضاً ص

۷۶۲ شے دیکھئے اس کتاب کا صفحہ ۲۸۸

شہ العقیدۃ الواسطیۃ، ص ۳۰۰، اصل ہمارت اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے دیکھئے ص ۹۹  
لکھے ڈا خطرہ، شرح فقہ اکبر ص ۷۷ (طبع بنیانی) المسامو بشرح المسایر و ص ۱۱۷ (طبعہ المساعدة میر)  
شرح فقہۃ المسنی، ۲۷ ص ۳۷۸، احکام القرآن ابن المغریب ۲۲ ص ۱۰۰، العوام من القوائم  
ص ۱۷۹-۱۷۸، الصراحت بالمرقۃ، ص ۱۷۹

ان کے ماقریب سکھ یا بھائی مدد ملت، پس کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کوچھ  
گوہول میں سے کسی پرا مرتاضی کر ستے، بلکہ ہر مسلمان پر واچب ہے کہ وہ حضرت ﷺ  
کو حق پر اولاد ملے سے بر سر جنگ کردہ کربلا میں بیکھے، پیغمبر و ذری دگر وہ مدنظر احمد بن جعفر  
مشابہ ہیں، جہاں میں شکر کر سے وہ مگر اہم احصان تھے۔

حضرت محمد الف ثانیؑ نے اپنے ملکتو بات میں متعدد بگر مشاہیر اس طبقے میں  
حقیقتہ الہلسنت کی یہ قدر منسخ کی ہے۔

”وہ اختلافات و مشاہیر اس طبقے میان واقع ہوئے، خواہشات نفس  
کا نتیجہ دستے مالی کی خواہشات و فرشتہت کے مقابلہ تھیں، نبی نبی البشر میں الشدید  
مسلم کی صحبت سے ان کے نفوس اپاک صاف اور نفس امارت کی اندرونی آکوڈ گیوں سے  
آزاد ہو گئے تھے۔ زان کی بناء جمالت پرستی بلکہ اجنباد و علم کے نتیجے میں اور اعلیٰ  
حق کی خاطر پیش آئے، البتہ اس اجنباد میں حضرت علی مصیب اہد ان کے فریق  
خلافت علیہ پرستے لیکن یہ الیسی اجنبادی فعلی تھی جس نے ان کو فتنہ ٹکڑیں  
پہنچایا بلکہ اس معاملے میں ان کو ملامت کرنے والا کبھی کجا نہیں، لیکن نکل مجتبیہ  
خطاب کا رجیسٹر گناہکار نہیں بلکہ درجہ ثواب کا ہی مستحق ہے۔ پس زبانِ کمان کے  
حق میں نادعا بات لکھنے سے باز رکھنا اور سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہیئے۔ اذراط و تقویط  
کے درمیان کا یہ دو راہ اعتماد ہے جسے اہل سنت نے اختیار کیا ہے اور یہ طریق  
اسلم اور سبیلِ حکم ہے۔“

شارح ”مراوف“ نے یہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحابِ مالی مشاہیر  
کو سیتی بر اجنباد نہیں مانتے، اس سے مراد کوئی ہے اہل علم ہیں؟ اہل سنت تو اس کے  
بر عکس عقیدہ رکھتے ہیں مالی سنت کی تمام کتابیں اس صراحت سے، بھروسی پڑھیں یہیں  
کہ حضرت علیؑ کے فریضی خالع الدین کی فعلی احتجادی تھی، جس طریق کرنا ہم تو ای اور

کامی بوبکو میر و نہیں اس کا تحریر نہ کی ہے۔ پھر اس کی تعلیمی و تفہیتی جائز نہیں، نہ کہ مسلمان ایسی جارتگر سکتا ہے الیہ کہ اس کا دل روگ اور اس کا ہاٹھی ثابت سے آکرودہ ہو۔

بعض فقہار نے حضرت معاویہؓ کے حق میں جو چور کا استھان کر کے اسیں امام جائز کا ہے اسی سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضا کے زمان خلافتیں مستحق ہوتی ہیں تھے، لہ کہ اس سے مراد وہ بخور ہے۔ میں کامیاب مبتدا و مذاالت ہے اب یہ تاویل اس غرض سے کی گئی ہے تاکہ یہ قول بھی اپنست کے عقیدے کے مطابق ہو جائے۔ یکی راست لوگ ایسے الفاظ ہی سے احتساب کرتے ہیں جی سے صرف مقصود کا وہم پیدا ہو سکتا ہو اور وہ لفظ درخطاب سے نیادہ اور پھر نہیں کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہؓ قائم (جائز) ہوں فلاں حالیکہ یہ محظ طور پر بر ثابت ہے کہ وہ حقوق اشخاص حقوق اسلامیں دونوں کو حمل والعاصف سے پورا کرنے والے ہیں۔ مولانا عبدالرحمن جانی نے ان کے متعلق جو "خطاب ملکر" (ناخواخوار غلطی) کے الفاظ استھان کئے ہیں یہ بھی برحقیقت زیادتی ہے، بخششی یعنی "غسلی" کے ملاوہ کسی اور لفظ کا اضافہ کرنا ہے وہ خود زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے۔

جنگی چال یا امدت کی خیر خواہی؟

مولانا لکھتے ہیں۔

حضرت عازرہ کی شہادت کے درسے ہدایہ ۴۰ صفحہ کو سخت بصر کر بپا ہوا جس میں حضرت معاویہؓ کی فوج شکست سکتی ہے پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت عمر قبیل العاصم نے

لہ علی خاطر ہر مکتبات مدت اول، حصہ دم، مکتب نمبر ۱۵ ص ۲۷۶، مکتب نمبر ۵ ص ۳، مکتب نمبر ۴ ص ۲۷۶، حصہ سیم، مکتب نمبر ۲۱ ص ۲۷۶۔ حصہ چھتم مکتب نمبر ۲۵ ص ۵۲، ۵۸، مکتب نمبر ۲۶ ص ۲۷۶۔ ذریعہ دم، حصہ ششم، مکتب ۴ ص ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵۔ ذریعہ مکتب نمبر ۴ ص ۲۹۳۔

مکتب نمبر ۹ ص ۲۷۶۔ ۱۱۔ بخش خود تحریر۔

حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب چار سی فوج نیز وہ پر قرآن اٹھا سے خود کے  
لئے حکم بیننا و ہیئت کرے । وہ ہمارے افراد میں دو سیان حکم ہے  
اس کی مصلحت حضرت مروہ نے خود ربانی کر دی اس سے ملکہ کے لشکر میں صوت  
پڑھا سئیں اپنے کو لیں گے کریں یہ مسلمانی ای جائے اور کوچک نہیں گے کر رہا تھی جاتے  
ہم مجتمع رہیں کے اخوان کے ہاں ترقیت پا ہو جائے گا۔ اگر دو ماں گئے تو ہم  
حدت مل جائے گی وہاں کے دو ماں کے دو ماں مخفیہ ہیں کریں مخفی ایک جگہ چال جتی، قرآن کو حکم  
بنانا امر سے مقصود ہی نہ تھا (ص ۱۲۹)

یہ تصور تمام ارضاعت ہے، حضرت عروہ بن العاص کی یہ ایک ایسی روقت اور مناسب تدبیر تھی۔  
جس نے امت کو مزید خون خواری سے بچایا، جس روایت کی تبلیغ حضرت عروہ بن العاص کے اس  
غیر معلوم اور جذبیے کو ”جگہ چال“ کا عنوان دیا گیا ہے، وہ البر صحیح کی روایت ہے، جبکی وہ حکومی  
لہر قشیع پر سبہ کا اتفاق ہے۔ پھر اس روایت کے لئے حقیقی میں میں العدد اصحاب رسول  
کے متلوں حضرت علی زہری کی زبان سے جو کہ اکتوبر ۶۳۱ ہے، اور اس کی روایتیت کی بیان دیں ہے  
جس کی روشنی سے حضرت علی زہری اپنی فوج کو اس ”جگہ چال“ کی حقیقت سے آگاہ کیا اور کہ  
”یہ معاویہ، عروہ بن العاص، ابی جابری میط، جیب بن سملہ، ابن ابی سرچ الحد مختار  
بن قیس ان کو تدبیر سے کوئی سرد کار ہے نہ قرآن سے کوئی تعقیل، میں ان کا اس وقت  
ہے جاتا ہوں جب یہ شہود پڑھے تھے، میری آنکھوں کے سامنے یہ وہ ہے  
یہ جب پڑھے تھے تب بھا بدترستے دھا ب جب کریں جوان اور کوچک ہیں، بدترین  
مدد ہیں، انہوں نے قرآن نیز میں پر اسلامیہ اٹھایا ہے کہ اس پر عمل کریں بلکہ یہ مخفی  
اونکی دھوکہ دیں اونچاں بازی ہے“ ।

کوئی تسویہ کر سکتا ہے کہ حضرت علی زہری اپنی شخص حضرت معاویہ و عروہ بن العاص جیسے میں العدد  
اصحاب کے متلوں ایسی ہو گئی بلکہ دلکشی کرنے، یکاہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت معاویہ کا تدبیر  
لہو پڑھے ہیں، جس سے برداشت کر اور کوئی اوزان نہیں ہو سکتا، پھر وہ حضرت ابو یوسفیہ رضا اور کافر مختار  
علیان غشیہ کے محتوى تھے، اسی طرح عروہ بن العاص بھی رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے سے

ہی سے ممتاز حیثیت پر فائز چلے آئے ہے مگر اوسی طرح دوسرے وہ حضرات مخفی جن کا رعایت میں نام آیا ہے۔ ہم کس طرح یقینی کریں کہ ایسے حبیل القدر حضرات بدترین پیشے اور بدترین مرد ہے۔

بنابریں یہ روایت تین دفعہ سے نکلا ہے۔

اول۔ اسنادی حیثیت سے پائیہ اقتداء سے ساقط ہے۔

دوم۔ عقل معاطل سے، جیسا کہ ہم تسلیمان کیا ہے کہ روایت کا مجرم اس بات کی صاف تحریک کرتا ہے کہ روایت بالکل سمجھوتہ ہے، پھر روایت کا ایک اور پہلو یہ قابلِ عجیب ہے کہ لفظ کی فوجوں کی تعداد یہ کسان بدلائی جاتی ہے یا پھر حضرت معاویہ رضی کی فوج کی تعداد.....

.....حضرت علی بن عاصی کی فوج سے زیادہ، نیز بر بھی کہا جاتا ہے جس طرح خود موافق اتنے سی افراد کیا ہے اور حضرت علی بن عاصی کی فوج میں اتنی کم جتنی نہیں پائی جاتی تھی جتنا مکسر جتنی شامی فوج میں حضرت معاویہ کی حیات کے لیے پائی جاتی تھی، گویا ایک کم تعداد اور پر اکٹھہ فوج نے پہنچے سے زیاد تعداد والی اور مستعدہ فوج کو شکست دے دی، ایسا ہونا اگرچہ ناممکن نہیں، ملنکن ہے لیکن پھر بھی اس کو سمجھ قسم کرانے کے لیے کچھ دلائل پہنچیں، معنی امکان اس کے وقوع اور صحت کی وجہ نہیں، اگر امکان ہی محنت و قوع کے لیے دلیل ہو سکتا ہے تو یہ امکان تو حضرت معاویہ رضی کی فوج میں زیادہ پہنچا جاتا ہے، اس لیے اغلب قیاس یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی کی فوج کی شکست کا تصور اسی لیے گھوڑا گیا ہے تاکہ ان کے گھن بندی کے نیز خواہانہ بندی سے کو خداونگ دے کر اس کا دھوکہ دیجی اور چالی باری "کا عنوان دیا جا سکے، اگر نی الواقع حضرت معاویہ رضی کی فوج شکست کے قریب پہنچ چکی ہوتی قریر بات بھی بعید از عقول ہے کہ اپنے سے فیصلہ کی موقع پر فوج ہتھیار ٹھال دے، فوج کا کامنڈ اچھیف اور وہ بھی خلیفۃ المسیلین، فتح قریب،

لے وہ بھی کیڑے نے وعدہ ایسیں ذکر کی ہیں، ایک سے صد سے دو نوں کی تعداد کچھ اور ہمچنان پچاس ہزار تھی، دھرمی روایت کی نو سے حضرت میہن کی ایک لاکھ یا کچھ اور وہ کم عدد حضرت معاویہ رضی کی ایک لاکھ تیس ہزار تھی،

کتابہ جائے لیکن فوج شی سے مس نہ پوچھ جگبندی پر اصرار کرے۔  
سوم، ذکورہ من گھڑت روایت کے مقابلے میں ایک دوسری صحیح باسندر روایت موجود ہے  
جسے امام احمد نے ذکر کیا ہے اور اس سے ابا کثیر نے نقل کی ہے اس روایت سے اصل حقیقت  
سامنے آ جاتی ہے، حضرت ابو اعلیٰ رضی بیان کرتے ہیں۔

ہم صفحی میں سمجھا ہوا قام کے ساتھ جنگ خواہ  
زور پر کوئی نہیں، شاخی ایک میلے پر پڑھ لگتا، عربون معاشر  
نے ملکیتی کو کہا، اپنا خلیفہ کی طرف قرآن مجید کو  
اک کتاب اللہ کی طرف دعوت دیں، مجھے امید  
ہے کہ وہ اس سے الکار نہیں کریں گے، معاشری کی  
طرف سے ایک کوئی حل رکھ کے پاس آیا اور کہا  
ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے،  
حل رکھنے کو قبول کریا اور کہا میں لوگوں کو اس کی دعویٰ

دیجئے کا یادہ تقدیر ہوں، میلک ہے، ہمارے  
اہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب پنچھوکر گئی ہے

اس روایت میں نہ شایعوں کی شکست کا ذکر ہے، نہ حضرت خروج بن العاص کی اس حکمت، «اگر  
اس طرح علی ہند کی فوج میں پھوٹ پڑتا ہے گی، نہ حضرت علی ہند کی طرف مسوب نہ خرافات ہیں، جو ان  
کی زبان سے جگبندی کی مخالفت میں صابر برکام کے متعلق کلموں اُنہی میں۔ اس روایت سے صاف  
علوم ہو جاتا ہے کہ نہ حضرت علی رضی جگب کے خواہ سمجھے نہ حضرت خروج بن العاص کو دھرمیہ، سب  
اصحاب رسول جنگ سے اگر زان سمجھے، اسی یہے جب خلاف تو قع جگبندی و پر کوئی تو اصحابِ حمل

شہ ابدیتیہ ۷، ص ۴۶۲، روایت کی شد، قال امام احمد، حدیث ایشی بن جید عن عبد العزیز بن سیاد  
من میسیبد بن ابی ثابت عن ابی عائل ..... ابن حجر عسقی نے بھی متفقیر الجنان "میں اس روایت کو دیکھ لی

بیوں ہوئے کہ اس طرح ہمیکی آنکھیں میں کٹ کت کر رکھنے تو سر ہمیں کی خانخت کرنے کرے گا  
حضرت دشمن کی سے کوئی جبردست ادا نہیں کر سکتے اسی جذبہ خیر خواہانہ سے مجبوہ ہو کر حضرت عمر بن  
العاص نے حضرت صادیر رضوی کو مشتبہ فیض ہمیں نے فرداً حضرت علی رضا کی طرف پشاور کی پیش  
دیا اور حضرت علی رضا نے بغیر کسی ادنیٰ تائیں اور پس پوچش کے اس دعوت کو قبول کر کے جنگ بندی کا  
حکم دے دیا، بھائی اس کے کاتت حضرت حمزہ بن العاص کو ان کے اس عظیم کارناٹے پر خواجہ  
حیدر و حسین پوچش کرتی کہ انہوں نے اس حد کو تباہی و ہوکت سے پچالیا، ان کے اس کہانی  
لہٰ فیر خواہندہ ہو جبے کو ایسا سمجھ کا پھر کہ جیتنیں ان سے نفرت کھانے لگتی ہیں۔  
اگرچہ مولانا شفراستھے ہیں۔

دہلی شہر سے کے مسلمان شکر صادیر رضا میرزا کو نیز دن پر اپنے ای اصلاح کا کام ہوئے  
ہوا جس کی حضرت حمزہ بن العاص کو میدھتی، حضرت علی رضا نے عراق کے لگن کا لک  
سچھایا کہ اس پھال میں نہ آؤ اور جنگ کا آخری نیصد سک پیچ جانے گیا میں  
پس پوچھ کر ہبھی اور انکو کار حضرت علی رضا مجبوہ ہو گئے کہ جنگ بند کر کے حضرت  
صادیر رضا سے تخلیم کا صاحبہ کریں۔ (من ۳۹ - ۴۰)

ہم بتا پچھلے ہیں کہ یہ تصویر ہی قطعاً غلط ہے جس کی بیان ایک لغوبی سرو یا رطاید پر ہے  
اُسی لیے مولانا نے عراقیوں کو لکھ کر جانے کا ذکر کیا تھا لیکن وہ الفاظ انقی نہیں کئے جو سمجھاتے قصہ  
حضرت علی رضا نے جیلیں القدر اصحاب رسول کے منقطع استھان کئے تھے، جنہیں ہم بتے نظر کر  
آئئے ہیں ایکو نکلے اس طرح روایت کامن گھر ماتھ ہونا داشت ہو جاتا۔ صحیح روایت کی کوئی سے جو  
نقشہ ساختے آتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی رضا نے اس دعوت کو نہ پھال پاڑی، تصویر  
کیا از جنگ بندی مجبوہ ہو کی۔ بلکہ انہوں نے اس نہ پیر کو فی الواقع دلت لے جن میں بھتر سمجھا  
لکھوںکوئی جنگ بندی قبول کر لی نیز حضرت علی رضا کی فوج یعنی، قائلین حشائش کے ماسوا جنگ کو  
ناپسند کرتی تھی بلکہ ان کا تو یہاں تک خیال محتوا کہ آتش جنگ پھر کا نہیں مرف سبایوں کا

ہاتھ ہے اسی بیٹے اُبھوں نے اس کا لوہم بھی سایوں کے برخخت، اشتر گھنی کو دیا اور حضرت علیؑ کو صاف کر دیا اور جگ پار کرنے میں اسی شخص کا امداد تھا۔ اس بنا پر جگ بندی کا امکان دیکھا ہی حضرت علیؑ کی فوج نے بھی فوراً جگ سے ہاتھ کپھا ہے۔  
 عالمتوں کا تقریب  
 مزید سختے ہیں۔

”بھروسی پھونٹکم مقرر کرنے کے موقع پر بھی جگ لائی، حضرت معاویہؓ نے پانی طرف سے حضرت عروین العلوی کو ٹکم دیا، حضرت علیؑ پا چھتے تھے کہ انی طرف سے حضرت عجہ الشدید عباس رہ کو مقرر کریں مگر عراق کے لوگوں نے کہا تو آپ کے چیزوں بھائی ایوبؓ غیر جانبدار آدمی چاہتے ہیں، آخوان کے اور پر حضرت ابو موسیٰ شعبیؓ کو ٹکم بنا تا پڑا، حالاً طریق حضرت علیؑ ان پر حملہ نہ ہوتا“ (ابو داؤد، ج ۱، ص ۱۴۰)

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو ٹکم بنا نے پر امراء کرنے کی ایک اعدا جو بھی تھی کہ وہ شروع کرتے تھے۔ ان کی اس خوبی کی بنا پر حضرت علیؑ کی فوج کا خیال تھا کہ یہ دوبارہ ہم کو جگ میں نہیں جھوکیں گے اور سراکوئی شخص ممکنی ہے اتنا صلح پسند ہو، اور اس کی وجہ سے ہیں دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف تکوا راستا فی پڑھ جائے یعنی غیر جانبداری کے ساتھ ان کی مدد و نیتؓ بھی لوگوں کے لیے درج کریں تھی، اس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ امت کا سوادِ اظہر جگ سے نالاں اور صلح و امن کا خواہاں تھا، اگر یا حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ رہ کا ٹکم مقرر کیا جانا ان کی ”پھوٹ“ کا نتیجہ نہیں بلکہ خواہ جنبات کا ایک نایا مظہر تھا۔

# مصاحبه میم

## چھٹا مرحلہ

حضرت ابوہریرہؓ سے اُنہیں اور حضرت عَزِیْز و بَالا مامِ رَحْمَةِ اللّٰہِ عَلَيْهَا دَلَوْنَ حکمِ جلیل القدر صاحبی  
پیش کیا گیا، عہدید سات سے خلاف تھا اسی وجہ تک دلوں حضرات ذمۃ الدار اور عہدوں پر ہوا زبردست تھے  
پڑھ آئے، جگی نتویات میں بھی ان کا نام یا ان حصر ہے، اور ملک و قوم کے انتظامی معاملات  
بھی ان کے پس پر در ہے، یعنی کافی سرعت تک دونوں حضرات کو روز بھی رہے، ایک گوشہ گپر عابد فدا یا بد  
قسم کے صحابی نہ رہتے کہ مام لوگوں کو ان کی سیرت، کفار اور جذبات کا علم رہ ہوتا بلکہ وہ نہ رہ جائے  
اور عظم و درج کے مصادف ساختہ اپنے حرب و فرب اور میدانی سیاست کے بھی محدود شہروں اور شہر سوار تھے  
بہت سے لوگوں نے ان کی قیادت میں جگہیں روڑی تھیں لہو دہنہ ملعون افراد ان کی ناتھی (کو رنگی)  
میں کئی کئی سال گوار پکھے رہتے، گویا ان کے علم و فضل انہوں درج درج، سیرت و کفار اور جذبات  
سے حکم دگی واقف رہتے، ان کے اس ماضی کے پیش نظر یہ بادر کیا جاسکتا ہے کہ ان میں  
سے ایک بالکل سخشن یعنی تا سمجھ اندھے شور ہو یا در دوسرا معاذ اللہ ایسا مکار اور بیزار جسے  
آج کل کی اصلاح میں لگا گی سیاستدان کہہ رکھتے ہیں اور نریہ یعنی میں اُنے طالبات چکے  
یہ دلفوں حکم قی الواقع ایسے ہوں لیکن اس کے باوجود اُنہوں کو اتنی عظیم و ممتازی سوچ  
ویں بطور براہ راست اُدیبوں کو حکم مقرر کریں جو ہم سے ایک کو مدد و نصیر یا مغلل ہے کہتے ہیں، الہ  
وہ سرے کو پیکر مکروہ فریب، نیز ان کے حکم مقرر کیے جائے پر کوئی سخشن اعتراض بھی نہ کرے  
حال نکر یہ اعتراض کیا جاسکتا تھا لہو لسے شخصی کی جگہ دوسرا شخص کو مجہ علیہ جاسکتا تھا لیکن تاریخ کہتی ہے  
کہ انہا تو پر ایمان لا دُچا ہے یہ یا قیں حقیقتِ نفس الامر کے کتنے ہی خلاف کیوں ہوں؟  
الہ مولا نامہ دودی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ علیک ہے اگر ایسا زیاد گیا تو ہماری سلطنت تائیں خ

ہی برباد ہو کر رہ جائے گی گویا مولانا کے نزدیک تاریخ اسلام نام ہے اور خلافات و احتیاط کا جس کو بعض سیخ خلافت کے لیے گھر لایا ہے، اور ان خلافات کے بناءں سے خلافت کے سوتی نکال کو اتفاقات کی صحیح تصور ہے، تاریخ اسلام کو دریا برد کرنے کے متراوف ہے کیا خوب ہے یہ فلسفہ بھی؟

بہرحال صاحبہ تبلیغ کے جو حادثات اس تاریخ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان میں ہمارے نزدیک کئی باقی معقل تنکار اور ان بیان القدر اصحاب رسول سے ان کا مدد و رستبد ہے اس لیے ان کو جو لوگوں قبول نہیں کیا ہاں سکتا، لکھنؤ کے اصل حقیقت کا سرشار لگانا چاہیے۔

صحابہ سے کی جہالت اور اس کی خاص دفعات۔

صحابہ تبلیغ کی جہالت اس سلسلہ میں ہماری کافی راہنمائی گرکتی ہے، ابڑی سے ہمہ عبارت میں کرتے ہیں میریدہ صاحبہ ہے جو علی رضا بن ابی طالب اور معاویہ رضا بن ابی سفیان رضہ کے دریان ہوا، علیہ

نے یہ صاحبہ اباہل کوفہ اور ان کے دیکھ احوال و انصار، جو مومن و مسلم ہیں، اکی طرف سے کیا ہے اور معاویہ رضہ نے شام کے مومنین و مسلمین کی طرف سے ہمہ اللذین وہ جن کے حکم کے بغیر کسی اور کے حکم کو ان سکتے ہیں زاس پر جمع ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس رہن اور لائی آنون پوری کتاب پاشد موجود ہے، اس کی تبلیغی ترقی پاتوں کو ہم قائم اور اس کی منع کی ہوئی باقی سے اجتہاب کریں گے۔ دونوں حکم بوجوچہ کتابیں پائیں اس پر عمل کریں، اور رو

کچھ اُب اشتمیں درپائیں اس کے بارے میں سنت عادل جو خبر فرمزت پر عمل کریں،

اس کے بعد دونوں شاہنشویں نے حضرت علی رضوی معاویہ رضا اور ان کے حامی گوہوں سے یہ عهد و پیمان دیا کہ وہ اس کی پاندی کریں گے اور دونوں حکم بوجوچہ نیصد کریں گے تمام افراد و همت اس میں ان کی مدد کریں گے، نیز دونوں شاہنشویں نے بھی صحیح صحیح فیصلہ کرنے کا عہد پیمان کیا، صاحبہ سے کی اگلی عبارت یہ ہے۔

”پانیں کے مومنین و مسلمین پاشد کی طرف سے اس بات کی مدد و ادائی ہے کوہاں صاحبہ سے کوئی نہیں اور اس کے مطابق مغل دل آمد کریں، نیز راست روی اور حادثت اسی مدد اور کھیں، ہستہوں کے استھان سے اجتناب کریں، مسلمان جماں چاہیں، آئیں جائیں،

کل باراں سطل باری میں ہر دو ہزار نمائش سبھ تکمیل ہیں۔ دو فرمانیں پڑھنے کا  
دعا کردہ ذریعہ کرہ اکتوبر اسٹ اسکے دریافت پر جمع فیصلہ لکھی تھیہ اس کو  
دعا وہ جنگ یا تفرقے میں بندوک کے مصیت کاری کا اجتناب در کریں۔

دیت فیصلہ دھنات تکمیل ہے اگر وید تاخیر چاہیں تو دونوں شالوشون کی باہمی خلافتی  
میں اضافہ کیا جاسکتا ہے، شالوشون میں سے اگر کسی ایک کافی قوت کا  
مرنے والے کی جامعت کا امیر ہیں کی جگہ کسی لعاصا حسب محل وقوع اگری کا ترکر  
دے۔ مقام فیصلہ، بہار وہ سایا جائے، اپنی کوفہ اور اہل شام کے درمیان مسلط ہے  
شالوشون کی ہر سی کے بیرونی شخصی شفعن ان کے پاس نہ جائے۔

ثالث حضرات بھی لوگوں سے چاہیں گواہی میں، انہیں ابہاز ہے، لیکن ان کی  
گواہیان معاہدہ کے کاغذ پر ثابت ہوئی چاہیں، شالوشون میں سے جو شخص معاہدہ کی  
خلاف ورزی کر کے خلم و کجھ روزی اختیار کرے، تمام لوگ عکس برخلاف دوسرے شخص کی  
حکایت کریں..... معاہدہ کی بدفعات کو فتحصلہ پھر زہی نہیں کر سکتے۔

۱۔ معاہدے میں حضرت ملہ زادہ کو خلیفہ وقت (امیر المؤمنین) قسم نہیں کیا گی اخراج شروع  
جب معاہدے میں امیر المؤمنین لکھا گی تو حضرت معاویہ رضا نے احرار اخراج کیا کہ اس کو کافی  
کر مرغ ملہ زادہ کا قاسم لکھا جائے کیونکہ ہمارے نزدیک وہ امیر المؤمنین نہیں، اگر اسما ہوتا توان  
سے ہجدی جنگ ہی نہ ہوتی۔ حضرت ملہ زادہ فی الواقع اگرچہ امیر المؤمنین تھے لیکن انہوں نے اس  
کی اصلاح دببوہ کی معاشر فرقہ نئی کا نقطہ نظر قیسم کر کے اپنی خلافت کا فیصلہ بھی شالوشون  
کے پرداز کیا، یہ ان کا اتنا بڑا ایشارہ تھا کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کہ ہے، اس سے  
ہر حال یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ملہ زادہ کی خلافت کی آئینی چیزیت کا فیصلہ بھی  
شالوشون کے پرداز کیا گی تھا۔

۱۔ دو نسل فرشتے ہیں موسیٰ و مسیح۔ کائنات کا استعمال کر کے عدالت کا حق پر بہن تباہی کیلیے، حمل سے افراد سے اور کائنات سے جویں کسر خرچ کی طرف خلک کا اتساب نہیں کیا گیا۔

۲۔ نیصلے کی بنیاد کتاب اشداحد سنہ رسول ارشد مولیٰ ارشد ہمہ دسم تھی۔

۳۔ فرشتے ہیں ملبوہ جگ بیکر خرم کریں گے اور بھبھڑکوں ایک دوسرے کے ملاقوں میں کہاں سکیں گے، کوئی شخص کسی سے قرضنہ نہ کر سے گا۔

۴۔ دوفین ٹالاٹوں نے خدا کو دیایاں ہیں لا کر یہ حمد پیایاں کیا کردہ یہ صحیح صحیح فیصلہ کریں گے اور دوبارہ جگ یا ترقیت میں بتلا کر کے خدا کی تاکوں نہیں کریں گے۔

۵۔ کسی ایک ٹالاٹ کے مرجانے کی صورت میں نئے ٹالاٹ کے بیٹھے اپنی محل و انصاف کی وضاحت کر کے اس چیز کو دیایاں کیا گیا کہ موجودہ دوفین ٹالاٹ ان کے نزدیک اپنی محل و انسان تھے اسکا پرانیں بھل اعتماد تھا۔

۶۔ نیصلے کے لیے چہ میتھے کی مدت دکھنی چیزیں میں اتنا فہم کی جریبہ گناہ کش تھی، اس درباری ندوگوں سے ملنے اور ان سے مشورہ لیتھے کی اجابت تھی۔

۷۔ نیصلے کی دستاویز تحریری طور پر ضبط ہوا اور اس پر گواہوں کے دستخط بھائیت ہے۔  
۸۔ یو شخنشیا گروہ بھی نیصلے سے روکھانی کرے پوری انت اس کے خلاف دوسرے گروہ کی حمایت دلداد کے لیے اٹھ کھڑی ہو۔

اس معاہدے کے بعد دلوں گروہ اپنے اپنے مستقر پر واپس آگئے لور فوجیں شتریں کے حالت جگ بیکر خرم کر دی گئی۔ نیصلے کے لیے تکمیل کو چھاہ کی منت دی گئی تھی اس عدالت انہوں نے باہم کیا خود فکر کیا؟ کختے لوگوں کی راستے اور مشورہ طلب کیا؟ موجودہ تاریخ اس بساستے میں بالکل خاموش ہے، بالآخر معاہدے کی کہتے سے اجتماعی عام سے کافی عرصہ پہلے انہوں نے باہم فیصلہ کر کے کوئی تحریر و تھریب کی ہوگی لہذا اس کے بعد لوگوں کے بیانات بھی تجدید کئے ہوں گے یہ کس طرح یقینی ہی نہیں کیا جاسکتا کہ ٹالاٹوں نے معاہدہ کی ان دعوات کو نظر انداز کر کے قرآن دلفوں نے جمع ہو کر کوئی ایک دامت قائم کی ہو لحدہ اس پر گواہوں کے بیانات شامل کئے ہوں۔

مغلتوں کے مغل و شعور کا صدد ارجمند ہے  
اس تکمیل کے ساتھ میں بولا جائے ہو مگر سنی وہ تکمیل کے مغل و شعور پر جو انہیں باخوبی رکھی ہے  
لہجہ مغل فراہم، صاحب سے کی پوری صورت پر لگز پہنچی ہے، اسی طرح مغلیہ  
فتوا، فتنہ کے نکتھیں۔

میکن دُرۃ الجہل میں جب دونوں حکم مل کر یہی ٹھے تو سرے سے یہ ملے تو ملے ہے  
کیا کہ قرآن دستوت کی نہ ہے میں تفہیم کیا ہے کیا ہے دفتر قرآن میں دونوں حکم  
موجود تاکہ مسلموں کے عوگوہ اگر اپس میں لا پڑیں قوان کے دینیان اصلاح کی  
یحیی ملت مغلوں باخیر کو ادا کیا استوار ہے۔ حضرت خادم رضی کی شہادت کے بعد  
بنی اسرائیل مسلم کی نفس مرتضیؑ نے تفہیم کو یاد کرنا کہ اس تفہیم میں مغلوں باخیر کو اس  
ساختے ہے (ص ۱۷۱-۱۷۰)

اوٹ زیر بات محتاج و محتاج ہے کہ دونوں حکم چہ سیفیت کے بعد دُرۃ الجہل میں یہی کیوں  
ہے کہ یہی ہاں امر کے قیصے کے لیے قوان کو اس سے کمیں پھول کر میختاہد ہیئے مختار اور دونوں  
سے شودے اور گو اہسیان بھی حاصل کرنی تھیں ہر معاہدے کے خلاف اور مغل سے بھی بعید تر چیز  
ہے کہ اتنی علم د مرداری ان دونوں حضرات کے سپرد کی گئی اس پرچم جس پار اور فیصلے کیا ہے  
چہ سیفیت کی طویل مدت بھی دکھی گئی میکن اس بدرالاہ دو نوں حضرات اپنی منصبی حیثیت کو نظر انداز کر کے  
پیش کر پہنچوں میں بیٹھے رہے اور جب اجتماعیہ حام کی تاریخ بالکل سرپر آگئی، فیصلہ سیفیت کے  
یہ طائفین کے افراد اور بست سے غیر عالمدار اصحابِ رسول بھی جمع ہو گئے تو یعنی اس وقت  
اکہ اس مقام پر دونوں حکم مل کر فیصلے کے لیے بیٹھے ہیں! -

ماشیا یہ بھی طرح قابل تسلیم نہیں کہ استخفی جیل اتفاقاً صاحب رسول ہم کریمہ دونوں حکم قرآن سے  
بھی نا آشنا ہوں اور حدیث رسول سے بھی لا حکم؟ حضرت خاقانؓ کی شہادت نے اگر طائفہ باخیر  
کی تفہیم کردی تھی تو یہ پھلو تو حضرت علیؓ کو سوچنا چاہا ہیئے تھا کہ طائفہ باخیر کے لیے قرآن نے  
نیقہ دقت کر کیا حکم دیا ہے، قرآن کے اس حکم کا تعلق ملیقہ دقت سے ہے نہ کہ مغلتوں سے،  
قرآن کو اس صورت میں سرے سے ماشی کا حکم ہی نہیں دینتا، تعالیٰ کا حکم دیتا ہے، میکن حضرت علیؓ

نہ بجائے تعالیٰ کے ملائی بول کریں اس کے علاوہ سخیر ہیں مکاہس متعہ حضرت معاویہ بن عالیٰ  
کے صاحب کو نہ چاہیجیں سمجھا گیا تھا جو اس حدیث کو نظر پر انکار کر دیتے کا اقام  
ہی سمجھا گیا ہے جو نبیؐ وقت ہی سنے اپنے مخالفوں کو نہ چاہیجیں کی حیثیت  
دیں مطہر ہے میں بھی کہنُ اونیسا اخلاق اس طرف نہیں کیا گی تو مخالفوں کا ذمہ میں نظر پر کس  
طرح مشق ہو سکتا تھا۔  
اس سے اپنی صفات یعنی بھی ملتانے والوں کی قرآن حدیث سے ہمیں کامن کیا ہے  
لہ کہا ہے کہ

”غیرہ وقت کی بیت و کشمکش سے کے ہوئے ہیں جو ماخ احادیث کو نہ ہو سکے  
کے وہ سب ہیں شریعت یعنی ابتداء و جد خدا جس کی کوئی سے حضرت معاویہ بن عالیٰ کے  
تشق دیکھا سکتا تھا کہ انہوں نے پڑا جو شیکھ لیتے سے اٹھایا ہے یا خلف طریق  
سے اصرار کا ہم بھی مخالفوں کے پروپریتی کیا گیا تھا کہ خلافت کا بھروسہ بلکہ خوب نہیں  
بھیں کہ دیر بکران کے حوالے فریضی کا پرا جھگڑا اس مرادت کے ساتھ لی گیتا  
کہ ان کے دھرمیان اولاد کتاب اللہ اور پھر خلافت مادرلہ کے مطابق نصیر کریں، مگر جب  
دوسرے بندگوں نے ہاتھ پر خود کی قوانین سارے پھوپھوں کو نظر انداز کر کیا بعثت  
شریع کردی کہ خلافت کا مشراب کیسے ٹلے لیا جائے“ (ص ۱۶۳)

اپنے بھی صورتیں ہیں یا تو دو دویں حکم، جو کے ذریعہ ملائی کے فرائض پر دیکھنے  
قرآن و حدیث سے بھی ہے بہرہ تھے اور خود معاویہ تھیم کے سمجھنے سے بھی تا اصرار یا عرض الواقع  
خلافت کا فیصلہ بھی ان کے پر دیکھا گیا تھا، اول یا اذ کہ صورت یعنی سرتا قابل تسلیم ہے دوسرا صورت یعنی  
و اتفاقات کے مطابق ہے، حضرت علی رضی الواقع صحیح اور جائز خلیفہ تھے الیکن مسلم و ماصی کی وجہ  
سے مخالفوں کے ایک مظہم گروہ نے ان کی خلافت کی آئینی حیثیت کو قسمی نہیں کیا تھا، اور وہ اپ  
نک بستوران کی بیعت سے کارہ کش تھا، حضرت علی رضا نے ایشارے کے ان کے نقطہ نظر  
کو تسلیم کر کے اپنی خلافت کا فیصلہ بھی ان کے پر درکاریا مخالفوں کی ذریعہ اسی ادب پر محق کر دی ہے یہ  
دیکھیں کہ ایک ایسے نبی نبی کو ہمارا اٹھانے کا حق نہیں جس کی خلافت متفق غیرہ نہیں، ملائی

حضرت معاویہ رضہ کا ہر قرف کردہ خونِ عثمان رضہ کا مطالبہ پنڈت نے میں حق بجانب ہیں یا نہیں؟ یہ دو  
چیزوں فیصلہ طلب تھیں اس سلسلے میں شالتوں نے یقیناً دیانتداری سے خود کیا ہے کہ لوگوں کی رائے  
بھی معلوم کی ہوگی اور ایسا متواذن فیصلہ کیا ہو گا کہ جس سے دوبارہ امت تفریت یا جنگ میں بندار ہوا  
لیکن تابیر صحیح کی حکایت ہوں میں فیصلے کی جو تفصیلات ملتی ہیں اس کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں  
محابوں نے معاہدے کا قطعاً کوئی اخترام نہ کیا اور ایسا فیصلہ کیا جس سے دوبارہ تفریت یا جنگ کا  
امد و مشہد ہی نہیں، یقین تھا کہ جاتا ہے کہ عروین العاص نے خداری کی، لیکن تکمیر تفصیلات صحیح ہیں  
تو حضرت ابوذر سے اشعری رضہ بھی معاذ اللہ خدار ہی ثابت ہوتے ہیں، معاہدے کی رو سے ان کو  
لوگوں کی رائے بھی معلوم کرنی چاہئے تھی، معاہدے کی پہلی خلاف ورزی تو یہی ہوئی کہ انہوں نے ایسا  
ہیں کیا، شق نمبرہ کی رو سے فیصلہ تحریری، اور اس پر لوگوں کی گواہیاں ثابت ہوئی چاہئے تھیں، لیکن یہاں  
بھی نہیں کیا گیا ہزیز برا آس خلافت کے لیے کسی شخص کو نامزد کئے اور اس کے حق میں رائے ملہ  
ہمار کئے یا مشورہ لیے بغیر دونوں کو بیک وقت معزول کر دیئے کے فیصلے کو کیا ایسا صائب قرار  
دیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد تفریت یا جنگ کا اندیشہ نہ رہا ہے؟ ان تمام پیروں کے بغیر تو ایسا  
فیصلہ ہمارے نزدیک یقیناً جنگ یا تفریت پر صحیح ہوتا، یہ بھی معاہدے سے خداری (خلاف ورزی)  
ہے، مطہد سے کی ان خلاف ورزیوں میں دلوں حکم برا بر کے شرکیں ہیں، حضرت عروین العاص  
کی ایک خلاف ورزی کا اس پر اولاد حاضر کر لیکر خداری میں توکم و بیش دلوں مشترک ہیں، پھر  
دوں نکم دہان اجتماعِ عام میں ایک وہ مرے کو کہتا اور گھا کھتے ہیں، نیز جب حضرت علی رضہ کو اس  
فیصلے کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنی نمازوں میں حضرت معاویہ رضہ و عروین العاص وغیرہ اصحاب رسول پر لعنت  
پیجھنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت معاویہ رضہ کو حضرت علی رضہ کے اس طرز عمل کی اطلاع ملتی ہے تو  
وہ حضرت علی رضہ اور حضرت حسن بن عسین رضہ پر لعنت کی پوچھاڑ کر دیتے ہیں، یہ ہے فیصلہ تکمیل  
کی وجہ پوری روایت جس کو بنیاد پنڈت حضرت عکر و بن العاص کو پیکر کر فریب ثابت کیا جاتا ہے  
لیکن اس روایت سے عرف عروین العاص کا مکر درجہ بہی تو ثابت نہیں ہوتا اس سے تو محیث  
کہ فیصلہ ہی مندم ہو گرہ جاتی ہے اس روایت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضہ سبیت  
تمام صلح پر کرام کی زبان شرافت سے، ان کا کوئی دار رفتت سے لا ران کا اخلاقی شرعی حدود سے

یکسرنا آشنا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے بزرگ زیدہ رسول نے ان کی تعریف احمد راجح کے عقین  
ایک شاعر و ملکی مقیں جس کی بنیاد حقائق پر نہیں عمن شاعرانہ تحقیق پرستی، اس لئے مولانا فیصلے کی بوجو  
روایت تعلق کی چیز ہے وہ اسنادی حیثیت سے تو ہے ہی محل نظر، لیکن درایت کے لحاظ سے  
بھی یکسرنا قابل تقدیم ہے۔

### فیصلے کی تفضیلات

اس کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ پھر صرف فیصلہ کی تھا جو شاعرین نے کیا تھا یا ان سوال کے جواب میں  
تاقاضی اب بکار بی جائی نے دارقطنی کی ایک اور روایت پیش کی ہے جو مندرجہ ذیل میں سوال کے جواب میں  
روایات سے زیادہ قوی ہے۔ حضرت معاویہ رضی کی سیاستی زندگی، کے خالص مؤلف مولانا علی احمد  
صاحب نے اس روایت اور دیگر حالات و واقعات کو بنیاد بنا کر فیصلے کی جو تفضیلات بیان کی  
پڑھائیں کے الفاظ میں درج ذیل ہیں۔

۱۔ «دوفون ٹالاٹ اس امر پر متفق تھے کہ اصول دو توں فریق حق پر ہیں سیدنا عثمان بن عاصی  
واجہ ہے احمد سیدنا علی رضا کی خلافت بالفضل درست۔

۲۔ دوفون نے عطا کے اجتماعی کی، ایک نے اپنی خلافت کی آئینی حیثیت تسلیم کرنے کے  
لیے تلوار اٹھا کر اور دوسرا سے نے قصاص میں عثمانی رضا کو اپنے ہاتھ میں لے کر، لہذا دوفون  
کو اس موقف سے معزز دل کیا جاتا ہے، یعنی سیدنا علی رضا تلوار بدمکیں اور سیدنا معاویہ رضا  
قصاص لیئے کاملاً اپنے ہاتھ میں درکھیں۔

۳۔ دوفون با توں کا فیصلہ صحابہ کرام کے ایک ہم اجتماع میں ہو جس میں وہی حضرات شریک  
ہوں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم راضی گئے۔ یعنی سوائے صحابہ کرام کے اس  
اجوہ میں اور کوئی نہ ہو اس مقصد کے لیے لانے عامر استوار کی جھائے تاکہ مقبول  
ہمہ بباب حل و حلقة جب فیصلہ کیں تو الحکم پرست، پر طاقت ہو۔

۴۔ جب تک ہم اجتماع میں فیصلہ نہ ہو اس وقت تک دوفون فریق اپنے اپنے نیز مگر میں توں

کا قلم و نست بہ سقور چلتے رہیں لیکن ایک مدرسے کے خلاف بخار حادثہ کا عائبین کا مسئلہ  
قطعہ مدد و در شے ہے ۔

جس اجتماع میں یہ فیصلہ ستایا گی، فریضیں کے آئندہ سو لفڑا اور کئی جلیل القدر غیر جائز اور اصحاب  
رسول اس میں موجود تھے، فیصلہ ستائے جانے کے بعد وہاں کوئی ہٹکاری یا جذبات میں اشتغال  
پرداز ہوا بلکہ تمام حوزات امن و سکون کے سامنے اپنے مستقر کو واپس پہنچنے کے احتدام  
حضرت علی رضا نے کسے بعد کوئی فوجی کارروائی کی، اگر فیصلہ صورت وہ ہوتی ہو جو موتا میانہ کی  
جاتی ہے تو حالات کبھی اتنے پر سکون نہ رہتے، اول امثال اللہ میں سے کسی ایک کو اتنی جرأت ہے  
کہ ہوتی کرایے نہیں کہ اجل اس میں ملے شدہ بات کے خلاف غداری کا ارتکاب کرے ۔  
کوئی پھر بھی ایسا کو گزرتا تو وہ اجتماع اس کو کبھی معماً ف نہ کرتا، اس کی وجہ تک بوئی گردی  
جانی، ایسے موقع پر حضن کالیں کاتبلعہ نہیں ہوتا، تلواروں کی فوک اور نیزروں کی انسان اپنا کام  
کرنی پڑے، ہاتھ انہوں نوں حضرت علی رضا نے ایسے موقع پر خوش نہیں بیٹھے سکتے تھے، جگہ جگہ دشمنیں  
کے موقع پر لوگوں کے عدم تعاون کے باوجود انہوں نے فوجی اقدامات کئے وہ ان حالت کی  
اہل جگہ دشمنیں اپنے موقف میں یکسر پاٹلی یا جاہلیت پر نہ رکھ کر وہ بھی اپنے آپ کو حق بجا  
بجتہ ستہ مدد و در شے بھی بہت سے لوگ، لیکن اگر فیصلہ کی وہ صورت صحیح سمجھی جائے تو  
مولانا نے بیان کی ہے، پھر تو وہ یکسر پاٹلی یا جاہلیت پر تھے، ملکتِ اسلامیہ کے کسی نہ کو کے  
دل میں بھی شکر یا ان کے یہے حینخن کی گنجائش نہ رہتی، ان کے خلاف سب حضرت علی رضا  
کے جہنم سے تسلی، جمع ہو جاتے اور ایک ہی سب پورے جملے میں فیض ہلاکت و استبرلایا جاسکتا تھا ۔  
خود اہل شام ایسی صورت میں حضرت معاویہ رضہ کے سامنے کردا نہیں سے گریز کرتے، لیکن نہیں  
صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ ہوتی ۔ یہ اس بات کے واضح قرآنی پیش کردہ فیصلہ ایسا متفق  
ہوا کہ پسند از ہوا تھا کہ فریضیں کے ادویوں نے اس کو بخوبی تمہل کر لیا تھا اور بخوبی  
اجناس کو تھا اسست ہو گیا، نیز کہ کہر زندگی دیا گی ہے وہ قطعاً مخالف واقعوں ہے، الہ منصف نہ

حضرت علی رضا کی زبان میں جو کچھ شاٹشوں کے متعلق ڈالا ہے وہ بھی صحیح نہیں حکوم ہوتا، اگر حضرت علی رضا فی الواقع یہ سمجھتے کر دنوں شاٹشوں نے قرآن و حدیث کی خلاف صفتی کی ہے تو اس کا رد میں معنی زبان سے چند بولی ادا کر دینے تک محدود نہ رہتا بلکہ صفت تراجم کیا جاتا تو پوری مدتِ اسلامیہ بھی حقیقت واضح ہو جاتے کے بعد حضرت علی رضا کے سخت اندازم پرستہ دینیا نہ کر حضرت علی رضا بھی اپنے بعد مدتِ اسلامیہ بھی اس کھلی ہوئی جاہلیت کے مقابلے پر پیروز ہو جاتی۔

### حضرت علی رضا کی طرف مسوب تقریریں؟

اس کے بعد مولانا حضرت علی رضا کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت امت پر طویلت کے سلطنت ہو جانے کا خلاطہ شدت سے محسوس کر رہے تھے اور غلافتِ راشدہ کے نظام کو پاکانے کے لیے جڑی کوشش کر رہے تھے، مولانا ظس سلسلے میں حضرت علی رضا کی بد تقریروں سے غفرنے تھیں جو مخفی بعد کی اختراع ہیں۔ حضرت علی رضا کی زبانی سے نکلے ہوئے نہیں ہو سکتے، پوری تقریب کو سامنے رکھ کر دیکھا جاتے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، پھر تقریر۔

ادلہ کے دشمنوں سے جگ کر یہ تباہ ہو جاؤ، جماں کا فور بھاجانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے جگ کر جو گناہگار اور گم کردہ راہ ہیں، جرم اور ناصافی کا ارز کاب کرنے والے ہیں اجنبیں نہ قرآن سے کوئی شسفت ہے، نہ دین کی کوئی سمجھ رحقیقت سے کاشیاں اور جو نہ مسلمانوں کی نام کا رکے اہل میں، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ تمارے سامنے ہوں لگھ تو

تمارے ہمراہی کسری نہ کر ہر قتل کی طرح ہم کریں جیسے یہ

دوسری تقریب پر حضرت علی رضا کی طرف مسوب ہے، اس کا یہ فتوہ مولانا نے نقل کیا ہے۔

”چلو ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے اس یہے لذت ہے یہیں کہ ملک جبارہ بن جائیں اور اللہ کے بنیوں کو اپنا خلیم بنالیں“ (ص ۵۵)

ان دونوں تقریبوں کا راوی ابو علیف ہے جو مشهور دروغ گز ہے، پھر تقریر سے مولانا

صرف نہ کشیدہ الفاظ نقل کئے یہیں اگر پوری تقریر نقل کردی جاتی تو اس کا من محدث ہو جو واضح  
ہو ساتا، بعد حضرت علی رضہ بیسے شخص صاحبہ کرام کے متعلق ایسی زبان استعمال کر سکتے تھے؟  
و تو انہیں بالکل اسی طرح مسلمان سمجھتے تھے جس طرح اپنے آپ کو معاہدہ تحریم کی جارت اس  
پردا فتح دیں ہے، لیکن ان تقریروں کو جوان کی طرف فضوب ہیں، یعنی سمجھ کر جیسا کہ تو اس  
کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ان کے ایمان و اسلام ہی کے نزد بال اللہ مذکور تھے، زبان کا مہراہ  
الخلاف کے درست سب کچھ ہی ہے جو کفار کے لیے ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان کی وجہ سے  
مسلمان کے لیے ایسا لہجہ اختیار نہیں کر سکتا، پھر جائیگر حضرت علی رضہ جیسا جیل المقدار صحابی اور  
وہ بھی جیل المقدار صحابہ کے لیے۔

**خیفۃ المسلمين کی بے دست و پافی کا نقشہ!**

حضرت علی رضہ نے یہ تقریریں کیوں کیں؟ اہل شام کے خلاف حکوم کے چند بات ابھار نے  
ادا نہیں لڑائی پر آمادہ کرنے کے لیے لیکن تیجہ کیا نکلا، یہ خود مولانا کی نیابی سنتے، مولانا  
لکھتے ہیں۔

مدغیر عراق کے لوگ ہمت ہار چکے تھے احمد شارح کے غزوہ نے حضرت علیہ رضہ کیلئے  
مزید ایک دعا سر پیدا کر دیا تھا، پھر حضرت معاویہ رضہ احمد حضرت عزیز بن الحارث کی تدبیر  
سے صراحتاً افریقیہ کے ملا تھے جبکہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور دنیا کے سامنے  
علیاً دو مشکل بحکومتوں میں بٹ گئی، آخونا کار حضرت علی رضہ کی شہادت احمد پھر حضرت

حسن رضہ کی مصالحت نے میدان حضرت معاویہ رضہ کے پیروکار طیخ خالی کر دیا (ص ۲۴۵)

اس متعال پر راویوں نے امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمين کی بے دست و پافی کا جو نقشہ پیش  
کیا ہے کہ وہ اہل شام کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان کی قویوں نے ان کے  
ساتھ تعداد نہیں کیا، وہ بھی عجیب ہے، سب سے زیادہ تسبیح، ہمیں خود مولانا بود دو دی صحابہ  
پر سچا یک طرف وہ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضہ کو پوری مملکت اسلامیہ میں خلیفۃ  
تسلیم کیا جا چکا تھا طرف شام کا صوبہ باشی تھا، لیکن دوسری طرف وہ راویوں کے یہ بیانات بھی مسجح  
سمجھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خلافت پوری مملکت اسلامیہ میں تو کجا کسی لیکن ہبوبیہ

بھی پوری طرح تسلیم نہیں کی گئی، پتہ نہیں ان دونوں باتوں میں فی الواقع کوئی تضاد نہیں یا ہمارے کے  
کے عققین ہی کوچھ نظر نہیں آتا؟

حقیقت یہ ہے کہ بات وہ نہیں ہو بنادی گئی ہے، صحیح صورت واقع یہ ہے کہ خالشوں کے  
نیستے کی دلخواہ سے جب تک غیر جانبدار اصحاب رسول کے مجاہدین فریضی کے چکڑے کافی  
نہیں ہو رہا تاہم اس وقت تک دلخواہیں غیر اس بات کے پابند نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے  
خلاف جا رہا تھا کارروائیوں سے اجتناب کریں گے، حضرت علی رضا نے سرے سے اہل شام  
کے خلاف جنگ کی تیاری کا ہام ہی نہیں لیا، اگر خلط فیصلے کی بتا پر حالی جنگ کوہ بانہ پیدا ہو چکی  
ہے تو فیصلہ پوری مملکتِ اسلامیہ اہل شام کے خلاف حضرت علی رضا کا ساختہ دینی، حضرت علی رضا  
کا ساختہ عوام نے اس وقت مجبوری داما تھا جب حق دنا تھا و اخچو نہیں تھا، خود حضرت علی رضا کے  
بہت سے طفوار شک و دیبہ میں مبتلا تھے۔ یہ اس وقت کی سلم رعایا کی بڑی ہی عطا تصویر کرتی  
ہے مگر اگر فیصلہ کر دیا جائے کہ مشکوک مطلب ہے تو انہوں نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا یعنی جب  
ہاظر ہوا مملکت صاف سامنے آگاہ تو ان کی بھتیں جواب دے لیں تو ایں کند ہو گیں اور عین اس  
موقع پر جب کہ حضرت کاروی کی فرمودت تھی، یوس نے الجیۃ۔ المسلمين کو بے پار و مدد گار  
چھوڑ دیا!

پھر صراحت شما افریقیہ کے علاقے حضرت معاویہ رضا اور عزوبی العاصی کی تدبیر و مسخرت  
علی رضا کے ہاتھ سے نہیں نکلے گئے یہ سب پہ سہائیوں کی شرکت اور حضرت علی رضا کے ہاتھ سے  
کو اہمیت دیتے کے نیچے میں ہوا، صریں حضرت قیصیش بن سعید بن عبادہ بڑی خدمت علی دانائی  
اور مصلحت سے گورنی کر رہے تھے، سائیون کو بیدار گوار کر رکھ دیا ایک صحابی رسول کے  
ہاتھ میں زخم گار رہے، انہوں نے حضرت علی رضا کو ان کے خلاف بھر دیا اور حضرت علی رضا نے  
یہ فرمان انہیں لکھوا پہنچا کر اس گروہ کے خلاف اجواب تک غیر جانبدار چلدا آرہا تھا اور جن  
کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی، جنگی کارروائی کریں، حضرت قیصیش بن سعد نے حضرت علی رضا  
کی تعداد کے مطابع کر کے عرض کیا کہ اس وقت ان سے جنگ ہالے یہے نفعان دہ  
لہو خلاف کے تجربہ منید غایبت ہوگی، لیکن حضرت علی رضا نے انہیں معزول کر کے محمد بن ابی ذکر

کو گورنر بن کر بیسچ ٹھیا۔ ان صاحب نے وہاں جاتے ہی اہل نہ رہتی کے ساتھ اعلان چلگ کر دیا  
ان لوگوں نے حضرت معاویہؓ سے مدد طلب کی، حضرت معاویرہؓ نے حضرت عزیز بن العاص  
کی معیشت میں فوجی مدد بیسچ کر دیا۔ کے اس انتشار کو تسلیم کیا اس میں محمد بن ابی بکر، اشتر نخعی اور  
کنان بن بشر تینوں کام آئے، ان تینوں کا قتل عثمان رضی میں نایاں حصہ تھا، اس طرح مصر  
حضرت علیؑ کے ہاتھ سے نکل گیا۔

۷) حضرت معاویہؓ اور ان کے اصحاب کو حضرت علیؑ کا خراج تحسین -  
اعلیٰ طرح دیگران عاقول میں بھی جو حضرت علیؑ کے ہاتھ سے نکل گئے، کو دشمن کا تباہی آئے، حضرت معاویہؓ  
وزیر بن العاص کی تدبیر میں سنبھالنے والوں کے باشدے حضرت علیؑ کے قدر کوہ گزرن سے تسلیم آچکے تھے۔  
اس بنا پر وہ از خود حضرت علیؑ کی اتنا لامی وحدت سے کٹ کر حضرت معاویہؓ کے ساتھ مسلک  
ہوتے پڑے گئے، اپنے گورنر میں کی تا اپنی اور حضرت معاویہؓ کے مقرر کوہ عاملوں کی ہیئت الوہیک  
جنبات کا خود حضرت علیؑ نے اعتراض کیا ہے، اپنی زندگی کے آخری خطبہ جمع میں انہوں نے  
صحت احوال کا تجربہ کرتے ہوئے فرمایا -

وَنَهَا كِيْ تَقْسِيمٍ مِّنْ سُكُنَاتِهِ ہُوَ لُوْغٌ أَيْمَنٌ تَقْمِيزٌ لِنَفَالِ بَلْ أَكْرَبٌ بَيْنَ مُكَبَّرٍ وَأَنْتَامِ كَيْ  
نَافَرَانِ ہُوَ اَدَارَهُ لِنَسْنَةِ اَمَّ كَيْ اَطَاعَتْ گَذَارَتِ تَقْمِيزٌ لِنَفَالِ ہُوَ اَمَنَّتْ گَذَارَتِ تَقْمِيزٌ لِنَفَالِ  
اَكْبَرِيْ كَرْتَهُ اَوْ اَدَارَهُ اَصْدَرَحُ ہُنْ نَفَالِ شَفَعِيْ كَرْلِيْكَ بَلْ مُقْرَرَدَرَ كَرْ كَيْ مِسْجَالِيْكَیْ مِنْ  
نَهْ بَلْ مِدَنِيْ اَدَهُ شَيَّاَتَتْ كَيْ اَكْلَرَحَ لِيْكَ بَلْ شَفَعِيْ كَرْ بَلْسِجَاَسْ ہُنْ نَهْ بَلْ مِيْسَاجِيْلِيْكَ بَلْ  
اَسْ نَفَالِ بَلْ مِعَاوِرَهُ كَيْ طَرَفَ بَلْسِجَاَسْ ہُنْ تَمْ مِنْ سَهْ کَسِيْ كَرْ بَلْ پَاسِيْلِيْكَ بَلْ  
رَكْسَواَنِ تَرِيْ حَالَ ہُنْ کَرْ وَهُنْ اَسْ کَوْ ہَرَبَپَ کَرْنَے کَيْ لَرَشَشَ کَرْ بَلْ گَادِنْدِيَاَهِ مِنْ اَنَّ سَهْ  
تَلْكَ اَلْجَيَاَجَوْلِ اَدَرِيْ بَلْ ہُنْ سَهْ، مِنْ اَنْسِنِ ٹَاَسَنَدَ کَتَاهُوْلِ اَدَرِيْ بَلْ، اَنِ کَوْ ہَرَبَے  
رَاحَتَ دِيدَسَے اَدَرِيْ بَلْ ہُنْ سَهْ ۲)

یہاں تک کہ آپ نے لوگوں سے خود حضرت معاویہؓ کے متعلق فرمایا کہ، ان کی امارت کو ٹاپ سند نہ کرو، بخدا، ان کو بھی اگر تم نے گنوادیا تو تم کو سنجا لشنا لا پھر کوئی نہ ہو گا بلکہ آپ خود بھی آخر میں حضرت معاویہؓ سے مصالحت کے خواہاں تھے، شیخ الاسلام ابنا تیمیر رح لکھتے ہیں۔

حضرت علیؑ نے آخر میں حضرت معاویہؓ سے صلح کے خواہاں تھے، حضرت معاویہؓ نے جس طرح اجتماد ہیں میں جنگ سے گزرا جاتے، حضرت علیؑ پر آخر میں جا کر اس کی اہمیت و اضفیٰ ہوئی اور وہ بھی یہی کچھ چاہئے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اجتماد کی بنابر اگرچہ باہمی جنگ مزدید ہوئی تھیں یہ جنگ اس فویت کا، دستی کہ جس طرح ایک برسیٰ گروہ، دشمنی خدا اولاد رسول گروہ سے جنگ کرتا ہے۔<sup>۱۷</sup>

దوسرے مقام پر شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ آخر میں حضرت علیؑ نے اپنے فعل پر زمانہ کا اظہار کیا اور حضرت حسن رضاؑ سے کہا تیرے سے باپ کو یہ گائی بھی نہ تھا کہ معاویہ اس حد تک پہنچ جائے گا، کاش تیرا باپ آرج سے، ۳۰ سال قبل مرگی ہوتا تھا نیز انہوں نے بہ بھی محسوس کیا تھا کہ جنگ کی نسبت، جنگ نہ کرنا زیادہ بہتر تھا، فی آخر الامر تبیین کرائی مصلحت فی خلک القمال اعلم منہما فی فطرہ حضرت علیؑ نے پر جن حالات کا اختلاف بالملک آخر میں جا کر ہوا، حضرت حسن رضاؑ اعلیٰ رحمہ سے ہی ان سے آگاہ تھے، انہوں نے اپنے والدماہد حضرت علیؑ کو اپنی ملکی حد تک جنگ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت حضرت علیؑ اپنی راستے گو زیادہ بہتر سمجھتے تھے لیکن آخر میں وہ بھی حضرت حسن رضاؑ کے ہنواہ ہو گئے تھے، حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضاؑ کی طرف انتقال خلافت ہو گیا، حضرت معاویہؓ نے ان کو صلح کی پیش کش کی حضرت

۱۷) مہاج السنۃ، ج ۲، ص ۱۵۰، البداۃ فی المہاجۃ، ج ۲، ص ۱۳۰۔

۱۸) مہاج السنۃ، ج ۲، ص ۲۳۷، ایضاً ص ۲۳۹۔

۱۹) مہاج السنۃ، ج ۲، ص ۱۵۰، طبقات البصائر، ج ۲، ص ۵۵۔

۲۰) مہاج السنۃ، ج ۲، ص ۲۳۷۔

حسن رضہ پسند ہی اس کے خواہاں تھے، انہوں نے کچھ مراجعات طلب کیں، حضرت معاویہ رضہ نے متکور کر لیں، حضرت حسن رضہ خلافت سے دست بردار ہو گئے، تمام مسلمانوں نے حضرت حسن رضہ کے اس اشارہ اور صلح پسندی کی تحسین کی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی تحسین فرمائی تھی، حضرت معاویہ رضہ متفقہ طور پر خلیفہ منتخب ہو گئے، حضرت عثمان رضہ کی شہادت سے لے کتابت تک ملک میں جو انتشار و افتراق پیدا ہوتا، اس کے بعد یہ لخت ختم ہو کر دو بارہ الفاق و اتحاد پیدا ہو گیا، اس خوشی میں اسی سال کام بھی "عام الجماعت" رکھ دیا گیا، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>تام آفایم و آفاق میں حضرت معاویہ رضہ پر آفاق ہو گیا۔<br/>الاتلایم والآفات ... راستوئش<br/>تو امسالک شرقاً و غرباً وبعد<br/>وقریب ارسی بعد اعمام صار الجماعت لاجماع<br/>الكلمة على امير واحد بعد الغوفته</p> | <p>راجتجمعت ملیہ الکدسه فی سالہ<br/>اللاتلایم والآفات ... راستوئش<br/>تو امسالک شرقاً و غرباً وبعد<br/>وقریب ارسی بعد اعمام صار الجماعت لاجماع<br/>الكلمة على امير واحد بعد الغوفته</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

حضرت علیؑ کا ساختہ دینے پر اخہمار افسوس؟  
مولا تاکتھے ہیں۔

"اس کے بعد برواحلات پیش آئیں دیکھ کر بہت سے دلوگ بھی، جو پسند حضرت علیؑ خداون کے خالقین کی دلایوں کو محض غسل سمجھ کر غیر جانبدار ہے تھے، یہ اچھی طرح بنا گئے کہ حضرت علیؑ کسی چیز کو تام رکھنے اور اس کو انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضہ نے اپنے آخری زمانہ میں کہا "مجھے کسی چیز پر آئنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ کیوں رہ دیا" اب ایم المفعی کی روایت ہے کہ مسروق بن الجذع حضرت علیؑ کا ساختہ دینے پر توبہ واستغفار کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کو عمر بھراں بات پر یعنی

نہامت رہی کہ وہ حضرت علی رضا کے خلاف جنگ میں حضرت معاویہ رضا کے ساقطہ کیوں  
شریک ہوئے۔ مختصر (۱۳۵ ص)

یہ پورا اتفاق بساں غلط تاثر دینے والا ہے، پوری امت نے حضرت معاویہ رضا کی مخالفت پر  
اٹھا رخوشی کیا اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے کودر کر دیا جو مملکتِ اسلامیہ کے  
ستقبل کو پر عیش تھا، حضرت معاویہ رضا نے داخلی انتشار اور عوام کے کرب و اضطراب کو دور کر کے  
اندر و فی طور پر تک کو امن و اسْتِحْلَام بخشنا اور بیرونی طور پر سلسلہ جہاد پھر سے جاری کر کے اسلام  
و شہرِ قاتلوں کے ان ہوشلوں کو پست کر دیا، جن کو مسلمانوں کی باہمی خانہ جگی نے بڑھایا تھا الیکن  
مولانا تائید تاثر دے رہے ہیں کہ بعد کے حالات دیکھ کر سب لوگوں کو افسوس اور اپنی اس کوتاہی پر  
نہامت ہوئی کہ انہوں نے معاویہ رضا کو گیوں نصیف بن جانتے دیا، گویا ان بزرگوں کو لہت کے انعام  
و اتفاق اور اسلام کے اثر و نفع کا دارہ و سلیع ہونے پر بجائے خوشی کے نغم ہوا،

### اَنَّ اللَّهَ وَالنَّاسَ الْيَقِيْنَ رَاجِعُوْنَ

ابن عبد البر کے بیان کی حقیقت در

ظاہر ہے یہ تاثر قطعاً خلاف واقعہ ہے، ابن عبد البر کے بس بیان پر اس کی بنیاد ہے، وہ ہی سر  
سے غلط ہے، ابن عبد البر نے ایک روایت یہ ذکر کی ہے کہ مشہور اصحاب رسول میں سے صرف چار  
اور تباہیں میں سے بعضی چار افراد نے ان جگلوں میں حصہ نہیں لیا باتی تمام اصحاب رسول اور تباہیں  
اس قسمی میں شریک رہے ہیں ان کے نام جو شریک نہیں رہے ہیں یہیں۔ سعد بن ماک رضا، عبد الله بن مهران  
محمد بن سلمہ رضا اور اساحہ بن زید رضا تباہیں ہیں، سعیج بن جیشتم، سروقی بن احمد عزوجہ، الحسود بن یزید  
اور البراء بن الحسن اسلامی، یہ روایت ذکر کر کے ابن عبد البر اپنی طرف سے بے سند لکھتے ہیں کہ ذکر کردہ  
اصحاب میں سے سروقی نے حضرت علی رضا کی ساقطہ رذیشے پر توبہ کر لی، عبد الله بن عمر رضا نے اخبار  
افسریں کیا، کوئی ایں عبد البر اس طرح حضرت علی رضا کے موقف کی حقانیت یہ کہ کرواضع کرنا چاہتے ہیں کہ  
اول تو تمام اصحاب و تباہیں یعنی میں شریک ہے اور یہ دو چار اصحاب و تباہیں مفتر زد ہے، انہیں اس

پر افسوس رہا کہ انہوں نے حضرت علی رضا کا سامنہ کبوں نہ دیا، لہٰ لانکہ یہ بیاناد ہی خلاف ہے اس حجہ پر رسول کی بہت بھی تفصیل تعداد جنگوں میں شر کیک ہوتی ہے، جن کی قرآنی تعداد صحیح روایت کی تو ۷۵، ۷۶ سے زیاد نہیں، صحابہ کی اکثریت غیر جانیدار اور کلیتہ جنگ سے محترم رہی، جن میں سفرخواری تو جعلی المقدمة اور مشمور و معروف اصحاب ہی تھے اور ان کے سامنہ ہزاروں نابعین بھی جنگ سے کش کش ہے لیکن ان میں سے کسی نے کبھی افسوس اور ندامت کا اغفار نہیں کیا، اسی حقائق کی وجہ کی میریا بن عبدالبر کے اس بیان سے کسی نے کبھی افسوس اور ندامت کا اغفار نہیں کیا، اسی حقائق کی وجہ کی میریا بن عبدالبر

کے اس بیان کو کس طرح صحیح قیسم کیا جا سکتا ہے؟

حضرت عبدالرشیب عمر و بن العاص کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے۔ کروہ جنگ صیفی میں حضرت معاویہ رضی کی طرف سے باطل نہاستہ محفوظ اس بنا پر لڑے تھے کہ ان کے باپ حضرت عمر و بن العاص حضرت معاویہ رضی کی طرف تھے، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو باپ کی نافرمانی ہو جاتی اور فتح مصلحتہ اللہ علیہ وسلم نے ان کو باپ کی اطاعت فرمائی تھا کا حکم دیا تھا، اسے صحیح نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی روایت پر اس روایت کی بنیاد ہے یہ مولانا نے ان کے متعلق ذکر کی ہے۔ حالانکہ یہ بیانات بڑی کچھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگر والد کی اطاعت و فرمائی تھا کا حکم دیا تھا تو اس کا یہ مطلب کہ تھا کہ باپ اگر باطن پر بھی اصرار کرے تب بھی بیٹا مزور اس کی اطاعت کرے؟ اس حکم کا متعلق تعریف ان کا مول تک محدود تھا جس سے تھا کہ نافرمانی یا حق کی مخالفت امداد نہ کرنے، جو ان ایسی صورت پر ہا ہو جائے وہاں تو شریعت نے صاف حکم دیا ہے، اطاعت لشیعۃ الحجۃ صحیحة لاثۃ

مخالف کی اطاعت سے اگر خاتم کی معصیت کا پونکتا ہو تو وہاں مخلاف کی اطاعت ناجائز ہے اس طرح کے کئی واقعات پر سبب پیش بھی آپکے تھے کہ باپ میتوں میں سے ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر میدان جہاد میں باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف داشتھا اس کے بعد پر کافر کا

کے بعد پر اطاعت پر سب کچھ انہوں نے قربانی کر دیا، باپ نے شفقت پر کافر کا نہیں کیا۔ بیٹے نے باپ کی عذت و احسان کی کوئی پرواہ کی، حق کے مقابلے میں ان کی نگاہ میں ہر چیز پر صحیح تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ بن العاص بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کے متعلق یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے حق دوسری جانب سمجھا ہوا، لیکن مخفف ہاپ کی وجہ سے حق کو چھوڑ کر بالکل کی جلت کرتے رہے ہوں، انہوں نے اگر حضرت معاویہ رضی کا ساتھ دیا تھا تو فی الواقع انہیں برسر حق سمجھ کر دیا تھا، بعد میں اگر حضرت معاویہ رضی کے مقابلے میں حضرت علی رضا کا لام ہونا ثابت ہبھی پوچھیا ہوا تب بھی انہیں اظہار افسوس یا ندامت کی مزورت نہ تھی، ان کو تو بہ صورت گناہ نہیں، باہر کا و خلافی سے ان کی نیت کے مقابلت اجر و ثواب ہی لٹتا تھا۔

**حقیقت پسندی یا محلی عصبتیت؟**

حضرت علی رضا کے متعلق مولانا تکھتے ہیں۔

حضرت علی رضا نے اس پورے نقطے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ شیخ شیعیک لیک  
خلیفہ راشد کے شایان شان تھا، البتہ مرغ ایک چیز ایسی ہے جس کی مدافعت میں مشکل  
ہی سے کوئی بات کی جاسکتی ہے۔ وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قابلین عثمان رضا  
کے بارے میں اپنا رؤیہ بدال دیا، جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے بادل خواستہ  
ان کو بروادشت کر رہے تھے..... لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاتھ تھے  
حاصل کرتے گئے جو حضرت عثمان رضا کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں  
شہید کرنے کے ذمہ دار تھے اختی کہ انہوں نے مامبی حارث الاشتر اور محمد بن ابی ذکر  
کو گورنری کے عمدے تک دے دیئے دراں حاکیکت قتل عثمان رضا میں ان دونوں ہماجوں  
کا بوجو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے، حضرت علی رضا کے پورے زمانہ محدثین میں ہم کو  
مرغ یا ایک کام ایسا نظر آتا ہے، جس کو غلط کرنے کے سوا کوئی پہنچ نہیں (ص ۴۹)  
اس عبارت سے مولانا نے انتہائی معموقاً اتنا لازمیں یہ تاثر دینیے کی کوشش کی ہے کہ انہوں  
نے پوری غیر جانبداری سے حقائق کا مطالعہ کیا ہے اور جہاں حضرت علی رضا کی نظر میں فکری ہے وہاں  
اس کا بھی صاف اعتراف کر لیا ہے لیکن ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تو یہ بات ہاں کل واضح ہو جاتی  
ہے کہ اس مقام پر مولانا نے محلی عصبتیت اور صریح جانبداری کا ایسا مقاہرو کیا ہے جس کی توقع  
کسی انصاف پسند آدمی سے نہیں کی جاسکتی۔

اس سے قبل مولانا حضرت عثمان رضی کے متعلق بھی یہ اعتراف کرائے ہیں کہ ان کا کردان بحثیت  
ایک خلیفہ راشد کے مقابلی تھا اور ایک پہلویہ مقابل اعتراف تھا کہ انہوں نے اپنے رشته داروں کے  
ساتھ خالیہ رہا تیرتیں اکابر صحابہ کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو مناسب نکومت عطا کئے ہیں میں سے  
کئی افراد کا کردار اچھا تھا، حضرت علی رضی کے متعلق بھی مولانا حرف اسی پہلو کو مقابل اعتراف قرار  
 دیتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن ابی بکر اور اشرفت شخصی جیسوں کو گورنری تک کے عمدے دے دیتے  
 تھیں مولانا کی دیانتداری اور غیر جانبداری کی حقیقت ملاحظہ فرمائی ہے کہ حضرت عثمان رضی کے اس  
 مقابل اعتراف پہلو کو اتنا نایاب اور مفید کر پیش کرتے ہیں کہ اس کی سیاہی خلیفہ راشد کے پورے  
 دوئے آبدار کو گھٹا دیتی ہے، اسے پڑھ کر ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک خلیفہ راشد کا کروائی ہے میکن  
 حضرت علی رضی کے اسی پہلو۔ بلکہ اس سے بدر جماعتیارہ مقابل اعتراف پہلو۔ پر کوئی تصریح نہیں کرتے،  
 اس کے نتائج ملک و قوم کے حق میں مفید یا ضرر رسان ثابت ہوئے؟ حضرت علی رضی نے اکابر صحابہ  
 کے مقابلے میں ان کو کیوں اتنی اہمیت اور اتنے اہم عمدے عطا کئے؟ اور اس وقت کے اسلامی  
 معاشرہ میں ان کے کردار کے اچھے یا بے کیا اثرات ظاہر ہوئے؟ ان میں سے کسی سلوک مولانا نے  
 بحث نہیں کی جاہا بلکہ سخت کے یہ تمام پہلو مولانا نے حضرت عثمان رضی کی پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے  
 کھول کر بیان کئے ہیں، یہاں تفصیل کی بجائے یہ اعتذار کر دیا ہے کہ ”اس کی مدافعت میں مشغول  
 ہی سے کوئی بات کمی جا سکتی ہے“ یا ”اس کو علاط کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں“ گویا حضرت معاویہ  
 حضرت ولید بن عقبہ، حضرت عبد اللہ بن سعد ابی سرح جیسے صحابہ کو گورنر بنانا تو ایک ایسا فعل  
 مختا جس کے بڑے بعد اس اونٹھنالک نتائج“ ظاہر ہوئے لیکن ان لوگوں کو گورنر بناتا، جو قسم  
 عثمان رضی میں ڈنکے کی پوچھ شرکیت تھے، ایک بے مزدرا قدام مختا جس کا کوئی بلا نتیجہ ظاہر نہیں  
 ہوا۔ یہ حرف غلطی تھی۔ اس سے بڑھ کر کھلی عصیت اور صریح جانبداری اور کیا ہو گی؟  
 عصیت کے مزید شواہد  
 مولانا لکھتے ہیں۔

”بعض لوگ بع کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی کی طرح حضرت علی رضی نے بھی تو پسے  
 متعدد رشته داروں کو بڑے بڑے عمدوں پر سرفراز کیا، مثلاً حضرت عبد اللہ بن جبک

پہنچا اللہ بن جباس رض، حضرت قشم بن عباس رض وغیرہم۔ لیکن یہ بحث پیش کرتے وقت وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی رض نے بہرام ایسے حالات میں کی تجاہی کہ اعلیٰ درجہ کی صد سنتیں رکھنے والے اصحاب میں سے ایک اگر وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا وہ سراگرد و مخالف کمپ میں شامل ہو گی اور پسروں سے گردہ میں سے آئندہ ان لوگ نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے، ان حالات میں وہ انہیں لوگوں سے کام یعنی پر جبور تھا اب جواہرہ پوری طرح اعتماد کر سکیں"

(ص ۱۴۶، ۱۴۷)

لیکن سوال یہ ہے کہ مولا تا ان حقائق کو تسلیم کب کرتے ہیں؟ وہ تو با مراد بتکاریہ کرتے ہیں کہ پوری مملکت اسلامیہ میں حضرت علیہ کو متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کریا گیا تھا صرف ۷۸۰ء یعنی تیس سو سال پہلے جنہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن اعلیٰ درجہ کی صد سنتیں رکھنے والے حرف یعنی، ایسا مولازم ہی تھے؟ باقی پوری مملکت اسلامیہ میں با صدیجت افادہ تھے، ان کے علاوہ لگ کچھ افزاد تھے جسی تو وہ بانشب دار ہو گئے یا مخالف کمپ میں شامل ہو گئے حالاً تک اس سے پہلے خود مولا تا یہ لگھ آئے ہیں کہ جنگ صفين کے موقع پر ۷۸۰ء سو ایسے اصحاب حضرت علی رض کے ساتھ تھے جو بیعت الوفاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جن کے ساتھ میں العذر اصحاب رسول کی اتنی فلیم تعداد تبدیلی جائے اس کی طرف سے یہ تو جیداً جو مولا تا نے پیش کی ہے، اس طرح صحیح کبھی جا سکتی ہے؟ یا تو یہ تو جیہے غلط ہے یا آٹھ سو اصحاب رسول والا تو مردود ہے، بیک وقت دو نوں باقی صحیح نہیں ہو سکتیں۔

پھر پڑھ کر حضرت ابو حیان و حضرت زین العابدین علی مذہبے ای صد سنتیں رکھنے والے میں اللقدر اصحاب حضرت علیہ کو اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے از خود ہائی خدمات پیش کر تھے ایں کہ کوئی اور بصرہ کی اولادت ہمارے سپر و کر دیجئے دہاں سے اپنکی حادیت اور فاقہ میں عثمان رض سے نفع کے لیے ہم آپ کو پہلی حرمتیا کر دیں گے لیکن حضرت علیہ السلام ویتے ہیں، ایمانداری سے کیتے حضرت علی رض کے ساتھ اصلی حصے کی صد سنتیں۔ کھنڈالے ازاد نے تعاونی خیں کیا یا خود حضرت علی رض نے ہی ان کے تعاون کو قبلہ نہ کیا؟

## فصل ششم

### خلافتِ معاویہ اور ولیعمری

#### آخری مرحلہ

اس مرحلے میں بھی مولانا نے تاریخ کی بے سر و پار روایات پر بھاگنکر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں۔

حضرت معلویہ رضی کے ہاتھ میں اختیارات کا آٹا خلافت سے حکومت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبور ہے مرحلہ تفاصل بریت رکھنے والے لوگ اسی مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہم باوشاہی سے سابقہ درپیش ہے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی د قاص ش جب حضرت معاویہ رضی کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ہے تو اسلام علیک یاہمااللّٰہ اکہ کر عطا ب کیا، حضرت معاویہ رضی نے کہا اگر آپ امیر المؤمنین کہتے تو کیا ہر ج تھا؟ افزاں نے جواب دیا "خدا کی قسم جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہے تو میں اس کا لیٹنا ہرگز پسند نہ کرتا" (ص ۲۷)

یہ بیانی بے سند ہے۔ ابن اثیر ساقویں صدی ہجری کے محدث میں ہائشوں نے یہ روایت کیاں سے لی، اس کے رووات کوں کوئی سے ہیں، جب تک ان چیزوں کی صراحت نہیں کی جاتی یہ بیان جدت و استناد کے قابل نہیں ایزیرد و اقحات کے بھی خلاف ہے۔ حضرت معلویہ رضی کے دو خلافت میں بختی سبی سحابہ کرام زندہ رہتے اسے آپ کو "امیر المؤمنین" کے لفظ سے ہی عطا ب کرتے تھے، کسی شخص نے بھی ایکھا الملک، اکہ کر عطا ب نہیں کیا، حدیث کی صحیح کتابوں میں بھی اس کا واضح ثبوت ہے اور کتب توبیخ بھی اس پر وال ہیں۔ کتب حدیث اور کتب تواریخ دونوں میں ہر جگہ آپ کے لیے "امیر المؤمنین" ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان حقائق کے مقابلے میں اس بیان کو کس طرح صحیح قبول کیا جاسکتا ہے؟ اسے صحیح قبول کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ اس وقت بوزیر اور علی صحابہ رسول میں موجود تھے، اس بعذ اللہ بصیرت سے بے بہرہ تھے، صاحب بصیرت "اگر تھے تو غرف

حضرت سعد بن ابی ذفاف، ابو اسی هر جملے میں حقیقت کی ترتیک پہنچ گئے تھے۔ ان کے علاوہ باقی تمام حضرات نا آشتائے حقیقت رہے اور ان کو اسی طرح "امیر المؤمنین" بولتے اور سمجھتے رہے جس طرح ان سے پہلے حضرت ابو پیغمبر و مردہ اور حضرت عثمان رضا و علی رضا کو بولتے اور سمجھتے رہے۔ فرقی مراتب سے قطع نظر ان کے دو میان انہوں نے اللہ کوئی فرقی روادار رکھا۔ مزیدار شلا ہوتا ہے۔

"حضرت معاویہ رضہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے خود کا مقاکرا نا اول الملوک" میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں" بلکہ حافظ ابن حثیر کے بقول سنت بھی یہا ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کما جائے، کیونکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخوئی فرمانی سنتی کرہے بھرپور سنت۔ ۲۰ سال اور ہے گی "پھر بادشاہی ہو گی" معاویہ مدلت دینیع القول شیخہ میں ختم ہو گئی جب کہ حضرت حسن رضا حضرت معاویہ رضہ کے حق میں دستبردار ہوئے" (ص ۷، ۱۴۲، ۱۴۸)

اگر سچ ہے تو پھر حضرت معاویہ رضہ نے کیوں نہیں اعلان کر دیا کہ مجھے امیر المؤمنین کی بجائے بادشاہ یا "ایبا الملک" کہ کر خطاب کیا جائے، مزید پر آں اگر سنت بھی یہی سنتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ رضی و تابعین سنت کی خلاف در نزی کرتے رہے، کسی کو یہ احساس نہ ہوا کہ ہم سنت کو پس پشت ڈال کر ایک "بادشاہ" کو برابر امیر المؤمنین کہے چاہرے ہے یہیں۔

در اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم خاطل یا جاتا ہے ابھی صلح اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ بتانا تھا کہ خلافت، اپنی کامل خصوصیات کے ساتھ تھوڑے ہی عرصہ رہے گی اس کے بعد خلافت رہے گی ضرور، لیکن اس میں بادشاہیت کی آئیزش ہو جائے گی یعنی مغلقوں میں بادشاہوں کی طرح کچھ دنیوالاری کے رسم چنانیت پیدا ہو جائیں گے، اس مفہوم کو آپ نے مبالغہ کے طور پر بتا کر اس کی خشاعت خوب دانیج ہو جائے، اس طرح ادا فریا یا کہ خلافت۔ ۲۰ سال اور ہے گی پھر بادشاہی ہو گی "جس طرح سعید بن الحسین" کا ایک قول ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ "فتیادلی، شمارت، عثمان رضا، رضا قعہ ہوا تو بدرب اصحاب میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ فتنہ شانیہ، اتفاقہ حررہ، واقعہ ہوا، تو اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی نہ رہا۔ پھر مفترہ ثالثہ لا جب و قوع ہوا تو لوگوں سے عقل و علم اور کرشمہ دہالت اور شہیذ بالکل امتحا

لی گئی، یہ ایک اندازہ بیان ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ اب فی الواقع عقل و خیر کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ خیر تبدیل یح کم اور شر تبدیل یح روزافروز ہے، اسی طرح ایک حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میرے بعد امّہ (حکمران) ہوں گے لیکن میری ہدایت دستت کو نظر انداز کر دیں گے، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کوئی انسانی جسم میں شیطانی دل رکھ دیں گے ہوں، ایک صحابی کہنے لگے "میں اگر ایسے حکمرانوں کو پاؤں تو کی کرو؟" آپ نے فرمایا "و اگر تم پر خلم بھی کریں اور زدود کو رب بھی اتب بھی ان کی سمع و اطاعت کو اپنے اوپر لازم۔ کچھ رکھتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکمران فی الواقع شیطان ہو جائیں گے، اگر وہ شیطان ہی ہو گئے ہو تو اس کی اطاعت کے حکم کے کیا معنی؟" ظاہر ہے کہ آپ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ان میں خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی تیرہ کوہ قرآن و حدیث کو یکسر ترک کر دیں گے، اسی طرح زیرِ بحث حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ اسلام کا اصل سیاسی نظام (خلافت)، تین سال کے اندر اندر ختم ہو گیا اس کے بعد خدا اور رسول سے تآشتا با دشائیت رہ گئی جس کے حکمران نام کے مسلمان ہزار محققے مگر ان کے نظام حکومت کے اندر بجا ہی رو روح کام کر رہی تھی ایکسر بے بنیادیات ہے۔

بات درصلی یہ ہے کہ اسلام ہمیں صلح مطابع اور قانون ساز اللہ ہے، خلیفہ کا منصب نہ قانون ساز ہے نہ اس کی سربراہت واجب اطاعت ہے، وہ اللہ کے حکم کا پابند اور اس کو تقدیر کرنے والا ہے اور اس کی اطاعت بھی اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے، حکمرانی کا یہ اسلامی تصور پسند چار خلفاء کے دل و دماغ میں جس قیمت کے ساتھ چاکڑیں نکلا، بعد میں یہ تصور تبدیل یح دھندا چلا گی، اسی کیفیت کو با دشائیت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ فی الواقع با دشائیت اسلام میں نہ ہوں نہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ طور پر "با دشائیت" ہی تھے یعنی طریقہ دلیعہ مدعا ہی سے خلیفہ بنے تھے، لیکن اپنے طرزِ حکمرانی کی بنابر اپنا نیک نام چھوڑ گئے، اسی طرح اسلامی تاریخ میں اور بھی متعدد "با دشائیت" ایسے گزرے ہیں، جن کے روشن کارناموں سے

سلہ صحیح بخاری، ج ۲، ص ۳۵۵ (صحیح المطابع کراچی)  
سلہ صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۵۱ (صحیح المطابع کراچی)

تاریخ اسلام کے اور اقی مزین اور جن کی شخصیتیں تمام مسلمانوں کی نظر وہ میں محدود مستحسن ہیں اسی طرح حضرت معاویہ رضوی کو بھی اگر کوئی شخص بادشاہ کہتے پر مصروف ہے، تو بعد شوق کے، اب یہاں خالی دنہ اور اس بادشاہ دنیا کی پوری تاریخ نہیں پیش کر سکتی، لیکن اگر کوئی شخص اس نقطہ نظر سے ان کو بادشاہ کے کروہ اسلامی طرز حکومت سے دور ہٹ گئے تھے، ان کے دور حکومت کا نظام اسلامی نہیں بلکہ جاہلی تھا اور ان کو اخذ و شربیت کی حدود پھاند جانے میں کوئی باک نہ تھا جس طرح «خلافت و بلوکیت» میں یہی کچھ بادر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سراستہ غیر معتمد طرز فکر اور یکسر امر واقعہ کے خلاف ہے۔

پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں فی نفسہ بادشاہت "کوئی مذہم شے نہیں، صرف وہ بادشاہت مذہم ہے جو خدا اللہ رسول کی تبلیغی ہوئی حدود سے ناہشنا ہو، جس طرح ہمارے دور کے مسلم حکمران ہیں، موجودہ حکمرانوں کو اگر کوئی شخص "امیر المؤمنین" کا قبیل بھی دیدے تو تب بھی وہ مشرف بر اسلام نہیں ہو سکتے، خدا کی نظر وہ میں وہ بیغوض ہی ہیں؛ نا انکہ وہ خدا کو مطابع تعمیقی اور تائونی ساز قیلیم کر کے اپنے آپ کو اس کے احکامات کا پابند اور ان کو نافرمانی کی کوشش نہ کریں، اور نہاد کے عطا کردہ اختیار و اقتدار کو امغرب سے بر آمد کردہ نظریات کو فروع دینے کی بجائے اسلامی تہذیب و اخلاق کو فروع دینے کے لیے نہ استعمال کریں۔ بلکہ وہ بادشاہ، جس کا مقصد دینی حق کی اشاعت اور اس کی سریشندی، اسلامی تہذیب و تدنی کا نفاذ اور اس کا فروع ہو اس بات سے قطع نظر کرو جہوری طریق سے اس منصب بلند پر فائز ہوا ہے یا باپ کے مر جانے کے بعد و راثتہ "تحفظ نہیں، اسلام کی نظر میں وہ پستہ یہ اور قابل تعریف ہے، آج کل لوگوں نے نفس بادشاہت کو خلافت و نبوت کے منافی تصور کر رکھا ہے جس کے لیے کوئی شرعی پہنچا نہیں، چنانچہ علامہ ابن حجر وطن لکھتے ہیں۔

"وہ بادشاہت، یوں تصور شدافت کے منافی اور خلاف ہے، وہ وہ چرتوتیت (سرکشی) ہے جسے حضرت عمر رضوی نے اس وقت کروتیت سے تعبیر کیا تھا، جب اس کے کچھ ظاہری آثار حضرت معاویہ رضوی میں انسوں نے دیکھے، لیکن وہ بادشاہت جس میں قرود غلبہ عصیت ملکہ کوہ ہے، وہ نہ خلافت کے منافی ہے نہ نبوت کے اسلام ملیہ اسلام اور ان کے

والحمد لله رب العالمين دو فوں بھی بھی سختے لور سا تھے ہی بادشاہ بھی، لیکن اس کے باد جود وہ دو فوں اپنے رب کا اعلان کرتے اور دنیا دی امور میں راؤ استقامت پر قائم ہے حضرت معاویہ رضی کی بادشاہت بھی ایسی ہی تھی، ان کا مقصد عین بادشاہت کا حصول بادشاہی عز و جاه میں اختلاف نہ تھا، جب مسلمان اکثر حکومتوں پر غالب آگئے تو طبعی عصیت کی بنا پر ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، وہ مسلمانوں کے خلیفہ سختے انہوں نے مسلمان قوم کی اسی طرح رہنمائی کی جس طرح بادشاہ اپنی قوم کی اس وقت کیا کرتے ہیں، جب قومی عصیت اور شاہی مراجع اس کا مستحکمی ہوتا ہے۔

اسی طرح ان دیندار خلفاء کا حال ہے جو معاویہ رضی کے بعد ہوتے، انہیں مجھی جب ضرورت لا جن ہوئی شامانہ طور طبقی استعمال کئے، ان خلفاء کے حالات کا مطالعہ کرتے وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ صرف مجھی روایات پر اعتماد کیا جائے تو کہ در دریافت پر، جس خلیفہ کے افعال عجیب ہوں وہ خلیفہ رسول ہے، جو اس سیکار پر پولان اور سدا دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح ہے اگرچہ اس کو خلیفہ ہی کیوں نہ کہا جانا ہو۔

### ایک شخص پر تضاد آگے مولا نا لکھتے ہیں۔

”اب نہ لفت علی مناخ النبوة کے بجائے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ رضیا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے یا ہمیشہ پر چھوڑ دیتے یا اگر تطیع نزار کے لیے اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اپنی علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں ونڈن تراویح کوں ہے لیکن اپنے بیٹے زید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے فدائی سب سمعیت سے کر انہوں نے اس انکان کا بھی خاتمه کر دیا“ (ص ۴۷۸)

یہ کیا ہوئی ؟ خلافت علی منہاج النبوة تو حضرت حسن رضیٰ کی خلافت سے دست برداری کے وقت (اللئے میں) اپنی ختم ہو گئی تھی، جس طرح پہلے مولانا نے کہا ہے، اب اس کے بجائے کم کیا مطلب ؟ اس کے ختم پر تو بقول مولانا ہر ہوئی اللئے میں ہی لگ گئی تھی، اس کے بعد کہ کم طاقت تھی کہ تو شدید تقدیر کو مٹا کر دوبارہ اسے بجائی دوئیا ؟ عجیب دلچسپ تضاد ہے، ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ اللئے میں خلافت ختم ہو گئی، دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضیٰ زید کے بجائے کسی احمد موزوں تراجمی کو نامزد کر جاتے یا اس محلے کو مسلمانوں کے ہاتھی مشورے پر چھوڑ دیتے تو گویا تقدیر بالی کے علی الزم خلافت علی منہاج النبوة دوبارہ قائم ہو جاتی، اب دوہی صحتیں ہیں، یا تو حدیث کا وہ مفہوم، یہ مولانا نے لے کر خلافت پر سہرا دی ہے، خلط ہے، یا پھر خلافت کا یہ تصور ہی ماحنہ ساز ہے کہ باپ بیٹے کو نامزد کر جائے، تو خلافت ختم، اور بیٹے کی جگہ کسی احمد کو نامزد کر دے تو خلافت بحال ! دونوں باتیں بیک وقت میخجھنیں ہو سکتیں۔

ہمارے نقطہ نظر سے باپ کے بعد بیٹے کے جانشین بخت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرت علی رضا کے بعد آخر حضرت حسن رضا خلیفہ بنے، کوئی نہیں کہتا کہ اس طرح «ملوکیت» کی بنیاد پر گئی، حضرت معاویہ رضا نے بھی اگر اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، خلافت اگر ختم نہیں ہو گئی تھی، تو محض اس اقسام علی عمدہ سے اس کا خاتمہ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ پہلے کی طرح بحال ہی رہی، اور اگر خلافت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی زید خلیفہ بن شایا نہ بنتا، اس کا احیاد ناممکن تھا، زید کے بجائے محض کسی اور کی نامزدگی تو شدید تقدیر کو نہیں مٹا سکتی تھی۔

### ولادیت عہد

اس سلسلے میں حضرت معاویہ رضا اور شیعہ بن شعیب رضی اللہ عنہما کا کو درج ہبیں طرح مسخر کر دیا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، جن روایات کی بنیاد پر ان دونوں بزرگوں کو ہوا اور ہر دوں کا بنہ بادھ کرایا جاتا ہے، وہ اپنی استادی حیثیت سے اگر اپنے اندر قدر ایمی قوت رکھتی ہو تو اس قسم کی رائے پیش کرنے والوں کو کسی حد تک محدود رسمجا جا سکتا تھا، لیکن بالکل بے سرو پار دیا اس کا سہارا لے کر ان بدلیل القدر اصحاب رسول پر گھناؤ نے جرائم کا الزام ایک ناشائستہ فعل ہے،

ہم بالکل ابتداء میں غنقرًا اس مستعلی پر رکھنی ڈال آئے ہیں کہ اس معاملے میں ان حضرات کے ساتھ حسین نام رکھنا چاہیے، ان بزرگوں نے اگر یہ یاد کو ولی عہد نامزد کیا اور تمام موجودہ اصحاب رسول اور جملی العصر تابعی نے اس فیصلے کے ساتھ آتفاقی یا کم از کم سکوت اختیار کیا، تو یقیناً اصل نظریں یہ نامزدگی مناسب، موزوں العصر عیحدہ سے متجاوز نہ ہوگی، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ حضرات، جنہیں نیا کا کئی لاپچھ یا خوف را وحی سے نہ ہوا سکتا تھا، حضور اس کے مذاہم بلکہ اس کی راہ میں ایک سنگ گران ثابت ہوتے، جس کو حکومت کی پوری مشینری اور اس کا بھرا پڑا خزانہ بھی ہتا نے پر قادر نہ ہوا سکتا تھا دو رخیر القرون کے متعدد یہ تصویر دینار و دینامیں نے ان کے منسی دئے تھے، تلوار کے خوف سے ان کی زبانیں لگنگ ہو گئی تھیں اور چند سوں کی خاطر انہوں نے اپنا نامہ رایان رہن رکھ کر مست مسلمہ کی تباہی کا سامان مبتدا کر دیا، یکسر خلافِ داقعہ اور قرآن و حدیث کی تصریحات کی تکذیب کرتے تو ہے اسے وہ شخص تو قبول کر سکتا ہے، جسے نہ شرفِ صحابیت کا کچھ پاس ہو رہ قرآن و حدیث کے بیان فرمودہ خطاً پر صحیح معنوں میں یقین، لیکن اہل سنت کے وہ صحیح العقیدہ افراد اسے کبھی مجح تسیلم نہیں کر سکتے، جن کے دل تکلیم صحابیت سے معمور اور بوطری و ابن الاشیر کے بیانات سے زیادہ قرآن و حدیث کے بیان کردہ خطاً پر ایمان رکھتے ہیں۔

### ل) شرعی حیثیت

( دراصل یہ لوگ جو حضرت معاویہ رہ نہیں پڑا اعتراض کرتے ہیں، خود تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ حالات ذرا ف کے مطابق مختلف طرزِ عمل اختیار کریں، حقیقت کو نصوص صریح کو سیئی قوڑتے کی مزد忍ت پڑھے تو اس سے بھی انہیں باک نہیں، لیکن صحابہؓ کرام کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں، خود مولانا نامود علی صاحب کا طرزِ عمل اس بامسے میں بالکل واضح ہے، صدارتی انتخابات کے موقع پر انہوں نے ایک ایسی عورت کو ملک کی صدارت کے لیے نامزد کیا، جو روز دین میں آشنا تھی نہ دنیاوی علوم سے بہرہ ورہ، محض اسی لیکر شرف سے مشرف مقی کر بانی پاکستان کی ہمیشہ رہے، حالانکہ اس منصب جملید کے لیے ایک عورت کی نامزدگی ہی نفع صریح کے خلاف تھی، پھر اس پر مزید ستم یہ کہ ذاتی طور پر وہ دین سے قطعاً نا آشنا اور اس ذمہ دارانہ منصب کے تفاصیل سے عمدہ برآ ہونے کی صلاحیت سے عاری لیکن حضرت معاویہ رہ نے اپنے ایک ایسے بیٹے کو خلافت کے لیے

ہم زد کیا، جو ایک جلیل القدر خلیفہ اور صحابی رسول کا بیٹا اور پروردہ تھا، دینی علوم سے واقفیت دینی کا دد و اور سیاسی امور کو سمجھنے کی صلاحیت و اہلیت و رشیت میں اس کو ملی تھیں۔ نیز اس سے قبل وہ متعدد معروفوں میں فوجوں کی لگان بھی کرتا رہا تھا۔ خود حضرت حسن رضوی سین رضا اور دیگر صحابہ اس کی زیر قیادت جگلوں میں شریک ہو چکے تھے اور وہاں یزید کے پیچے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت ابوالمریب الفصاری رضوی جیسے جلیل القدر صحابی نے غزوہ قسطنطینیہ میں یزید کو اپنا دھمی بتایا اور یزید ہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، مزید برآں یزید کی نامزدگی بھی از خود حضرت معاویہ رضوی نے حصن اس بن پر نہیں کی کردہ ان کا بیٹا تھا، یہ تحریک بھی دوسرے حضرات نے کی، جوں میں سرفراست ایک جلیل القدر صحابی حضرت میخیہ بن شعبہ تھے۔ درود حضرت معاویہ رضوی کا یہ خیال نہ تھا، ان کا خیال شروع میں یہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے کسی ایک شخص کو نامزد کرنے کی بجائے، حضرت عمر رضوی کی طرح چند افراد کے ناموں کی نشاندہی کر جائیں گے، جوں میں سے کسی ایک کو لوگ اپنی پسند اور منفی سے چھی لیں گے، اس کام کے لیے ان کے ذہن میں ہو لوگ تھے، ان کے اسماں گرامیہ میں، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبد الشد بن عامر، حضرت حسن رضوی، حضرت هروان رضوی، حضرت عبد الشد بن عمر رضوی، اور حضرت عبد الشد بن نبی رضوی<sup>ؑ</sup> لیکن حضرت میخیہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ رضوی کو یزید کے متعلق مشورہ دیا، حضرت معاویہ رضوی نے اولاد اس میں ترد دکیا، کچھ غور و فکر کے بعد ان پر بھی حضرت میخیہ بن شعبہ کی اصابتِ راستے دانچ ہو گئی، اور حالات کے مطابق یزید کی نامزدگی انہوں نے مناسب سمجھی۔ علاوه پریں اس نامزدگی سے کسی نصی کی بھی خلاف درزی نہیں ہوئی، شریعت نے ادنیٰ سا اشارہ بھی اس طرف کیے ہیں کیا کہ باپ اپنے بحد نخلافت کے لیے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کر سکتا، خلفاء راشدین کے طرز عمل سے اس مقام پر جواستد لاں کیا جانا پے وہ عقیک نہیں، انہوں نے حصن اپنی راستے اور اپنے بے شال ذہن و درج کی بن پر ایسا اقرار نہیں کیا، انہوں نے کبھی اس راستے کا انکھار نہیں کیا کہ ایسا کرنے سے شریعت کے کسی قانون کی خلاف رہا

ہو جائے گی، جب قرآن و حدیث کی کمی نصت سے اس کا عدم جواز نہیں کیا جاسکتا، تو محقق پچھے خلافاء کا طرزِ عمل اس کے عدم جواز کے لیے کافی دلیل نہیں، پچھے خلافاء نے ذاتی طور پر بہت سے ایسے کام کئے جنہیں ان کے اپنے زہد و درع کا مظہر تو کہا جاسکتا ہے لیکن اسے آیندہ خلافاء کے لیے اس طرح نصت بنادیتا کر دے بھی اسیک سرمو اخراج ف نہ کریں، کسی طرح درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی تحریک کا جو معیار مقرر کئے رکھا ہے آنانا کا مقام کہ جس میں ایک عرب ادمی کا گزارہ بھی مشکل ہو سکتا تھا یہ ان کے ایثار، بے لوثی، دنیا سے بے رخصی اور زہد و درع کا نتیجہ تھا، لیکن آیندہ خلافاء کے لیے بھی تحریک کے اسی معیار پر امر اور کراکسی طرح بھی اسلام کا منشار نہیں کہا جاسکتا، وہ یقیناً زمانے اور حالات کے مطابق ایسی معقول تحریک مقرر کر سکتے ہیں، جس سے وہ زندگی کی بینادی ضروریات پاسانی فراہم کر سکیں، اسلام کے اندر اس کی پوری گنجائش ہے، عحق خلافاء راشدین کا ذاتی طرزِ عمل اسلام کی عطا کردہ اس دسعت و فراخی کو تنگی میں تبدیل نہیں کر سکتا، جب تک کہ کوئی نصت صریح بھی ان کے طرزِ عمل کی تایید میں نہ ہو، اسی طرح انہوں نے موٹے جھوٹے اور پوتے لگے کپڑے زیب تن بیکر کر کے ان کی اس سادگی کی تعریف تو کی جاسکتی ہے ادوسرے لوگوں کو سادگی کی طبقیں کرنے کے لیے ان کے طرزِ عمل کو بطور نمونہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے، لیکن ان کے اس طرزِ عمل کو اس کام کے لیے بینادیں بنایا جا سکتا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے یہی لازم ہے کہ وہ بھی پیوند لگے کپڑے ہی پہنے، پیش قیمت لباس زیب تن کا ہی نہیں سکت، اگر ایسا کیا جائے گا تو اسے اسلام کا صحیح تھامنا نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ صریخاً لوگ اس کو اسلام کی منشاء کے خلاف ہی کہیں گے احوالگر خلافاء راشدین کا طرزِ عمل سادگی ہی تھا، لیکن زیر بحث مسئلے میں لوگ خواہ مخواہ خلافاء راشدین کے طرزِ عمل کو دریاں میں نے آتے ہیں، حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ حضرات ابو بکر رض و عمر رض و حضرت عثمان رض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حضرت مبغیرہ رض و ابن شعبہ و حضرت عمارہ رض بھی صحابی رسول، ان میں سے اگر کوئی ایسا طرزِ عمل اختیار کرے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو ان میں سے کسی کا بھی طرزِ عمل مسلمانوں کے لیے قابل عمل نہیں، لیکن ان کے وہ افعال جوان کی ذاتی رائے اور اجتہاد نکر و نظر کا نتیجہ ہیں وہ کسی نصت صریح سے بھی متصادم نہیں، وہاں تمام صحابہ

کا طرز عمل ہمارے پیلسے قابل اتباع ہے، تمام صحابہ کرام کی اتفاق ادا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس تحدید کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی و عنده جو کام کریں صرف وہی مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہیں، حضرت معاویہ رضی اور دیگر صحابہ کا طرز عمل ہمارے پیلسے قابل اتباع نہیں، نصوص قرآن دعویٰ شیخ کی روشنی سے حضرات ابو بکر رضی و عنده کے ساتھ حضرت معاویہ رضی کا بھی یہ مقام ہے کہ ان کا طرز عمل مسلمانوں کے لیے نہ نہیں بلکہ اسے کسی نفعی صریح سے مستفادہ ثابت کر دیا جائے۔

### تقریریت و کسر ویت

ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی کا یہ فعل قبیر و کسری کے طرز پر تھا، یہ اعتراض بھی ٹاپوڈا ہے، ایسے افعال بھی نفس سے جائز و مباح ہوں اور ان کا رد واجح غیر مسلموں میں بھی ہوا شریعت کی کسی نفع سے یہ ثابت نہیں کہ مغضن اس بنابر ان کا ارتکاب مسلمانوں کے لیے حرام ہو جائے، آج کل بیلڈ بس کے ذریعہ خفیہ و مٹنگ ہوتی ہے، یہ مخالف ان غیر مسلم قوموں کا فعل ہے جو قبیر و کسری کی وارث و جانشینیں ہیں، اگر کسی اسلامی مملکت میں بھی انتخاب کا بھی طریقہ کار اختیار کر لیا جائے تو یہ فعل جب بجا ہے خود اپنے احمد ایسی تباہت نہیں رکھتا کہ جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا جائے، تو یہ کوئی معقول ولیل نہیں ہوگی کہ اس طریقہ انتخاب کو مغضن اس بنابر ناجائز قرار دے دیا جائے کہ یہ مخالف کافر قوموں کا طرز اور شعار ہے اور یہ کہ خلافہ درا شدین اس طریقے سے منتخب نہیں کیے گئے تھے۔

نیز ایک مرتبہ یہ بات خود عمر فاروق رضی نے اس وقت کی تھی، جب انہوں نے حضرت معاویہ رضی کو شہزاد شان و شوکت میں دیکھا، حضرت عمر رضی نے فرمایا "اکسر ویت یا معاویت یا معاویہ کیا تم نے کسر ویت اختیار کی؟" حضرت معاویہ رضی نے جواب دیا کہ "ہم ایسی سرحد پر ہیں جہاں ہر دو دشمن کا سامنا رہتا ہے، میں اگر اس طرح نہ کروں تو وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے، میں ان پر اس طرح رعیب ڈالے رکھتا ہوں، اس میں اسلام ہمکی عزت و سر بلندی ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں" حضرت عمر رضی نے فرمایا "جب بھی میں نے تم سے کسی ایسی بات پر دعویٰ کی ہے جس سے تم پر عیوب گیری کا پہلو نکلتا ہو، تمہاری وضاحت کے بعد میرا حوال

ایسا ہو جاتا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ اسی طرح کرنے دوں یا اس سے رکھ کر دے؟  
ملک مر ابن علدوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی محظی بات  
لکھی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بواب میں خاموش ہو گئے اور انہیں مدد کارہ مشفیق  
کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایسا کرنے سے وہی مقصد تباہ ہو گدھ ہے کا ہے، اگر  
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد سرے سے بادشاہی کا انکار ہوتا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے  
بواب میں اس کو صرف، اگر قوتیت سے تبیر پا اس کی طرف امتحاب کر کے خاموش ہو  
ہو جائے، ابطرود معاویہ رضی اللہ عنہ کو بالکلیہ اس کے ترک کرنے کا حکم دیتے، اگر با اولاد حضرت  
عمر رضی اللہ عنہ کے "کسر قوتیت" سے وہی غصوں خستہ کیا جو اس متوان ہے اپنی فارس پیشے  
ملک میں فلم دهدہ ای، یا اپنی پرستی لہو زندگی سے غفلت کا ارتکاب کرے ہے تھے، لیکن  
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بواب دیا کہ ان کا اصل مقصد اپنی فارس کی "کسر قوتیت" اور ان کی یا اپنی  
پرستی نہیں بلکہ اس سے بھی ان کا اصل مقصد خدا کی رضا مندی ہی ہے، اس بواب پر  
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو شہید ہو گئے، اسی طرح تمام صحابہ کی شان منی کر کے بادشاہی سے اس  
بانپر گزینہ کرتے تھے کہ کہیں وہ باطن سے طورت نہ ہو جائیں۔

یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کرتے کہ تم لوگ قیصر و کسری اور ان کی شان و شوکت کا وکلہ تھے  
ہو سالانکر کم میں خود معاویہ رضی اللہ عنہ چیسا شخص موجود ہے، بلکہ طور فخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام ہری  
کراں شہر "لکھ دیا" تھا، اور انہیں موت نہ اسی نام سے پکارتے تھے، اگر یا عمر فاروق تھے  
شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیصریت و کسریت کو محدود قرار دیا، کیونکہ اس سلطنت کا متصد

سلہ الہبری، ج ۵، ص ۳۷۱، ابتداء و انتها، ج ۸، ص ۴۷۷-۴۷۵۔ ملک مر ابن علدوں، ص ۳۶۰۔

سلہ ملک مر ابن علدوں نعمی، انطباع المعرفۃ الی المکتب، ص ۳۶۰۔

سلہ الہبری، ج ۵، ص ۳۷۰، الکامل، ج ۲، ص ۱۱۔

سلہ ابتداء و انتها، ج ۸، ص ۴۷۵۔

فی الواقع کسر ویت کی پیروی نہ تھی، بلکہ اس سے بھی ان کا اصل مقصد دین اسلام کی سر بلندی خدا کی رضا اور مسلمانوں کی محرومیت ہی تھی۔ اگر فرض کرو اس میں کوئی قباحت ہوتی تو حضرت عمر رضہ خاروقی جیسا سخت گیر حاکم اس پر سکوت اختیار نہ کر سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح اخراج ولیعہ نہیں کہا جاسکتا، بالخصوص جن حالات کے پیش نظر یہ اقدام کیا گیا اور تمام صحابہ دتابعیت نے اس پر اظہار رضا مندی کر دیا، اس کے بعد اس کی شرعی جیشیت زیرِ ساخت لافے کا صاف مطلب ہے کہ یا تو ہم صحابہ کرام سے بھی زیادہ اپنے کو شریعت کا ماہر سمجھتے ہیں یا ان سے نیادہ ہم دین و فہرست کا درود رکھتے والے ہیں، ان حضرات کرام کو نہ شریعت کا اتنا علم مخاذ دیں کا اتنا درد، کہ ان کے سامنے ڈنکے کی چوڑی ایک فعلِ حرام کا رتکا ب کیا گیا اور فعل بھی ایسا جس نے بقول ابن القعین "کے پوری امت مسلم کو ہمیشہ کے لیے تباہی کے خارجیں دھکیل دیا" لیکن انہوں نے اس کو ہنسی خوشی برداشت کر دیا، چار پانچ آںیوں کو حساس بھی ہوا تو بے سعادتوار کی پچ سے ان کی بھی آنکھیں خیرہ اور انہا کی قوتِ گریائی اس کے خوف سے سب ہو گئی۔

اعاذنا اللہ منہ۔

### ابن حمدون کا نقطہ نظر

مؤذنی میں سے اس مشتعلہ کا ابن حمدون نے کسی گور حقيقة پسندانہ تجویز کیا۔ ہے جو صحابہ کرام اور دوسرے عیار القردون کے حالات و واقعات کے مناسب ہے وہ رکھتے ہیں۔

**مساچر کام ستر قلن جدی کی محنت پر متفق اہم اس کے شرعی جواز کے قائل تھے**

اہد بخراج محنت ہے جس کا معلوم ہے، اس معاملے میں خیز و دقت کو تم نہیں کیا،  
سلکتا چاہے وہ اپنے باپ یا پیٹھے کو ہی دلی حد نہیز کر دے، یا کونک لوگوں کو جہاں  
کی زندگی میں اس پر اعتماد نہ ہے تو اس کھرنے کے بعد اس پر اعتماد بطریق ہوئی کہم  
رہتا چاہیے، بیش لوگوں کا ابتدی خیال ہے کہ باپ پیٹھے کو دلی حد بنانے کی صورت  
میں امامت کیا جاسکتا ہے اس بعین لوگ باپ کی نہیں مرف بیٹھے کی صورت میں تم  
قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ عقولاً لائیں صحیح نہیں، امام کے لیے کسی صورت میں سر زمیں

کی گھنائش نہیں، بالخصوص جب کہ کوئی مصلحت یا کسی بڑے مقصدہ کا اعلیٰ پیشہ اس پریز کا مستقلاً ہو، ایسی صورت میں تو بدگافی کی قطعاً لگبھائش نہیں، جس طرح کہ حضرت معاویہ رضہ کے زمانہ میں یزید کے بیلے ہوا، اگرچہ یہ انہام حضرت معاویہ نے لوگوں کے اتفاق دانے سے کیا تھا، جو بھائے مودا یک جدت ہے، امریزید برائے حضرت معاویہ رضہ کو جو اس طرح کرنے کی حضورت لا حق ہوئی اس کا سبب یہ، اس کے اوپر کوئی دھنکا کہ امت میں انخلاف و اتفاق برقرار رہے، الحصیرہ اسی صورت میں حکم مخاکر اس وقت کے بنو انتیہ کے اپنے عمل و تقدیم اس اقتداء پر مستقی ہو جائیں، ان کے اتفاق میں درسرے تمام لوگوں کا اتفاقی سفر تھا، یزید بنو انتیہ اپنے علان کسی اعد پر رضا مند نہیں ہو سکتے تھے، اس وقت بنو انتیہ ہی قریش اور درسرے تمام قبائل کے مقابلہ میں مرکزِ قوت انہو صاحب اثر و نفوذ

ستھن۔

اب دبلڈ کے پیش، نظر حضرت معاویہ رضہ نے یہ بڑی کہاں لوگوں کے مقابلے میں تریخ بھیج دی، جو اس کے زیادہ اہل کار کئے جائے۔ اللہ احمد علیک اس بنا پر خصل کی بجا۔ تھے مغلنوں کو پہنچانا جانشین فائز دیکا کہ کسی طرزِ اتحاد و اتفاق رفرار سہے جس کی شماری کے زدیک بہت زیادہ اہمیت ہے۔

اس کے ملادن الحمد کوئی خیال حضرت معاویہ رضہ کے متعلق نہیں کیا جاسکتا، ان کی حدالٹ اور صحابت کا شرف اس سے مانع ہے، پھر اس دلت اکابر صحابہ کی وہاں ہو جو لوگی ملور اس پر ان کا سکوت اس بات کے بیلے کافی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضہ اور قسم کے ریب و شک سے بالا میں اکیونکہ نہ صحابہ کرام کے متعلق یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ حق کے معاملے میں انہوں نے کوئی مداخلت روا رکھی ہوئی رسم معاویہ رضہ ہی کے متعلق یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ تمیل حق کی راہ میں کسی قسم کا کوئی پناہ ادا کے لئے آگیا ہو رایہ تمام حضرات اس نئیم کی بالا سے بہت بلند اعداد ان کی حدالٹ، ان کے متعلق ایسے خیالات نہیں ہیں اُنے

سے منبع ہے۔

بناً عباد اللہ بن عمر رضیہ کا اس سے فراز وہ محض ان کے تہذیب و تہجی کی بنا پر تھا،  
وہ سرے سے یقین معاشرات سے دفعہ ہیں رہا کرتے تھے، چاہے نفس الامر  
میں وہ مباح ہوں یا ممنوع، ان کا یہ فلز محل مشورہ ہے۔ سواتے ابن زیر رضا کے  
بھورامست حضرت معلویہ رضا کے اخواہ ولی عهدی سے متفق ہو گئے تھے یعنی  
حال معلویہ رضا کے بعد ان خلافاء کا ہے جو حق کے یوں یا اور اس کے مطابق محل  
کر فتح کے تھے، جیسے بنی انتیر میں حیدرالملک اور سلیمان، بنی جواسیں میں  
شاح انصور، ولی احمدی احمد رشید اور ان جیسے دریغ خلق اور ہیں، جو کی حوصلہ  
ٹھہرائے اور خیر خواہی معروف ہے، انہوں نے اپنے بعد جو اپنے میلوں یا جہاں پر  
کوئی حمد نامزد کیا، اس سلسلے میں ان پر الحاشت قائم نہیں کی جاسکتی یہ  
صری فاضل صدر عباد اللہ بن الخطیب رحوم نے جسی کیا مجھہ بات کو ہے، لکھتے ہیں۔  
”اگر ایت کا پیمانہ یہ ہے کہ خلیفہ اپنی جمومی سیرت کے لحاظ سے ابو بکر رضو  
مر رضا ہی کے شل ہو تو پھر تاریخ اسلام میں ایسا کوئی خلیفہ دھونڈھنے سے  
بھانیں سے گا تھی کہ عربی حیدر العزیز بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا اور اگر کم  
کسی متن امکنی ”پیرز کی آس لگائے بیٹھ رہیں اور ہم ایک اور ابو بکر رضا یا عمر رضا کا  
امکان تسلیم کریں، تب بھی وہ اور ابو بکر رضا و عمر رضا نہیں ہوں گے جو پہنچے گز پر کے  
وہ جس سوسائٹی اور ماحدی کی پیداوار تھے، وہ ہی سرے سے اب مفقود ہے  
اور اگر اپنی سیرت و کتابیں راست رہیں، حضرت شریعت کی  
پاسداری، احکام شریعت پر عمل، لوگوں کے ساتھ عدل و مصاف اور ان کے  
معاون کا خیال، اعدائے اسلام کے ساتھ جماد اور دعوت اسلامی کی توسیع  
و نشر و افراحت اور تمام افراد و گروہوں کے ساتھ حسین سلوک اور در حقیقت و رحمت

ہے تو جس دن لوگ صحیح تاریخ نہ اور حقیقت حال سے ماقف ہوں گے یہ بات  
دراخچہ ہو جائے گی کریزید بھی ان بہت سے افراد سے کسی طرح لکھتے ہیں جو  
کے خالہ اور مقابل تعریف کا ناموں کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔

### تصویر کا مسخر شدہ رخ

اب ہم وہ روایات ذکرتے ہیں جنہیں مولانا مودودی صاحب نے یہ پسوند کھانے لیئے  
نقل کیا ہے کہ حضرت مغیرہ رضا بن شعبہ اور حضرت معاویہ رضہ نے یزید کی بیعت لے یہے  
کام وہ سیاسی ہنگامہ کے اور زنا جائز ذرا لمع و دسائیں ہے دریغ استعمال کئے جو آج کل کے  
خداع آشنا امکان اور خالص دینی دار قسم کے سیاستدانوں الحد حکمرانوں کا شیوه ہے،  
اس سلسلے میں پہلی بات یہ ذہنی نشینی ہے کہ یہ سب روایات مولانا نے ابن الاشیر کی تاریخ «الکامل»  
سے لی ہے جو بالکل بے سند ہے، ابن الاشیر ساتویں صدی پھری کے ادمی ہیں، ان کی بیان کو  
روایات کی جب تک سند معلوم نہ ہو، اس وقت تک وہ روایات مقابل اعتبار نہیں، بالخصوص  
اس صورت میں جب کہ ان سے صحابہ کرام کا کوئی بھائی گھٹاؤ ناظر کیا ہو اور قرآن و حدیث کی  
تحریکات سے بھی ان روایات کا مفہوم مستصلادم ہو، کسی مسلمان کیلئے یہ ذہنیں کو وہ مفہمن ایں  
ہے سروپار روایات پڑھنے کے بعد اللهم صحابہ کرام کے متعلق ایسا خطط ہقیدہ قائم کر لے،  
جس کی خیال ایسی داہی روایات ہوں، ہر زید برآئی یہ بھی خیال رہے کہ مولانا نے ترجیہ میں ان  
عبارتوں کو پھوڑ دیا ہے جو حقائق کے کیسر غلط پیش ہیں جن سے روایات کا وضعی ہونا بالکل نکالا  
ہو جاتا ہے، ایسے مقامات کی فشار دہی اور دیگر بعض مزدوری تیقیحات ہم حاشیہ میں کرتے  
جاہیں گے۔ مولانا لکھتے ہیں۔

وہ اس تجویز کی ابتداء حضرت مغیرہ رضا بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ  
نہیں کرنے کی گرد تھی سے معزمل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، انسیں اس کی خیر  
میں گئی۔ فرما کوفر سے دشمن پسخے اور یزید سے مل کر کہا کہ «صحابہ کے اکابر اور

قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ  
میر المؤمنین تمہارے لیے بیعت لے لیجئے میں آتی کیوں کہ ہے یہ یزید نے  
اس بات کا وکار پسے فال را جسم سے کیا، انہوں نے حضرت مسیح و رضا کو بولا کہ پوچھا  
بہ کیا بات ہے، تو تم نے یہ سمجھ کی، حضرت مسیح و رضا نے جواب دیا اور میر المؤمنین  
اپ دیکھ لے چکے ہیں کہ قتلِ عثمان رضا کے بعد کیسے کیجئے اختلافات اور عوام خرابی  
ہوئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ اپ یہ یزید کو اپنا نزدیکی ہی میں ولی عہد مقرر کر  
دیں ہا کہ اگر اپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف رپا نہ ہو، یہ حضرت معاویہؓ نے

لے اس سکے بعد ہے صرف ان کی لولاد باقی رکھتی ہے، جو میں سے اپ کے مقابلے کو کوئی شدید پیغام  
سلکتا، اپنے ان میں سب سنتہ نیا نہ افضل، سب سے بہتر راستہ رکھنے والے اور سیاست و سنت کے  
سب سے زیادہ، ماہر و معلم ہیں، لیکن بالکل صریح البهدان بات تھی اس سیاست مولانا نے حذف کر دیا  
اس وقت، پیسوں جیلیں العذر اکابر اصحاب احمد سیکڑوں دیجئے اصحاب رسول اور قریش کے بڑے لوگ زخم  
رکھنے، خود موت کا نتیجہ احتراط کیا ہے کہ یزید کے مقابلے میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ عزیز اللہ  
تو بکثرت صحابہ زخم رکھتے اور فرقہ اُسے تابیسی کا تو قریب قریب سارا اگر وہ ہی موجود تھا، اختلافات  
و ملوکیت میں ۲۸۳، جب چار پانچ سال بعده یہ بیفتت تھی تو اس سے کئی سال قبل تو یقیناً اس سے بھی  
زیادہ صحیح تر نہیں ہوں گے، حضرت مسیح و رضا بن شعبہ ایسی کچھی اور تکلیف پسند از بات  
یہ کہ سکتے ہیں۔

لے اس کے بعد صحابت ہے، یہ یزید نے پوچھا، کیا اس کام کا پلا ہونا ممکن ہے؟ مسیح و رضا نے  
کہا تھا، "حالا فکر پولی بات بھی ہونے کی صورت میں یزید کو استغایب کا اعلان نہیں کرنا چاہیئے تھا  
یزید کا استغایب پھر اس کے واقعی امکان کے تعلق استفسار کرنے کا صاف مطلب یہ مقابله کی اس  
وقت پیسوں جیلیں العذر اکابر اور قریش کے اکابر زندہ رکھنے میں کی طرف اس معاملے میں لوگوں  
کی نظریں امکن تھیں، اگر ایسا وہ جو تا تو استغایب کی بجائے یزید یہ لستا کہ تباہی بات معمول ہے،  
واقعی اس معاملے میں دی تباہی سے سوچنا چاہیئے۔ لئے یہ پھر بھی تاہیل خوب ہے کہ بیٹھنے کے سامنے

بوجھا اس کو پورا کر دیئے کی ذمہ داری کون لے گا؟" انہوں نے کہا  
 "اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بھرو کو زیادہ اس کے بعد پھر اور کوئی مخالفت  
 کرنے والا نہیں ہے،" یہ بات کر کے حضرت میرزا رضا کو فرمائے اور دس آٹھ ڈس آٹھ  
 کو تین ہزار روپیہ دے کر اس پاٹ پر راضی کیا کہ ایک وحدت کی صورت میں حضرت میرزا  
 کے پاس جائیں۔ بعد از یہ دلی عمدی کے یہاں سے کہیں بیرون میں حضرت میرزا

(حاشیہ نقیہ صفحہ) جو وجہ بیان کی، باپ نے سامنے اس سے مختلف وجہ بیان کی ا حالانکہ بیٹے کے نیکیے  
 باپ کو اس وجہ کا علم پہنچا ہے ہو جکا ہے مگر باپ کے سامنے اس کا انفصال سمجھنے نہیں آتا، پھر باپ نے  
 بھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کے سامنے اسے جو بیان کی اور میرے سامنے کچھ اور یہ کیا وجہ  
 ہے؟ حالانکہ اس طرز عمل سے ان کا عدم اخلاص، چاپ ٹوپی اور کام سے بھی کام ٹوپی کا پہلو یا انکل خایاں ہو جاتا ہے۔  
 لہدیہ بات حضرت میرزا رضا جیسا شخص اس طرح کہہ سکتا تھا؛ کہے احمد میثے (جاز) کام اعلاء کو فویض  
 سے بھی زیادہ اہم تھا، اس طرح اگر خود مختاری و معاہدت کی ہے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ کوفہ  
 اور بصرے کے بعد اور کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہوگا؟ پھر حضرت معاویہ رضا جیسے واقعہ  
 الدورا اور یش شعن بھی اس راستے پر ایمان لے آئے ہمزید تجھ کی بات ہے۔

ت کو فرمائے کے بعد حضرت میرزا رضا نے اپنے ہنسنیوں سے کہا، اولادیت کے اگلے الفاظ، ہوشلا  
 نے پھر ڈیٹھے یہیں، "میں نے معاویہ رضا کو اعلاء کوئی محیر نہیں کیا اسی سخت گمراہی میں پستلہ کر دیا ہے  
 اور ان کے درمیان تفریق کا ایسا یہیج بودیا ہے کہ جس کے بعد وہ آپس میں کبھی متحد نہ ہو سکیں گے  
 یہ کہ کبھر فخر اور خوشی کے لیک شرپڑھا، معاہدت کے اس حصے سے اس کا دفعہ ہونا بالکل  
 واضح ہو جاتا ہے، اس کو صحیح قسم کرنے کے بعد بات حضرت مذاقتی مقام تک نہیں رہ جاتی، اس  
 کے بعد حضرت میرزا رضا کو "بدترین متفق" ہمیں قسمی رُنما پڑتے گا۔ نہذ بالشد من ذکر۔

تھے علاس اکھی کوئی تھے؟ یہ معاہدت بھی معاہدت میں موجود ہے، جسے مولانا نے چھوڑ دیا ہے وہ  
 ..... حضرت میرزا رضا کے مدد ملیہ الدینیہ کی ولی عمدی کے سلسلے میں پڑھا ہے بولا تیر کے حافظ  
 تھے، اس میراث کا اس یہی مذلف کو دیا گیا ہے کہ جب ایسی معاہدت مخفی تھا تو کوئی ثبوت دیئے کامنہ  
 (ابقیہ حاشیہ نقیہ صفحہ)

کے بیٹے موسیٰ بن مخیرو رہ کی سرکاری میں دشمن گیا اور اس نے اپنا کام پورا کیا  
بعدیں حضرت معاویہ رضیؑ نے مولیٰ کو الگ بنا کر پورچا، تمہارے باپ نے اپنی لوگوں  
سے کہا ہے میں ان کا دین خریدا ہے؟ انہوں نے کہا۔ ۳۷۰-۳۷۱ میں حضرت معاویہ  
نے کہا، تب قوان کا دین ان کی نگاہ میں بست بلکا ہے۔  
پھر حضرت معاویہ رضیؑ نے بصرے کے گورنر زیاد کو لکھا اور اس معاملہ میں تمہاری

(حاشیہ تیر صفحہ) سمجھیں شیں آسکتا تھا، دین و ایمان تو غالباً کا تحریک جاتا ہے لہ کہ اپنوں کا دین تو اپنے ہی  
ہوتے ہیں، الکریم نے کی حوصلہ نہیں بھتی۔

۳۸۰ اس روایت کے حوالے کے لیے محدثانے ابین المأثیر کے ساقطہ «البدایۃ» کا حوالہ بھائی ہے  
جو امورِ عذر ہند تھے، ابین المأثیر بعد تلقین کشیر کے لب و بجهے اور مخصوص میں زمین آسمان کا فرق ہے جو کشیر  
کی سعادیت اس طرح ہے۔

حضرت مخیرو رضیؑ نے شعبہ نے قصہ دکبر سنی کی بنابر الہت کرد سے استغفار دے دیا،  
حضرت معاویہ رضیؑ نے محتظر گریلی اللہ ان کی جگہ سعید بن العاصی کی تقریں کا ارادہ کیا اور مخیرو  
کو اس کا حلہ ہوا تو انہیں اپنے خلیل پیر نے اس سے ہٹلی، وہ زید کے پاس آئے اور اس کو اس  
بات کا مشورہ دیا کہ وہ اپنے والدہ ماجدہ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ تمیں ملی حدود ازدگر  
دین، زید نے اسی کیا، حضرت معاویہ رضیؑ نے زید سے پورچا اور تمیں اس بات کا مشورہ  
کیا نہ دیا ہے، زید نے کامیرو رضیؑ نے «معاویہ رضیؑ کویر رائے پسند آئی اور مخیرو رضیؑ  
کو امارت کو فرپورا پس لوٹا دیا اور اس سلطنت میں ہاتھ بٹانے کا ان کو حکم دیا حضرت مخیرو رضیؑ  
نے اس سلطنت میں اپنی سی کوشش کی،

ماقا ابین کشیر نے اس روایت ابین بجزیری سے نقل کی ہے جس کی انہوں نے صاف و مباحثت کو دی ہے  
فہرست ۴۵، ص ۳۷۰-۳۷۱، پریزو روایت موجود ہے اس سعادیت اور اس روایت میں بحصہ مولانا نے نقل کیا ہے  
وہ تعلیل فرق ہے، اسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، مولانا پر تعجب ہے کہ انہوں نے سعادیت نو نقل کی ہے ابین کشیر  
کو بھی اس کے ساقطہ خواہ «البدایۃ» کا حوالہ بھی نہ سے ڈالا ہے۔ ۳۸۱ اگلی مباحثت میں اس فد کے بعد  
(تیر صفحہ)

کیا رہئے ہے، اس نے جیب دین کعب الغیری کو بولا کہا امیر المؤمنین نے مجھ سے  
محال میں لکھا ہے اور میرے نزدیک یہ یہ میں یہ کرو دیا ہے یہ مذکور ہے کہ اس کے  
پاس جا کر کوئی آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں، جیب دین کہا آپ حضرت معاویہ  
کی رائے خواب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں جا کر یہ یہ سے کہتے ہوں کہ امیر المؤمنین  
نے اس معاملے میں امیر زیاد کا مشورہ حلب کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ  
اس تجویز کی مخالفت کریں گے لیکن تمہارے بعض طور پر یقیناً لوگوں کو ناپسند ہیں  
اس یہے امیر زیاد تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کر لوتا کر ریاست  
ٹیک دین گے اس نے اس رائے کو پسند کیا اور جیب دین کے مشترک جگہ ایک  
حلفہ نید کو اصلاح کا طواریاً مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ سے  
لما کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں، مذکور ہے کہ بیان ہے کہ اس کے بعد یہ یہ  
نے اپنے بھڑک سے اعمال کی اصلاح کر لی جتنا بن احترا من سمجھا، مگر اس نے یہ داد  
سخود پاتیں بالکل واضح ہیں ایک یہ کہ یہ یہ کی عملی عمدہ کے پیش ابتدائی تحریک

(حاشیہ نقیہ صفر) حضرت معاویہؓ کا یہ کی یہ کی سیاست یعنی کامادہ پختہ ہو گی، حالانکہ اس وفادیٰ تجھیہ خود حضرت معاویہؓ  
کی تخلیقی و پچھتی دردعاویت کے مقابلہ سے واضح ہے، اس کے پیش نظر کوئی شخص یہ ہادر کر سکتا ہے کہ اس تو یہ خواہ  
وسیکنی دھل کے کہنے سے ہی حضرت معاویہؓ نے اپنا کامادہ پختہ کر دیا ہو گا؛ ایسے لوگوں کی رائے کی اہمیت ہو گی ہوئی؟  
ملہ عایا میں اس کو یہیں کی نشاندہی صاف غور پر کوئی گئی ہے۔ یہ یہ صاحب رسالت دنیا کی مقدار لوح بری اسیہ  
یہ یہ سست اور شکار کا شرط ہی ہے۔ ”حالانکہ قساں اور شکار کا شرط یہ یہی کرو دیا ہے“ نہیں جو تعلیف یہ نہیں  
ہے مانی ہوں، غالباً اسی یہے سودتا نے اصل عمارت کا ترجیح دیئے کی جائے اس کا مفہوم ”یہ یہ کوہی یہیں“  
بیان کر کے ہات کو بھم کو یا ہے تاکہ ”کرو یہیوں“ کے خلاف سے نثاریں کاٹ دیجیں خود بخود اس طرف منتقل ہو جائے  
جو یہاں لوگوں نے پہلے یہ یہ کے مقابلے میں مشورہ کر رکھا ہے۔

ملہ عہدت سے مقابلہ احترا من اعمال کا کہا ہے تھا، عایا میں ہیں جن اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے وہ کلیے  
کہیں احترا من نہ تھے کہ جو کی اصلاح کئے بغیر ملی عمدہ کی کوئی صفت پری نہ ہوتی۔

کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مقاد کے لیے دوسرا بزرگ کے ذاتی مقاد سے اپنی کارکے اس تجویز کو بنم دیا اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کمزیرید بھائی خود اس مرتبہ کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ رضہ کا بیٹا ہوتے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہؓ کے بعد امت کی سرو راہی کے لیے وہ موندوں نزین آدمی ہے۔

لے یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ ان دونوں بزرگ صاحبوں کے متعلق یہ باہد کرایا جائے کہ انہوں نے صحن اپنے ذاتی مقادات کی خاطر امت محمدیہ کو ہلکت کی راہ پر ڈال دیا، جس روایت کی بنیاد پر وہ تانے ان حضرات پر اتنا گھناؤنا اداوم ہائی کیا ہے وہ سر سے من گھرست ہے، اور جس طرح کہم پختہ و معاشرت کرائے ہیں، اس روایت کو اگر درست تسلیم کرایا جائے تو بات صرف «ذاتی مقاد» تک نہیں رہتی بلکہ ان میں سے ایک بزرگ صاحبی حضرت مفہومہ بن شعبہ کو مدبرین مخالف ہے جبکہ تسلیم کرنے پر ہے کہ، اگر اس تجویز کی ابتدار ذاتی حضرت مفہومہ رضہ کی طرف سے ہوئی ہے تو یہیں یہ یقین رکھنا چاہیئے کہ وہ دل کی گمراہی سے اسی میں امت محمدیہ کی جلدی سمجھتے ہوں گے، تجویز پیش کرتے وقت وہ اپنی عمر طبعی کو پہنچ پکھے تھے، اس عمر میں ان سے یہ ایڈ کی ہی نہیں جا سکتی کہ صحن چند روزہ ذاتی مقاد، کی خاطر ایسا کام کیا ہو جس میں وہ امت محمدیہ کی تباہی کا سامان ضرر دیکھتے ہوں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضہ پر «ذاتی مقاد» کا اداوم جیسی بے بنیاد ہے، علامہ ابن خلدون کی سہارت اس سلسلے میں گزر چکی ہے جس کی رو سے ہیں ان کے ساتھ حسن علم رکنا چاہیئے ارادوں لئے وہ خیر القدر کے، صاحبہ رسول و جیلیں القدر تا بیعنی کی خاموشی و بیرونی کا جو کریمہ نقشبندیش کیا ہے وہ تعلماً ناقابل یقین ہے، اسے ایک لمحے کے لیے بھی صحیح تصور نہیں کیا جاسکتا ازید رآں حافظہ این کثیرتے ایک اور روایت ذکر کی ہے جس سے دفاع حلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضہ کا کمزیرید کو ولی عهد بنانے میں کوئی «ذاتی مقاد» بر محتوا انہوں نے اقسام صحن اسکی

زیادتی دفاتر (سٹھن) کے بعد حضرت معاویہ رضا نے زید کو ولی عهد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور بیان اثر لوگوں کی راستے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی تھیں اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عفر رضا کو ایک لاکھ درہم پیش کیے اور زینہ کی بیعت کے لیے رامنی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا "اچھا یہ روپیہ اس مقصد کیلئے بسیجا گیا ہے۔ پھر تو میرا دین میرے لیے ہے ڈاہی ستا ہو گیا" یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔

(حاشیہ تقبیح صغر) اہمیت اور امت محمدیہ کی جعلی کی پیش نظر کیا تھا، حضرت معاویہ رضا نے زید کی نادرت کے بعد مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہا۔

"اے اللہ! تو سب کچھ چاتا ہے، اگر میں نے اس کو اس بنا پر علی عمد بنایا ہے کیر فی الواقع اس کا اہل ہے تو تو اس کام کو پائیں تکیں تک پہنچا دے، اور اگر میرے اس قدم میں بیٹھے کی محبت لا جذبہ کا ذرا ہے تو تو اپنی مدد کا باقاعدہ اس کام سے کچھ لے اس کو پورا نہ ہونے دے" (البداۃ تج ۸، ص ۸۰)

ایک دسری روایت میں بابیں الفاظ خذیرہ دعا مستقول ہے۔

"اے اللہ! اگر میں نے زید کو اسی غصیلت کی پیش نظر علی عمد نامزد کیا ہے تو اسے اس مقام تک پہنچا دے جس کی میں نے اسید کی ہے اور اس کی مدد قرطہ اور اگر مجھے اس کرنے پر اس محبت نے اچھا رہے جو بابا کو بیٹھے سے ہوتی ہے تو قبل اس کے کردہ خلیفہ بنے اس سے دنیا سے اٹھا لے" تاریخ الاسلام للذهبی، تج ۱۲، ص ۲۶۶۔

تھے (تقبیح) یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ خلافت کے لیے مزدور ممندوں ترین "آدمی ہی ہو، الگی الواقع ایسا ہے تو بھر مزدہ ہے یلیکی یہ فرض نہیں کر خلیفہ اپنے وقت کا مزدہ ہی "ممندوں ترین" آدمی ہو، حالات و دعاقات کے پیش نظر موزوں" ہوتا بھی کافی ہے، حضرت علی رضا کے بعد حضرت حسن رضا خلیفہ بنت عائیہ خلفت کے لیے "موزدی" ہے..... ان کی خلافت کے لیے اخلاف نہیں کی، الا انکا اس کے مقابلے میں اسد کی سوراہی کے اس وقت بستے ہو، ممنعنل ترین، آدمی اور جو صفتے، لیکن

(بیان حاضر لکھنے صفحہ)

پھر حضرت محدث رضا نے عینے کے گورنر و روان بن الحکم کو لکھا کہ اب میں بتوحہ  
کو گلہ تھا، پھر تھا ہوں لکھ کر اپنی زندگی ہی میں کسی کو جانشیں مقرر کروں و لوگوں سے  
پوچھ کر جانشیں مقرر کرنے کے معاملہ میں وہ کیا لکھتے ہیں روان نے اپنے ہدایت کے  
ساتھ یہ بات پوچھی، لوگوں نے کہا ایسا کرنا میں مناسب ہے اس کے

(حاشیہ تعلیم صفر) کو شخص نے بھی «مقدونیوں تین» کا مشکل نہیں کھڑا کیا اور کاموں میں ہوتا ہی بلکہ  
کہا گیا، زید کی «مرزوکت» سے کوئی ہٹک جائیں شخص ہی انکار کر سکتا ہے، بلکہ انکی تعلیم کو وہ ذات  
کے اہمی کو جو کہ مسلم مسلمانوں میں ہے اس کی «نامنفعی»، خدا ہمیں ہو سکتی، جس طریقہ حکم حضرت کو انسانیں  
زید پری درخواست کے یہ مقدونیوں تھا اسکی نہایت حریم مصلح صدایات بھی ہیں جو مولانا نے ان پر بخوبی حضرات  
کے تعلق آگئے قصی کی میں چنہوں نے یہ سولی عسی سے انکار کیا تھا، انھوں نے کہیں اشارہ بھی نہیں کیا کہ زید اس  
کام کی کیا ہوئی دہی ہے، جس طریقہ کہ آگے اپ کو حکوم ہو گا۔

بعد بھیری کو دشترتیہ ریاست بھی ایضاً المنشیر کی ہے، بولا اس نے اس مقام پر بھی ابن عاصی کو ساختہ «البدیریہ» کا  
حوالہ دے دیا ہے جو بالکل غلط ہے، عبدالرشید بن عفرہ کو ایک لاکھ دریم رثوت کی ریاست «مہریہ» میں کیا  
بھی ہیں ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی کے سمعن حزروں میں ایسا دعویٰ ہے اسی سند حکوم کو  
جانا ہے کہ پیغمبرؐ کے لوگوں نے اپنی طرف سے مکر ری تھا، جس کی کامیابی مکروہ دیا، کوئی عبد الشہبن عفرہ  
کا ہام نہیں ہے، اکنہ حضرت ابو بکرؓ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمنؓ کا، حالانکہ یہاں یہ سند حضرات  
عنه کوئی شخص ان کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں ملتا مقاکران کو رثوت دستکاران کے دین دیا جان کا سودا  
ریا جا سکتا ہے، پھر جائیکہ کوئی شخص ایسی ہجرات کر کے ان کو رثوت بھی بسیدے پھر اسی ذلیل و رائق کا انتکاب  
بھی عرضت، ملکیت ریاست جیسا جیل مقرر مجملی ریاست کا تدبیحی کرے؟

نہ اس مقام پر بدقوریے اس انداز سے پھوڑ دیتے گئے ہیں جو صورت کا دیانت اسلامی کے منابع ہے، اصل  
عبارت اس طریقہ ہے تھیں اپنے بڑے صاحب اگر ہوں اور ہمارے بدوام است۔ کہ افسوس نے دستا ہوں جو علماء ہوں  
کہ اپنے اذندگی میں کسی کو جانشی مقرر کر دیں، جسے یہ امر ناپسند ہے کہ اہل حدایت کے شہداء کے بخوبی فوجی ہی  
یعنی کوئی قلمی قدر کر دیں، لوگوں کو سمجھو کر جانشی مقرر کرنے کے حوالوں میں تھا، (اقتباس شاہزادی الحجۃ صفر)

پس حضرت معاویہ رضے نے مردان کو پھر رکھا کہ میں نے جانشین کے لیے یزید کو منتخب کیا ہے اور وہ ان نے پھر یہ محاکمہ اہل ہدایت کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبی کی قفر بر کرنے پر ہوشیار امیر المؤمنین نے تماد سے لیے منابع آدمیوں کا سرش کرنے میں کوئی کھرا اضافہ نہیں رکھی ہے لہذا پسے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین جلیا ہے اور بہت اچھی راستے سے جو ارشاد فرمائیں کہ سب اگلے لارڈ اس کو جانشین مقرر کر دیجے ہے یہ تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابو بکر رضے و خود نے بھی جانشین مقرر کئے تھے اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اسٹھنے مدد انہوں نے کہا، "جو شبلہ سے بڑھے تو اسے مدد حضرت کما معاویہ رضے، تم فخر ہو گا، امّت محمدی میں بھسلق نہیں ہو چکی، تم اس تقدیرتی بنانا چاہتے ہو کہ جیسا کہ قیصر مرتقاً اس کی جگہ اس کا پھٹا آگیا ہے" سنت ابو بکر دیگر نہیں ہے، انہوں نے اپنی اللاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا، مردانی نے کہا، پکڑو اس شخص کو دیسی ہے وہ جس کے متعلق قرآن میں اللذ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ والذی قان نوالدیه را تسلکما ۰ ۰ ۰ (الاحقاف/۱۱) حضرت عبد الرحمن نے بھاگ کر حضرت عائشہ رضے کے گھر سے میں پناہ لی۔

(۲) شیعیہ صغری یہ خط کشیدہ دو فقرے مبارکہ مدارت کے درمیان سے اس لیے حذف کردیتے ہیں کہ ان سعد و اشیع معلوم ہوتی ہیں ایک حضرت معلویہ نہ کا غلومن دوسرے خوام کی راستے احمد شریہ کی حضرت معاویہ رضے کے تزویک اہمیت، احمد بن نایر تاریخی پاہتے ہیں کہ اس مطابق میں حضرت معاویہ رضے شخص نہ تھے بلکہ یہ رب کچھ انہوں نے پاہتے ہے ذاتی معادہ کی خاطر کیا تھا، اور زندگی میں خوام کے شور سے سے یہ کام کیا ہے بلکہ خوف، دھاندلی لحدیں دایمان کی تربیہ و فروخت کے ذریعہ یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن مبارکت کے دو فقرے سے ہو حذف کردیتے گئے پونکہ مولا تا کے قائم کر دو تصوری نقی کرتے ہیں اس لیے ایسی سیروبانست، کام مقاہرہ کیا گیا ہے۔

لہ خدا کشیدہ پہنچی مبارکت این الاشیع میں نہیں ہے، ابتداء میں مجرم نے فتح البندی میں یہ الفاظ انقل کئے ہیں۔

لہ یہ خط کشیدہ فتو و میں الجمال اشریف نہیں ہے، فتح البندی صحیح ہے۔

حضرت مائستر نہ چیخ اٹھیں کہ "جھوٹ کہ مروان نے، ہمارے خاندان کے کسی فرد کے معاملہ میں یہ آئیت نہیں آئی ہے بلکہ ایک اور شخص کے معاملہ میں آئی ہے جس کا نام میں پا ہوں تو بتاسکتی ہوں، البتہ مروان کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفعت کی تھی جب کہ مروان اسی اسی اس کی صلب میں تھا، اس مجلس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی طرح حضرت حسین بن علی رض، حضرت عبد اللہ بن عمر رض اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رض نے بھی یزید کی ولی محدثی مانتے ہے انکار کر دیا۔"

مدد اس روایت کے موادر کے لیے مولا نے ابن الصیر کے ساتھ "البدایۃ" "الاصطحاب" اور "فتح الباری" کا حوالہ بھی دیا ہے نیز کہا ہے کہ اس واقعہ کا مفترض کہ بخاری میں بھی ہے اور یہ تقریباً تغیریں اس کی بحق تضیییوت کو نقش کیا ہے، حالانکہ جو یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے تو اضافہ کا تعاظم ایسا ہے تاکہ صحیح بخاری میں جس احادیث سے روایت تھی اسی کو مدار استدلالی بتایا جاتا، کتب تواریخ کی روایات اس کے مقابلاً میں کیا جیشیت رکھتی ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت میں جو باتیں ہیں وہ صحیح ہیں باقی اس پر مبنی بھی اضافیں گیا ہے وہ یکسر من گھروڑت ہے، بخاری کی روایت درج ذیل ہے۔

مروان نے اپنی تقریر میں اس مستملکاً ذکر کیا کہ یہ میزید کی مدد اس کے باپ کے بعد بیعت لے لی جائے اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رض نے کچھ باتیں کہیں، مروان نے کہا، اس کو پکڑا تو وہ حضرت مائستر رض کے چورے میں داخل ہو گئے، مروان کھنکنگی یعنی وہ شخص میں جو کہ بارے میں اللہ نے یہ آئیت آنندی ہے اور لفظی قال لَوْلَا هُوَ يَأْتِي إِذْنَ اللَّهِ لَمَّا... حضرت مائستر رض کے پہلو کی کبوٹ میں گلہ اشد تعالیٰ نے قرآن میں چار بارے میں یہ مونہ کہ خدا کے اور کہ اپنی چیز نازل نہیں کی۔

(جیسا کہ تصریح ہے)

خطب شخص میزید بن معاذ علیہ السلام بعد ایسے فقال له عبد الرحمن بن ابی بکر شیخناقل خذوا فدخل بیت عائشة فلم يقدرها فقل لها مروان ان حذى النبی انزل الله فيه والذی قد لر لدیه اف نکما...، فقالت عائشة من درہا الحجاب ما انزل الله فیتاشیتا من المقربات الا ان الله انزل عذمای۔

صیہ بن حنبل ۷۰۰ میں، امام الحنبل خدا کے اور کہ اپنی چیز نازل نہیں کی۔

اسی زمانہ میں حضرت معاویہ رضے نے مختلف علاقوں سے وقوف بھی طلب کئے اور  
یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا جواب میں لوگ خوشحالانہ تقریبیں کرتے رہے، مگر  
حضرت اُحْمَدْ بن قیس خاموش رہے۔ حضرت معاویہ رضے نے کہا "ابو بحر انہیں  
کہتے ہو؟" انہوں نے کہا "ہم پچ کمیں تو آپ کا ذرہ ہے، جھوٹ بولیں تو خدا کا  
ذرہ۔ امیر المؤمنین، آپ یزید کے شب و روز شلوٹ و جلوٹ، اندرونیت، اہر پیز  
کو خوبی جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اشہاد کر دیں اس امت کے لیے واقعی پستیوڑہ  
جاننتے ہیں تو اس بارے میں کسی سے مشورہ نہ یجھئے۔ اور اگر آپ کے علم میں  
وہ اس سے مختلف ہے تو آخوت کو جانتے ہوئے دنیا اس کے حوالے کر کر نہ  
جا سکتے، اور ہے ہم تو ہمارا کام تو سی یہ ہے کہ جو حکم ہے اس پر سمعنا و الحدانا کر دیں۔"

(بیقیہ حاشیہ صغری) حافظ ابن حثیر نے بھی البدایۃ میں قریب قریب یہ روایت ذکر کی ہے المبنیہ "ہر قلیت و  
کسر قلیت" کا انسان فخر کر دیا ہے اور "خُنْدُودہ" کی جگہ "احْمَدْ بن قیس" کے لفاظ میں، اس کے  
مدد و مظاہریت میں بواضناف کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضے نے مروان اور اس کے باپ کے متصلی ایسی حدیث  
بیان کی جس میں دونوں کی خدمت اور ان پر محنت کی گئی ہے، اس کو صاف طور پر غیر صحیح بتالیا ہے، اور  
بعض حثیہ، (البدایۃ ج ۲ ص ۸۶) الاستیحاب میں صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کہا دیکیا یہ ہر قلیت اختیار  
کرنے لگے ہو کہ جب ایک کسر نہ ہر جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا کسری اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے، بخدا ہم  
ایسا نہیں ہونے دیں گے" (الاستیحاب ج ۲ ص ۸۶)

لے مختلف علاقوں سے جو وحد آئے، انہوں نے اگر اپنی اپنی رائے اس سلسلے میں پیش کی اور موافق و مخالف دو ٹوپی  
طرح کی تقریبیں ہوئیں، موافقاً و تقریباً کو مولانا نے "خوشحالانہ تقریبیں" سے تبریر کے بھی خاطر تاثر  
وینا چاہا ہے اور ان کو تعلیم کرنے سے بھی اجتناب کیا ہے، البتہ اُحْمَدْ بن قیس کی وہ تقریبیں کوئی ہے جو  
مولانا کے زخمیں مخالفت و حق گوئی کا مطلب ہے، حالانکہ خور سے دیکھا جائے تو اس کو بھی دخال الفائز اور سکتے  
ہیں نہ اُحْمَدْ بن قیس کی حق گوئی۔ تقریب کی ابتداء اور انتہا میں جو تعداد ہے وہ قابل خود ہے، پچ کمیں تو  
آپ کا ذرہ، جھوٹ بولیں تو خدا کا ذرہ، اولاً یہ خطرہ بھی محل نظر ہے اگر فی الواقع حضرت معاویہ رضے کا  
(بیقیہ حاشیہ الحسن صغری)

عراں، شام اور دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت معاجمہ بن خوجہ جا  
تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں کا محاصلہ سب سے اہم تھا اور دنیا شے اسلام کی دن بالآخر  
شخصیتیں جن سے مزاحمت کا اندریشہ تھا وہیں رہتی تھیں، مدینہ کے باہر حضرت  
سینی رضا، حضرت ابن زبیر رضا، حضرت ابن عمر رضا اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضا

وہ اپنی قبیلہ صفو، ذرہ تباہ و ان کے درود وہ اس طرح بات کہر ہی نہیں سکتے تھے، انتہامی فقرہ، وہ ہے ہم  
تو ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ جو علم سے اس پر سمعنا و اطھار کہر دیں، یہ بھی کم تی خطا بات ہے، اگر جو شوہر نے  
میں خدا کا فدہ ہے تو خلیفہ وقت جس وقت خدا کام کی دعوت دے ہے، اس کو قبول کتا چہ نہ کو ف نہ دا کے مطابق  
ہے یا اتنی بھتی گئی دخداخوں کا تفاضا تو یہ ہے کہ آدمی باطل سے لا جائے کہ دیجی کہ اس کے سلسلہ ستر  
اٹا حصہ تم کرو سے، پھر یہ بھی ایک غوابات ہے اگر آپ اس کو اٹھا اور اس بحث کے بعد معاشری  
پسندیدہ جانشی ہیں تو اس بارے میں کسی سے شوہر نہ پہنچے، ایک بھروسہ اور آدمی کبھی اس اتنی لذت کی بات  
نہیں کر سکتا کیا حضرت مثیل رضا کی سیاست شوہر نہیں کیا گیا متناہی لذت، اشہد بوسٹہ مخدوم کے نزدیک  
پسندیدہ تھے اس فقرے کا مطلب تو یہ لذت ہے کہ مشورہ حرف ایں لگوں کے تعلق یہ ہے جا پہنچے  
جو اللہ کی نظر وہ میں بھی بخوبی ہوں اور حام میں بھی ناپسندیدہ، دوسرے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں  
کے تعلق سیشوہر یعنی کے بعد ان کی ناپسندیدگی، پسندیدگی و تبدیلی ہوئی گئی، غرض یہ کہ بعد کے رادیوں نے  
ان بزرگوں کی طرف اپنے طور پر گھر گھر کے ایسی ایسی باتیں سرب کر دی ہیں کہ حقیقی میں اس کو صحیح تسلیم نہیں کر  
سکتی اور یہ کہ ان بزرگوں کو ہی حقیقی و فرم سے ماری کجھ لیا جائے تو حاشا ہم جیسی ذلک۔

دنیا نے اسلام کی وجہ باز شخصیتیں، صرف چار تینی ہیں، کہ آگئے نہ ذکر کیا گی ہے، اگر یا سینکڑوں میں اسکے بعد  
رسول میں سے صرف یہ پڑھیں کہ رسول اللہ سلسلہ اللہ میر و کم کی وفات کے وقت ۵۷ ہجری میں کے پیچے تھے، تیرستے  
میں ہوتا ہے یعنی وہ رسول اللہ سلسلہ اللہ میر و کم کی وفات کے وقت ۵۷ ہجری میں کے پیچے تھے، تیرستے  
صلح حربی کے موقع پر سلان ہوئے تھے یعنی وہ بھی سابقین میں سے تھے، مزاحمت اور لغافت کا اتنی  
ستھان تھا تو صرف ان ہی حضرات سے اس کے مددوہ سابقین اور میں میں سے جو یہیں جیلیں اقتدار میں باشکھلے  
اور سینکڑوں دوسرے صاحبہ کرام تھے، ان سے کوئی اندریشہ نہ تھا کیونکہ انہیں حق و باطل کو تو نیز ہی نہ تھا

ان سے شے، حضرت مصطفیٰ رضيٰ نے ان سے ایسا درشت بڑا کیا کہ شہر چوڑا  
نہ پھٹکے اس طرح مین سا طالب آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے لئے کارچ کیا اور انہوں

دعا فیہ مسٹر ڈنستہ پر جو قلمی و جہاں فردشی کے جذبے سے ہی ہے ماری تھے، صاحبِ کرام کے کاردار کا یہ خود  
نقش ہے، پس ان روایات کے ذمہ بیسے صحیح بادھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔  
لہ دہ درشت بڑا کی اخبار و ایت میں اس کی تفصیل موجود ہے، غالباً اس کو بھی یہاں اس لیے مل کر  
دیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کی صحت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔

دعا فیہ کے تریب ان کو سب سے پہلے حسین رضا ملے، معاویہ بن نمان کو دیکھ کر کہا،  
متینا رملان فرحت و انبساط کا باعث نہیں، لامر جباد لاہلہ، یہ ایسی اوثقی ہے جس ناموں  
اپنے پڑھا ہو، بخاطر اس کو بدلنے والا ہوں یہ حسین رضا کھٹکے چھوڑ دیتے ہیں ابھی  
باتوں کا رلا دار نہیں، معاویہ بن نمان کیوں نہیں، تم قواس سے بھی پڑ کے اہل ہو،  
ان کے بعد معاویہ بن زیر رضا ملے، معاویہ بن نمان کا مہربا دلا اہل، یہ ایسی سہی ہے  
جیسے گوہ، ایکسے جب نور کی قسم ہے، کسی نشیبی نہیں میں پل رہی ہو، سر پیچے جلا کے  
اور دم چوتے ہوئے، خدا، عنقریب اس کی دم پلی اور پشت توڑ دی جائے گی،  
پھر معاویہ بن زیر کو عید الرحمن نین اپی مکر رضا ملے، معاویہ بن نمان کو دیکھ کر کہا، لا اہل طلاق  
مر جباد، یوڑھا جو سیاگیا ہے، عقول کام نہیں کرتی، پھر اب ان مکر رضا ملے ان کے ساتھ  
بھی انہوں نے ایسا ہی بنتا دیکیا، اسی حالت میں یہ چند عین حضرات معاویہ بن نمان کے ساتھ  
دعا فیہ میں داخل ہوئے، معاویہ بن نمان کی طرف مڑا کبھی خیں دیکھتے تھے، یہ چاروں حضرات  
دعا فیہ معاویہ بن زیر کی جائیداد کی شیر چکے، لیکن ان کو اذن بلدا لی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر یہ  
حضرات معاویہ بن زیر کا تک پھٹکے گئے اور سہیں ان کا استھانہ یہ ہو گئے (الکامل تج ۲ ص ۸۷)

یہ عقولہ درشت پر جاؤ دو، و معاویہ بن نمان کے خون پر جاؤ دو، یہ معاویہ بن نمان کے خاتمۃ تھی،  
اگر کسی عقل اسے تکمیل کرنے ہے تو کہے ہم فتح سمجھیں کہ مکار کے ملکہ راجہ سبل کی الی ہر ناقہ نہ مدد  
حضرت معاویہ بن زیر کی جائیداد کی شیر ہی نجات کے اور دنماوشی سے بیرون چوڑا کر لئے جا بیٹھتے اور نیکے سامنے  
(تقریب حافیہ الحدیف)

چاروں اصحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے، اس مرتبہ ان کا برتاؤ اس کے بر مکن مقام جو مدینے کے باہر ان سے کیا، ان پر بڑی محربانیں لگیں، اپنی اپنے ساتھ یہ بہرئے شہر میں داخل ہوتے پھر تجھے میں بلا کر انہیں یہید کی بیحص پر

”بقیہ ما شیر صفر گزشت“ اکی بندہ با اثر شخصیتیں ”ہم اور معاویہ رضا ان کے ساتھ ایسا محسن سوگ، کریں اور پرستو  
صلیبیدہ کی ایسی و مکتوں“ سے فضائی ذرا بھی انتباش پیدا نہ ہو یہ تا ملکہ ہے، اب دو ہی مورثی یہیں یا تو یہ صفحہ  
ہنا فسحہ یا پھر ان چاروں حضرات کی دعیتیت نہیں حتیٰ جوان کے متعلق مولانا بالور کرانا چاہا ہے یہیں بلکہ یونہ کھانا  
چاہیے یا کسی سے سے کوئی حیثیت ہی نہ تھی، الگی الواقع و وہ بنائے اسلام کی الگ شخصیتیں ہمیں قواعد نو تھے  
صلویہ رہ کر یہ جرائمہ ہی نہ بوقتی کرنا ان کے ساتھ ایسا ذلیل برتاؤ کریں اور اگر وہ ایسی جبارت کر جی سچتے تو دینے کا  
سماں مسامن نہ ہو تا جہاں یہیز کو سنبھالنا حضرت معاویہؓ کے لیے اور مشکل ہو جانا۔

لے یہ بھی خط ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ”یہ حضرات از خود حضرت معاویہ رضا کو شہر سے باہر بیٹھنے میں جلوکھے  
یعنی عیان کر“ معاویہ رضا ان چاروں اصحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے، اس یہاں کی تحریت پر نہ  
ہے کوئی تعریف دینے سے روایت کا من گھر نہ ہونا واضح ہو جاتا ہے، جعلیں حضرات کے ساتھ ایسا ذلین  
برتاؤ کی گی ہو وہ دوبارہ ملکے کی خواہش کر سکتے ہیں، روایت گھر نے غالون کو تو اس تھنوں کا اساس میں ہوا  
ہوتا ہو تو ان کا احساس ہو گیا اس بیانے انہوں نے ترجیمیں روایت کے ذکر پک دست کر سننکی یہ کوشش  
کی ہے۔

”وہ مربیانیں“ کی قضیں بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔

وہ سب سے پہلے اُنکہ حضرت حسین رضے، ان کو دیکھ کر معاویہ رضا نے کہا خوش آمدیدا  
ز بولتا ہے اسلام کے سردار اور رسول اللہ کے فرزند احمد نہ پھر حضرت معاویہ رضا نے ان  
کے لیے سواری ہوئی اور اس پر انیں بھاکران کو اپنے ساتھ لے کر پہنچا، اسی طرح حضرت  
حضرات اُنکے لیے اس کے ساتھ بھی وہ اسی طرح پیش آئے، ان سب کو اپنے ساتھ  
کر کے میں داخل ہوتے، ہر ہزار ایک نیا عظیمہ حضرات کی خدمت میں پہنچ کی جاتی تھے  
اس کو قبول کر لیتے، جبکہ اس طرح کئی دلے گز نہ گئے اور معاویہ رضا کی واسی نے کے دل بھی

نافری کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی نے جواب میں کہا "آپ تین کاموں میں سے ایک کام کیجئے۔ یا تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کمی کو باشیں وہ بخانی ہے، لوگ خود اسی طرح کمی کو پتا نہیں کیا جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر رضی کو بجا یا بتھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے، یہ حضرت ابو بکر رضی نے کیا کہ اپنی ہاشمی کے لیے حضرت عمر رضی جیسے شخص کو مقرر کیا جن سے ان کا کٹی دود پر سے کار شہ سمجھی دھننا یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو حضرت عمر رضی نے کیا کہ پھر آدمیوں کی شوہری تجویز کی اور اس میں ان کی اولاد میں سے کوئی شامل نہ تھا" حضرت معاویہ رضی نے باقی حضرت سچو چھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ "انہوں نے امام بھی وہی کہتے ہیں جو اب زبیر رضی نے کہا ہے، اس پر حضرت معاویہ رضی نے کہا اب تک میں تم لوگوں سے دنگڑ کتا رہا ہوں۔ اب میں نہایت قسم کھا کر کھتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بادشاہی کے جواب میں ایک لفڑی میں کھاتوں وہ صری بات اس کی تھاں سے نکلنے کی فرمودائے گی، تو وہ اس کے سر پر پٹھے پڑھی ہوئی ہے پھر اپنے والی کارڈ کے افر کو بجا کر تکھیا

(ابن حاشیہ صفر گذشتہ) قریب آئئے تو ان حضرات کو چاہکے اس ساس ہوا کہ میں ہم سے دھکہ نہ لیا جائے ہو ان میں سے یہک نے دوسرا سے کو اس طرف متوجہ کی اور کہا "یہ نوار اشہبیں بے وجہ نہیں، زہس کا سبب تمہاری محبت ہے، وہ سب کچھ مقصد برآ رہی کی خاطر کیجا رہا ہے" یعنی ان حضرات کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ مدینہ میں ہمارے ساتھ کیا کچھ کی گیا ہے۔ مذکور معاویہ رضی کے خوش آمدید کھنے سے ہی سب کچھ بھول گئے، پھر اخوند قلت تک مطیعات قبول کرتے رہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ کام کرنے کی خاطر ہی کیا جا رہا ہے۔ باشکل آخر میں ہما کہ ایک دم اساس ہوتا ہے پھر ایک اور پہلو یہ قابل غور ہے کہ مدینہ میں ان سب حضرات کے پاس سو ایساں عتیقیں، الیکوں کھیں جب آکرے تو ان میں سے کسی کے پاس سواری نہ تھی! حضرت معاویہ رضی سے بطور اعزاز و اکرم انہیں سوال کرایا، یہی وہ تفصیلات ہیں جو روایت کی وضیعت بدھ لالیں ہیں، مولانا نے ملکی ہے اسکی پڑھے یہاں بھی ان تفصیلات کو نقش کرنے سے گزر کیا ہو،

کوہاٹ میں سے ہر لیک پر ایک آدمی مقرر کر دیا، اس سے تاکید کر جو کہ ان میں سے بوجی میری بات کی تردید یا تائید میتے زبان کھوئے، اس کا سر تتم کر دیا۔ اس کے پس وہ انہیں لیتے ہوئے سے مسجد میں آئئے اور اعلان کیا کہ "یہ مسلمانوں کے سرواد اور بستربین لوگ، جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، ایزید کی ولی عہدی پر بعضاً فتنہ ہے۔ ادو انہوں نے پیش کر لی ہے، اندھام توگ بھی بیعت کر لیجئے اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی حوصلہ بجا باتی نہ تھا۔ اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی (خطفۃ دبلوکیت می، ۱۷۸، ۱۵۳)

لہ یہ بھی خلاصہ ہے کہ رہایت میں ہے کہ ان میں سے ہر لیک پر دو دو آدمی مقرر کر دیا ہر آدمی کے ہاتھ میں تواریخ ہو۔"

لہ تردید کی سرورت میں سر تتم کر دینے کا حکم بھی میں آتا ہے لیکن تائید کی صورت میں بھی سر تتم کر دینے کا حکم بھجو سے یاد ہے۔

لہ گویا دور نیز المقرر کے تمام لوگ عقول و فہم سے ہائل ہی کوئے تھے کہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ ان حضرات کے سر دن پر نسلی تواریخ لٹک رہی ہیں یہ نہ سمجھے کہ اس صورت میں ہائی طرف سے ادا نہی کا اعلیٰ کیا جسی رکھتا ہے، اگر یہ رضامند ہیں تو ان پر شکیخوں کا پڑہ کیوں بھجا دیا کیا ہے؟ پھر خدا کے گھر میں پیش کر مجھ عالم میں حضرت ماحمد رضہ نے کس سے بخوبی تدیدہ دلیری کے ساتھ صریح درج نہ گئی کی، اس کا احساس بھی کسی کو نہ ہوا، سب نے اسے پس سمجھا اس لیے مولانا کہ رہے ہیں "اب لوگوں کی طرف سے انکار کا سوال ہی نہ تھا" پھر یہ دیکھنے حضرت محاویر رضہ کی ہست و حرمی دھان میں، اور جو و قشود کا پھلو و کھانے کے لیے تو یہ رہایت نقل کر دی گئی ہے لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد خود ان حضرات کا کوئی ایسا جنسی مولانا نے "دنیا نے اسلام کی باز شخصیتیں" کہا ہے کون سا قابل تعریف رہ جاتا ہے؟ تواریخ کے خوف نے جن کی قوت کو بانی سبب کر لی اور وہ بھی کسی بند کر سے میں نہیں مجھ مامیں، جہاں اس مات کا پورا انسان ہے تھا کہ اگر ایک شخص نے بھی اس موقع پر جو اس کا اعلما رک کے تحقیقت حال کی دشت کر دی تو حلقہ کی پانچ سو پلٹ جا سکتے ہے، اسی لارا اقوام لا یکا دون یعنی توں حدیثا۔

## سچ روایات، تصویر کا دوسرا رخ

یہ ہے من گھر میں روایات پر مشتمل طبیعت عمدہ کی تفصیلات، جو مولانا محمد ددی صاحب نے پرورد قرطاس کی ہیں، احادیث میں جو وضاحت ہم کرتے آئتے ہیں اس سے ان روایات کا وضاحت ہونا اگرچہ بالکل واضح ہو چکا ہے، پھر بھی ہمیں سچ بخاری و صحیح مسلم کی وہ روایات پیش کرتے ہیں جن سے حقیقت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔

ان روایات میں جنیں مولانا نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی کے متعلق بھی یہ باور کرایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت حسین رضی وغیرہ کے ساتھ تواریخ کے خوف سے بیعت کی تھی، لیکن حقیقت گیا ہے اور بخاری و مسلم کی ان روایات سے واضح ہو جائے گی بود رج ذیل ہے۔

جن دنوں ولی عمدہ کا مسئلہ زیر بحث تھا: امیدواروں میں ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی بھی تھے، لیکن یہید کی ناہز دگی ہو گئی۔ یہ اپنی اہمیت و حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی کے پاس گئے اور جا کر ان سے شکایت کی کہ آپ دیکھ رہی ہیں، اس معاشرے میں میرا کوئی حق نہیں رکھا گیا، حضرت حفصہ رضی نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ تم اجتماعِ عام میں جاؤ، ایسا نہایا انتظار ہو سہا ہو گا، مجھے ڈر ہے تمہاری وہاں عدم موجودگی تفرقے کا سبب ہو جائے ہے کہ کہ انہیں اس وقت تک پہنچوڑا جب تک وہ وہاں پہنچے نہ گئے، جب اجتماعِ عام ختم ہو گی تو حضرت معاویہ رضی نے وہ بارہ تفرقے کے اور کہا ہے کوئی اور صاحب اس معاشرے میں گلکوڑ کرنا چاہئے ہوں تو وہ سامنے آئیں، جو صاحب اس کے امیدوار ہیں ہم اس سے اور اس کے باب سے زیادہ اس معاشرے کے حق دار ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی بیان کرنے میں کہ مجھے نیا ہے، اکریں کہوں، اس بارے یہی تم سے زیادہ حقدار ہے جس نے تم سے اور تم سے والد سے اس وقت جنگیں لڑائی تھیں جیسے قعد تو ان اسلام کے خلاف سیدہ پرست تھے: لیکن یہی پھر اس ذر سے رک گیا کہ میری اس بات سے اجتماع کے بعد کمیں پھر تفرقہ زبر پا ہو جائے نہ فرماتے خون، بزری تک پہنچ جائے اور میری بات کو غلط مفہما پہنادیتے جائیں، یہ سوچ کر میں نے اپنا ذہن بجا تے دنیا کے آخرت کی طرف منتقل کر لیا اور جنت میں اشہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتوں کو بیاد کیا، جیب میں سلہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی

کو کہا ائمہ نے آپ کو نظر بات کئیے اور پھر اس کے مطابق اتفاق کرنے سے بچا لیا۔  
اس روایت سے کہنی باقاعدہ کی وضاحت ہو جاتی ہے، اول یہ کہ حضرت عبداللہ بن عفر رض  
بیہودا ز حادثت مزدور تھے۔ جس کا انعام رانہوں نے حضرت خفیہ رضے سے جا کر کیا تھی، لیکن  
پھر صالح طبیہ اور امت کے اتحاد و اتفاق کی خاطر اس سے دستور در بر گئے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علی عمدی کافیصلہ عام اجتماع میں ہوا جس میں تمام زادہ اکابر بھی  
موجود تھے جن کی طرف عام خود پر لوگوں کی لظیں اٹھ سکتی تھیں، امر حضرت عبداللہ بن عفر  
غیر حاضر تھے جن کا وہاں انعام کیا جا رہا تھا، اسی اجتماع میں خواص کی متفقر رائے سے یہ نصیلہ  
انجام پایا۔

تیسرا بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ خواص میں خط و صحیح کا پورا شعور موجود تھا، اکابر میں سے  
کوئی ایک شخص ہبھی اگر نیک نیت کے ساتھ اس رائے سے اختلاف کرتا تو یعنیا خواص اس کا ساتھ  
دیتے لےواجہاں، تفرقے میں تبدیل ہو کر رہ جاتا، اس سے اس تصور کی تھی انہی ہو جاتی ہے کہ  
چار موزوں حضرات کے سروں پر نعلیٰ تلواریں نکلی بیہی اور وہ اس کے خوف سے ٹھہر جائیں گے  
اگر فی الواقع ایسا ہوتا تو یہ مسئلہ اتنی آسانی کے ساتھ ہے نہ ہو سکت تھا، بنا بنا یا اسرا  
کمیں بگڑ کر رہ جاتا۔

جو حقیقی چیز یہ معلوم ہوئی کہ یہ میں جب اجتماع ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عفر رض  
اس اجتماع میں شریک ہوئے اور وہاں مخصوص سے تاائق کے بعد خواص کی رائے سے تفرقہ  
ہو کر یہ دل کو بعد ق دل تسلیم کر لیا۔ اس سے اسی بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ  
حضرت معاویہ رضے نے ان کے ساتھ دینے سے باہر بیساہ داشت برنا تو، کیا کوئہ مذہبی چیزوں  
کر کئے پھے گئے، پھر حضرت معاویہ رضے کئے گئے وہاں بھی یہ ان کی رائے سے تفرقہ نہ ہوئے  
تو حضرت معاویہ رضے نے ان کو بذریعہ تلوار چپ کر لیا، یہ سب خلافات ہیں، جن کی صحیح بخاری  
کی اس روایت سے تعین کھل جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عفر رضے میں میں ہی تھے وہیں ہے

وہیں انہوں نے بیعت کی مدینہ چھوڑ کر وہ لکھنئی نہیں گئے۔  
بخاری کی ایک اور روایت۔

حضرت عبد اللہ بن زیر رضی کے لفظ پر جب اہل مدینہ نے یہ یہاں کی بیعت توڑ دی تو اس وقت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی نے عبد اللہ بن زیر رضی کے ساتھ مکہ کی خدمت کی اور اپنے ہل فوج کو بحیرہ ران پر منتظر کیا۔

میں نے بنی صہد عییر و سلم کو فرماتے ہوئے کہنا ہے  
کہ قیامت کے دن ہر یہ بددی (حدہ) کرنے والے  
کھیلے ایک جنہاً (جھوٹی نشان) خوب کو یا جا یعنی  
ہم نے اس شنس (یزید) سے اشداد اس کے دو بڑے  
کی بیعت کی ہے، یہی نظر میں اس سخن زیادہ بد عمدہ  
الہ کوئی نہیں کرایک شخص کی اشداuds اس کے دو بڑے  
کے ہم پر بیعت کی جائے، پھر اور اسی کے خلاف  
اٹکوڑا ہوایا درکھوت میں سے کسی کے تعلق بھی  
اُر بھی یہ سخن ہوا کہ، اس نے یہاں کی بیعت توڑ  
دی ہے یادہ بد عمدہ کرنے والوں کے پیچے لگ  
گیا ہے، تو یہی سے اس کے دریابن کوئی تعلق  
نہ ہے گا۔

سمحت النبی صل اللہ علیہ وسلم یاقوت  
یُشَفَّبْ بِهَلْ غَارِبِ رَوَاءٍ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَلَمَّا قَدِمَ  
بِلِيْعَتْ هَذِهِ الرَّجْلَ عَلَى يَمِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْتِ  
لَا عَلِمَ غَدَرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَشِّرَ إِلَيْهِ تَرْجِعُ  
عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصَبُ إِلَه  
الْقَتْلَى، وَإِنِّي لَا عَلِمَ أَحَدًا أَمْنَكَهُ  
خَلْمٌ وَلَا قَابِسَةٌ فِي هَذِهِ الْأَمْرِ  
الْأَكَامَتُ الْفَيْصَلُ بِيَنِي وَمِينَكَ

کتنے مظہم فرق ہے صحیح روایات اور تاریخ کی من گھروت روایات میں بتاریخ و کہتی ہے انہوں  
نے تکوڑے کے خوف سے بیعت کی، لیکن بخاری کی روایت کہتی ہے انہوں نے بصدق دل اسی  
طرح بیعت کی حقیقی جس طرح اشداuds اس کے رسول سے بیعت کی جاتی ہے اور وہاں کی بیان  
کدو روایت میں ذرا بھی صداقت ہوئی تو کیا اس طرح کی بیعت کو بیع اشداuds رسول، اللہ اور اس

کہ رسول کی بیعت، سے تغیر کیا جا سکتا تھا؟ پھر اہل خاندان کو اس طرح جمع کر کے یہ کامیابا  
سکتا تھا کہ اگر تم نے تعقیب بیعت کیا یا اس طرح کرنے والوں کا ساتھ دیا تو تم سے نہ میرا کوئی  
تعلیٰ رہے گا اذ تم آنحضرت میں خدا کی گرفت سے پنج سکو گے۔  
صحیح مسلم کی روایت ۔

اسی اندیز کی ایک روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، جس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے،  
کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت میں کتنے مخلص اور بد عمدی گرنے والوں کے کس تدریج  
تھے امیسے میں عبد اللہ بن المطیع اور عبد اللہ بن عثیمین کے باختیں بغاوت کرنے والوں کی  
قیادت تعقیب چنا پھر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ المطیع کے پاس گئے، وہ انہیں دیکھ کر  
اپنے سامنیوں سے کہنے لگے ”ابو عبد الرحمن (ابن عمر رضی اللہ عنہ) کی کیفت“ کے لیے مندرجہ ذیل میں دیکھو۔ آپ  
تھے فرمایا ”میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں دیکھ دو“ حدیث سناتے کے لیے کیا ہوں جو  
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئی ہے“ یہ کہہ کر انہوں نے حدیث بیان کی۔

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یقُولُ مَنْ خَدِيَ يَدِهِ مِنْ طَاعَةِ نَبِيٍّ<br>أَيْنَ فَرَاتَتِيْنَ كَمْ جِنْ شَعْنَنَ فَنَّى عَمِدَأَطَاعَتِكَ<br>اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَحْجَاجِكَ وَمِنْ<br>مَاتَ وَلِيَسْ فِي عَنْقِهِ بِيَعْتَمَاتَ<br>مِيتَةً جَاهِلَيَّةً ۔ | أَيْنَ فَرَاتَتِيْنَ كَمْ جِنْ شَعْنَنَ فَنَّى عَمِدَأَطَاعَتِكَ<br>اَسَهْ تَوْرِيَا، اَهْ قِيَامَتَ كَمْ دَلَ اللَّهُ كَمْ دَلَ<br>اَسَهْ حَالَ مِنْ حَاضِرٍ هُوَ كَمْ اَسَهْ كَمْ پَاسَ كَمْ بَحْتَهَ نَهَى<br>هُوَ كَمْ، اَوْ جِنْ شَعْنَنَ اَسَهْ حَالَ مِنْ رُكْيَا لِاسَهْ كَمْ لَوْنَ<br>مِنْ كَمْ كَمْ بِيَعْتَمَاتَ مِنْ هُوَ وَهْ جَاهِلَيَّةَ كَمْ مُوتَ مَرَأَهْ ۔ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

اکی طرح اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبوزادے زین العابدینؑ نے بھولے رضی اللہ عنہ کی بیعت  
تو وہ نے سے گزر کیا تھا بلکہ حضرت ملی رضا احمد رضا اہل بیت نبویؑ کے کسی فرد نے بھی اس موقع پر  
بیعت نہیں توڑ دی،  
ساختہ اپنے کثیر رکھتے ہیں ۔

کان عبد الله بن عمر بیہ الخطا ب  
فجماعات اهل بیت النبوة مسن  
لہ بین قصص العهد، ولا بایع احداً بعد  
بیعته لیزید ..... لم یخرج احد  
من آل الی طالب ولا من بنی عبد المطلب بیام  
الحربة محمد بن الحنفیہ کی وضاحت -

نے بھی آیام حرمہ میں خروج نہیں کیا۔

نیز عبد الشد بن المطیع اہد ان کے رفتائے کار، حضرت علی رضا کے صاحبزادے امجد بن  
الحنفیہ کے پاس گئے اور انہیں بیزید کی بیعت تقدیسی پر رضامند کرتے کی کوشش کی، لیکن  
انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، اس پر ابن مطیع نے کہا "لیزید شراب فوشی ترک  
ناز اور کتاب اللہ کے حکم سے تجاوز کرتا ہے" محمد بن الحنفیہ نے کہا "تم جو با توں کا ذکر کرتے  
ہو میں نے ان میں سے کوئی چیز اس میں نہیں دیکھی ایں اس کے پاس گیا ہوں، امیر اور ہاں قیام کی جی  
ہا، میں نے اس کو ہمیشہ ناز کا پابند نہیں کردا، تیر کا متداشی، علم دین کا طالب اور سنت کا ہمیشہ پاسدار  
پایا" وہ کہنے لگے "وہ یہ سب کچھ محض تفتعل اور آپ کے دھکاوے کے لیے کرتا ہو گا،  
انہوں نے جواب میں کہا "مجھ سے اسے کون ساختوں یا الچھ مقام جس کی بنا پر اس نے میرے سامنے  
ایسا کیا؟ تم جو اس کی شراب فوشی کا ذکر کرتے ہو کیا تم میں سے کسی نے خود اسے ایسا کرتے  
دیکھا ہے؟ اگر تمہارے سامنے اس نے ایسا کیا ہے تو تم بھی اس کے سامنے اس کا میں  
شریک رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم ایسی چیز کے متعلق کیا گواہی دے سکتے ہو جس  
کا تمہیں علم ہی نہیں" وہ کہنے لگے "یہ بات ہمارے نزدیک سچ ہے اگر چشم میں سے کسی نے  
اے ایسا کرتے نہیں دیکھا، انہوں نے فرمایا "اللہ تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے  
"الامن شهد بالحق و ہم یعلیمون" گو ابھی ان ہی لوگوں کی غیرت ہے جو کو اس بات کا ذائقی علم ہو، جاؤ  
میں کسی بات میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا" وہ کہنے لگے "مشاید آپ کو یہ بات ناگوار گزتی

ہو کر یہ معاملہ آپ کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں رہے، اگر ایسا ہے، تو قیادت ہم آپ کے سپرد کئے دیتے ہیں یا انہوں نے کہا ہے تم ہم پیز پر مقابل وجدان کر رہے ہو ایں مرے سے اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا، مجھے کسی کے چیਜے لکھنے یا لوگوں کو اپنے چیجے لگانے کی حضورت ہی کیا ہے؟ ۶ کہنے لگے «آپ اس سے پہلے اپنے والد کے سامنہ مل کر جنگ کرچکے ہیں» انہوں نے فرمایا «تم پہلے میرے باپ جیسا آدمی اور انہوں نے جن سے جنگ کی ان ہیسے افراد لا کر تو دکھاؤ، اس کے بعد میں بھی تمہارے سامنہ مل کر جنگ کر لون گا» ۷ وہ کہنے لگے «آپ اپنے صاحبزادگان، ابو القاسم اور قائم ہی کو ہے سے حواسے کر دیں کر دہ ہمارے سامنہ مل کر جنگ کریں» انہوں نے فرمایا «میں ان کو اگر اس طرح کا حکم دوں تو میں خود نہ تمہارے اس کام میں شرکیب ہو جاؤں» ۸ وہ کہنے لگے «اچھا آپ ہر فہارے سامنہ چل کر لوگوں کو آناؤ قتال کر دیں» انہوں نے فرمایا «سب دا ان اللہ، جس کو میں خوفناک اور اس سے اجتناب کرتا ہوں لوگوں کو اس کا حکم کیسے دوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں اللہ کے معاملے میں اس کے بندوں کا تیر خواہ نہیں اب دخواہ ہوں گا ۹ وہ کہنے لگے «ہم پھر آپ کو مجبور کریں گے» انہوں نے کہا میں اس وقت بھی لوگوں سے یہی کوئی ٹکا کہ اللہ سے ڈردا اور مخلوق کی رضاکی خاطر خالق کو ناراضی نہ کر سکے۔

سلف البدایۃ والمنایۃ ۱، ج ۸، ص ۲۳۳، یہ تاریخی حقائقی حضرت حسین رض کے دروڑاک سانچہ شہادت کے بعد کے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زید کی نامزوگی کے وقت اجنب کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ ایسا المذاک ساخت بھی ہو سکتا ہے، ان حضرات نے نامزوگی کی مخالفت کی ہوگی؟ چنانچہ تاریخ میں حضرت علی رضا کے قائدان میں سے سواتے حضرت حسین رض کے کسی اور کی تایاں مخالفت کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ ساسی محرضت علی رضا کے قریب رہنے والے حضرت عبدالرشید رضاؑ نے حضرت معاویہ رض کی خبر رفتات سن کر اپنے حلقت کے لوگوں کو زید کی بیعت کرنے کی تائید کی، العد زید کے صالح ہوتے کی گواہی دی۔ ان انبہہ زید میں صالحی اہلہ قابو و موانع اسلامکم و اعتماد اعلیٰ علیکم و میغتکم (الناس بالاعراب، قسم دوم، ص ۲، طبع ۱۹۷۳ء)

ان روایات سے یہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یزید کی بیعت قسام لوگوں نے صدقِ دل کے سامنے کی تھی کسی قسم کا جبراں پر نہیں کیا گیا تھا، اگر ایسا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن زیرہ کے لئے سے اہل مدینہ نے جب بخاوت کی تو تمام لوگ اس وقت ان کا سامنہ دیتے نہ یہ کہ ان کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے اور ان کو عذر اس سے تغیر کرتے، حضرت علی رضا کے خاندان میں سے کسی فرد نے بیعت نہیں توڑی خالد کا اس سے کچھ ہی عرصہ پر ان کے خاندان کے ایک معزز فرد حضرت حسین رضا، یزید رضا سے سیاسی و اجتماعی اختلافات کی بنابر شہید کئے جا چکے تھے۔

**شاہی خاقانوادوں کا آغاز۔!**

اس باب کے آخر میں مولانا لکھتے ہیں۔

దاں طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتم ہو گیا، خلافت کی جگہ شاہی خاقانوادوں نے یہی اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھرنا پڑا رہا کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ رضا کے محاذ و مناقب اپنی بیگنگ پر ہیں، ان کا شرفِ صحابیت ہمی دا جب الاحرام ہے، ان کی یہ خدمت بھی تاقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا میں اسلام کا ایک جمنڈ سے تسلیم جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے نسلے کا وارہ پسلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص یعنی ملعون کرتا ہے وہ بلاشبہ زیادتی کرتا ہے۔ لیکن ان کے خاطر کام کو تو غلط کہتا ہی ہو گا، اسے صحیح کرنے کے منی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح دھڑکے میہار کو خطرے میں ڈال دے ہے ہیں۔

خلافت راشدہ تو یقین خود مولانا محدث بنوی کی رو سے حضرت حسن رضا کی خلافت سے وستبرداری کے سامنہ ہی ختم ہو گئی تھی، حضرت معاویہ رضا یزید کو ولی عهد تائزد کرتے یا نہ کرتے تقدیر الٰہی قواطی ہے اسے کوئی بدل سکتا تھا، یزید کی تائزد ہی خلافت راشدہ کے خاتمہ کا سبب ہوتی، تو مذکور معاویہ رضا خطا کار قرار پاتے، تائزد ۵۶<sup>۵۶</sup> میں ہوئی اور نظم خلافت کا خاتمہ ۵۷ میں ۱۵ اسال پسلے ہی ہو چکا تھا، پھر یہ کیا بات ہوئی کہ معاویہ رضا کے ولی عهد ہمود کرنے سے خلافت راشدہ کے نظام کا قطعی طور پر خاتم ہو گی؟ معاویہ برین خلافت کی جگہ

شاہزادوں کا آغاز حضرت علی رضہ کے بعد حضرت حسن رضا کی جانشینی سے ہوا اور کبیر یزید کی  
جانشینی سے، حضرت علی رضہ کے گھرانے میں سلسلہ خلافت اُگے چلتی کی، بجائے حضرت حسن رضا  
پہنچنے تک ہو گیا، جس کی بنابر اس تبدیلی کا آغاز وہاں سے نہیں کیا جاتا، بالآخر یہی صورت آخر حضرت معاویہ  
کے گھرانے کے سامنہ بھی تو ہوتی ہے، حضرت معاویہ رضا کے بعد یزید جانشین ہوا، یزید کے  
بعد اس کا بیٹا معاویہ جانشین ہوا، لیکن وہ حضرت حسن رضا کی طرح از خود دست پردار ہو گیا، اس کے  
بعد مروان بن الحکم شیفہ بن گھری، اس طرح معاویہ رضا کے گھرانے میں بھی خلافت شد ہی، البتہ  
مروان کے بعد پھر خلافت <sup>۱۳۴ھ</sup> تک مروان رضا کے خاندان ہی میں رہی، اب سے دولت ہنگامہ مروان کا  
جا تا ہے، جس طرح مولانا نے بھی خود یہی تقسیم کی ہے، شاہزادوں کا آغاز یہیں سے کنٹلیے  
ہو گریزید سے کیونکہ یزید کے بعد خلافت دوسرا سے گھرانے میں شغل ہو گئی، خاندان معاویہ رضا اور  
خاندان مروان رضا دونوں کا سلسلہ نسب امیر بن عبد الشمس پر چاکر مل چاتا ہے، جس کی وجہ سے  
دونوں کو بنو امیرہ کہا جاتا ہے اور اس بنابر حضرت معاویہ رضا سے لے کر <sup>۱۳۷ھ</sup> مروان شانی تک  
خانائیہ کا ذریعہ حکومت کہا جاتا ہے، حالانکہ یہی تقسیم خطط ہے، اگر سلسلہ نسب کی کڑی آگے چل کر  
لے جاتے کی وجہ سے ان دونوں خاندانوں کے دعویٰ حکومت کو طلاق کیا ہے، خاندان معاویہ حکومت کہا جاتا ہے  
تو پھر مولانا حضرت عثمان سے لے کر <sup>۱۳۸ھ</sup> تک کے بعد کو ایک خاندان کا ذریعہ حکومت کہتا  
چاہیئے، حضرت علی رضا کا سلسلہ نسب بھی حضرت عثمان رضا و معاویہ رضا اور مروان بن رضا کے سامنہ جا  
لتا ہے، بلکہ اس طرح ذریعہ عباسی بھی اسی خاندان میں شامل ہو جاتا ہے، سلسلہ نسب ذریعہ حکومت  
یکجئے۔

عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیرہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی.....

علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی.....

معاویہ رضا بن ابی سفیان رضا (صغر) بن ابی طالب بن امیرہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی .....

مروان رضا بن الحکم بن ابی العاص بن ابی سفیان بن عبد الشمس بن ابی عبد مناف بن قصی .....

پلا عباسی خلیفہ، سفارح بن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس رضا بن عبد المطلب بن هاشم

بن عبد مناف بن قصی .....

ان سب کا سلسلہ نسب عبد مناف بن قصی پر جا کر مل جاتا ہے، اس طرح گویا حضرت عثمانؓ سے لے کر آخری خلیفہ عباسی تک ایک ہی خاندان برسر اقتدار رہا، جسے خاندان بنو عبد مناف گھا جاسکتا ہے، ادویہ حکومت کی تقسیم اس طرح کوئی نہیں کرتا، حالانکہ وہ معاویہ رہ اور مومن گے خاندان کو جن اصول سے ملا کر ایک خاندان بنی امية کہتے ہیں، اس اصول کی رو سے تقسیم اس طرح ہوتی چاہیے۔

مسلمانوں کی مردمی کی خلافت سے مقصود اگر یہ ہے کہ خلیفہ بنتے سے پہلے استصواب عام کے ذریعہ اس پر عوام نے اپنے اختداد پسندیدگی کا اظہار کر دیا ہو اور اس کے بعد وہ منصب خلافت پر فائز ہوا ہر جس طرح آج کل مغربی جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، پھر یہی یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر آج تک مسلمانوں کو اپنی مردمی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی، علیفا در راشدین کا انتخاب بھی قطعاً اس معیار پر نہ تھا، اس کی تفصیل پہلے گز پہلی ہے، اور ہاں دوبارہ ملاحظہ کر لی جائے۔ اور اگر مسلمانوں کی مردمی کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کی نامزدگی، خلیفہ نے دنیا سے جاتے وقت کر دی یا اہل حل و عقد نے کسی شخص کو چن لیا۔ اور دونوں صورتوں میں عوام کی بجاہی اکثریت نے اس کی خلافت کو مصدقہ دی کے ساتھ قبول کر لیا، اس کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتے رہے اور انہوں نکل اس کے ہر سلسلہ کو، ماسوائے معصیت خداوندی، واجب الاطاعت سمجھا، اس معیار پر الحمد للہ کوئی علیفا در تاریخ اسلام میں ملیں تھے، علیفا در راشدین کے بعد، حضرت معاویہ رہ ویزد باتھومن اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔

حضرت معاویہ رہ کے محاذ و مذاق卜 اپنی جگہ لیکن ان کے غلط کام کو تبر جان ملاحظہ کرنا ہی ہو گا، میں ہے ان کے غلط کام کو غلط ہی کہنا چاہیے، لیکن یہ نکتہ و مذاقت طلب ہے کہ غلط و صحیح کام معیار کیا ہے؟ جس اقدام کو قرآن و حدیث کی کسی نفس سے غلط ثابت نہ کیا جاسکتا ہو، صحابہ کرام و فقیہوں نے تابعین میں سے کسی نے اسے ناجائز یا حرام نہ کہا ہو بلکہ سب کے اتفاق یا کم از کم سکوت نے اس کے جواز پر مرضیتی ثابت کر دی ہو، اسے غلط کہنے کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ غلط و صحیح کا معیار چاکر نزدیک قرآن و حدیث احمد تعالیٰ و ابی حیان و صحابہ کی بجائے اپنا نفس

یا مغرب سے درآمد شدہ نظریات ہیں۔ حضرت معاویر رضا کے اس اقدام کو صحیح کرنے سے غلط و صحیح کے معیار خطرے میں نہیں پڑ جائیں گے، بلکہ اس صحیح اقدام کو غلط کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس مقام پر خود مولانا کا معیار وہ نہیں رہا ہے جو ایک منصف و حقیقت پسند مسلمان کا ہوتا چاہیے، وہ محض مغربی تصور و جمورویت کو معیار بنا کر اسے غلط کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی وجہ نہیں، جس کی رو سے اسے ہم غلط قرار دے سکیں۔

---

باب پنجم

## خلافت فیلوجیت کا فرق

اور

حضرت معاویہ پر اعتراضات کی حقیقت

## خلافت اور ملوکیت کا فرق

اس باب میں مولا نانے وہ فرق دکھلانے کی کوشش کی ہے جو خلافت کے بعد ملوکیت کے آجائے کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں واقع ہوا۔ اس بات کی ہم متعدد جگہ مراحت کرائے میں کوئی تصور ہی سرے سے غلط ہے، اسلامی معاشرے میں بکار ملوکیت کا نہیں بلکہ تبدیریح تنزل کے بعد قبیل دو گیر خارجی اسباب کا نیچہ تھا۔ خلافت اپنی صورت میں قائم رہتی تب بھی بکار اسلامی معاشرے میں مزود خلود پذیر ہوتا اور معاشرے کے تمام افراد کم و بیش اس سے متاثر بھی ہو گئے خلافت راشدہ کے مبارک بعد میں بکار آیا، حالانکہ اس وقت یکثیرت صحابہ زندہ تھے، ملکیت ہم بھی اس وقت نہ تھی، خلفاء کا طرز عمل اور کوئی بھی ایسا شانی تھا کہ اس کے بعد اس جیسی کسی سے قوچھ بھی نہیں کی جاسکتی، ان تمام یا توں کے باوصفت اجتماعی معاشرے میں بکار آیا، نظم حکومت اور اسلامی سیاست بھی اس سے متاثر ہوتی، خلافت راشدہ بھی اسے نہ روک سکی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ بکار کے اسباب طبعی و قدیمی تھے، جس کی خبر خوبنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، آپ نے فرمایا متحاذلا یا قی علیکم زمان اللہ الزی بخششہ، ایک زمانہ گز رجانے کے بعد جب تم پروردہ سرانہ آئے گا، وہ پہلے کی نسبت پڑتے ہو گا، معتقد حدیثوں میں آپ نے اس نکتے کی وضاحت فرمائی ہے جن کو اور حدیث نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے، ان میں آپ نے واضح طور پر مراحت کی ہے کہ پیغمبر زمان کے سامنے ساختہ بد عمل، بخی، تناول و جمال اور دیگر صفاتِ نذمہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حافظ ابن حجر اس قسم کی احادیث کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”وہ خربیاں ہیں کی جو ان احادیث میں دی گئی ہے، محمد صحابہ سے ہی ان کی ایجاد ہو گئی تھی۔ پھر بعض جگہوں پر ان میں مزید اضافہ ہو گیا اور جوں جوں تیامت قریب تر گئی ہے ان خلدوں میں استحکام ہیا ہو گا... خربیاں تمام شہروں میں روز افزودی ہیں، اُسیں کم اکیں زیادہ، جب ایک طبقہ نعمت ہو جاتا ہے، اس کی بھر یعنی وائے در سے طبقے

میں اپنی بستی پہلے کے ابھت زیادہ نقص واقع ہو جاتا ہے۔  
مودنا ابوالکلام آزاد رحم ملکتے ہیں۔

وہ نبوت درجت کی برکات کی محدودی و فقران کا ایک تدریجی تنزل محسا اور بدعا نہ فتنی کے ظہور و احاطہ کی ایک تدیدی ترقی تھی، کامیابی خود اُخود اُ، جو حضرت عثمان رضی کی شہادت سے شروع ہوئی اور جس تدریج نبوت سے دوری پڑھتی گئی، اتنی ہی عمد نبوت اور خلافت درجت کی سعادتوں سے امت مفروم ہوئی گئی۔ یہ محدودی مرف امامت و خلافتِ کبریٰ کے مطابق ہی میں نہیں ہوئی، بلکہ قوام و نظام امت کے مباریات داریات سے لے کر حیات شخصی و انفرادی کی اعتقادی و عملی جزئیات تک اساری پائی کا یہی حال ہوا..... پتہ

مطلوب ان احادیث، اقوال اور جبارتوں سے یہ ہے کہ بُنگاڑ کا عمل تدیدی بھی محسا اور اس کا نفع بھی مرف سیاسیات، نظام حکومت ہی کی طرف نہ متابکر نہ نسلگی کے تمام شعبوں میں ہے اپنی رفتار سے آتا شروع ہوگی محسا۔ اخلاقیات، ابعادات، معاملات، امیشت و معاشرت سب ہی پر اس نے اپنا اثر کیا، حکمران و اہل کاران حکومت بھی معاشرے ہے ہی کے فرد ہوتے ہیں، نظام حکومت چلانے کے لیے وہ آسمانوں سے نازل نہیں ہوا کرتے ہیں، معاشرے کے اچھے یا بُرے اثرات سے وہ خود کو پوری طرح عفو نہ نہیں رکھ سکتے، بچپن شعوری طور پر معاشرے کے اثرات ان کے اندھی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ آپ کے عمد خلافت میں اختلاف پیدا ہو گیا، ابو بکر رضی و عمر رضی کے عمد میں ایسا نہیں ہوا؟ حضرت علی رضی نے بُواب میں فرمایا کہ ابو بکر رضی و عمر رضی کے عمد کی رعایا مجھ چیزیں افراد پر مشتمل تھیں اور میں ایسا تم جیسے لوگوں پر مشتمل ہے تھا۔ حضرت علی رضی کا یہ فرمان اس نکتے کی اچھی

لئے فتح الباری کتاب المُقْتَسَن، باب طهود المُقْتَسَن۔

لئے "مسکنہ خلافت" ص ۳۴، سجاد پبلیشورز ۱۹۹۰ء

لئے مقدمہ ابن حجر الدین، فضل، ولیت عمد، ص ۳۷۷

طرح وضاحت کر دیتا ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔

مولانا ہرودی صاحب نے اس لکھتے کرتا انداز کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ بگاڑ مرف سیاسیات (نظم حکومت) میں آیا ہے جو مخفی ملوکیت کا تیجور ہے، اگر خلافت کی جگہ ملوکیت نہ آتی تو اسلامی نظام حکومت بگاڑ سے قطعاً نا اشتراہتا یہ تصور سلطی ہے اس کی کوئی بالغ نظر آدمی تائید نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں بگاڑ ملوکیت کا نہیں بلکہ عام افراد معاشرہ کے اخلاقی و مزاج اور سیرت و کوہار میں بگاڑ کا تیجور تھا۔ حضرت عثمان رضوی علیہ رحمۃ کے بعد خلافت میں نظم سیاست اس طرح بنے جیسا کہ نہیں بہا جس طرح حضرت ابو بکر رضوی و عمر رضوی کے بعد میں رہا، اس وقت نہ ملوکیت حقیقی نہیں کوئی شخص حضرت عثمان رضوی علیہ رحمۃ کے مجموعی طرزِ عمل کو قابلِ اعتراض قرار دے سکتا ہے، پھر اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بولکیفیت حضرت ابو بکر رضوی و عمر رضوی کے بعد میں حقیقی اعتماد نبوت کے قریب کی وجہ سے معاشرے کے افراد کے اخلاقی و مزاج اور سیرت و کوہار میں جو رفتہ دپاکینگی حقیقی، حضرت عثمان رضوی علیہ رحمۃ کے بعد میں وہ کیفیت بتدریج کم ہوتی گئی، حضرت معاویہ رضوی کا بعد خلافت بھی، خلفاء راشدین کی طرح، اسلامی تائیدی خاکا ایک سنہ ی دوسری دوسرے ہے، اس میں متوڑا بہت جو بگاڑ نظر آتا ہے وہ حضرت معاویہ رضوی کی «ملوکیت» کا نہیں، بلکہ مخلافت کا تیجور ہے، پھر یا ر لوگوں نے اس میں حاشیہ اکران اور زیب داستان کا حصہ فتاویٰ کر کے اس کو اسی طرح سخن کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح خود خلافت راشدہ کا نصف آخر سخن کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جیب تفہاد ہے کہ خود بقول ان کے اسلامی نظام حکومت میں خرابیاں تو خلافت راشدہ کے نصف آخر، حضرت عثمان رضوی علیہ رحمۃ کے بعد میں پیدا ہو گئی تھیں، لیکن ان کو تیجور قرار دیا جائے حضرت معاویہ رضوی کی ملوکیت کا، اور یہ کہا جانے کے اگر ملوکیت نہ آتی تو بگاڑ پیدا ہی نہ ہونا، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ خرابیاں تو اس «ملوکیت» سے کمیں پہنچنے کیوں پذیر ہو چکی ہیں۔ اگر تمام بگاڑ فی الواقع ملوکیت کا پیدا کرو ہے، تو خلافت راشدہ میں یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ «ملوکیت» کے نتیجے میں (نقول مولا) جو بگاڑ نظم حکومت اور اسلامی معاشرے میں پیدا ہوا، اس کی جو تصور کر کشی مولانا نے کی

ہے، بلکاڑ کی وہ کئی صورتیں خود مولانا نے حضرت عثمان رضی کے لیے بھی ثابت کی یہی افراد کتب قواریخی کی روشنی سے اجنب سے مولانا نے اپنا مولویا ہے، حضرت علی رضا کے دودھ میں بھی وہ بلکاڑ نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بلکاڑ صحنہ "ملوکیت" کا تجوید محتاط پھر اس بلکاڑ سے خلافتِ راشدہ کو محفوظ رہنا چاہیئے تھا، اس میں یہ بلکاڑ کیوں پیدا ہوا؟ اور مولانا کے دعوے کی محنت کی صورت میں آخر اس تحقیقت کی کیا مقصود تو جیسا کہ جانتے گی؟ بتا برسیں یہ ماننا پڑے گا کہ بجا تھے خود "ملوکیت" نہ مذموم ہے نہ منبع فساد۔ بلکاڑ کے برواس باب میں وہ دراصل کچھ اور نہیں۔ اس مختصر و مذاہت کے بعد اب ہم ان تغیرات کی تحقیقت پر رکھنی ڈالتے ہیں، اب مولانا کے ذمہ میں خلافت کی جگہ ملکیت "کے اتنے کی وجہ سے ہوئے۔

۱۔ تغیرت علیفہ کے دستور میں تبدیلی مولانا لکھتے ہیں۔

۱۔ اول یعنی بنیادی تبدیلی اس دستوری قاعدے میں ہوئی جس کے مطابق کسی شخص کو امت کا سربراہ بنا یا جاتا تھا۔ خلافتِ راشدہ میں وہ قاعدہ یہ تھا کہ کوئی شخص خود خلافت حاصل کرنے کے لیے نہ اٹھے اور اپنی اسی تدبیر سے برسر اقتداء اڑنے آئے بلکہ لوگ جس کو امت کا سربراہ کے لیے مزدور بھیں، اپنے شورے سے اتنا دراصل کے پرد کر دیں، بیعت آمد اور کا تیجہ نہیں بلکہ اس کا سبب ہو، بیعت حاصل ہونے میں اندھی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا نقطہ کوئی داخل نہ ہو، اول بیعت کو حصہ یا زلف کے مطالعہ میں پوری طرح آنداز ہوں اور جب تک کسی کو لوگوں کی آزادی اور رضاہندی سے بیعت نہ حاصل ہو جائے وہ برسر اقتداء نہ آئے، خلافاً اسے راشدیں میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر آمد اور آیا اختصار ای میں سے کسی نے بھی خود خلافت لینے کی برائی تمام بھی کوشش نہیں کی، سیدنا علی رضا کے متعلق اگر کوئی شخص نے زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ یہ کر دے اپنے آپ کو خلافت پہنچتے احتی سمجھتے ہتھے، لیکن کسی قابل اعتبار تاریخی روایت سے ان کے تعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے خلافت ساصل کرنے کے لیے کچھ کسی درجہ میں کوئی

ادنی اسی کو شش بھی کی ہو یہ (خلافت و طوکیت، ص ۱۵۸ - ۱۵۹)

اس پر ہم «خلافت راشدین کی خصوصیات» کے باب پر تقدیر تے ہوئے رکھنی ڈال پکھے میں کہ چاروں خلافاء کا طریقہ انتخاب ایک دوسرے سے الگ الگ تھا، مولانا نے اس مقام پر مغربی تصور و تصوریت کو بطور آئیڈیل سامنے رکھا ہے اور توڑ مرود کو خلافائے راشدین کے انتخاب کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا کا یہ فقرہ جب تک کسی کو لوگوں کی آنذاہ رضا مندی سے بیعت نہ حاصل ہو جائے وہ بر سر اقتدار نہ آئے «حاف طور پر اس بات کا خواز ہے۔

خلافائے راشدین کے انتخاب کی تصور کشی آج تک کے راجح تصورات کی پندرہ تک تھی ہی خوش خاکیوں نہ ہوا ادعاوات کے مطابق نہیں، حضرت میرزا نوگوں کی آنذاہ رضا مندی کے بعد بر سر اقتدار نہ آئے تھے بلکہ اب پرکشہ کی نامردگی کی وجہ سے بر سر اقتدار آئے تھے، ان کو بیعت علمہ بر سر اقتدار آئے کے بعد حاصل ہوئی تھی، ان کا بر سر اقتدار آتا بیعت عاملہ کا تیجوہ نہ تھا۔ خود حضرت ابو بکر رضی رضیوں کی آنذاہ رضا مندی سے بر سر اقتدار نہ آئے تھے، ایک ایسے ہنگامی اجتماع میں ان کی خلافت کا فیصلہ کیا گیا، جس کو نایا نیدہ ابھیں نہیں کہا جاسکتا۔ نیز ابھیں کے تمام حاضرین بھی ابکے پرستی میں پرستی میں لجا ہیں حضرت میرزا نوگوں کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی، دوسرا سے حضرات بعد میں اس تپرستی ہوئے اور بیعت عاملہ ان کو اس کے بعد حاصل ہوئی۔ حضرت علی رضا بھی لوگوں کی آنذاہ رضا مندی سے بر سر اقتدار نہ آئے تھے، تھا انہیں عثمان رضی نے اپنی خلیفہ بنایا تھا۔ نصفتی یا اس سمجھی تربیاہ امت نے ان کی بیعت نہ لکی، اس کے باوجود وہ بر سر اقتدار آئے اور اس پر قائم رہے۔ مولانا کے تلاٹے ہوئے اصول کی رو سے یہ سب حضرات کو یا غلط طریقے سے بر سر اقتدار آئے۔ خلافائے رکھنے ہی مسخر کر دیشے جائیں، لیکن ان پر پوری طرح پرستی نہیں ڈالا جاسکتا، خلافائے راشدین کے بر سر اقتدار آئے کی وجہ بیعت ہے جو کہ ہم نے دعا تھت کی ہے، اسے سخن کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔

حضرت محاویر رضی بھی اسی طرح بر سر اقتدار آئے تھے، جس طرح پکھے خلافاء کو بھی جلد نہ

نہ تھے نہ انہوں نے اس کے حمول کے یہے کوشش کی، ان کی اڑاٹیاں خلافت کے بیٹے  
وہ متعین ہے، تھاں عثمان رضہ کے سلسلے میں ان کے اور حضرت علی رضہ کے پائیں اختلافِ  
رائے ہو گیا، جس میں شدت اور سبائیوں کی شرارت اگلیزی نے معاملہ قبال و جبال ملک  
پہنچا دیا یہ اختلافِ رائے موجود تھا کہ حضرت علی رضہ کی ثہادت واقع ہو گئی، ان کے بعد  
حضرت حسن رضہ آزادانہ رضا مندی کے بغیر صرف ایک شخص کے لئے پر خلیفہ بنے باعد  
میں ان کو بیعتِ عادہ حاصل ہوئی۔ حضرت معاویہ رضہ نے ان سے کوئی لڑائی خلافت کے  
لیے نہ لڑا، البتہ عہدِ علی رضہ کا قناؤنِ عرفیہ مسئلہ، تھاں عثمان رضہ، ہنوز فیصلہ طلب تھا اجس کی  
بنابر جنگ کا دوبارہ اندریشہ تھا۔ حضرت حسن رضہ کے سامنے اپنے والد کی پوری سرگزشتت کا  
نیز وہ شروع سے ہی اپنے والد کی پالیسیوں سے غیر متفق تھے، پھر ان کے والد پر جو کچھ  
بنتی وہ بھی ان کے خوبیہ و مشاہدہ کا حصہ تھا، ان سب سے امور کے بیش نظر وہ از خود حضرت  
معاویہ رضہ کے حق میں خلافت سے دستِ بدار ہو گئے اور اس طرح حضرت معاویہ رضہ خلیفہ  
بن گئے۔ اتنی عظیم حملت میں ایک آواز بھی حضرت معاویہ رضہ کی خلافت میں نہ اٹھی جلا کر  
اس سے پیشتر اسی انت تے ان سے افضل ایک خلیفہ راشد کی بیعت کرنے سے اس  
بنابر گزیز کی تھا کہ ان کی تظریں اس کی اُٹھنی جیشیت منفقہ نہ تھی، لیکن حضرت معاویہ رضہ کی  
بیعت تمام صحابہ کرام اور فقہاء تے تابعین اور تمام باشندگان ملک نے کی، کسی ایک شخص  
نے بھی بینیں کہا کہ یہ خلافت لڑ کر حاصل کی گئی ہے یا اس طریقے سے خلیفہ نہیں بنے جس  
طرح پھر خلافت سنبھلے تھے، اس لیے ہم بیعت نہیں کرتے۔ حضرت معاویہ رضہ کی یہ خلافت  
اگلوگوں کی آزادانہ رضا مندی کی بنابر نہ تھی تو پھر علان کو دیجھنے کو خلافت سے راشدین کی  
خلافت بھی اگلوگوں کی آزادانہ رضا مندی پر بنجا رہ چکی، حضرت معاویہ رضہ کی طرح خلافت راشدین  
کو بھی خلافت پہلے اگلوگوں کی رضا مندی (بیعت ایحدی حاصل ہوئی ہے) اگلوگوں کی رضا مندی  
پسند حاصل کی گئی ہو، اس کے بعد وہ بر سر اقتدار آئے ہوں، یہ شرف ایک محمد و منی میں سولتے

عثمان رضہ کے کسی کو حاصل نہیں۔

مزیدیر آئی جب خلافت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حمام آزادانہ رضا مندی سے جس کو پہاڑیں خلیفہ بنائیں تب ہی وہ خلافت ہو گئی تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنے کو خلافت کے لیے احتیٰ کیوں سمجھتے تھے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ ظاہر ہے اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہ تھی کہ وہ خلافت کے لیے حمام کی آزادانہ رضا مندی کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقِ قرابت کو زیادہ اہم سمجھتے تھے، ولہ اس کے بغیر جب حمام ایک خلیفہ پر متفق ہو چکے تھے، اپنی احیقت کی وہنا حست کی کیا ہز و دلت تھی؟ کوئی شخص اپنے طور پر اپنے آب کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے، اس میں کوئی تباہت نہیں، لیکن حمام کے کسی ایک آدمی پر متفق ہو جاتے کے بعد اس کے اٹھار کے کیا معنی؟ حمام کے متفقہ فیصلے کے بعد بھی اگر حضرت علیؓ نے اپنے احتیٰ نہ کیا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ جمہوریت کے اس تصور سے ان کا ذہن قطعاً ناکشناختا، جس کا انہیں آج مل گلے وار ثابت کیا جاسا ہے۔

حضرت علیؓ نے حصولِ خلافت کے لیے کوئی کوشش کی یا نہیں؟ اس کے لیے قابل اعتبراً کی قید کیوں؟ تاریخی روایات سے اس امر کا ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر خلافت کے لیے کوشش کی لیکن پورے طور پر اعلان و انصار تیسرہ نہ آنے کی وجہ سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے، حضرت عثمان رضہ و حضرت عوادیہ رضہ وغیرہم کے متعلق تواریخ اسے تاریخ کی ہر گزی پڑی روایت کو قبول کر کے ان پر اعتراضات کر ڈالے ہیں، لیکن یہاں حضرت علیؓ رضہ کے لیے صرف تاریخی روایت کافی نہیں، اس کا "تمالاعتبار" ہونا بھی ضروری ہے یہ کوئی سانحاف ہے؟

پھر عقوبی دیر کے لیے ہم اس اصول کو قسم کئے لیتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ حصولِ خلافت میں اس کی اپنی کوشش کا کوئی دخل نہ ہو اور یہ صحیح خلیفہ دیتی ہے جو خلافت کے لیے اپنے طور پر نہ کھڑا ہوا ہو، حمام نے اس کو اپنی مرضی سے منتخب کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ دور میں اس طرح خلیفہ بننے کی کوئی صورت ہے؟ آجکل حصولِ قدراء

کے دو طریقہ ہیں، خفیدہ سازش کر کے پندیدہ انتخاب ایا پارٹی سسٹم کے وریئر ایک ایسا رہا کہ اس کے خواہی دوستگ ہے۔ دولتیں صورت ہوں میں اقتدار اپنی بھی کوششوں کا تیتج ہو گا۔ خفیدہ سازش ایک اسی سوز راستہ ہے اسلام اسے پندیدہ قرار نہیں دے سکتا، لیکن کیا پارٹی سسٹم کے وریئر بھی حصول اقتدار کے لیے کوشش اس بنا پر ناپسندیدہ قرار ہے دی جائے گی کہ خلافاء راشدین اس طریقے سے برسر اقتدار نہ آئے تھے؟ انتقام خلیفہ کو خلافاء راشدین کے طرز انتخاب پر محدود و مخصوص کر دینے کے معنی یہ ہر کو اسلام اس سلسلے میں اپنے اندر کوئی پچک نہیں رکھتا، اولیٰ عمدی دیلے ہی مولانا کے زر دیکھ بکھر میخ ناد ہے، پارٹی سسٹم اس یہے ناجائز قرار پا جائے گا کہ خلافاء راشدین کے ذریعہ میں اس طرح نہ ہو اعتماد تیرز اس طریقے میں انسان کی اپنی کوششوں کا داخل زیادہ ہوتا ہے، اسلامی خلیفہ کا انتخاب پھر کس طرح کیا جائے گا؟

خلیفہ برحق یا مقغلب؟  
آگے مولانا لکھتے ہیں۔

”مولیٰ کیت کا آغاز اسی قام سے کی تبدیلی سے ہوا، حضرت محاویر رحمۃ کی خلافت اس فریقیت کی خلافت نہ ممکن کر سلافوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں اور سلان ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ دہنے تے دہ بہر حال خلیفہ بہرنا پہنچتے تھے ابھوں نے وہ کو خلافت حاصل کی، سلافوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انصار نہ ملتا، لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ خود اپنے زر دے خلیفہ بنے اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا چارہ کا رہ نہ ملتا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا تیتج یہ نہ ہوتا کہ وہ لپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے بلکہ اس کے سخت خوبیزی و بد نظمی کے سخت جسے ان اور نظم پر ترجیح نہیں دی جاسکتی تھی“ (مس ۱۵۸)

”انہوں نے لڑا کر خلافت حاصل کی اور اپنے زر خلیفہ بنے اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا چارہ کا رہ نہ تھا۔“ دوسری خیر القرون کے واقعات کی یہ

تصویر کشی یکسر غلط ہے، اگر فی الواقع ایسا ہوتا تو پردی ملکت اس کو یہ حضرت معاویہ رضی خلافت پر اس طرح متفق نہ ہو سکتی تھی جس طرح اس سے پہلے وہ اولین قمی مخالفوں کی خلافت پڑھوئی، حضرت علی رضا کی بیعت سے کارہ کشی اختیار کیسے رکھی، آئینی طور پر حضرت معاویہ رضی کی خلافت میں بھی اگر کوئی سُقُم ہوتا تو ناممکن تھا کہ اس کے باوجود دادی لوگ حضرت معاویہ رضی کی خلافت پر جمع ہو جاتے، ان لوگوں میں اور طاقت و شوکت سے موجودہ داد کے مسلمانوں کو رام کرنا مشکل ہے، صحابہ کرام و فقیہوں کے تابعین کب اس طرح سراحتا اعتماد کر سکتے تھے؟ اگر انہوں نے حضرت معاویہ رضی کے سامنے اطاعت و انتیاد کا مظاہرہ کیا تو اس کے صاف معنای یہ ہے کہ ان کی خلافت پر دوپوری طرح رہنا مدد ملتے۔

حضرت معاویہ رضی کے متعلق یہ تصور کہ اس وقت ان کی بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ خون ریزی کا ویدنگی ہوتا، بالکل غلط ہے، جس کا تصور ایک صحابی رسول کے متعلق تھیں کی جاسکتا، ایسے کوادر کے قبور کی قوچے صرف ایسے آدمی سے ہی کی جاسکتی ہے، جسے انہا قوچے دشمنیت کا کوئی پاس ہونہ خوف خدا اسے چھوڑ گیا ہو، حضرت معاویہ رضی ایسے خدا نا آشنا نہ رکھتے۔ دنیا میں سے کسی ایک کو تریخِ دنیہ کی جب بھی کوئی صورت پیدا ہوئی، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر دین کو ترجیح دی، اپنے اس طرزِ عمل کی انہوں نے خود و مقامات کی ہے آنکھت لاخیر میں اللہ وغیرہ الا اخترت اللہ علی غیر ما سواه، اللہ کی رضامندی اس دوسرے مقادمات میں جب بھی کوئی ملکا اور پیدا ہوا، دوسرے مقادمات کو نظر انداز کر کے میں نے اللہ کی رفنا کو اپنے یہ پسند کر لیا۔ جس شخص کا یہ طرزِ عمل ہو اس کے متعلق یہ یہ باور کرنا مشکل ہے، اکدہ معن اپنا اقدام تسلیم کروانے کے میںے مسلمانوں کے خون سے ہوئی کھیلتا، مزید برائی بنی صہل اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عازماً تھی رَأَلَّهُمْ أَجْعَلْهُ خَادِيَا وَفَهْدِيَا، یا اللہ اس کو باری و مہدری بناءً خود بھی صراط مستقیم پر چلنے والا اور دوسرے

کو بھی اس پر چلا نے والا۔ اللہ نیز بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت معاویہؓ کو خلیفہ بننے کی خوشخبری دی تھی اور ساتھ ہی ان کو فصیحت فرمائی تھی کہ ایسی صورت میں سنت کے ساتھ نیک سلوک اور عفو و درگز ر سے کام لینا۔ اب اگر مولانا کے تبلائے ہوتے نہیں تو صفحہ قسمیت کر دیا جائے تو اس سے یہ احادیث بے معنی ہو کر وہ جاتی ہیں جانکروں میں صدی بھر کے مشہور فقیہہ ابن حجر عسقلانی اس مکتبے پر روشنی ڈالتے ہوئے ملکتے ہیں۔

وہ انور کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر دیا اس بات کی بعتری کہ ان کو حکومت سے

گی اور اس کے ساتھ ان کو نیک سلوک کی تعلیم کی، یہ حدیث ان کی محتہ خلافت کی طرف اشارہ کرنے ہے اور یہ کہ شخص رہ کی دست برداری اور ان کی معیت ہو جانے کے بعد ان کی خلافت برحق ہے اس لیے کہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو حسین سلوک کا حکم دیتا، جو حکومت حاصل ہو جانے کے بعد ممکن تھا، اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ان کی حکومت خلافت برحق اور ان کے افعال و تصرف اسی طرح صحیح تھے جس طرح خلافت صحیح طریقہ سے حاصل کرنے کے بعد کسی خلیفہ کے ہوتے ہیں، زنگنہ اور خلیفہ سے ملاقات حاصل کرنے والے کے ۱۔ اپنے زادے سے خلافت حاصل کرنے والے شفیع تو فاست اور سزاوار حساب ہوتا ہے اور زبشارت کا مستحق ہوتا ہے اور اس بات کا کہ اس کو حسین سلوک کا حکم دیا جائے، البتہ زبرد تو نیز کا وہ مزود مستحق ہوتا ہے اور یہ کہ اس کے برے افعال اور فساد احوال کی اخلاقی دیجائے معلوم رہ جیں اگر اپنے نعمت سے خلافت حاصل کرنے والے ہوتے تو نیز صلی اللہ علیہ وسلم مزور اس کی مراثت یا کہ انکم اس کی طرف اشارہ ہی کر دیتے، جیسا انہوں نے ایسا کوئی اشارة بھی نہیں کیا بلکہ بیراثت ایسے امور کی بعتری ہے جو ان کے برحق ہونے پر وفات کرتے ہیں، تو اس سے ہیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت حسینؑ

کی دوست برداری کے بعد معاویہ نجیف برحق اور پسکے امام ہیں،  
عام الجماعت اور مولانا کے چند باتات -  
مولانا لکھتے ہیں -

و اسی یہے امام حسن رضی اللہ عنہ کی دوست برداری (رسیع الاول رضی اللہ عنہ) کے بعد  
تمام صحابہ و تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا اور اس کو  
”عام الجماعت“ اس بنا پر قرار دیا کہ کم باہمی خانہ جگی تو ختم ہوتی ہے  
یہ صحابہ کرام کے کوادر کا کوئی صحیح تصور نہ ہو گا، اگر قسم کر لیا جائے کہ انہوں نے محقق  
ڈاکٹر حضرت محاویرہ رضی کی بیعت پر اتفاق کیا۔ صحابہ و تابعین ایسے بزرگ اور ڈرپوک نہ سمجھ کر  
باعل کے مقابلے میں ہماہنگت سے کام لیتھے، خون ریزی تو باتا درہ مستحی تصادم کے نتیجی میں  
ہی مکونی بھتی، حق گوئی کا فریضہ تصادم کے بغیر بھی ادا کیا جاسکتا تھا۔ معاویہ رضی کی ایسے ہی جلواد  
وسفارک عتے کہ دو چار لاکھیوں کی حق گوئی کی بنا پر ہی پوری حملہت میں خوف کی ندیاں بہافیتے  
پھر یہ کیا بات ہوئی کہ خون ریزی کے مقابلے میں انہوں نے ان کو ترجیح دی اور اسی بنا پر ان  
کی بیعت پر اتفاق کر لیا؟

صحابہ کرام و فقہاء تابعین کو انتشار و افتراق کے بعد امت کے دوبارہ متحد و متفق ہو جانے  
کی جو خوشی سنتی اس کی بنا پر، معاویہ رضی جس سال خلیفہ بنے، اس کا نام ہی ”عام الجماعت“ رکھ دیا  
گیا، اتحاد و اتفاق کا سال۔ لیکن معلوم ہوتا ہے، مولانا کو اس بے پناہ خوشی کا اندازہ نہیں  
یا خود مولانا کو مسلمانوں کے اس اتفاق پر کوئی خوشی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ”عام الجماعت“  
کو وجہ تسمیہ کی بھی یہ لکھ کر خط تو جیسا کہ رہے ہیں کہ ”اس کو“ عام الجماعت“، اس بنا پر قرار دیا کہ  
کم از کم باہمی خانہ جگی تو ختم ہوتی“ گویا ان کو حرف خانہ جگی کے ختم ہونے کی تو خوشی ہوئی  
لیکن حضرت معاویہ رضی پر امت کا جو اتفاق ہوا، اس سے ان کو کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ وہ حضرت  
معاویہ رضی کے خلیفہ بھی جانے پر اسی طرح پیچ و تاب کھاتے رہے جس طرح آج کی بیعنی لوگ

خواہ ہے ہیں۔ اے حضرت معاویہؓ کی ایک تقریب!

اس کے بعد مولانا نے حضرت معاویہؓ کی تقریب کا ایک اقتباس اس انداز سے نقل کیا ہے کہ اس کا دعہ مفہوم نہیں رہتا یہ فی الواقع منتظر ہے، ہم حضرت معاویہؓ کی وہ پوری تقریب نقل کرتے ہیں، درمیان میں وہ اقتباس بھی آجاتے گا جو مولانا نے نقل کیا ہے۔

حضرت معاویہؓ اپنی صلافت کے پچھے سال جب مدینے آئے تو الہار قریش نے ان کا استقبال کیا اور ان سے کہا "اے اس اللہ کا خلیل ہے جس نے آپ کی مدد کی اور آپ کو عزت و سر بلندی حطا فرمائی۔ آپ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور شہر میں آگر سید سے مسجد میں گئے اور وہاں جا کر تقریب کی، حملہ شنا کے بعد آپ نے فرمایا:-

مر بذریعیں تمہاری حکومت کی نیاز کار اپنے ہامخی میں بیٹھے ہوئے اس بات سے  
خواقت نہ تھا کہ تم میرے بر سر اقتدار آنے سے موہق نہیں ہوا اور اس سے پشتہ نہیں  
کرتے۔ اس معاملہ میں بوجوچھہ تمہارے دلخیل میں ہے، اسے حبوب جانتا ہوں گر میں نے  
لپھنی اس حکومت کے زد سے تم کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے۔ میں نے اپنے نفس  
کو اپنی ابی تھا فر (ابو بکرؓ) کے طرزِ عمل پر چلانے کے لیے آنکھ دی کیا۔ گر میں نے اس کو  
اس سے خاہیز پایا اور اس پر تکلفت ہی نہیں رکھتا۔ پھر میں نے اس کو اپنی الحطا ب  
(حمرہؓ) کے طرزِ عمل پر آنکھ دی کیا، اس سے بھی وہ پیدا اور جہاگ کھڑا جوا، پھر میں  
نے قہمان رضا کے سے عمل کا تصدیکیا، اس سے بھی میرے نفس نے انکار کر دیا اس ب  
آن جیسے لوگ کہاں؟ اندھا کے سے کروار کو اپنا نے کی طاقت کس میں ہے؟ یہ  
بہت ہی بیدار ہے کہ ان کے بعد کوئی ان کے شرف و فضائل کی پاسکے اور حستہ اشود و ضمود  
طیح ہے۔

البتہ میں نے جو طریقی کارا ختیار کیا ہے وہ ایسا ہے جس میں میرا اور تمہارا وہ قوں  
کا قائد ہے، ہر ایک کو اس کے ذریعہ معمول و متناسب سامان خورد و فوش میسر  
آئے گا، بشرطیکریم اطاعت کیش اور سیرت و کرامہ میں راست رو ہے۔ تم اگر

محجہ کو اپنے میں سب سے بہتر نہ پاؤ، تو کم اذکم اپنے حق میں بہتر مزدہ پاؤ گے  
 تم میں سے جس کے پاس تلوار نہیں میں بھی اس کے خلاف تلوار کشی سے  
 احتراز نکلوں گا۔ جو کچھ پستے گزر چکا میں نے اسے فراموش کر دیا ہے لیکن پچھے  
 واقعات کی بتا پر کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی) آگر تم دیکھو کر میں  
 تمہارا حق پورا ادا نہیں کر رہا ہوں تو معمول سے پر محجہ سے راضی ہو، لیون کرب  
 خطرات کے بادل چھٹ پکھے اور اسی بحال ہو گیا ہے (اس کو قائم مکھتا فرم اور  
 جوش کی بجائے ہوش کی مزدودت ہے) سیلاب کی شدائد اپنے سامنہ تباہ  
 لاتی ہے لیکن اس کا یہ موسم ہوتا اس سے تباہی کا خطرو نہیں ہوتا، غصہ اڑائیوں  
 سے اپنے کو عوذر کھو، اس سے زندگی فاسد، نعمتوں کی ناقدری اور تباہی د  
 بر بادی ہی حق ہے میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ لے ہم سب کو اپنی مغفرت سے نواز لے۔  
 مولانا نے اپنے اسی سطین اور اس کے بعد گے جا کر ایک فقرہ نقل کیا ہے، ان دونوں  
 پر ہم نے خلط کھینچ دیا ہے، مولانا نے یہ اقتباس اس امر کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ حضرت  
 معاویہ رضیؑ نے تلوار کے ذریعے سے خلافت حاصل کی تھی، جس کا احساس خود انہیں بھی تھا  
 لیکن اول تو یہ روایت پوری باسند نہیں، ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے لیکن کسی مورخ سے  
 نہیں بلکہ ایک ادیب سے ظاہر ہے ایک ادیب کے تزویک حقائقی و واقعات اتنی اہمیت  
 نہیں رکھتے، جتنی اہمیت اس کے تزویک زبان و بیان کی لفاظتوں اور ترجمتوں کی ہوتی  
 ہے۔ اصمی نے اس خبلے میں ان خوبیوں کی جملک دیکھی، اس کو نقل کر دیا، ابن کثیر نے بھی  
 اپنے طرزِ عمل کے مطابق اسے اپنی کتاب میں اسی طرح نقل کر دیا، جس طرح اور بہت سی  
 بے اصل پیزیں انسوں سے نقل کی ہیں۔

ثانیاً مملکت میں حضرت معاویہ رضیؑ کے متعلق اس قسم کی پچھلیوں ہو رہی ہوں تب تو یہ  
 مانا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضیؑ کو اپنی پوزیشن کی وفاحت کرنی پڑتی ہو، لیکن جب

واقعہ ایسا نہیں، انہوں نے تلوار کے ذریعے سے خلافت محاصل ہی نہیں کی، ان لوگوں کے ذہن میں اس قسم کی باتیں تھیں، تو حضرت معاویہ رضہ کو کیا پڑی تھی کہ خواہ مخواہ اپنی پوزیشن کی وضاحت کرتے پھر تھے۔ پھر استقبال کرنے والے اکابر قریش نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کی عزت و سر بلندی پر خدا کا شکر ادا کیا، ادنیٰ اسا اشارہ بھی انہوں نے اس طرف نہیں کیا کہ آپ نے ہم پر بزرگ پا تسلط قائم کیا ہے، لیکن حضرت معاویہ رضہ نے ان کے استقبال اور عزت افزائی کو خوشامد پر محظوظ کر کے ان کی بات کا جواب ہی نہ دیا ہو، اور فرد امسجد میں اُک ایک تقریر برداشت کر دیا ہو، یہ بھی سمجھ سے بالا ہے اس روایت میں اگرچہ بہت سی کام کی باتیں ہیں لیکن بہر حال یہ روایت اسنادی و واقعاتی حیثیت سے محل نظر ہے۔

طریقہ ولی عہدی۔ تعاملِ امت۔

مولانا نکھتے ہیں۔

”اس طرح جس تغیرتی ابتداء ہوئی تھی یہ زید کی ولی عہدی سے وہ ایسا استحکام ہوا کہ موجودہ صدی میں مصطفیٰ کمال کے اتفاق سے خلافت نکل ایک دن کے لیے بھی اس میں تزادل واقع نہ ہوا۔ اس سے جری بیعت اور خاندان انوں کی موروثی پادشاہست کا ایک مستقر طریقہ چل پڑا۔ اس کے بعد آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پہنچنے کا کوئی موقع نہیں نہ ہوا۔ مگر کوئی مسلمانوں کی اہل قویہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے۔ حقاً، اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے لیکن اگر کوئی بیعت نہ بھی کرتے تو اس کا نتیجہ ہرگز نہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آگئی ہو وہ ان کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے ہوت جائے“ (من ۱۵۹)

اگر الواقع طریقہ انتخاب میں یہ تغیرت ہوا ہے تو اس کی ابتداء حضرت حسن رضہ کی خلافت سے ہوئی، اور اس میں استحکامِ زید کی ولی عہدی سے نہیں، حضرتِ روانہ کے بعد ان کے بعد عبید الملک کی ولی عہدی سے ہوا، جس طرح کہ پہلے دھناعت کی جا چکی ہے۔ مزید براں یہ اگر کوئی خلط طریقہ تھا تو اس کی ابتداء کرنے والے اتنے مجرم نہیں جتنا مجرم خود انتہت مسلمہ ہے۔ یعنی الواقع بذلت خود خلط طریقہ تھا تو یہ وجہ ہے کہ تیرہ سو سال کی پوری تاریخ اسلام

میں ہزاروں لاکھوں اور کھڑوں علمائے حق ایسے گزرے جنہوں نے کبھی اقتدار کو جک کر سلام نہیں کیا، ان سے آنکھیں چار کیں، ان کی غلط رویوں پر ہمیشہ تنقید کی، کئی مسائل میں ان سے لاٹ گئے لیکن نہ لکن کے بیان کرنے سے باز آئئے نہ اس میں کسی قسم کی کلیٰ ترمیم کرنے پر نہ مانند ہوتے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی مستلزمی عمدی پر لب کشانی نہ کی، کسی فسیر و صاحت نہیں کی کہ یہ ایک غلط طریقہ چلا آ رہا ہے جو قابض اصلاح ہے۔ صاحبِ کرام کے دور میں ایسا ہوا، تابعین کے عدد میں ایسا ہوا، تبع تابعین کے دور میں فقار و عمدہ نہیں کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے جن میں سے بھتیوں نے کئی مسائل میں حکومت وقت سے مکر لی، تازیا نے سنتے اور قید و بند کی صوبتیں جیلیں۔ پھر ان کے تلامذہ میں ہزاروں علمائے حق ایسے ہوتے جنہوں نے جان پر کمیل کر اسلام کی حفاظت کی اس ب کے ساتھ خلقاً مرتب رہے اور ان کی بھگ اور ایک بیشے یا فقری رشتہ دار منصب خلافت پر قاتز ہوتے رہے، علماء ان کی ہر غلط بات، ہر غلط روشن اور غلط حکم کو شکرا تے اور ان پر تنقید کرتے رہے، لیکن کسی نے اس "جرأتِ زندانہ" کا مظاہرہ نہیں کیا جس کی سعادت آج مولا تامود و دودی صاحب کو حاصل ہوئی ہے۔ کسی نے اشارہ اور کتابت سے بھی یہ نہیں کیا کہ مل عمدی منبع فساد تو کجا، ایک غلط طریقہ ہے جس کو بدلتے کی مزورت ہے۔ ہمارے پاس اس امر کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اور تمام مسائل میں ہمیشہ علمائے حق نے لگ پیٹ رکھے بتیر دوڑک طریقے سے حق گوئی کا فرضہ ادا کیا، لیکن مرف اسی ایک مشکلے میں ان کی جرأتیں اور ہمتیں جواب دے گئی عین، ہم تو یہی سمجھیں گے کہ ان کی نظریں فی نفسہ طریقہ ولی عمدی میں کوئی خوبی یا قیامتی الیٰ دستی جس سے اسلام کا کوئی تقاضہ موجود دیا مال ہوتا ہو، الگ ایسا ہوتا تو وہ ضرور اس کی بھی اسی طرح و صاحبت کرتے جس طرح وہ اس طریقے سے بر سر اقتدار آنے والے خلفاء کی غلط رویوں کی وفاحت کرتے رہے دنیا کا کوئی خوف یا لامپخ ان کو اس سے نہ روک سکا، رحمة اللہ در ضوازن عالم اجمعیین۔

پردی امت مسلمہ کو اتنا بر دل خیال کر لیتا کہ ان میں یہ مجال ہی نہ تھی کہ جس کے ہاتھیں اقتدار آیا ہما تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ اکثریت اس طرح کرتی تب بھی بات

قابل قسم ہوتی، ایک بھی صاحبِ جرأت ایسا نہ ہوا جو انکار کر دے، سراسر ناقابل تسلیم ہے، مٹک ہے ان کے بیعت نہ کرنے کا نتیجہ ہرگز یہ نہ ہونا ملتا کہ وہ اقتدار سے ہٹ جاتے لیکن لوگوں کے اس طرح کرنے سے حقیقت حال تو واضح ہو جاتی، ان کے ذمہ جو حقیقتی کا فرضیہ تھا، اس سے تو وہ سبکدوش ہو جاتے اور ایک خلط طریقہ، جوش و روع سے چلا اکہا تھا اس کی نشاندہی ہو جاتی، جس سے اس وقت نہ سہی، آگے چل کر ہی اس کی اصلاح کی کئی صفت پیدا ہو جاتی نصبِ خلافت کا صحیح طریقہ؟

مولانا مزید لکھتے ہیں۔

”یہاں یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ مسلمانوں کی آزادانہ مشاورت کے بغیر چون خلافت یا امارت بزرگ قائم ہو گئی ہو وہ آئینی طور پر منعقد ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اصل سوال منعقد ہونے یا نہ ہونے کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ اسلام میں نصبِ خلافت کا صحیح طریقہ اکاہد ہے جس سے تعلق اُسراشدنیں ہوئے، یا وہ جس سے حضرت معاویہ رض اور ان کے بعد کے لوگ خلیفہ بنئے؟“ (ص ۱۶۰)

لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ”آزادانہ مشاورت“ کا وجود خلافتِ راشدہ میں بھی کام ہے؟ کیا حضرت ابو بکر رض عوام کی آزادانہ مشاورت کے بعد خلیفہ بنے تھے یا حضرت ابو بکر رض نے حضرت عمر رض کو ”آزادانہ مشاورت“ کے بعد اپنا جانشین نامزد کیا تھا؟ حضرت علی رضیا عوام کی آزادانہ مشاورت کے بعد برسر اقتدار آئئے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے اور حقیقتاً نہیں ہے تو آزادانہ مشاورت ہی نصبِ خلافت کا صحیح طریقہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر رض نے بغیر کسی مشاورت کے اپنی ذاتی رائے اور صواب دید سے حضرت عمر رض کو اپنا ولی عمد نامزد کی بعد کے خلفاء نے بھی اس طرح اپنے طور پر نامزد گیاں لیکن، فرق یہ ہے کہ بعد میں نامزد کرنے والا نہ ابو بکر رض تھا، نہ کوئی ایسا ہوئی سکتا تھا، نہ نامزد ہونے والا عمر رض تھا، اذ اس کا مکان ہی تھا کہ وہ ایسا ہو۔ بعد کے خلفاء اپنے بیٹوں کی بجائے عوام ہی میں سے کسی فرد کو اپنا جانشین نامزد کرتے تب بھی لوگوں کے ذریعوں اور دلوں میں ناگوار اثرات اور تغییاب مزود پیدا ہوتی، اور ان سے بھی نوابیاں اسی طرح ظہور پذیر ہوتیں جس طرح باپ کی گدی پر بیٹہ کو حکومت کرتے

وائے خلیفہ سے ہوتی رہی ہیں، اس کو کوئی شخص نہیں لوک سکتا تھا، خدا یہوں اور تلمذیوں کا خلود  
طبعی و دیگر خارجی اسیا ب کا نتیجہ تھا نہ کوئی عمدی کا، قرآن و حدیث کی کسی نص سے یہ ثابت  
نہیں کہ پاپ اپنے بیٹے کو اپنا جائز شین نامزد نہیں کر سکتا بلکہ اس کے بر عکس جواز کے دلائل ملتے  
ہیں، اب سلسے میں اب خلدون کی مراثت پہلے ذکر کی جا چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ  
تمام صحابہ ولی عمدی کے جوازِ متفق ہتھے، نیز پاپ اپنے بعد اگر اپنے بیٹے کو نامزد کر جائے  
تب بھی نامزد کرنے والا خلیفہ حسن ؓ کا مستحق سمجھا جائے گا، امام ابن حزم نے بھی اس کے  
جوائز کو تسلیم کیا ہے بلکہ نامزدگی کو انہوں نے نسبتِ خلافت کا سب سے بہتر طریقہ بتلیا ہے  
چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

خلافت کا اختلاف کئی صورتوں سے صحیح ہو سکتا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ، افضل احمد  
صحیح ترین صورت یہ ہے کہ مر نے والا خلیفہ اپنی پستد سے کسی کو ولی عمدہ نامزد کر فے  
چاہے یہ نامزدگی حالتِ صحبت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو یا عین مر نے کے وقت ہو  
اس کے بعد جواز پر نہ کوئی نص ہے دراجا ع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیرکرؓ  
کو ادا ابو بکرؓ نے عمرؓ کو اور بن مطر جیحان بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز  
کو نامزد کیا۔

یہ صورت ہمارے فرزیدک مختار پستدیدہ اور اس کے علاوہ دوسری صورتیں ہا پستدید  
ہیں، کیونکہ اس صورت میں امت، کا تھا اور اصولِ اسلام کا انتظام قائم رہتا ہے ایز  
اختلاف اور شورش رابطے کا خوف نہیں رہتا، اس کے بر عکس دوسری صورتوں میں یہ  
متوافق ہے کہ ایک خلیفہ کے دنیا سے انٹھ جانے کے بعد امت میں اثار کی اور امور  
شریعت میں انتشار پیدا ہو جائے اور صورتِ خلافت کی کوشش لوگوں کے اندر مفع  
کے جذبات پیدا کر دئے ۔

اس سے قبل ابن حزم نے یہ بھی کہا ہے کہ خلیفہ اگر کسی شخص کو امت کے لیے بہتر سمجھے

اور اس کے پس پر وہ اس کی خواہشِ نفس کی کارفرمائی بھی نہ ہو تو بلا اختلاف فلیحدہ مگر ایسی صورت میں خلافت صحیح طور پر منعقد ہو جائے گی، اس کے بعد مزید انہوں نے بعض حضرات کے اس دعوے کا بُطلانِ واضح کیا ہے جو لکھتے ہیں کہ خلافت کا انعقاد اس صورت میں صحیح ہے جب تک کے قامِ فضلہ کس شخص کی خلافت پر متفق ہوں، انہوں نے پوری وفاحت سے اس نقطہ نظر کی تردید کی ہے۔

مزید برآئی اس کی پشت پر پوری امت کا اجماع ہے جو اس کی صحت پر وال ہے، اس مفہوم کی ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ لا مجتمع امتی علی الفضلات، بنی اسرائیل و سلم نے فرمایا ہے، امیری امت مگر ابھی (کسی غلط طریقے) پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ ان حقائق کی موجودگی میں آخر ہم کس بیان پر اس طریقے کو غیر صحیح کہ سکتے ہیں؟ مخفف اس فتوے کی گوئی سے متاثر ہو کر جو آج کل نہ کارانِ مغرب اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے "جمهوریت" کے نام سے لگادھے ہیں، یعنی مسلمان تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک مغرب اور اس کے مشرقی شاگردین کا اجماع جنت نہیں، ان کے نزدیک جنت ہے تو صرف قرآن و حدیث منہاجِ صحابہ اور ائمۂ رحمۃ۔

اسلام کی ایک ہدایت کا منظہ مفہوم -  
مولانا کھٹکی ہیں -

"ایک طریقہ کسی ہم کے کرنے کا نہ ہے جس کی اسلام نے ہم کو ہدایت دیا ہے  
دوسرے طریقہ اسی ہم کے کرنے کا وہ ہے جس کے مطابق اگر دن کا کو الہ جائے تو  
اسلام سے برداشت کریں کہ ہمیں ہر فرض اس لیے تلقین کرتا ہے کہ اسے مٹانے اور  
بدلتے کی کوشش کیں اس سے بھی نیا دہ بدتر حالات پیدا نہ کر دے۔ بلکہ انہم کے  
لئے شخص جوان دلوں کو ایک دریے میں رکھ دے اور دوسرے کیسے کہ اسلام میں  
بیداری طریقہ یکساں جائز ہیں، ایک مخفف جائز نہیں بلکہ میں مطلوب ہے۔ دوسرا کو

جاہز ہے تو قابل برداشت ہونے کی حیثیت سے ہے نہ کہ پسندیدہ اور مطلوب ہونے کی حیثیت سے ॥ (من ۱۶۰)

لیکن اسلام نے یہ ہدایت کب اور کام دی ہے کہ آزادانہ مشاورت "ہمیں نصب عدالت کا صحیح اپسندیدہ اور مطلوب طریقہ ہے؟ خلافائے راشدین کے طرزِ عمل کو اگر اسلام کے ہمیں سمجھ لیا جائے تو تب بھی یہ بات ممتاز چیز ثبوت ہے کہ ان کا انتخاب "آزادانہ مشاورت" کے بعد ہوا تھا، ہم و صاحبت کر آئے ہیں کہ خود خلافائے راشدین کا انتخاب بھی اس طرح آزادانہ شورت کے بعد نہ ہوا تھا جو اس کا فہم آج تک لیا جاتا ہے۔

مزید برآئی اسلام نے ہمیں جن امور کو برداشت کر لیئے کی طرف اس لیتے تلقین کی ہے کہ اسے مشانے اور بد لئے کی کوشش کیں اس سے بھی زیادہ بدتر حالات پیدا نہ کروئے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایسا سے مواتع پر طلاقت کے استعمال اور مسلح تھاہم سے گریز کیا جائے پتھر حالات صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کب ہے؟ کہ اس کو برداشت کرنے کے ساتھ ایسی مناسب اور معقول تدبیر بھی اختیار نہ کی جائیں، جن کے ذریعہ بدتر حالات پیدا ہونے کا امکان کم اور اصلاح کی موقع زیادہ ہو یا کم از کم احتقار حق کا فرضیہ ہی اس سے پورا ہوتا ہو، اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے درمیں رائی منکم منکرا اللیغیرہ بیٹھوں لم پھیقم فبلسان۔ - نقیبہ (ملکوہ) تم میں سے جو شخص کوئی برآہم یا غلط طریقہ دیکھے اس کو چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کی برائی واضح کر دے، اگر ایسا بھی نہ کر سکتا ہو تو اس کو دل سے برا سمجھے لیں یہ تیسری صورت ایمان کا کمزور تین درجہ ہے و ذکر اضعف الایمان "ہم محتوری دیر کیلئے تسلیم کر لیتے ہیں، اگر دلی عمدی کا طریقہ نامطلوب و ناپسندیدہ اور برآہم تھا، لیکن پھر علت کا فرض تھا کہ وہ طلاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کرتی، اس طرح اگر بدتر حالات پیدا ہوئے کا اندریشہ تھا تو احتقار حق، یعنی مسئلے کی نوعیت کی وصاحت کہ فی نفسہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے تو امت کا ایسا فرض اور ذمہ داری محتی جو کسی صورت میں معاف یا ساقط نہیں ہو سکتی تھی عوال یہ ہے کہ اس ذمہ داری اور فرض سے صحابہ کرام، تابعین و تبعیع تابعین، افقاء و محدثین

اود تمام ائمہ کرام نے کیوں غافت بر قی؟ ان کی زبان و قلم پر تو پرے نہ ان کے وقت کی حکومتوں نے بھٹا کئے نہ اسلام ہی نے اس قسم کا کوئی حکم دیا ہے، حقیقت گوئی کافریتہ تو نازک ترین صورتوں میں بھی مزدودی ہے۔ طاقت کا استعمال ہیں کیا گیا جس سے فی الواقع اسلام نے روکا ہے، مشیک ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ معقول و مناسِب تدبیر بھی اختیار نہ کی گئیں، جس کی ایسے موقعیں پر اسلام نے ہدایت کی ہے یا کم از کم زبان و قلم سے ہی لیوں نہ اس طریقے کا غلط ہونا واضح کر دیا گی جو اہم الفرائض میں سے تھا، امت کے ان تعالیٰ سے معلوم ہوا کہ ولی عمدی کی صحت اور اس کے جواز کے تمام علاوہ تأمل متنے اور یہ کہ انہوں نے اس کو محض اس لیے قابل برداشت سمجھا کہ اس کو مٹانے یا یاد لئے کی صورت میں فارم زید کا اندریشہ تھا۔ یہ انداشت اگر خفا تو صرف طاقت کے استعمال یا سلحنج تعدادم کی صورت میں رکھ مسئلے کی اصل نوعیت واضح کرنے میں بھی۔

**خلفاء کے طرزِ زندگی میں تبدیلی؟**

دوسری نیایاں تبدیلی جو "مولیٰ کیت" کے بعد مولانا کے زخم میں ہوتی وہ یہ ہے کہ با دشائی قسم، خلفاء نے قصر و کرنی کا ساطر زندگی اختیار کر لیا، انہوں نے شاہی محلات میں رہنا شروع کر دیا۔ شاہی حُرس ریاضی گارڈ (ان کے محدود کی حفاظت کرتے اور ان کے جلو میں چڑھنے کے حابیب و دریان ان کے اور عوام کے درمیان حائل ہو گئے۔ رعیت کا براہ راست ان تک پہنچنا اور ان کا خود رعیت کے درمیان رہنا سہنا اور چنان پھرنا بند ہو گیا۔ اپنی ریاست کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اپنے ماتحت کار پر داڑوں کے متعارج ہو گئے، اور رعیت کے لیے بھی یہ ممکن تر رہا کہ بلکہ تو سط اون تک اپنی حاجات اور شکایات سے کوچھ سکیں، ایہ طرزِ حکومت اس طرز کے بالکل پرعکس طبیعیں پر خلاف تھے راشدین حکومت کرتے تو وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یہاں ہر شخص فریاد سے آزادی کے ساتھ مل سکتا تھا۔ وہ پانچوں وقت عوام کے سامنے انہی کی صفو، میں غازیں پڑھتے تھے اور عوام کے اعتراض کے جواب بھی خود دیا کرتے تھے، لیکن مولیٰ کا درود شروع ہوتے ہیں اس نو نے کو چھوڑ کر روم و ایران کے با دشائیوں کا نمود:

انغیار کر لیا گی۔ اس تبدیلی کی ابتداء حضرت معاویہ رضہ کے زمانہ میں ہو چکی تھی، بعد میں یہ رابرٹ ڈھنی ہی پڑی گئی (ص ۱۴۰-۱۴۱)

### حقیقت حال

یہ پورا بیان سطحی اور خلاف واقع ہے، تو لا یہ تبدیلی طوکیت کے ساتھ ہی شروع نہیں ہوئی۔ بہت بعد میں جاکر ہوتی ہے "طوکیت" کا آغاز یقول مولانا الحصین ہوا جب حضرت معاویہ خلیفہ بنے، لیکن ان کے دور میں تبدیلی کے یہ اشارتیں ملتے، ان کی معاشرت اسی طرح سادہ تھی جس طرح خلافے راشدیں کی تھی۔ گریان چاک اور پوند لگے بیاس میں بیوس رہتے تھے شاہی حرس کے بغیر، عوام کے درمیان بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور اسی حال میں ان کے سامنے تقریریں کیا کرتے تھے۔ ان تک براہ راست رعایت کا ہر فرد پہنچ سکتا تھا۔ عوام کی اہم دو خود کریما کرتے تھے، فائز خظر کے بعد مسجد میں آپ عرض اسی مقصد کے لیے بیٹھنے رہا کرتے تھے کہ ہر شخص اپنی حاجت بلا روک ٹوک ان کے سامنے پیش کر سکے، اسی طرح شام کے وقت بھی آپ لوگوں کو ملاقات کا وقت دیتے تھے اس کے علاوہ بھی آپ نے ایک شفعت کو اس کام

ملہ البدایۃ والنہایۃ، ج ۲، ص ۱۳۷، کتاب الرہد، امام احمد بن حنبل، ص ۱۷۱، بحوالہ تعلیقات ابوالحسن بن القاسم ص ۲۰۹  
بعد کے خلافاد میں بھی جو سادگی تھی، اس کا اندازہ ہشام بن عبد الملک کے ایک اقتدار سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے عقلی بن شیشه کرتے ہیں کرمی ہشام کے پائی گئی اننوٹ ایک سرزقیا پسے اپریل ہوتی تھی، مجھے انہوں نے خداوند کی طرف روانیکی روانگی سے قبض مجھے دیست اور ہے تھے اور میری نکاراں نبایار گڑ فی ہوئی تھیں خلیفہ سمجھ گئے۔ مجھے سب سوچا گیا باستہ ہے؟ "میں نے کامیابی کرنے سے پہلے میں نے اسی طرح کی ایک سرزقیا آپ کے پاس دیکھی تھی امیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمی تباہ ہے یا کوئی اور ہے؟" خلیفہ ہشام نے کہ "خدا نے واحد کی قسم یہ وہی تباہ ہے، امیر سے پاس اس کے علاوہ اور کوئی تباہ ہے ہکائیں" اطہری، ج ۲، ص ۲۰۱، البدایۃ والنہایۃ، ج ۲، ص ۱۳۵

لے اب خلدون نے مرادت کی ہے کہ اموی خلافہ خود امانت کرایا کرتے تھے، جو اسی کو درمیں خلافاً نے تو وہ نہ پڑھا تھے کی بجائے اس کام کے لیے اپنے نائب مقرر کشہ مقدمہ مابین خلدون فصل الخطوط الیمنیۃ المذاہف ص ۲۸۹-۲۸۸  
سلہ المسعودی مردوخ المذهب، ج ۲، ص ۲۰۲، مطبوعۃ البہتۃ مصر، ۱۳۷۷ھ۔

بہ سامور کیا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کی خروجیات و م حاجات معلوم کر کے ان تکمیل پرچائے، ایک شخص کا نظر اتریہ کام تھا کہ وہ جگہ جگہ حکوم پیر کریہ معلوم کرے کہ کسی کے بیان کوئی فوود پرچ تو نہیں ہو یا باہر سے کوئی وفد اور مہمان تو نہیں آیا، اس قسم کی اطلاع ملنے پر پنچتہ کا وظیفہ اور مہمان فوازی کا انتظام حکومت کی طرف سے کر دیا جاتا۔ آپ نے جس انصاف و مساوات سے حکومت کی وہ حزب المشـل تھا، ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے امام اعشـرؑ کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے عدل و انصاف کا تذکرہ کیا تو امام اعشـرؑ نے ان سے کہا "کاشش تم معاویۃ کا زبان پا تے تو پھر ان کے عدل و انصاف کو دیکھتے ہو ابا سحق میں نے ایک مرتبہ مجلس میں حضرت معاویۃؓ کے متعلق کہا "اگر تم معاویۃ اور ان کے دہلی حکومت کو دیکھتے تو بے اختیار پکارا میختھن کریں مہدیؓ ہے" اسی یہیے حافظ ابن کثیر حضرت معاویۃ اور ان کے دہلی حکومت کے منتقلی بتھوڑ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَهُمْ بِسِيرَتِ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِ، مُحَمَّدٌ الْأَبْيَانُ وَالْأَبْيَانُ  
پر وہ پوش شخص بھتے، ان کے دھن میں دشمنوں سے جہاد ہماری اور اللہ کا لکھر بلند رہا، اطراف و اکناف سے ان کی طرف غنائم کی رسیل پیل عتیق نام مسلمان ان کے سایہ میں راحت و عدل اور عفو در گزر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔

الْعَفْوُ كَثِيرٌ السُّنْتُ، ..... وَالْجِهَادُ فِي بِلَادِ  
يَعْدُ وَقَاتُمْ وَكَلِمَةُ اللَّهِ عَالِيَّةُ، وَالْغَنَامُمْ تَرَدُ  
إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَافَاتِ الْأَرْضِ، وَالْمُسْتَمِونَ  
مُحْفَفُو سَاحَةِ وَعْدَالٍ وَصَفْقٍ وَعَفْوٍ۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ لکھتے ہیں۔

لئے البدایۃ والنہایۃ، ج ۸، ص ۱۲۹ -

لئے البدایۃ والنہایۃ، ج ۱۰، ص ۱۳۰، منہاج السنۃ، ج ۱۳، ص ۱۸۵ -

لئے منہاج السنۃ، ج ۱۲، ص ۱۸۵ -

لئے حوالہ مذکور

لئے البدایۃ والنہایۃ، ج ۸، ص ۱۱۹، ۱۱۶ -

فصال معاویۃ فی حسن السیرۃ والعدل  
والاحسان کثیرة... لدیکم من هنوك  
المسیحیون ذلك خیر من معاویۃ  
ولامان الناس فی زمان ملک من الملوك  
خیر امن صدقی ناجیہ معاویۃ... هل توجہ  
سیرۃ احدا من الملوك مثل سیرۃ معاویۃ  
معاویۃ جیسا کوئی بادشاہ پایا جاتا ہے؟"

دوسرے سبوبوں کے جو حضرات برائے لاست حضرت معاویۃ رضی سے اگر نہیں مل سکتے تھے، ان سبوبوں کے گورزوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ معاویۃ رضی کے پاس، مرکز خلافت میں اپنا کوئی قائد میجھتے تو شہر میں پہلے عام منادی کر دیتے ہے کہ جس شخص کو امیر المؤمنین سے کوئی کام ہوتا تو وہ لکھ کر ہمیں دیدے سے، اس طرح گویا ملک کے دوسرے سبوبوں کے گورزوں اور اہل کار بھی عموم کے ساتھ کسی قسم کی نااضافی کی جو رأت نہ کر سکتے تھے، ایکو نکہ مرکز خلافت عوامی شکایات کے لیے ہر وقت محلہ رہتا تھا۔

شامہنہ کو تدریک کے مقابلے میں حضرت معاویۃ رضی میشہ اسلام کی سادگی کو تربیح دیتے تھے، یہکہ زیر اکابر ایک مجمع میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے لوگئے، آپ نے ان کو اس طرح کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنائے کہ جو شخص اپنے لیے اس طرح کے قیام کو پسند کرتا ہے اس کا عذکانہ جنم ہے" ایک اور موقع پر ایک مقام پر آپ تشریف لے گئے، جہاں عبد اللہ بن عاصم اور حضرت عبد اللہ بن زیر رضی تشریف فراہم تھے، عبد اللہ بن عاصم آپ کو دیکھ کر امده کھڑے ہوئے لیکن عبد اللہ بن زیر رضی اسی طرح بیٹھ رہے اپنے ابین عاصم کے اس قیام کو

ناپسند کی اور انہیں کہا بیٹھ جاؤ، پھر ان کو بھی مذکورہ حدیث رسول ﷺ نے بشاء ہی محلاًت کا وجود بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ میں نہیں پایا جاتا، بلکہ حافظ ابن حزم کے قول کے مطابق تمام خلفاً نے بنو امیہ اپنے اُن ہی گھر دشمنی میں اقامست پذیر رہے ہیں جن میں وہ خلیفہ بنیت سے پسلے تھے، کسی نے سرے سے شاہی محل ہی نہیں بنوایا ہے، ان عطاات کی موجودگی میں خلق اسلام بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے متعلق یہ دعویٰ کہ وہ روم دار ان کے باشا ہوں کا نونہ عتی کی صورت بھی قرین صحت نہیں۔

یہ حال مولا نما کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ملوکیت کے سامنے ہی خلفاء کے طرزِ زندگی میں تبدیلی ہو گئی، ملوکیت کا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنیت سے ہوا، اور جو تبدیلیاں گتنا تھیں گئیں، ان میں سے کوئی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ البته یہ تبدیلیاں بعد میں بتدریج ہوئی ہیں جو ملوکیت کے نتیجے میں نہیں بلکہ دیکھا اس باب کی بنیاد پر ہوئی ہیں یہ تبدیلی مخفی ملوکیت کے نتیجے میں ظمور پذیر ہوئی ہوتی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرزِ زندگی میں بھی ضرور تبدیلی ہوئی چاہئے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔

یہ تبدیلیاں بعض تو طبعی حالات کا نتیجہ تھیں اور بعض کی حیثیت ضروری و مفاظتی اقدامات کی تھیں، عوام کا دینی و اخلاقی شعور جس حیثیت سے زوال پذیر تھا، اس کے پیش نظر خلفاء کا آزادانہ بازاروں میں گھومنا پھرنا اور ہر وقت ان کے درمیان رہتا خطرہ سے سے خالی نہ تھا، یہ خطرہ کسی حد تک اگرچہ خلافت راشدہ میں بھی تھا، لیکن بعد میں اس میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا، پھر خلفاً نے راشدین نے اگر اپنے ذاتی سچاؤ کا انتظام نہیں کیا بلکہ عوام کے ہاتھوں قتل ہو جانا کو ادا کر لیا، یہ کوئی اسلام کا ایسا حکم نہ تھا کہ جو ان پر فرض کر دیا گیا ہو، یہ مخفی ان کے اپنے زہد و رحم اور دنیا سے بے رحمتی کا نتیجہ تھا، اگر کوئی اور خلیفہ بھی اس کو دار کا

لے البدلية والنهاية، ج ۱، ص ۱۲۶۔

سلف امام کان سکنی کل امری منجم فی دارہ دصیحہ المی کاشت لم تقبل الخلافۃ یا جو مع السیرۃ وحسن سائل اثری، ص ۳۴۵، دار المعارف مصر۔

منظارہ کے تو اس کی اپنی مردمی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے تمام خلفاء کے، یہ اس کو مزوری قرار دینا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے باڑی گارڈ اور حاجب در بان کا انتظام نہ کر سطحیت کا مظاہرہ ہے، یہ زادہ حکومت کا کوئی صحیح تصور۔

اسی طرح خلفاء کے اندر اسلام کی تبلیغ ہوئی سادلی کی بجائے شاہزاد خاٹھ بائٹھ کا رجحان پیدا ہوتا چلا گیا جو فی الواقع اسلام کی نظر میں نہ ہو ہے مگر وہ بھی طبعی حالات کا تیجہ تھا حکومت کے اندر جس طرح دینی و اخلاقی گرفت ڈیسیل ہو گئی اس کا مظاہرہ بادشاہوں اور خلفاء کے طرزِ زندگی میں بھی ان کی حیثیت کے مطابق ہوا، ملوکت نہ آتی تب بھی یہی کچھ ہوتا، بلکہ کابنیادی سبب تلب و ذہن کی تبدیلی محتی، باقی سب اس کے مظاہر سمجھتے تھے کہ حقیقی سبب اپنے تیزیز ہے و تقلب کا یہ عمل صرف خلفاء کے اندر ہی نہیں ہوا، ایوان حکومت سے لے کر منبر و محراب سب ہی اس کی زد میں آئے، نیز اس کا تھوڑا بھی ایک امر ناگزیر تھا، تلب و ذہن کی تبدیلی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی محتی، اس کو اپنی طبعی رفتار سے آتا تھا جو اگر رہتی کر فطرة الشدیحی ہے، اس کا آغاز بھی ملوکت سے کہیں پسند ہو گی تھا، اگر یہ تبدیلیاں ملوکت کے نتیجے میں ہوتیں تو اس کا آغاز اس کے بعد ہوتا تھا کہ پسند۔ ملوکت کو بکھڑا کا سبب بلکہ واحد سبب قرار دینا یہ وہ بنیادی بھی ہے جس پر "خلافت و ملوکت" کی فلک بوس عمارت کھڑی کی گئی ہے جس کی وجہ سے پوری کتاب سے

خششت اول چونہند معمار کجھ  
تاشریعاً می رو د دیوار کجھ !  
کی آئینہ دار بن کر رہ گئی ہے۔

۳۔ بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی  
تیسرا اہم تبدیلی، جو مولانا نے بتلانی ہے بیت المال کے متعلق خلفاء کے طرزِ عمل میں تفاہمی،

لک نیز حاجب در بان کا لکھ لیتا ہی اگر ایسا طرزِ عمل ہے کہ جسے تیمور کسری کے سے طرزِ زندگی سے تبیر کیا جائے تو بعض رذایات کی رو سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی پرشورت ملتا ہے کہ انہوں نے در بان لکھ لیا ہوا تھا،  
لک خود ہو مندرجہ المتن، حج، ۱۷، ص ۲۷۔

”بیت المال کا اسلامی تصور یہ تھا کہ وہ خلیفہ اور اس کی حکومت کے پاس خداوند علت کی نمائش ہے، جس میں کسی کو من مانے طریقے پر تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، خلیفہ نہ اس کے اندھے قانون کے خلاف کوئی چیز داعش کر سکتا ہے، انہ قانون کے خلاف اس میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے، وہ ایک ایک پائی کی آمد اور خرچ کے لیے جواب دہ ہے، اور اپنی ذات کے لیے وہ صرف اتنی تنخواہ لینے کا حقدار ہے جتنا ایک اوسمی درجے کی زندگی بس کرنے کے لیے کافی ہے۔ دورِ طویل میں بیت المال کا یہ تصور اس تصور سے بدلتا گیا کہ خزانہ بادشاہ اور شاہزادی خاندان کی ملک ہے ریاست بادشاہ کی محض باجلدار ہے اور کسی کو حکومت سے حساب پورچھنے کا حق نہیں ہے اور دوسرے میں بادشاہ ہوں اور شاہزادی کی بلکہ ان کے گورزوں اور سپرزاں اور نمک کی زندگی جس شان سے بس رہتی تھی وہ بیت المال میں بے جا تصرف کے بغیر کسی طرح ممکن نہ تھی“ (ص ۱۶۱)

یہیں تسلیم ہے کہ بعد کے کئی خلافاء نے بیت المال کے اس تصور کو نہیں اپنایا جو اسلام کی تبلیغی ہوئی ہایات کے مطابق تھا، اور انہوں نے اس میں بے جا تصرف کئے، لیکن اس کا بھی سبب اصل فساد و قلب و ذہن ہی تھا نہ کہ یہ تصور کہ ”خزانہ بادشاہ اور شاہزادی خاندان کی ملک ہے“ ریاست بادشاہ کی محض باجلدار ہے یہ تصور خالص غیر اسلامی ہے، بادشاہوں کی لیے راہ رویاں اور ناجائز تصرفات اپنی جگہ، لیکن یہ تصور کسی اسلامی بادشاہ کے ذہن میں کبھی پیدا نہیں ہوا، ان کے ناجائز تصرفات اس تصور کا نیں بلکہ دینی و اخلاقی گرفت ڈھیل پڑھانے کا نتیجہ تھے، یہی وجہ ہے کہ اس کے نشانات بھی ہیں بعد میں بارکتے ہیں، حضرت معاویہ رضے کے ۲۰ سال کو درِ اقبال میں اس کی کوئی نمایاں شان نہیں ملتی حالانکہ وہ حکومت کو بھی طوکیت کا درکار بھاتا ہے۔

حضرت معاویہ رضے کا تصور بیت المال وہی تھا، جس کی اسلامی قشر ترجیح مولانا نے کی ہے، ایک موقع پر حضرت معاویہ رضے نے مجمع عام میں کہا ”تمہیں عطايات دینے کے بعد بھی تمہارے بیت المال (بیت المکم) میں ابھی مزید لجھائیں ہے، میں وہ بھی تمہارے درمیان تقسیم کرنے والے ہوں، اکوئی شخص اگر موقع پر نہ آئے اور وہ اس سے محروم رہ جاتے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں، خود اس پر ہے: مجھ پر وہ برہمنہ ہو یہ میراں نہیں (لیس بھائی) اشد تعالیٰ کا ہے جسے اس سے تم کو فوائد لے ہے۔

اس تقریر میں کس صراحت کے ساتھ حضرت معاویہ رضہ نے بیت المال کو خدا اور علت کی امانت قرار دیا ہے اور اس بات کی نقی کر دی کہ یہ میری ملک ہے، بیتِ مالکم لیس بحالی، انا ہو مال اللہ۔

بیت المال کی آمد و خرچ کا بھی وہ پولنگ جمال رکھتے تھے، حتیٰ کہ ماتحت گورنمنٹ سے بھی حساب کی جائیج پڑتاں خود کرتے۔ ایک روز نہ آپ نے عمر بن زبیر رضہ کو ایک چمٹی دسے کہ گورنمنٹ عراق ازیاد، اس کی طرف بیسجا، جس میں آپ نے زیاد کو لکھا تھا کہ شامل رقعہ ایک لاکھ درہم دسے دو۔ راستے میں ان صاحب نے لفاظہ کھول کر ایک لاکھ کی یگہ دو لاکھ کر دیئے، اور عراق پنج کرو لاکھ درہم کی رقم وصول کر لی۔ بعد میں جب زیاد آمد و خرچ کا لکھا تھا لے کہ حضرت معاویہ رضہ کی خدمت میں آیا، حضرت معاویہ رضہ نے جب حساب کی جائیج پڑتاں کی تو اس شخص کے نام میں کوآپ نے رقعہ لے کہ بیسجا تھا، دولاکھ کی رقم درج تھی، حضرت معاویہ رضہ نے زیاد کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تم نے ایک لاکھ کے دولاکھ بتائے ہوئے ہیں، اس نے کہا آپ کے رقعے کے مطابق ہی میں نے ایسا کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضہ نے ان صاحب کو بلکہ کہا، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، از اند رقم واپس کر دیا چھر سزا بھگتو۔ چنانچہ ان کو محبوس کر دیا گی، ان کے بھائی عبد اللہ بن زبیر رضہ نے وہ رقم ادا کر کے ان کو چھڑ دیا، اس روایت سے حضرت معاویہ رضہ کے اس احساس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو بیت المال کے امانت ہونے کے متعلق آپ کے انداز تھا۔

تاریخ کی بعض روایات سے اس تصور کے بدیکس حضرت معاویہ رضہ کا جو دوسرا طرز عمل نظر آتا ہے اس کی وہی حیثیت ہے جو حضرت عثمان رضہ و حضرت علی رضہ کے طرز عمل کی ہے اس کی وفتاحدت ہم ”خلافت کی خصوصیات“ کے باب میں کہ چکے ہیں، اگر تاریخ کی بعض دوسری روایات کی بنا پر کسی صاحب کو اسی پر اصرار ہے کہ حضرت معاویہ رضہ نے بھی اپنی ذاتی انعامز کے لیے بیت المال کا روپیہ بے دریغ خرچ کیا تو یہ اعتراف تاریخ کی رو سے حضرت

عثمان رضا و حضرت علی رضا پر بھی عائد ہوتا ہے۔ بیت المال کے تصور کی تبدیلی کا آغاز پھر حضرت عثمان رضا سے کرتا چاہا ہیئے ذکر حضرت معاویہ رضا کے دور سے۔

اسی طرح بیت المال کی آمدی کے تمام ذرائع بھی جائز تھے، اکبھی کسی پر ظلم، جبریا ناواجیب ٹیکس کی صورت میں رقم لے کر بیت المال میں جمع نہیں کی گئی، بیت المال کی آمدی کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت مالی غنیمت اور مالی حقیقت تھا، اسی سے اتنی معقول آمدی ہو جاتی تھی، جس کے بعد اس کی مزدودت ہی ذمی کو حکومت کے اخراجات پر سے کرنے کے لیے ناجائز ذرائع آمدی کا سہارا لیا جاتے اور جب ہم کتب قواریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضا، عبداللہ بن عباس رضا، حضرت حسن رضا و حسین رضا اور دیگر حضرت علی رضا کے کئی اقارب، حضرت امام المؤمنین حضرت عائشہ رضا و دیگران اداوج علمبرات اور ان کے علاوہ بہت سے کئی اور صحابہ حضرت معاویہ رضا سے ملا کر اہل عطیات و مول کرتے رہے، اکبھی کسی نے اس بارت کا اظہار نہیں کیا کہ اب بیت المال کے اانت ہوئے کا تصور نہیں ہوگی ہے، یا اس میں اس کی جائز آمدی کے ساتھ ناجائز آمدی کی آبریزش ہو گئی ہے، اس بنا پر ہم عطیات و مول کرنے سے مذکور ہیں، کیونکہ اس صورت میں ہمارا عطیات قبول کرنا مجرم کے ساتھ ایک گونہ تعاون ہے، ان حقائق کو دیکھتے ہوئے یہیں نقیبی ہے کہ حضرت معاویہ رضا کا تصور بیت المال وہی مخالف ہے راشدین کا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ کوہہ علیل القدر حضرات صحابہ کبھی حضرت معاویہ رضا یا نید اور اس کے بعد دیگر خلفاء نے بنی مردان سے عطیات و مول نہ کرتے، خلفاء اگر ایسی کوشش کرتے بھی تو صحابہ عکاظ اسے بالتفہی پاٹھے استغفار سے شکرا دیتے، عباسی ذریعہ میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ علاء نے خلفاء کے عطیات سے احتکار کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کی آمدی خالص جائز ذرائع پر ہی نہ رہ گئی بدلے اس میں ناجائز آمدی کی آمیزش ہو گئی تھی اپنائی ایک موقدر پر عباسی خلیفہ والموکل، نے امام احمد بن حنبل کو عطیہ پہنچا، انہوں نے یہنے سے انکار کر دیا، عطیہ لانے والے نے کہا کہ "عبداللہ بن عمر رضا اور عبداللہ بن عباس رضا ارشادیوں کے عطیات قبول کریں" کرتے تھے اپنے کیوں کرنے؟ امام احمد نے جواب میں کہا ہے "و ما هذَا دُوْلَكْ سَوَادْ"

وہ اعلیٰ ان هذہ امال انہ میں حقہ و لیس نکلم ولا جو پر لم ابال۔ یہ دلوں معاشرے مخالف ہیں مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں صرف جائز طریقے سے حاصل کردہ ہے، کسی نکلم اور جو کافی تجویز نہیں، مجھے اس کے قبول کرنے میں کوئی پرواہ نہ ہو۔“

اس کے آگے مولانا نے خلاصہ بھی امیتہ کے طرزِ عمل کی شاپیش کی ہیں، لیکن مولانا حضرت معاویہ رضہ کے دوسری ایک مثال بھاپیش نہ کر سکے، اس کے بر عکس ہم نے ایسی شاپیش ذکر کی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضہ کا تصویر پر بیت المال وہی ممتاز، جو اسلام نے عطا کیا ہے، اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ یہ تبدیلی بھی اگر ہوئی ہے تو تبدیلیح آگے پہنچ کر ہوئی ہے، نہ کہ طوکیت کے نتیجہ میں طوکیت کے آغاز کے ساتھ، کیونکہ ایسا ہوتا تو اس کا آغاز حضرت معاویہ رضہ کے دوسرے ہونا چاہیئے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔

مزید پر اس جو مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ بھی مبالغہ سے غایب نہیں۔ بالخصوص جزئیے کے منقطع جو کچھ کہا گیا ہے اس کی صحیت بہت حد تک مشکوک ہے۔ یا پھر اس کا سبب وہ نہیں جو روایات میں تبلیغ گیا ہے بلکہ اس کے پیچے کوئی ادراستاب نہیں۔

۲۔ اگر ادی اظہار راستے کا خاتمہ ہے؟

چو تھی اہم تبدیلی مولانا نے یہ بتائی ہے کہ مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نهى عن المفکر کی ازادی سلب کر لی گئی۔ حالانکہ اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا اور اسلامی معاشرہ دریافت کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر مقام کا ضمیر نہ زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں ازاد ہوں، ہر علاط کام پر وہ بڑے سے بڑے ادی کو ٹوک سکیں ہو۔ حق بات بر ملا کہ سکیں..... لیکن دوسرے طوکیت میں ضمیر وہ پر ٹھہڑا دیجئے گئے اور زبانیں بند کر دی گئیں۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ من مکھو لو تو تعریف کے لیے مکھو لو، ورنہ چب رہوا دو اگر تمہارا ضمیر ایسا ہی زوردار ہے کہ تم حق گئی سے باز نہیں رہ سکتے تو قید اور قتل اد کو ٹوکوں

کی مار کے بیسے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ بوجوگ بھی اس دود میں حق بدلنے اور غلط کا بیوں پر ٹوکنے سے باز نہ آئے ان کو بدترین سترائیں دی گئیں، تاکہ پوری قوم دہشت زدہ ہو جائے (من ۱۴۲ - ۱۴۳)

کوئی "مکمل" میں تنقید اور اطمینان رائے کی آزادی۔

یہ تصویر کشی یکسر خلاف فاقہر ہے، خلقائے اسلام نے کبھی امر بالمعروف و نهى عن المکر کی آزادی سلب نہیں، ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بعض مواقع اور مسائل پر ان کے اور علاج کے حق کے مابین تصادم مزدود ہوا، لیکن تنقید و محاسبے پر انہوں نے کبھی تذمیر نہیں لگائی، بلکہ بیشتر خلقاء کے از خود حرام اور علاج کے امت کو دعوت دی کر وہ ہر وقت ان کی کوئی ہمیں کی نشانہ بھی اور غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے رہیں۔ حضرت معاویہ رض کاظمؑ علی اس بارے میں بالکل واضح ہے، ان کے بعد کے خلقائے بتور و ان بلکہ ان کے بعد خلقائے عبادی سیہنگ نے اپنی تمام تر کوتا ہمیں کے با وصف، حق تنقید استعمال کرنے پر پابندی عائد نہیں کی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، حضرت معاویہ رض کے دود میں۔

حضرت معاویہ رض نے دو تین بیٹے سے بعض لوگوں کے عطیات بند کر کے بخے، ایک بند جب آپ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور کہا "اس معاویہ طیغہ"، لوگ سنو اور اطاعت کرو، مجھ میں سے ایک مسلم خواہ فی کھڑے ہو گئے اور حضرت معاویہ رض کے عطیات بند کر دینے پر تنقید کی اور کہا اے معاویہ رض، ہم آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، آپ نے عطیات بند کر دیئے درای سالیکہ وہ مال، جس سے عطیات دیئے جاتے ہیں، آپ کا یا آپ کے ماں باپ کا کمایا ہوا نہیں ہے، حضرت معاویہ رض یہ سن کر کچھ برہم سے ہو گئے، لیکن حافظین مجلس سے کہا تم سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، آپ مجلس سے تشریف لے گئے، جا کر غسل فرمایا اور دوبارہ مجلس میں آئے اور آگ فرمایا اور ایک مسلم کی بات سن کر مجھے خصہ آگیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سننا ہے کہ فرعون شیطان کا فعل ہے، شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آگ کو پانی ہتا سے بچایا

جاستا ہے، پس جب کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ نہ اتے "چنانچہ حدیث رسول کے پیش نظر میں نہا کر آیا ہوں، ابو مسلم نے جو کچھ کہا صحیح کہا ہے، اور بال اجس سے تمہیں عطیات دیشے ہاتے ہیں، میرے یا میرے ماں باپ کے زور پر اذ و کا تیغہ نہیں ہیں ابھی کے عطیات بند کردیشے گئے تھے، وہ آج سے چھر کھول دیشے گئے ہیں۔"

ایک اور موقع پر حضرت معاویہ رضی نے بلور امتحان اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ "فیتنی (خدمت کی ایک قسم) اور بال ہمارا اپنا ہے، ہم جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں" سب لوگ عاموش رہے، اگلے جمعہ پھر یہ اعلان کیا تھیسے سے جمعہ پھر جب حضرت معاویہ رضی نے یہ الفاظ دہرائے تو حاضرین مسجد میں سے ایک شخص نے انہوں کہا ہے "آپ غلط کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ماں ہمارا ماں اور فٹی ہماری فٹی ہے، جو شخص اس کے درمیان حائل ہو گا، اس کا فیصلہ ہم تلوار سے کریں گے" نماز جمعہ کے بعد حضرت معاویہ رضی نے اپنے مگر اس شخص کو طلب کیا۔ لوگ بھی کچھ دیر بعد حضرت معاویہ رضی کے گھر پہنچ گئے اور ہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ ناقہ حضرت معاویہ رضی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس وقت حاضرین سے خطاب فرمایا اور کہا ہے "اللہ اس شخص کو خوش رکھے، اس نے مجھے تباہی سے بچایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ" میرے بعد حکمران ہوں گے لیکن ان پر تنقید کی جو اُن کی کوتہ ہوگی، ایسے لوگوں کو بندروں کی طرح جنم میں دھکیل دیا جائے گا" حدیث رسول سنا نے کے بعد آپ نے کہا "میں نے یہی چیز دیکھنے کے لیے پڑے جو ہمیں وہ بات کی تھی کسی نے اس پر مجھے نڑو کا ایہ دیکھ کر میں ڈر گیا کہ اتنی میں یعنی انہی حکمرانوں میں سے نہ ہوں، دوسرا سے جمعہ میں نے پھر وہی بات کی اس وقت بھی کسی نے جواب نہ دیا، مجھے یقین ہو چلا کہ میں فی الواقع انہیں میں سے ہوں، میرے جمعہ میں نے جب یہ بات پھر کی تو اس شخص نے مجھے میری اس بات پر ٹوکا پھر میری کچھ جان میں جان آئی۔

حضرت معاویہ رضہ کا یہی وہ طرزِ عمل تھا جس کی بنی اپر لوگ کھل کر حضرت معاویہ رضہ کی نیات کو فشا نہ تھی قید بنایا کرتے اور بر سر عالم انکو ان کی غلطیوں پر ٹوک دیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص آپ سے سخت درشت کلامی سے پیش آیا۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، لوگوں نے آپ سے کہا اور آپ اس قسم کے آدمیوں سے بھی بردباری برستے ہیں؟، آپ نے فرمایا جب تک یہ ہمارے اور حکومت کے درمیان حاضر نہیں ہوتے میں ان کے اور ان کی زبانوں کے درمیان حاضر نہیں ہوں گا، گریا ہر شخص کو ایسی تھیقید کی اجازت ہے جس کی رو طبق و قوم کے مجموعی مفاد پر ترقی ہو۔

ایک مرتبہ آپ نے علی رضا بن حاتم کو بطور تلقین حضرت علی رضا کا سامنہ دیش کی پر ملامت کی، اسی وقت حضرت علی رضا نے آپ کو اس کا پوری سختی سے جواب دیا اور صاف کہ دیا کہ حضرت علی رضا کے متعلق ہم کوئی تاخوٹگوار بات سننے کے لیے تیار نہیں، اگر ایسا کیا گیا تو ہم پھر آپ سے دودو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں۔

ایک شخص آپ کو ہدیہ شیر کتا درجدا! اسے معاویہ رضا تم ہمارے سامنہ سیدھے رہو درجنہ ہم لا ٹھیکیوں سے تمیں سیدھا رکھیں گے، اس شخص کے جواب میں آپ کتے وجہ تک لوگوں کی یہ کیفیت رہے گی میں راہ مستقیم پر رہوں گا۔

حضرت مقدم ابن معدی کو ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضا کے پاس گئے اور ان سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی اور درندوں کی کمالیں پہنچے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے؟، حضرت معاویہ رضا نے جواب اثابات میں دیا، حضرت مقدم رہنے اسی وقت بر ملا کہا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے آپ کے گھر میں بھی نظر، اگر ہی ہیں؟، حضرت معاویہ رضا نے کہا، میں جان لیا تھا کہ

میں تمہاری تنقید سے نہیں بچ سکوں گا۔<sup>۱۰۲</sup>

ایک شخص نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضہ کو سخت بلا بھلا کیا، آپ نے اس کے راتھے جسی دلگزیر سے کام لیا، لوگوں نے اس پر بھا آپ کو کہا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے اس بتے سے شرم آتی ہے کہ کسی کا جرم میرے علم سے بڑھ جائے تھے۔

ایک اور شخص آپ سے معروف گفتگو تھا، دورانِ گفتگو اس نے آپ کے حق میں ناقصت اتفاقاً لامبی استعمال کر دیا تھا، آپ نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا اور اس کے بعد اسے پند و نصیحت کے ذریعے ایسا کرنے سے بے بغا۔ اور اس شخص کو مال دے کر رخصت کر دیا تھے۔

ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضہ نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور عصاٹے مبارک مدینے سے شام لے جائیں، مدینے میں آگر جب آپ نے اس ارادے کا اظہار کیا تو حضرت ابو بکر رضہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضہ نے آپ کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا: امیر المؤمنین! آپ کو ایسا کرتے وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ زمانا مناسب بات ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور عصاٹے مبارک کو ان کی اصل جگہ سے نکال کر ملکِ شام لے جائیں، چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا۔

گورنریصرہ، فیسر بن ارطاء اور ابو بکر رضہ کے درمیان تعلق پیدا ہو گئی، فیسر بن ارطاء نے کچھ زیادتی کی اور دھمکی دی، ابو بکر رضہ حضرت معاویہ رضہ کے پاس گئے اور ان کو صورت حال سے آنکھاں کیا اور اپنی حنفی خلت کے لیے ان سے رفعہ لکھوا کیا، آخر میں جانتے جانتے ابو بکر رضہ نے حضرت معاویہ رضہ کو مخاطب کر کے کہا: امیر المؤمنین! آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا اور عیت

سلہ سیر اعلام النبیل، ج ۲، ص ۲۰۵ - ۲۰۶

سلہ البیانۃ والنبلیۃ، ج ۸، ص ۵۵، سیر اعلام النبیل، ج ۳، ص ۱۰۷ -

سلہ حوالۃ مذکورہ

سلہ الطبری، ج ۵، ص ۲۳۹، البیانۃ، ج ۸، ص ۲۵ -

کا پورا خیال رکھیں، عمل صالح اختیار کریں، آپ پرہائش کی مخلوق کی نگہداشت کی بڑی محاری ذمہ داری ہے، اللہ سے ڈریئے، آپ کی ایک مدت مقرر ہے جس سے آپ بخاذنیں کر سکتے، اس کے بعد آپ سے باز پرس ہونے والی ہے، قریب ہے کہ آپ اس مدت کو پہنچ جائیں اور خدا کے حضور حاضر کیے جائیں، آپ نے جو کچھ کیا ہو گا اس کی جواب دہی اس کے سامنے آپ کو کرنی ہو گی جو آپ کے حالات سے خود آپ سے زیادہ داتفاق ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہو گا، پس اللہ کی رضا پر کسمی اور چیز کو ترجیح نہ دیں۔

حضرت معاویہ رضیٰ کی یہی وہ صفتِ حلمِ حقی جس کی بنا پر امام احمد بن حنبل ان کو **مالیل الحلم** "بردبار سردار" کہا کرتے تھے،<sup>۱</sup> شیخ الاسلام ابن تیمیہ<sup>۲</sup> لکھتے ہیں۔

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من المعلوم من سیرة معاویۃ انسان<br>کان من احلما الناس واصبر صدم<br>علی من يُؤذیه واعظم الناس تالینا<br>لمن يعاویه | معاویۃ کی سیرت کا یہ پہلو مشہور ہے کہ لوگوں<br>میں وہ سب سے زیادہ بردارِ تکلیف پہنچا<br>والوں کے حق میں صابر احمد شہنشوی کی تالیفِ تلب<br>کا انتظام کر شد اے تھے |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

خود حضرت معاویہ اپنے متعلق لوگوں سے کہا کرتے تھتے کہ وہ ان کی غلامیوں کی کھل کر نشاندہی کریں۔ ایک مرتبہ حضرت مسیح عربی مخبر مر آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے خود ان سے فرمائش کی کہ وہ ان کے قابی اعتراض پہلوؤں کی نشاندہی کریں، حضرت مسیح رہ کتھے ہیں، وقلم ادمع شیشاً اعیسیہ علیہ الاطمیتہ، مجھے ان کی ذات میں جتنے بھی عیسیہ پہلو نظر آئے وہ سب مکمل کریں تے ان کے سامنے نکدیئے گے۔

<sup>۱</sup> الطبری، ج ۵، ص ۱۴۹، البیانیۃ والتماییۃ، ج ۱، ص ۶۲۔

<sup>۲</sup> مہماج السنۃ، ج ۱۲، ص ۲۱۸۔

سلیمانیۃ، ج ۱۲، ص ۲۱۹۔

سلیمانیۃ، ج ۱۲، ص ۲۲۳، مہماج السنۃ، ج ۱۲، ص ۲۰۷۔ نہ سیر اعلام الغنیم، ج ۱۲، ص ۱۰۰۔

## ادوارِ معاویہ میں

حضرت معاویہ رضہ کے بعد ان کے صاحبزادے یزید سریر آرا شے خلافت ہوئے، افسوس کہ ان کا حقیقی کودار واقعاتِ کربلا و حڑہ کے انسانوںی گرد عبار میں دب کر گیا ہے، تاہم ان کا قصہ حکومت بھی ان کے خدا پرچے الفاظ میں وہی مظاہر ان سے پہلے خلاف رکا نہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے یزید سے پوچھا اگر تم حاکم بن گئے تو کس طرح حکومت کرو گے؟ یزید نے جواب دیا میں عمر رضہ بن الخطاب کے طرزِ عمل پر پیشے کی کوشش کروں گا، ان کے دور حکومت میں حضرت حسین رضی شہادت کا سارا سخن فی الواقع دردناک ہے لیکن اس کے دروغ میں یزید نے زیادہ گوئے کے شیعائی علی رضا یزید کے گورنر اب زیادہ سخون حضرت حسین رضہ کے اپنے اُس عمل و اجتہاد کا داخل ہے جس کے درست نہ ہونے کا بعد میں انہیں احساس ہوا، یزید نے پورے طور پر اکزادی راستے و عمل کی اجازت دی سکھی تھی حضرت حسینؑ نے نظر بیبا پھر سینے لئے میں رہتے اسی دروان میں اُن کے خطوط اہل کوفہ کی طرف اور اہل کوفہ کے خطوط ان کی طرف آتے جاتے ہے، اس پر نہ کوئی تذمیر لگائی کیونکہ اس پر کسی قسم کا ستر بھایا گی، اگر یہاں کیا گیا ہوتا تو اس اقدام کی سرے سے فوبت ہی نہ آتی جس کے نتیجے میں شہادت حسین رضہ کا واقع دروغ ہوا، اس کو ابتداء ہی میں بڑی آسانی کے سامنے لوک دیا جاسکتا تھا۔

یزید کے بعد مروان رضہ کا دور خلافت آیا، اظہارِ راستے کی اس میں بھی مکمل آزادی مخفی، ایک وقت دیساںی صلحت کے پیش نظر حضرت مروان رضہ نے محظیہ عید غازی عیید سے پہلے دیبا چاہا ہماں ہی دقتی دیساںی صلحت کے پیش نظر حضرت مروان رضہ نے حضرت مروان رضہ کے اس قلم پر تنقید کی اور کہا، خلافتِ السنۃ، آپ اس طرح کر کے سنن کی خلافت کر رہے، اس شخص کی نہ زبان بندی کی کہی نہ اس کو کوڑوں کی اززادی کی اهداف دیتے ہیں جو تو نیخ کی کمی، غلیظہ وقت، مروان، نے اس کی تنقید کے جواب میں صرف یہ کہا، انتہ قد تورک ماہنالک، سایلان طریقے کو ترک کر دیا گیا ہے۔

سلسلہ البدریۃ والمنہجیۃ، ج ۸، ص ۳۶۹۔

کتبہ البدریۃ والمنہجیۃ، ج ۸، ص ۴۵۸، صحیح مسلم اکتاب المجمع، ص ۱۱۱، یادِ دیگر چند اس قسم کے واقعہ سے مستشرقین نے استدلال کیا ہے کہ خلقاً سُکنی ایتیہ نے سیاسی اغراض کی ناطر دینی احکام میں تبدیل کر دی، مذاکرات مسلط ہے سباعی درجہ اول کو تسلیم (بیتہ جا شیش لگلے صفحہ پر)

مروان کے بیان کے صاحبزادے عبد الملک بن مروان جو اپنے وقت کے فیضہ سنتے، غیظہ ہوتے ان کا دوسرے حکومت تاریخ اسلام کا انتہائی پُرآشوب دور تھا، بلکہ وقت کی نقوں نے ملک میں اخلي انتشار برپا کر کھا تھا، نقوں اور شورشوں کو فروگرتے میں کئی وقار ان کو تشدد آمیز تغیرات اختیار کرنا پڑا اور اس کے بغیر ان کا استیصالی نامکن تھا۔ تجراج جیسے سخت گیر گورنر کی خدمات بھی انہوں نے اسی نقطہ نظر سے حاصل کی تھیں، تجراج کے خلیم آمیز روزیے کی اگرچہ تفریف نہیں کی جاسکتی بلکہ اس وقت کے حالات کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی ایک مورخ کے لیے مناسب نہیں حالات پر امن ہوتے تو تجراج اپنی فطری انداد طبع کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکتا تھا جو اس کے تعلق مشهور ہے، اس کے رویے میں خود بخود تبدیل ہو جاتی حالات اور اہل عراق کی گستاخانہ حرکات نے اس کے سخت مزاج کو سخت تر کر دیا، تاہم اس کی طرف نسوب افعال کیم تقابل نظرت واستکراہ ہی سمجھتے ہیں تقابل تحسینی نہیں، عوام پر بے جا تشدد بہر صورت مذموم ہے، اس کے بغیر بھی عوام پر کسی حد تک قابل پایا جاسکتا ہے۔ بہر حال تجراج نے جو کچھ بھی کیا اس کے باوجود اطمینان راستے کی آزادی بہر صورت قائم رہی۔ لوگوں کے غیر ورن پر تعزیز چڑھاتے گئے، نہ ان کی زبانیں بند کی گئیں۔ اس وردیں بھی آزادی راستے کا یہ حال تھا کہ بہر صورت خلیفہ پر تنقید کی جاتی، اور تنقید پر سزا کی، بھائے تنقید کرنے والے کو انعام و کرام سے قواز جاتا۔

(تفصیلیہ صفوہ گذشتہ) تسلیم کرنے ہوئے تھے یعنی ان کا منبع ان کا ابتداء دریفہ احوال نظرت نے جو ان کی نگاہوں میں اس کے مقاصدی تھے، اس واقعہ کے متعلق مردانے یہ عذر پیش کیا کہ اس طرح بامر مجبوری کیا گیا ہے کیونکہ ناز ختم ہو جانے کے بعد لوگ ان کا خطبہ نہیں سنتے، اس سے یہ استدلال درست نہیں کہ انہوں نے دینی احکامات میں تبدیلی کر کی یا نیاطر زر تک اختیار کیا تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الستہ و مکانتی المشریع الاسلامی ص ۴۰۹ - ۳۷۳۔

لہ گویا اس کے تشدد کا مبنی حکومت کا اسکھا اس کا نقص و ضلال، خاکہ مصطفیٰ ب محروم لکھتے ہیں۔

”تجراج اور بعض ملاد کے دریان بوجہہ ہو اس کا سبب دولت تغیرہ کے خالقین کے دبائیں اس کا سخت رعیہ تھا کہ اس کا نقص و ضلال میں بند ہونا، یہ کس طرح ہو سکتا تھا جب کہ اس کو حروف قرآن پر نقٹے لگانے اور فکل کھلات کا شرف حاصل ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کتاب اللہ کے ساتھ بہت شخف تھا، یہ شسف و راسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے اندر دینداری کی جگہ بڑی گمراہی ہوں“ (الستہ و مکانتی المشریع الاسلامی ص ۳۸۸ - ۳۸۷)

خلیفہ وقت عبد الملک بن مردان جب شہزادہ میں رج کے لیے گئے، ماہی پر مدینہ نہیں  
ہدوگوں سے خطاب کیا، ان کے خطاب کے بعد ایک اور شخص نے قفر بر کار کا بس میں اس نے  
اہل مدینہ کے اس طرز عمل پر سخت تعمید کی جوان کا خلقا رکے سامنہ رکھا، جمع میں سے اب عہد  
ہامی ایک شخص نے فرماٹھ کر پوری جو رات سے اس کا جواب دیا۔ ابین عبد کی یہ جو احتجاجات عبد الملک  
کے باڑی گارڈر کو ناگوار گزیں، انہوں نے اس کو پڑھا چاہا لیکن خلیفہ نے انسیں روک دیا، جس  
وقت مجلس برخاست ہوئی اور خلیفہ عبد الملک اپنی جاتے قیام پر چلے گئے تو انہوں نے  
اس شخص کو طلب کیا جس نے تعمید کی تھی اور اس کو اتنے اعزاز داکرام سے فواز اکر رادی کا  
بیان ہے اتنا زیادہ عطا یہ اور پوشائیں، یہ خلیفہ نے اس کو دین، کسی اور کو اس نے  
نہیں دیں۔

خلافت کے بعد بھی خلیفہ عبد الملک عوام میں محل میں کر رہتے ہے حضرت ابوالمرداد رضا کی اہلیۃ محترمہ، م  
الدرداء، مسجد و مشق میں دریں حدیث دیا کرتی تھیں، خلیفہ عبد الملک بھی اس حقوق دریں میں شرک کر رہے  
تھے اور پھر صفویں میں بیٹھتے، ایک روز وہ بیٹھتے دریں سن رہے تھے کہ ان کا ایک علام آیا جسے  
انہوں نے کسی کام پر بھجا ہوا تھا۔ اس کو قدسے تاخیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے خلیفہ اس پڑا راضی  
ہوئے اور کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، اتنی در کہاں رکارہے؟، حضرت اسد امر نے اسی  
وقت خلیفہ کو ٹوک دیا اور کہا، امیر المؤمنین، اس طرح نہ کیجئے، میں نے اپنے شوہر ابوالمرداد رضا  
کی زبانی یہ حدیث رسول نبی ہے جس میں اپت نے فرمایا ہے، «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَعَانٌ»، لعنت  
کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو گا، حضرت انس بن مالک نے ایک مرتبہ عبد الملک کو جاجچ کے  
غلام و ستم کی شکایت لکھ کر بھی، عبد الملک کا یہ حال بتا کر شکایت نامے کو پڑھتے ہاتے  
اور لاد تھے جاتے۔ پڑھ کر ان کو جاجچ کے رذیے پر سخت غصہ آیا اور اسے ایک سخت  
تمدید آمیز خط لکھا۔ جاجچ کے پاس جب خلیفہ کا یہ خط قا مدد لے کر پہنچا تو اسے پڑھ کر

حضرت انس رضی کی جو جرأت پر کوئی غصہ نہیں آیا بلکہ اپنے ہی نعل پر اس کو نہ امانت ہوتی اور قاصدہ کو ساختہ لے کر انہیں منانے کے لیے خود ان کے مکان پر گیا۔

خود جاچ چھی حق بات اور حق کھنڈ والوں کی قدر کرتا تھا، سعید بن المسیب پیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جاچ اپنے والد کے سامنہ نماز پڑھتے مسجد میں آیا، میں نے اس کو نماز پڑھنے دیکھا، وہ کوئی طرح نہیں کر رہا تھا، میں نے اس وقت ہتھیلی میں لکھا ہاٹھا کرایا، اس کے بعد سے جاچ کا کہنا ہے کہ میں نماز اچھی طرح پڑھتا ہوں۔ یہ واقعہ اس کی گوارنی سے پہنچ کا ہے اگوئے بن جائے کے بعد وہ سعید بن المسیب کی عصی و حربیہ عورت کرتا تھا کہ انہوں نے اس کی نماز درست کرادی، ایک مرتبہ جاچ کی تقریر کے دوران اس کے لیکے نقباں اعتراف فقر سے پر ایک شخص نے اخط کرتقید کی اور کہا "برا ہو تیرا، اے جاچ شرم دھیا سے تو بالکل ہی عاری ہو گیا ہے، تو جو کچھ کر رہا ہے، وہ تو کہ ہی رہا ہے اب باتیں بھی اس قسم کی کرنے لگا ہے، نامراہ ہوتا اور رائیگاں جاتے ہیں" سعی "باڑی گارڈن فرن اس کو پکڑا ایسا، تقریر کے بعد جاچ نے اس سے پوچھا "تیجے مرے روپر اس طرح بولنے کی جرأت کیونکر ہوئی؟" اس نے کہا "برا ہو تیرا، اے جاچ، تو خود اللہ کے سامنے بھی اخہمار جرأت سے باز نہیں آتا اور میں تیرے سامنے جرأت کا اخہمار نہ کروں؟" تیری حقیقت کیا ہے؟ کہ میں تیرے سامنے جرأت نہ کروں، درا خالیکہ تو خواشند بیلہ مالیں پر دلیری کرتا ہے؟ یہ سن کر جاچ نے کہا اس کو چھوڑ دو، ایک اور مرتبہ جاچ نے اپنی تقریر میں کہا "ابن زیر رضی نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا" حضرت عبد اللہ بن عمر رضی مالیں موجود تھے، انہوں نے بحث دیا ہے اللہ نے ابن زیر رضی کو یہ تدرست ہی نہیں دی تھی کہ وہ اس کو بدل سکتے تو بھی اگر ان کے اس کام میں شریک ہو جاتا تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔

سلہ البدایۃ والثباتیۃ، ج ۱۹ ص ۱۴۵؛ بیضا ص ۱۳۳ - ۱۳۲۔

سلہ طبقات ابن سعد، ج ۱۵ ص ۱۴۹؛ البدایۃ والثباتیۃ، ج ۱۹ ص ۱۴۰۔

سلہ البدایۃ والثباتیۃ، ج ۱۹ ص ۱۴۲ - ۱۴۵۔

تھا، تیرے دعوے کو اگر میں بھوٹا کھوں تو بجا ہے۔“ جاج نے ایک مرتبہ خطبہ فرمائیا کہ دیا، عبد اللہ بن عمر رضی عنہ کھنے لگے ”نماز نماز“ کئی مرتبہ انہوں نے بیان الفاظ کئے، جاج نے کوئی توجہ نہ کی عبد اللہ بن عمر رضی عنہ کھنے لگے ”نماز نماز“ کئی مرتبہ انہوں نے بیان الفاظ کئے، جاج دوسرے تمام لوگ بھی اپنے کھنے لگے ہوئے ہیں۔ بالآخر جاج کو خطبہ ختم کر کے نماز پڑھانی پڑی۔ نماز کے بعد جاج نے عبد اللہ بن عمر رضی عنہ سے پوچھا ہم نے ایسا کیون کیا؟ آپ نے فرمایا ”ہم نماز کے لیے آتے ہیں، نمازا پسند کرنے والے کیا کرو؟“ آپ جو کچھ کہنا ہوا کہا کرو۔<sup>۱</sup>

جاج سے پہلے عراق کے گورنر خلیفہ عبد الملک کے بھائی پیشتر بن مروان تھے ایہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، دعا ان خطبیہ ایک ساختہ کی بجائے دلوں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے تھے، حالانکہ سنت صرف ایک ساختہ اخھانا ہے، ایک صحابی رسول خدا رضی عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا ”قبح اللہ حاتمۃ الیمن“ اللہ ان دلوں ہاتھوں کو تباہ وہی باد کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے زیادہ کے سامنے کبھی اشارہ کیا ہوا وہ صرف ایک ساختہ“ انگلی کے سامنے اشارہ کرتے تھے۔<sup>۲</sup>

امام زہری خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس گئے، خلیفہ نے امام زہری سے پوچھا کہ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں ”الشد تعالیٰ بادشاہ کی صرف نیکیاں لکھتا ہے، بد نیاں تظرانداز کر دیتا ہے“ کیا یہ صحیح ہے؟ امام زہری نے فرمایا یہ باطل<sup>۳</sup> یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین یہ بالکل بھوٹ ہے۔ وہ خلیفہ جو بنی یسمی ہو وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزز

سلسلہ البخاری والانہاری، ج ۱۹، ص ۱۷۱۔

سلسلہ سرواں ذمہ ذکر۔

سلسلہ البخاری والانہاری، ج ۱۹، ص ۷۔

سلسلہ صحیح مسلم، کتاب الجمیع۔

ہے یا وہ شخص جو صرف خلیفہ ہونبی نہ ہو، خلیفہ نے کہا، نبی خلیفہ، امام زہری نے کہا اس کے باوجود اشد تفاوت نے اپنے نبی داؤ و علیہ السلام کو کہا۔

یا وَأَوْدُ إِنَّكَ عَمِلْتَ حَمِيلَةً فِي الْأَرْضِ فَالْحَكْمُ بِيَدِنِ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُ الْهَوَى فَيُغَيِّلُكَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَعْنَلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَا يَشْعُرُونَ فِيمَ يَرِيدُونَ۔

اسے داؤ دہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ نیصلہ کرو، اور خواہشات کے پیچے مت گلو، اگر ایسا کرو گے تو وہ تم کو راہِ راست سے ہٹا دیں گے بولگ را و راست سے بھلک جائیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، امام زہری نے یہ کیت پڑھ کر خلیفہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین یہ دعید اس شخص کے لیے ہے جو خلیفہ ہونے کے ساتھ ساختنی بھی تھا، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا جیا ہے جو صرف خلیفہ ہونبی نہ ہو، خلیفہ ولید نے کہا، تم مٹھیک کہتے ہو، لوگ ہمیں ہمارے دین سے گراہ کرتے ہیں۔

خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک مرتبہ امام طادس سے فرائش کی کہ ہمیں کچھ سنا یئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جو شخص مسلمانوں کے امور کا داری پایا جائے اور پھر وہ عدل و انصاف سے کام نہ لے تو ایسا دلی اللہ کی نظر دے، میں یا مکمل بے عزت ہے" خلیفہ نے کہا کچھ اهد بیان کیجئے، انہوں نے یہ حدیث رسول سنائی "قریش کا تم پر اور تم پر قریش کا حق ہے، جب تک کتم ایک دوسرے سے پر رحم کرتے رہو گے، عدل و انصاف سے کام نہ ہو گے، ایں بنائے جانے کی صورت میں امانت مٹھیک مٹھیک ادا کرو گے، جو ایسا ذکر کے اس پر اشد کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اس کی کوئی

طہ العقد المفرد، ج ۱، ص ۴۰، طبع جدید، بحوالہ السنۃ و مکان تھا فی التشریع الاسلامی، ص ۴۹۵۔

قدر سے اختصار کے ساتھ حافظ ابن کثیر نے بھی یہ ماقصر اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، ج ۴، ص ۳۷۔

فسر منی عبادت قبول کرے گا اور نفلی ناجلیفہ کا چھرو متغیر ہو گیا اور پچھو دیر سر جپکلا۔ مکرہا  
عثتوڑی دیر بعد اس نے پھر کماں دکھو اور بیان کیجئے، انہوں نے کہا سب سے آخر یعنی  
یہ آیت اتری، «وَأَنْقَلَهُ رَبُّهُ تَرْجِحَ صَوْفَ نَيْشَةٍ إِلَى الْمَهْرَبِ ثُمَّ تَوْقَى لِكُلِّ الْقَبْصَنِ مَا كَسِبَتْ وَهُمْ  
لَا يُظْلَمُونَ»۔

یعنی اس دن سے ٹوپیا تو جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں  
ہر شخص اپنے کئے وصرے کی بجزا پائے گا، اور ان پر زورہ بلابر خلک نہیں کیا جائے گا، اسی  
طرح کا ایک اور واقعہ سیلمان بن عبد الملک اور ابو حازم .....  
کے مابین ہوا، جس میں ابو حازم نے خلیفہ کے غلط پہلوؤں پر کھل کر تنقید کی، جس پر خلیفہ  
کے ایک ہم زشین نے ابو حازم سے کہا، «آپ کا امداز لگشتوں نامتناسب ہے»، ابو حازم  
نے کہا، اللہ نے علم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ لوگوں سے حق نہ پھیلائیں، اس  
کو کھول کر بیان کریں

آخر میں خلیفہ نے ان سے دعا کی خواہش کی، انہوں نے دعا کی ددیا اللہ  
سیلمان اگر تیرا دوست ہے تو دین و دنیا کی مبتلائیوں کا راستہ اس کیلئے آسان کر دے  
اور اگر تیرا دشمن ہے تو تو جس طرح چاہے اس کی رفت کر، ایک دوسری روایت میں اس  
طرح آتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ سے کہا، «میری دعا کا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تیرے سامنے  
تیری مبتلائی کی دعا کروں، لیکن کوئی مظلوم دروازے کے باہر تیرے لیے بد دعا کرہا ہو، کی  
کہ دعا اس بات کی مستحق ہے کہ قبول کی جائے گا»۔

خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو گالی دے دی، وہ شخص کہنے  
لگا، تم مجھے گالی دیتے ہو، درا خالیکہ تم تین میں اللہ کے خلیفہ ہو، خلیفہ  
کو بڑی شرم دیگی ہوتی اور اس شخص سے کہا، مجھ سے بدلتے لو، اس شخص نے

خلیفہ سے کہا، "اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں بھی تمہاری طرح یو تو قوف ہو جاؤں، خلیفہ نے کہا، "اس کے عرض کچھ نہ لو" اس نے انکار کر دیا، خلیفہ نے کہا، اللہ کی خاطر میری اس غسلی کو معاف کر دو" اس نے کہا وجا میں نے اللہ کی رضا اور تیرے منصب کے پیش نظر معاف کر دیا، خلیفہ نے اس وقت کہا، "بخدا آئینہ میں کبھی ایسا نہ کروں کہ اسے ایک شخص نے خلیفہ شام بی جب اللہ کو تند تلحظ باقیں کیں، خلیفہ نے سب کچھ سن کر صرف اتنا کہا کہ، "اپنے خلیفہ کے حق میں تیرے بھی یہ لجر مناسب نہیں" ایک مرتبہ شام نے امام زہری سے پوچھا دروازہ کی کبر و منہم لڑا عذاب عظیم" (انور) ان میں سے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادی کہ اس پھیلے میں نیا نہ حستہ لیا اس کے بیٹے عذاب عظیم ہے، اس سے کون مراد ہے؟" امام زہری نے کہا، "جب اللہ بن ابی" خلیفہ نے امام جبڑ (غلط) کہتے ہو اس سے مراد علی رضا بن ابی طالب ہیں امام زہری نے غصہ کی بھی میں خلیفہ سے کہا، تما اگذب؟ لدا بالک! میں جبڑ بولتا ہوں جیسا کہ باپ مر جائے؛ بخدا الگ آسمان سے اللہ مجھے یہ سعادتی کیادے کہ اللہ نے جبڑ جائز کیا ہے تب بھی جبڑ نہ بولوں۔"

یہ چند واقعات بطور نور نویش کیے گئے ہیں، انی سے اعتمانہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وہد میں جس کو طویلت سے تبیر کیا جاتا ہے، تنقید اور اشعار میں کی پوری آندازی میں، خلافاً نے نہ اس پر کسی قسم کی پابندی لگائی دراس کی حوصلہ شکنی کی بلکہ تنقید کو ہمیشہ تند پیشانی سے برداشت کیا اس کی حوصلہ اخراجی کی۔

**جو ہون عدی کا واقعہ تلی لہ داس کی حقیقت**

اب ہم ان واقعات پر مختصر راستہ فراہم کیں جو حوصلہ نے اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کیے ہیں۔ مودہ نہ لکھتے ہیں۔

صلانی شیخ پالیسی کی ابتداء حضرت معاویرہ رضہ کے زمانے میں حضرت چُجُر بی عدی کے قتل سے پہلی بولیک راہد و عابد صحابی اہم صلحائے امت میں ایک اوپرچھے مرتبے کے شفیع تھے، حضرت معاویرہ رضہ کے زمانے میں جب مبروون پر ضبطیوں میں ٹولپیہ حضرت علی رضہ پر لعنت اور سبت و شتم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ یہاں اسی سخن فی بحث ہے تھے مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے لکھنؤں میں چُجُر بی عدی سے مبرزا ہو سکا اور انہوں نے جواب میں حضرت علی رضہ کی تعریف اور حضرت معاویرہ رضہ کی نعمت شروع کر دی۔ (ص ۱۶۴)

اس بیان سے تقدیر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی امیرتہ کا مخالف ہر عالمت میں عز و تھہ و تکریم کا مستحق ہے اور اس کے وہ افعال جو کسی صورت قابل تعریف نہیں، مولا کے نزدیک ہدی صحن اس سے یہ قابل تعریف ہیں کہ ان کے ذریعہ اس نے بھی امیرتہ کی مخالفت کی تھی، اس کی نمایاں مثالیں یہی چُجُر بی عدی کا واقعہ ہے، مسلمانوں نے اس سے پہلے حضرت مسلم رضہ کے تقدیر کے بعد عاملوں کا متعدد جگہ ذکر کیا یہیں اللہ کے بیان ہے کہیں بھی حضرت دا خرام کا غلط استعمال نہیں کیا، چیزیں ان کا نام اس انداز سے لیتے رہتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ خوت دا خرام کے کسی لفظ کے مستحق چہا نہیں ہیں۔ حالانکہ ان عالمیں شناسی روز کا شمارہ میں سف کے صحابہ میں کیا ہاتھ ہے جس میں حضرت عصی و سین مذا و عبد اللہ بنی زبیر بنی اسراء میں کا شمار ہے۔ یہیں ائمہ تھام پر چُجُر بی عدی کے ساتھ آؤ ا لفظ حضرت، استعمال کیا اور اس کے بعد انہیں راہد و عابد صحابی اور صلحائے امداد میں ایک اوپرچھے مرتبہ کا شخص قرار دیا، حالانکہ ان کا صحابی ہونا مختلف فیہ ہے۔ بقول ابن سعد بعض اہل مسلم ان کی صحابیت کے قائل ہیں لیکن ابی یکبر نے ابو اسد افسکری کے حوالے سے لکھا ہے کہ اکثر محدثین ان کے صحابی ہونے کو صحیح تسلیم نہیں کرتے اکثر الحدیثین لا یسمون در صحیحہ مرضہ برآں ان کے ناہدہ مسأبد و صلحائے امت میں سے

وونے کے یعنی کب ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی حرم میں را خود نہیں ہو سکتے لیا ان سے کہ حرم کا صدور ہیں ہو سکتا۔  
نیز اگر انہیں صحابی تسلیم کر سبی لیا جائے تو بھی ملابر ہے کہ وہ انہی صغار صحابہ ہیں ہو  
ہوں گے جو بیرون عالمیں عثمان شال میں عالمیں عثمان کے بیان میں صحابت کی کسی مدد نافع  
صراعت کی زانی کے ساتھ ایسی طاعت یا عزت کا لفظ استعمال کیا جسی سے یہ حکوم جو سکے  
کہ یہ حضرات بھی کسی درجے میں صحابت سے منقطع ہیں۔ لیکن جو بڑی خدی کے ہم کے  
ساتھ عزت و احترام کا لفظ بھی استعمال کیا اور انہی کی صحابت کی تصریح بھی کہ وہ کی ہے،  
یہ آخر انسان دوستی کی کون کی قسم ہے؟

عمر بن براؤں یہ بات بھی تعب اکبر ہے کہ جو واقعہ اس بات پر دوست کرتا ہے کہ  
حضرت صادقہ کے دور میں تنقید اور اخبار رائے کی پوری آزادی تھی، اسی مقصد کو مسخر  
کر کے ان امر کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے کہ لوگوں سے اکمار رائے کا کذا جو ہوئے گئی تھی،  
جو بھی مدد کے ساتھ قتل کا جو تفصیلات کتب قرآنی میں درج ہیں۔ وہ اس طرح ہیں  
کہ کوئی میں حضرت مغیرہ بن طعبد، حضرت معاویہ رضا کی طبقہ مکار زست، حسن سیرت اور  
عافیت کو خی میں وہ بے مثال گزرتے، الجتنیہ مفرد تھا کہ وہ حضرت علی رضا کی ذمۃ لعلہ  
کے حق میں غامض باتیں کیا کرتے تھے اور حضرت عثنا زہرا کے بیان دعا شدید حضرت مسلم  
اہمان کے اصحاب کی خوبیاں کر تے اور تائیں عثمان پر لعنت کیا کرتے تھے۔ جو بھی عذر و  
یہ سنتے تو جواب میں کہتے فرمی ہی ذمۃ کے قابل احمد لعنت کے مستحق ہو، تم جس کی ذمۃ کر تھے  
وہ قابل عوت ہے اندھی کی تم تعریف کرتے ہو، اور مستحق ذم ہیں۔ لیکن اسی تنقید کے  
تواب میں حضرت مغیرہ رضا سے دلگند کرتے، اپنی صرف زبان پنڈوں نصیحت کرتے کہ وہ  
ایسے حضرت علی سے اتنا کتاب کیں، کلم و بیش حضرت مغیرہ رضا سال کوئے کے گورنر ہے، جو بھی  
عذر اسی طرح تنقید کرتے اور حضرت مغیرہ رضا اس سے درگذر کرتے رہے، اپنی گورنر  
کے آخسری نہیں ایک مرتبہ حضرت مغیرہ رضا نے تغیری کی جس میں انہوں نے کہا  
ہے اے اللہ اٹھان رضا پر حکم کراہی سے درگذر فرماء، انہیں ان کے نیک اعمال کی جو  
معافرہ۔ انہوں نے تیری کتاب پر عمل کیا اور تیرے بھی کی سختی کی یہ یہ مکی، ہمیں ایک

کلمہ پر جوں کی، ہمارے خون کی حطاخت کی لیکن عوام میں تقلیل کر دیتے گئے، اے اللہ! احتشانِ عزم سے  
 بستہ رکھنے والے، ان کے مددگار اور ان کے خوبی ناخدا میں کا تقاضا من طلب گرنے والوں پر بھی  
 رحم فرا۔ اس کے بعد ان کے قاتلین کیلئے بد دعا کی گئی تھی کہ مجرمینِ عدالتی اور ان کے اصحاب  
 چڑائی کھڑے ہوتے اور حضرت مسیح وہ پر بے جا اخراجات اور تنقید کی، حضرت مسیح وہ نے  
 اپنے پھر بھی کچھ دکھا اور تقریرِ ختم کر کے گھر تشریف لے گئے۔ بعض حضرات کو جو کی اس  
 سخت تنقید اور اس کے مقابلے میں گورنر کو فر کے زم بدو یہ پر بڑا تعجب ہوا، اور انہوں  
 نے حضرت مسیح وہ سے جا کر کہا تو تعجب ہے آپ پر اند اس شخص پر، آپ کی حکومت میں یعنی  
 برائی کتنا ہے لہو آپ اسے کچھ نہیں لکھتے، حالہ کہ اس طرح آپ کی حکومت لوگوں کی ظروف  
 میں سے وتعت ہو کر رہ جائے گی لہو صاحب اور رضا کو پھر چلے گا تو وہ اللہ آپ کے اس طرزِ عمل پر  
 ماراں ہوں گے، لیکن حضرت مسیح وہ نے حضرت جعفر بن عدی کے خلاف سخت کارروائی کرنے سے انہا  
 کو یا، حضرت مسیح وہ کی دلالات کے بعد کوئی کی گورنر پر زیاد فائز ہوا ایسا دلے اپنی قومی تحریر  
 میں حضرت امام رضا اور ان کے اصحاب کی فضیلت بیان کی اور ان کے قاتلین اور حادثہ پر بحث  
 کی حضرت جعفر بن عدی نے کھڑے ہو کر پھر اسی طرح تنقیدی جس طرح اس سے پہلے حضرت مسیح وہ  
 کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ لیکن زیادتے بھی دلگرد سے کامیاب زیاد کوئی میں اپنی جگہ جعفر بن  
 عیاش کو منفرد کے خود کچھ عرضے کے بیٹے بھو چلا گیا، جاتے وقت اس نے کوشش  
 کی جعفر بن عدی کو اپنے ساتھ ببروئے رہ جائے ایکر ٹکر زیاد اور ان کے طرزِ عمل سے واقف ہو جکا  
 تھا، لیکن جعفر ساتھ جانے کے لیے تیار رہ ہوئے، زیاد نے اس وقت جو کو تنبیہ کی کہ  
 تمہرے پیچھے اگر یہاں کھلی ایسی مرسی حرکت کی تو تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی مگ  
 نیاد کے پہلے ہانے کے بعد اس کے نائب عمر بن حزیث کے ساتھ بھی انہوں نے وہی  
 فساد انگیز رقبہ بدستور جانکر رکھا، حتیٰ کہ جلد کے دل، جب کہ وہ مشہور خطبہ سے لہے تھے  
 انہ پر کھل پھیکھ۔ عمر بن حزیث نے اس کی اطلاع میں زیاد کوئی ازیاد کوئی نہ اپنی آگی کو فر  
 سیکھا سخن سمجھ عام میں تقریر کی۔ مجمع میں جعفر بن عدی اور ان کی پوری پارٹی جو تقریر بیان میں ہزار  
 افراد پر مشتمل تھی اس تقریر میں سچے صہابا موجود نہیں، زیاد کی تقریر کے دو روان بھی جعفر نے

مداخلت کی بحث نیا د پر کفر اور حکم نہیں اے۔ اور کہا ہیک لعنت اور تحریر کی اعتماد ہو جنیاں نے پھر سب و نبی سے کام یا اور حضرت معاویہ رضی کو صورت حال سے آگاہ کی۔ حضرت معاویہ نے نبیو کو لے کر اسی صاحب کو یہ سے پاس پہنچ دیا جلتے۔ زیادتے ان کو طلب کیا، لیکن انہیں نے آنے سے انکار کر دیا، زیادتے نے یہیک جماعت کو اس کام پر مانع کیا کہ جو تھے جو  
کو گرفتار کر کے لانے محتوا دیزیاد کی جماعت بعد جو کی جماعت کے مد میان  
پھر اس لے جیاں پہنچ رہیں، ہمارا خواہ کو گرفتار کر کے نے آیا گیا، زیادتے ان کو  
قید کر دیا۔ اس اصل یہ کب پورا جتنا خدا جسیں میں وہ معتزات بھی ہماری سختے جو حق عذاب نہ  
کے بالفعل یا اس کی امانت کے مغلب ہوئے تھے، اس جستے کا منصب مکہ میں وہ پاہ  
وہی حالات پیدا کرنے تھے جو حضرت عثمانی رضی کی شہادت سے کچھ عوامیہ میثاق شرمند  
عنابر نے کیے تھے، جو حضرات حکم کو حضرت معاویہ رضی پر مستعد شتم، لعنت اور ان سے  
الٹھاپر رہات کیا کرتے تھے، یقیناً ذلیل نکون معاویہ تد ایسی بوقت منہ، اپنے حدتے کے  
حکم پر بے جا تھیں اور غرف ریڑی ان کا معمول تھا حتیٰ کہ گرفتار پر بھی اس کے سامنے ہی لعنت  
بھیجا کرتے۔

زیادتے اشراف کو ذکر جمع کر کے جو ہی کے متعلق ان کی گواہیاں ہیں مولانا نے  
اس مقام پر یہ نقدِ لکھا ہے کہ «اے کے مولاف بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس فروجِ رہیں  
گردانہوں نے ایک جتنا بنایا ہے، اخیلہ کو علاوہ نہ کالیاں دیتے ہیں امیر المؤمنین کے خلاف  
ٹوٹنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا یہ دعوٹ ہے کہ خلافت آئی ای طالب کے سوا اسی کیلئے  
درست نہیں، انہوں نے شہر میں فساد برپا کیا اور امیر المؤمنین کے عامل کو نکلیل باہر کیا رہا تو اب  
حضرت علیہ السلام کی حیات کرتے ہیں مان پر رحمت بھیجتے ہیں اور ان کے مخالفین سے الٹھاپر رہا  
کرتے ہیں (۱۴۲ ص ۱۶۳) مولانا کے خط کشیدہ الفاظ میں بہت سے لوگوں کی شہادتیں  
اس فروجِ رہیں پر لیں» سے برداز نکلا ہے کہ یہ فروجِ رہیں زیادتے تیار کی اور پھر اس پر  
لوگوں کی شہادتیں لیں، حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ زیادتے ان لوگوں سے یہ کہا جتا ہے  
ہلی جو بار ایتم منہ، جو کو تم نے جو کچھ کرنے دیکھا ہے اس کے متعلق گواہی دے

انسوں سے کوئی بھی دی جو ابھی خود ان کے الفاظ میں نقل کی گئی ہے، گویا یہ فرد جرم کو اپنے اپنے  
چشم دید خلاالت کی بخار جو اندان کے ساتھیوں پر خاند کی حقیقت رکزیاد نے چیلپتے طور پر گزر  
کہ اس پر ڈال گولی کی شہادتیں لئیں۔ یہ بھر حال گواہوں نے ان کے خلاف شہادتیں دیں، مورخین  
نے گواہوں کی تعداد ستر تباہی ہے، ان میں صرف سے نیا وہ ایسے اشخاص کے ہاتھ میں  
پڑے ہام مدد جو یکے گئے بواختاقی و شرافت اور بیضداری میں مصروف تھے اور حرف  
مجسوب و صاحب فی ویندہ، گواہوں کی فرست میں پانچ نام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
لکھیں، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبید اللہ بن عباس، حضرت عمار رضا احمد بن حمید و الحسن بن سلم  
ایک گواہیں قاضی شریح کی بھی بیان کی جاتی ہے جس کے متعلق مولا ہانے کا ہے کہ  
ان کے نام سے جمعیت گواہی درست کیلئے گئی، جس کی بعد میں خود ان کو تدبیر کرنے پڑی اسی  
مسئلے میں یہیک ہام شریح بھی ہانی کا یاد کرتا ہے۔ یہیک بیبات صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ لعل اس  
ہانپاک معدھیں نے گواہوں کے پہنچے ہام جوئے ہیں ان میں دونوں کا نام نہیں ہے۔ اگر  
ن الواقع الہ کی گواہی بھی صاحب جوئی تو ان کا نام بھی مزدراذ کیا جائے مانیا گواہوں میں ہوا و مفہوم  
ان کے ہام مدد جو کرنے کی مزدودت بھی نہ تھی، جب صحابہ کرام بھی گواہوں کی فرست میں  
موجود تھے تو ان کے بعد کوئی تکنی ہی اہم شخصیت کیوں نہ ہو اس کی کوئی مزدودت ہاتھ تینیں تھیں  
لہذا یہ بات بھاگنا تقابل قسم ہے کہ صحیح کام نے جو کے خلاف شہادتیں دی ہوں اتنا ہنر شریح  
ہی کو خلا لکھیں مدد ان کے خلاف ان کی اس پسندی کی گواہی دیں،

لہا اب بھریں کیا لکھا بیت ہے اگر چرخ مذہب جسی نسل ملتا ہے یہیں ہدرے نے زندگی فہادت کی وجہ پر اس بنا پر  
لیا ہے صحیح نہیں کہ اس میں بھر کے متعلق ایک غرہ یہ بھی لکھی ہے مدد کرنا اسے حرب جنگ فتوہ سلطاناً اسی۔ مفتاح حرب جنگ کے  
ساتھ مکمل کو کیا، اگر پر سل شدت کی بھلیت میں صحیح بھر افسوسی کے عامل کو کنکا یا ہر کرنے والا فتوہ خلاف حرب جنگ  
تامیم جو ہیں ملکی کو نظر چڑھا کر سے مالی روایت کے مقابلے میں اس بھلیت شہادت کو صحیح کیا جا  
سکتا ہے مزید بر آگی گواہوں کی فرست میں ۷۴۸ھ صحابہ کے اسما نے گواہی بھی ہیں ملکی ہیں اس بنا پر گواہوں کے  
تھوڑی بڑئے تام کر لینا کا انجوہ مخفیہ بودھ کا کیکہ یہی چیز کی گواہی دی جس کا انہیں کافی علم نہ تھا مگر ہبک

زیاد نے دو صدی پہ حضرت واللہ بن عبید اللہ اور حضرت کثیر بن شہاب کے ہمراہ گاؤں کی پیڈپڑت  
حضرت معاویہؓ کے پاس بیٹھی دی، حضرت معاویہؓ نے اسے دیکھنے کے بعد زیاد کو لکھا تھا نے  
عمر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق جو کچھ سیان کیا ہے اور اس پر لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں میں نے  
ان پر غور کیا ہے۔ ان کا قتل بہتر ہے یا ان سے درگور، یہ ابھی تک کوئی فصیلہ نہیں کر پایا،  
میرا رجحان کبھی سیل طرف ہو جاتا ہے کبھی درسری طرف زیاد کے پاس جب حضرت معاویہؓ  
کا یہ مکتوب پنچا تو زیاد نے جواب میں لکھا ہے آپ کا خط پڑھ کر اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ پر  
ان لوگوں کا معاملہ کس طرح مشتبہ ہو گیا درآں حاکیکان کے خلاف خود آن لوگوں نے شہادتیں  
دی ہیں جو ان کو سب سے بہتر جانتے ہیں، اگر آپ فی الواقع یہ چاہتے ہیں۔ کریم شرود کو فرم  
بانی رہے تو آپ عبید اللہ اور ان کے ساتھیوں کو ہیاں دے دارہ میرے پاس نہ یہیں ہے  
اسی واقعے کی مذکورہ بالتفصیلات کو سامنے رکھ کر ہر شخص ایمانہ لگا سکتا ہے کہ  
خود اس واقعے میں اتمام رائے کی آزادی کا سپولتانا میاں ہے کہ آٹھ سال تک حضرت معاویہؓ  
ان سے درگور کرتے رہے، پھر زیاد نے بھی ابتداء میں عفو درگور سے کام لیا ہے کہ  
عمر نے گورنمنٹ کو فریلان کے سامنے ہی صحت کی پھر بھی زیاد لے ان کے خلاف کوئی  
کہا رہا ہے نہیں کی، حضرت معاویہؓ کو صورت حال سے آگاہ کر دیا، زیاد نے ابتداء میں عمر کو  
سمجنے کی پوری کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنی برگری میوں سے ہاد آجائیں حتیٰ کہ ان سے کہا  
آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، اس سے مجھے مطلع کریں۔ آپ کی ضرورت پوری دی  
جانے گی، میرا ایوان حکومت آپ کے لیے ہر دقت کھولا ہے۔ خدا کے لیے آپ ان بیویوں  
کے کشفہ میں نہ آئیں، نہ آپ کو خراب کر دیں گے یہ نیکیں انہوں نے جو مقدس عنصر کے ذم  
میں پھنس گئے۔

سلہ یہ پوری مذکورہ ابن عبید اللہ اور ابن کثیر کی ان تفصیلات سے ماخوذ ہے جو انمول نے  
سادھہ کے واقعات کے ضمن میں ذکر کی ہے رد الخطأ للطبری، ج ۲، الکامل، ج ۲۷، البخاری، ج ۸،  
معہ ابہدیۃ والنتایۃ، ج ۸، ص ۱۵۲، عقبات ابی سعد، ج ۶، ص ۲۱۸

دوسری بات اس روئاد سے جو صاف تصدیق معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خطبوں میں  
واپسی کیسی عجی حضرت علی رضی کو گایا نہیں دی جاتی تھیں جس کا مولانا فتح علی کیا ہے نہ حضرت  
سید وہ کھدا نے میں دنیا دکے بعد ہیں۔ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ کفیر و مذکور یاد نے  
حضرت علی رضی پر لعنت یا ان کو گایاں دی تھے جبکہ رجوع ہو گئے ہوں۔ سیفو و زینیا نے احتفل  
تائیں عثمانی رپورٹ کے حضرت علی رضی کی معاشرے میں حضرت علی رضی کا  
تساہل وہ مزون عمال کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں تائیں عثمان رضی کو پناہ ہوتی ہے کہ  
اسکا الہام دکتے تھے۔ فاضل الفاظ میں احتلت کو وجود جو حضرت معلویہ رضیہ اور میرزا ذیار کرتے تھے۔

تیسرا چیز اس روئاد سے یہ سامنے آتی ہے کہ جو جو جائے خود لکھنے ہی عابد و راہدار  
سامنے ہوں لیکن ان کے طرزِ عمل سے ایک ایسے انتشار پسند گوہ کے ہاتھ مضری ہو ہے  
تھے جو ملک کو وقار و نہاد بخیل یا کم از کم راحی انتشار میں بخوبی کرنا پڑا ہتا تھا۔ اس گروہ میں وہ لوگ  
نہ یاں طور پر شریک تھے جن کا دامنی کردار خوبی عثمان رضی کے چیزوں سے مانخار تھا  
بیسے ٹوڈ بن الحسن المخراجمی وغیرہ میں یہ ان کو آٹھ لو سال تک تنقید اور اظہار راستے کی پوری  
ازادی حاصل رہی اس حق کو ایک تلوہ مسلسل غلط طریقے سے استعمال کر رہے تھے  
دوسرے حالات دن بدن خراب ہوتے جلد ہے تھے، ان کی آزادی اور سرگرمیاں ملک  
کے امن اور کے لیے منقول خطوط بن گئی تھیں۔ تنقید اور اظہار راستے کی آزادی کے  
یہ معنی تو نہیں کہ ملک کے استحکام اور امن کو مزونہ اور انتشار میں بدلتے کی کوششیں بھی  
قابل گرفت نہ ہوں، اسی لیے حضرت معلویہ رضی سے جب ایک شخص نے کہا کہ مدد آپ نے جو  
کو قتل کر دیا ہے ”تو حضرت معلویہ رضی نے جواب دیا، قتلہ اُخْبَث إِلَيْهِ هُنَّ  
أَنْ أَقْتُلُنَّ مَنْ مَرَّ مَنْ مَرَّ مَنْ مَرَّ“۔ سیہر سے تزوییک

لئے ان حضرات کو تلقی کرنے پڑتے تھے اور حضرت خاندان رضی کے مشعل پر چھاگی لائیں نے بسط کی،  
بسط اعلیٰ میان چاروں الکم دل میں پیغما بری، خاندان رضی پر چھوٹے شخص ہیں جسون سلطانی حکومت میں فلم رہا لیکا اور حق کے  
بنیارام کیجئے ایک اور شخص خدا کرمن یہ شخص بیوی جنوں نے فلم کا مدد ادا کیا اور حق کے دعوانے سے بند  
کر دیئے۔ مطہری ج ۵ ص ۴۶۵، ۱۱۶، ۱۱۷ اکاٹل ۳۴۶ می ۴۸۶۔

ایک شخص کا قتل کر دینا اس بات سے زیادہ اچھا ہے کہ بعد میں انکو وجہ سے ایک لاکھ انسانوں کو قتل کرنا پڑتے ہے، البتہ یہ ضرور کامہا سکتا ہے کہ انہیں جو سخت ترسناستے قتل دی، کئی اور مناسب، نہ مخفی، انہیں تعزیری انداز کی کوئی سزا دے کہ اس انتشار کو رد کامہا سکتا تھا جو ان کے طرزِ عمل کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا، غفران اللہ عما دعی اللہ علیہما،

اس کے بعد مولا نے وقتیں تو انہیں میں ذکر کئے ہیں کہ حبیب بن عدی کے قتل پر لوگوں کو بہت افسوس ہوا، حضرت عائشہ رضی کا بھی ایک قول تقلیل کیا ہے لیکن حضرت عائشہ رضی کے متعلق تو یہ صراحت موجود ہے کہ جب ان کو حضرت معاویہ رضی سے حقیقت سال معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی کے خذل کو صحیح تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد کسی اور کے قابل کی حقیقت ذکر کرنے کی عنودت ہی نہیں رہتی، حضرت حسن بصری کا قول حضرت معاویہ رضی کے پھر افغان کے متعلق جو تقلیل کیا گیا ہے وہ یکسر بے سند ہے، جسے ابن الاشر اور ابن کثیر نے تقلیل کیا ہے، پھر اس میں جن چاہتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ وہی ہیں جن کو مسخر کر دیا گیا ہے پر دیگر تھے ان پر سے ہذا دیسے ہونے کے بعد جو صورتِ واقعی ان کی ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کی بنا پر حضرت معاویہ رضی کو مطعون کیا جا سکے۔

### پہنچ اور واقعیات اور ان کی حقیقت

آگے مولانا نے مزید مثالیں اس امر کے ثبوت میں دی ہیں کہ لوگوں کی آنداز کو جبر و ظلم سے دبانتے کا سلسلہ پڑھتا چل گیا، لیکن ہو رہا قحطان تقلیل کئے ہیں وہ اس امر پر دلالت نہیں کرتے بلکہ واقعیت کی پوری تفصیلات سامنے رکھی چاہیں تو ان سے صاف طور پر تلقینی کی آزادی کا پلوٹ لکھتا ہے۔

ایک واقع حضرت سرسوٹ بن حمزہ کا تقلیل کیا ہے کہ "ان کو جماعت نے اس قصور میں

لات ماروی کر انہوں نے اس کی ایک بات پر یہ کہہ دیا تھا کہ "آپ نے یہ بڑی بات لئی ہے" (ص ۱۹۶) ادنی تو یہ داقعہ کسی عام مجلس کا معاملہ ہے، حضرت مسیح مردان کے گھر گھنکا در ان سلسلی امور پر بات چیت کی۔ دوسرے مردان نے ان کولات نہیں لاری، روایت کے الفاظ یہ ہیں فرکضہ مردان بر جملہ، مردان نے ان کو اپنے پیر کی ایڑی مانی، اس کا جو توجہ "دلات رہتا" کیا گیا ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے مبالغہ آمیز ہے، تیسرا سے، اسی رات مردان کو ایک خواب آیا جس میں انہیں اپنے اس فعل پر تنبیہ کی گئی، انہوں نے صحیح حضرت مسیح مردان کی اطلاع دی، حضرت مسیح مردان نے کہا "میں نے آپ کو بیداری میں بھی دو کافی نیندکی حالت میں بھی، اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ آپ باز نہیں آئے بلکہ اس واقعے میں کون سا پرواہسا ہے جس سے یہ شایستہ ہو کہ جبر و ظلم کے فریبہ آغاز کو دبایا گیا، یہ تو گھر کے اندر ایک پرانیویٹ گفتگو ہتی، ایک بات سرداں کو تاگوار گزری جس کا اظہار تجاجج نے ایڈی مار گردیا، پھر بعد میں وہ اس پر بھی ناہم ہوا، حالانکہ وہ چاہتا تو سخت سزا دے سکتا تھا جبر و ظلم اس کو اسی وقت کہا جا سکتا تھا جب وہ اپنا کرنا۔

دوسرادا تقریباً عبد الشد بن عمر زہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے تجاجج کو خطبہ لیا کہ نے اور نماز جمعہ میں حد سے زیادہ تاخیر کرنے پر قوکا قواس نے کہا "میرا ارادہ ہے کہ تمہاری یہ دنوں آنکھیں جس سر میں ہیں اس پر ضرب لگاؤں" (ص ۱۹۶) اولاد دو ما قصے تو عبد الشد بن عمر زہ کے تجاجج پر تنقید کرنے کے ہم نقل کرائے ہیں جس پر تجاجج نے انہیں کچھ نہیں کہا ثانیاً اس واقعے میں بھی جبر و ظلم کا کوئی سا پھلو ہے؟ اس نے اپنی افتاد طبع کے مطابق صرف ایک فقرہ کہا، اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا تب وہ جبر و ظلم کھلتا نہ کر موجودہ صورت میں نا لاثا اسی روایت میں آتا ہے کہ تجاجج نے جب ان کو یہ کہا تو انہوں نے جواب میں کہا، اگر قوایس کرے گا تو بڑا بیو تو قوف ہو گا، جس کو اللہ نے ہم پر مستظر کر دیا گئے۔

جاج نے اس پر ان کو کچھ نہیں کہا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ مولانا نے اس واقعے کو جس امر کے شوتوت میں پیش کیا ہے، اس سے وہ تعلق اتابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے برعکس اس واقعے سے ایک غور آزادی کا پہلو ہی نکلتا ہے۔

ایک اور تیسرے واقعے کا مولانا نے حوالہ دیا ہے جسے ابن سعد نے نقل کیا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی کے صاحبزادے جاج کے پاس بگئے، جاج نے کہا میرزا رادھے کمیں ابن عمر رضی کی گردان مار دوں، ابین عمر رضی کے صاحبزادے نے بھواب میں کہا میرزا رادھے خدا کی قسم، اگر تو نے ایسا کیا تو انش تعالیٰ تجوہ کو اونٹھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ تیرا سر زمین کے ساتھ رگدیں کھاتا ہو گا، ایسے سن کر جاج نے اپنا سر جھکایا۔ اس سے زیادہ تحقیق، جائست اور اطمینان دے ائے کی آزادی اور کیا ہو گی؟ اسی بیانے مولانا نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا صرف حوالہ دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

اسی طرح مولانا نے عبد الملک بن مردان، ولید بن عبد الملک اور عبد اللہ بن ذیلہ کے متعلق مزید تین واقعات نقل کئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اطمینان دے کی آزادی کے واقعات ہم پہلے نقل کر آئیں، ان کے مقابی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ چند واقعات ہرزوں ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ بجرا فکل پر محبوں کر لیتے ہیں، فیصلہ مجموہی حیثیت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے نہ کہ اس کے دو کے واقعات کی بنابری، حضرت معاویہ رضی اور ان کے بعد علاقائی بنو مردان کا مجموہی طرز عمل ایسا فنا جس سے معلوم ہونا ہے کہ ان کے ذریعی تقدید اور اطمینان دے کی پوری آزادی محتی، انہوں نے کبھی لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش نہیں کی، ان کی زبانوں کو پابند کیا۔ ان کے دوسرے میں ہر شخص کو برداشت بات کہنے کی آزادی محتی، یہی وجہ ہے کہ اس دور میں، یہ سے بنو ایوب کا دور حکومت کہا جاتا ہے، مُهْرَارِ دُخَام اور علائیتے حق کی منازعہ، ان کی دار و گیر اور ان پر مصادیب و شدائیں کوئی نمایاں شال اس طرح نہیں ملتی، جس طرح دُخَام عباسی میں بجا کرتی ہیں۔

## ۵۔ عدیلیہ کی آزادی کا خاتمہ

پانچویں تبدیلی مولانا نے یہ بتلی ہے کہ ”دور طوکتی میں عدیلیہ کی آزادانہ حیثیت ختم کر دی گئی اخلاقیتِ راشدہ میں عدیلیہ آنادِ حقیقی، قاضی خود و نیلیفہ کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتے تھے اور دیتے تھے“، ہمارے نزدیک یہ بھی محل نظر ہے۔ صرف زبانی و عوایہ ہے، اپنے دعوے کے ثبوت میں مولانا نے دلیل ایک بھی پیش نہیں کی، اجس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دھوکی ہی سرے سے بے بنیاد ہے، اس کے پر عکسِ واقعہ یہ ہے کہ عدیلیہ کی آزادانہ حیثیت نہ صرف حضرت معاویہ رضہ بلکہ ان کے بعد بنشے والے خلفاء کے قدر میں بھی اسی طرح قائم رہی جس طرح خلافتِ راشدہ میں بھی، فیصلہ کرنے میں قاضی بالکلیہ آزاد اور ہر قسم کے دباؤ سے محفوظ تھے، کوئی ایک مثال اس امر کی پیش نہیں کی جاسکتی کہ عدیلیہ پر دباؤ ڈال کر ان سے کبھی خلط فیصلہ حاصل کیا گیا ہو یا از خود قاضیوں نے ڈر کر خلط فیصلہ دیا ہو۔

پوسٹ تاریخی اسلام میں اچندرستیاں ہیں، کوچھوڑ کر، عدیلیہ کا حکمکہ آزاد رہا ہے، اقتنا نے ہمیشہ بغیر کسی دباؤ اور جبر کے اسلامی عدل و مساوات کی روشن مثالیں قائم کی ہیں خلفاء دلوک کا طرزِ عمل بھی اس معاطے میں نہ کافی حد تک بے غبار رہا ہے، موجودہ دو دین سعودی ملکوں کی مثال اس امر کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہے۔ جماعتِ اسلامی کے مشہور تکالفا، شاعر و ادیب اور جماعت کے ناظم نشر و اشتادعت جناب نعیم صدیقی صاحب حال ہیں کچھ عمر صفر پسلے جائز کام سفر کر کے آئئے ہیں، انہوں نے دہان سے متعلق اپنے تاثرات و مشاہدات اپنے ذائقی رسائے ماہنامہ ”سیاڑہ“ میں پیش کئے ہیں، اسی میں عدیلیہ کی آزادی کے متعلق دہ لکھتے ہیں۔

”سعودی عرب کے نظامِ قضا کو جو چیز عوام کی نگاہ میں بے حد محترم و معتقد بنا تی پہنچے، اس کا انتظامیہ یا کسی پیروفی طاقت کی مداخلت سے آزاد ہوتا ہے۔ مجھے ایک قابلِ اعتماد ذریحے سے یہ داقہ معلوم ہوا ہے کہ کسی قتل کے سلسلے میں ایسے بااثر لوں بھی متعلق تھے جنہوں نے براہ راست شاہ نیصل سے یہ چاہا کہ وہ قاضی صاحبِ کواس مدد میں اشارہ کریں، لیکن شاہ فیصل نے باوجود مذکور کی سب سے بڑی احتیاطی

ہونے کے پہنچا ب دیا کر میں اپنے کسی قاضی کے علاقوں میں کیسے عمل  
د سے سکتا ہوں؟ سو وہاں کا چھوٹا سے چھوٹا قاضی اپنے دائرے میں نہیں باقاعدہ  
حاکم ہے جس کے ہاں نہ کوئی سفارش جاسکتی ہے نہ رشوت۔<sup>۱۷</sup>

یہ حال ہے اس دور کا جب کہ ہم میں بحیثیتِ مجموعی ایمان و اخلاق کا وہ تصور موجود ہے  
کہ جو ہم اسلام نے عطا کیا تھا۔ اس دور میں جس میں صحابہ کرام اخداہ خیارتا یعنی  
موجود تھے جو صحابہ کی محبت و تریت کے پردہ تھے ایک کس طرح ممکن ہے کہ ان  
کی حکومت اسلام کے اس بنیادی تصور سے منحر ہو گئی ہو، اس سے جیزیادہ ناجائز  
تسلیم یہ دعوی ہے کہ عدیہ کی یہ آزادی خود ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ  
علیہ کے ہاتھوں ختم ہو گئی ہو۔

#### ۴۔ شور وی حکومت کا خاتمه۔

چھٹی تبدیلی جو مولانا کے زعم میں، ملوکیت کے آجائے سے ہوئی، شور وی حکومت کا خاتمه  
ہے۔ خلافائے راشدین ہر کام مشورے سے کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ملوکیت میں  
اہل الرائے سے مشورہ لینا ترک کر دیا گیا۔ یہ دعویٰ بھی غیر حقیقت پسندانہ ہے،  
دور ملوکیت میں خلافاء اہل خیر و اہل صلاح حضرات سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور ان کی  
رائے کا احترام کرتے تھے۔ حضرت مروان رضا کے متعلق صراحتاً یہ چیز فرماتی ہے کہ  
بہبود حضرت معاویہ رضی کے دور میں بدینے کے گورنر تھے تو ان کا مسول تھا کہ جب  
بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو وہاں موجود صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے اور  
اسی کے مطابق عمل کرتے ہے۔ حضرت معاویہ رضی نے بوقتِ انتقال یزید کو جو دعیت کی  
اس میں بطور خاص انہوں نے اسے اہل خیر، اہل تحریر اور اہل تقویٰ سے وہی ادائیگی کی تاکید کی۔ فاذا  
مشورے کے مطابق کام کرنے اور خود پسندی و خود رائی سے اجتناب کی تاکید کی۔ فاذا

سلہ ماہنامہ سیارہ ۱۵ ہو، سفر جاہ نیر، جزوی ۱۹۷۹ء ص ۱۵۔

سلہ البدایۃ والنهایۃ، ج ۸، ص ۲۵۸، طبعات ابن سحد، ج ۵، ص ۳۴۔

آردت امرًا فادع اهل السن و التجربة من اهل المغير من المشايخ وأهل التقى  
نشادرهم ولاتخالفهم، وایلک والاستبداد بآیات الرأی ليس في صدرا واحد  
ظاهر ہے جب انوں نے اپنے بیٹے کویر و صیحت کی تحریک کا طرز عمل بھی اس کے مطاف  
نہیں، اس کے مطابق ہی سہا ہوگا۔ کتب تواریخ میں اگر ان کے اس پہلو کے متعلق کلم  
خاص و مفہومیت نہیں ملتی تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے،  
حضرت عثمان رض و حضرت علی رض کے متعلق بھی کتب تواریخ اس پہلو کی و مفہومیت کرنے  
میں عاموش ہیں ایسی وجہ ہے کہ مولانا نے "خلافتِ راشدہ کی خصوصیات" کے باب  
میں جہاں خلافت کی ایک خصوصیت یہ بتلاتی ہے کہ وہ شورودی حکومت ملتی، اس ملن  
میں انوں نے حضرت ابو بکر رض و عمر رض کی مشائیں تو پیش کر دیں، لیکن حضرت عثمان رض و حضرت  
علی رض کی کوئی مشائیں نہ کر سکے کہ انوں نے کبھی اہل الائے سے مشورہ لیا ہو۔ کیا اس سے  
یہ تیجہ اخذ کرنا صحیح ہو گا کہ حضرت عثمان رض و حضرت علی رض کی حکومت شورودی نہ ملتی؟

مزید پر آئی کتب تواریخ کی اگر تمام تفصیلات بعینہ صحیح ہیں تو اس سے تو بطریق ماصی یہ  
ثبوت مہیتا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رض و حضرت علی رض بیشتر موقوع پر مشورے کے  
بغیر اپنی ذاتی راستے برداشت کار لائے۔ حضرت علی رض کے متعلق صراحتاً ملتا ہے کہ جس وقت  
وہ خلیفہ بنے، اہل الائے نے اس وقت انہیں مشورہ دیا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر  
فی الحال تمام عمال عثافی کو، بالخصوص حضرت معاویہ رض کو بدستور ان کے عہدوں پر بحال  
رکھا جائے، حضرت علی رض نے اس مشورے کو کوئی اہمیت نہ دی، جنگ جمل و صفين  
میں بھی اہل الائے کا مشورہ حضرت علی رض کی راستے کے خلاف تھا، اسے بھی انوں نے  
تسلیم نہیں کیا اس کا جو تیجہ نکلا ظاہر ہے۔ اہل الائے کے مشوروں کو نظر انداز نہ کیا جاتا  
یا متفقہ مشورے کے بعد کوئی قدم اٹھایا جاتا تو ممکن ہے حالات کا دھارا رہ رخ احتیا  
نہ کرتا جو مستقل ایک داستانی خونچکاں بن کر رہ گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رض کے

متعلقات جو تفصیل خود مولانا نے دی ہے، اس میں .....  
 مشاہدات کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، اس کی لگوں سے حضرت عثمان رضیٰ کے پیشہ اقلامات  
 ایک گونہ خود اعتمادی کے مظہر ہیں۔ مولانا نے جس نقطہ نظر سے جادبے جا حضرت معاویہ  
 پیشواعلامات عائد کئے ہیں، مجینہ اس طرزِ لگوں سے حضرت عثمان رضا و حضرت علی رضا کے دور حکومت  
 کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ وہ شور وی حکومت نہ تھی جو اسلامی حکومت کی ایک  
 بنیادی خصوصیت ہے، بلکہ مطلقاً العنان با دشائیوں کی طرح خود پسندانہ حکومت تھی،  
 کیا یہ دعویٰ صحیح ہو گا؟  
 ۷۔ فسلی اور قومی عصبیتیوں کا ظہور۔

ایک اور عظیم تغیر، جو مولا نا کے نزدیک اس کو روپوگتی میں رُونا ہوا، وہ یہ تھا کہ اس میں قوم، انسان اور طن اور دن تبیسے کی وہ تمام جاہلی عصیتیں پھر سے ابھر آئیں جنہیں اسلام نے ختم کر کے شدنا کا دین قبول کرنے والے تمام انسانوں کو یہاں حقوق کے سامنہ ایک آئندت بنایا تھا۔

لیکن اول ایڈر دھوکا پا لکھیے صحیح نہیں تمام مقلمات پر ایسا نہیں ہوا جزوی طور پر کہیں کہیں ایسا ہوا کہ بوجہ قبائلی عصیتیں اچھر آئیں۔

ٹانیا اس کا سبب مخفف "موکیت" نہیں۔ اس تبدیلی کا حقیقی سبب نہ سائز بتوت سے بُعد اور قلب دوہن کی تبدیلی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے نشانات خلافت راشد ہیں جی ملتے ہیں، استقیمہ نہیں ساعدہ میں دہنے لقطعوں میں اس کا اختصار کیا گیا۔ حضرت علی رضا کا چھ میسیت تک بیعت ابو بکر رضا سے تو قفت بھی اسی قبلی سے ہے حضرت عثمان رضا کی بیعت کے وقت بھی اس کا انعام ہوا۔ حضرت عثمان و حضرت علی رضا کی حادثت اس وقت بنو امیہ و بنو هاشم کی حادثت کے مترادف سمجھی گئی، حضرت عمار رضانے کھل کر کہا۔ لوگو! جس بنی کے ذریعے اللہ نے ہمیں دین اور عزت سے رفراندا تھم اس بنی کے گھرانے سے اس امرِ خلافت کو پھیرنے دے

رسہے ہوں

حضرت عثمان رضی جس وقت مخصوص ہو گئے، انہوں نے حضرت علی رضا کو بولا کر ان سے قبائلی عصیتیت کا حوالہ دے کر مدد پڑا ہی، حضرت علی رضا نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کی گذارے سے بھی، میں آپ کی مدد فراہم کرنے چاہئیے، پھر قبائلی عصیتیت کے واسطے کی مزورت کیا ہے؟ بلکہ حضرت عثمان رضا کے بیان کی تائید کی، حضرت عثمان رضا نے ان سے گماختا کہ طلحہ، ابو بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا بڑے ننگ و عار کی بات ہو گی کہ بتوابع دناف سے بتوتمیم حکومت چھین لیں، حضرت علی رضا نے مدد کا وعدہ کیا، اور دہاں سے نکل کر سیدھے بیت المال کے پاس گئے دہاں جا کر لوگوں کی توجہ حضرت طلحہ رضا کی طرف سے ہٹانے کے لیے لوگوں کے لیے بیت المال کا منہ کھول دیا، لوگوں کو جب اس داد دہش کا علم ہوا، تو حضرت طلحہ کے پاس جتنے بھی لوگ جمع تھے، آہستہ آہستہ سب کھسک گئے تھے یہ قبائلی عصیتیت کا ظہور نہیں تو اور کیا ہے؟ خود مولا تا نے حضرت عثمان رضا پر امراض کیا ہے کہ انہوں نے بنی ایتیہ کو کثرت سے بڑے بڑے عمدے اور بیت المال سے علیہ دیئے اور دوسرے تبیسا سے تنہی کے سامنہ محسوس کرنے لگے.... (اس طرح) قبائلیت کی دین ہونی چکاریاں پھر گلاب اٹھیں جن کا شعلہ نلافتِ راشدہ کے نظامِ ہی کو پھونک کر رہا۔ الگریہ بیان صحیح ہے تو خلافتِ راشدہ میں قبائلی عصیتیوں کے خود کی دلیں اس سے بیٹھ کر اور کیا ہو گی جس کو خود مولا تا نے بیان کر دیا ہے؟ اس تفصیل کا مطلب یہ نہیں کہ خلافت مئے راشدیں کا طرزِ عمل ایسا تھا، جس سے قومی انسانی اور قبائلی عصیتیں اجھر آئیں۔ اصل مقصد یہ پھلو دکھانا ہے

سلہ الطبری، ج ۲، ص ۷۳۳، ۶۱ کامل، ج ۱۳، ص ۷۰-۷۱۔

سلہ " " ص ۷۳۰ " " " " ص ۷۴۷

رسکہ ملکت دلوكیت، ص ۹۹-۱۰۰

کرتباً عصیتوں کا ظہور غرکتیت کا نتیجہ نہیں بلکہ زیادتِ بحوث سے بُعد اور حالات و ظروف کا نتیجہ تھا، یہ بعد جس قدر بڑھتا گیا، اسی حساب سے قلب و فہری اور حالات و ظروف میں تبدیلی ہوتی گئی۔ دن بدن جذبہ ایمان میں جس انداز سے کمی ہوتی گئی اسی نسبت سے دوسرے جذبات اولیت حاصل کرتے چلے گئے اور نہ خلاف کاظم علی عصیتوں پر بنی دختا، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ایک واقعہ بطور مثال اس سلسلے میں ہم پیش کرتے ہیں۔

امانزہریؑ کتھے ہیں میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا، انہوں نے پوچھا "ذہری رعیتم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا! سچتے ہے خلیفہ نے کہا "روہان کون ہے جس کے ہاتھ میں دہان کے باشندوں کی سیادت ہے؟" میں نے کہا "عطابی ابی رباح۔ خلیفہ نے کہا، کہ وہ عشر بی پیش یا غیر عربی، فتن العرب امن الموالی" میں نے کہا "غیر عرب یہیں پوچھا، انہیں سیادت کا یہ مقام بلند کیسے حاصل ہو گیا؟" میں نے کہا امانت مدیانت اور علم فقہ کی بنا پر "خلیفہ نے یہ سن کر کہا "اہل علم نہ اہل دیانت اسی لائق ہیں کہ وہ لوگوں کی سیادت کریں" خلیفہ نے پھر پوچھا اہل میں کا سردار کون ہے؟ میں نے کہا "اذس بن گیسان" خلیفہ نے کہا وہ مغرب میں یا موالي؟" میں نے کہا "موالی سے یہیں" انسی یہ سرداری کس طرح فسیب ہوئی؟ خلیفہ نے پوچھا، میں نے جواب دیا، جن وجہ سے عطا بن ابی رباح سردار ہوتے خلیفہ نے کہا "تب وہ سرداری کے لائق ہیں" خلیفہ نے اہل مصر کی سیادت کے مقابل پوچھا، میں نے کہا وہاں یزید بن ابی جیب ہیں، اور وہ بھی عشر بی نہیں موالي سے یہیں۔ اسی طرح خلیفہ نے اہل شام اہل بجزیرۃ، اہل خسرا اسان، اہل بصرہ اور اہل کوفہ کے مقابل پوچھا کہاں کی سیادت کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ میں نے بالترتیب سمجھوں میکون بہ مروان، مخاک بن مزاحم، حسن بن ابی الحسن، ابراہیم شخصی کے نام بتلا شے۔ یزید یہ بتلا دیا کہ یہ بھی سب عشر بی شیں

غیر عربی یعنی موالی ہیں اخیلیفہ نے یہ سن کر کہا اور بخدا، اسے زہری! موالی بالیقین عرب جمل پر سرداری کریں گے بیہاں تک کمپنیوں پر ان کے ناموں کا خطبہ پڑھا بیانیا کرے گا، اور عرب ان کے ماتحت ہوں گے" میں نے کہا! امیر المؤمنین یہ اللہ کا حکم اور اسن کا دین ہے۔ جو اسن کی حفاظت کرے گا سردار ہو بھائیے گا، اور جو اسن کو ضائع کرے گا، وہ خود بھی تباہ و برباد ہو بھائیے گا یہ

ظاہر ہے اس سے زیادہ اسلامی احتجاج و مساوات کا مظاہرہ اور کیا ہو گا؟  
عمر بن علیم و فضل اور امانت و دیانت کی بنا پر ان موالیوں کی جلوسالم سے قبل  
صرف غلامانہ حیثیت کے مالک تھے، خود ان عسر بیوی نے سیادت و  
یادوت قبول کر لی جو کبھی ان کے آقا اور سردار ہوا کرتے تھے۔ اور اسن سلسلے  
بن عربی و غیر عربی اور غلام و آقا کے فرق و تفاوت کو اسلام کی روپی  
مساوات نے یکسر شاکر کھد دیا۔ یہ واقعہ عبد الملک بن مروان کے بعد کا ہے۔ ان سے  
تبسل مروان اور یزید خلیفہ رہ چکے ہیں۔ اس سے آپ اندانہ لگا سکتے ہیں  
حضرت معاویہ کے ذریعہ کیت میں ان عصیتیوں کا کہیں نام و نشان ہو گا؟ جن  
کے متعلق مولانا کا دعوئے ہے کہ طوکیت کے ساتھ ہی قوم نسل اور وطن کی تمام  
باقی عصیتیں ابھرائی تھیں۔

#### ۸- تقالون کی بالاتری کا خاتمه

آٹھویں تبدیلی بولانا نے یہ گناہی ہے کہ دو طوکیت میں قانون کی بالاتری کا  
عمل توڑ دیا گیا۔ اسلام جس بنیاد پر دنیا میں اپنی سیاست قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ  
سریعت سب پر بala ہے حکومت اور حکمران، راعی اور رعیت، ابڑے اور چھوٹے  
خواص، سب اس کے تابع ہیں۔ کوئی اسن سے آزادی یا مشتبہ نہیں  
علم و غیرہ مسلم تمام رسمایا کے ساتھ برداشت کرنے کا

شریعت نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس سے تجاوز نہیں کیا جاسکتا۔ خلافت راشد اپنے پورے دور میں اس قاعده کی سختی کے ساتھ پابند رہی۔ لگر دہری لوگوں میں بدلش نے اپنے مقاد، اپنی سیاسی اغراض اور خصوصیات اپنی حکومت کے قبام و بقا ر کے معامل میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی پابندی کو توڑا لئے اور اس کی باندھی ہوئی کسی حد کو پچاند جانے میں تامل درکیا ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، اور جائز تھا اور حلال و حرام کی تیز روانہ رکھتے۔ (مختص ص ۱۴۲ - ۱۴۳)

اس کے بعد مولانا فہرود شالیں حضرت معاویہ رضی کی سر شالیں جیہی کی پھرائے بعد بننے والے خلفاء کی اس ہر کے ثبوت میں پیش کی ہیں کہ انہوں نے ان شالیں میں مرچا قرآن و حدیث کی خلاف وندی کی ہے اور اپنی سیاسی اغراض کی خاطر ان مقامات پر حرام و حلال لودھ جاؤز و تا جائز کی کوئی پرواہ انہوں نے نہ کی۔

### حقیقتِ حال:-

تب اس کے کمولانا کے بیان کردہ واقعات کی حقیقت اور ان کا تجزیہ پیش کی جائے ایک نکتہ کی وضاحت ہم مزدوری سمجھتے ہیں اس سے بحث کو سمجھنے میں کافی مدد ملتے گی۔  
شالیں میں لولا نا نے با پابند حضرت معاویہ رضی کے متعلق اس قسم کے اظہاظ استعمال فرمائے ہیں کہ انہوں نے سنت کو بدل دیا، اگر وہ بدعت حضرت معاویہ رضی کی شریعت ہو تو  
مانہوں نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف درجی کی، انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے مسلم قاعده کی خلاف درجی کی  
وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعات جن کو مولانا قرآن و حدیث کے چرخ سمجھتے ہیں، کیا حضرت معاویہ رضی نے یہ جانتے ہو جنتے کئے تھے کہ ان سے نہما کاتاون گواستے ہے پھر بھی وہ کہ گزرے ہوں اور اس پر اصرار کیا ہو، یا ان افعال کی نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے وہ اپنے اجتہاد و رائے سے کئے اور اجتہاد و رائے میں وہ غلطی کر گئے، ان کے ان افعال سے قرآن و حدیث کی خلاف وندی تولدزم آتی ہے لیکن ان کا مبنی اجتہاد و رائے ہے تھا کہ ذاتی اغراض و واقعات کی ان دو تعبیروں میں زمین آسان کافرن ہے۔ اول الذکر صورت

نافیل تسلیم ہے، اس سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے ایک جیلِ المقدار حجاج بن رسولؐ کے سبقت  
یہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ شافعی الدّکر صدحت ہی حضرت معاویہ رضہ کے مجموعی طرزِ عمل سے مناسبت  
روکھتی ہے اور ان افعال کی فی الواقع یہی نوعیت ہے، اتباع رسول کا جذبہ ان کے اندر کستہ  
مختا اس کا اندازہ حسب ذیل چند واقعات سے کیا جاسکتا ہے۔

ایک صحابی عرب بن مرۃ نے حضرت معاویہ رضہ کو آئکر یہ حدیث سننا ٹیکرہ جس شخص کو  
الله تعالیٰ مسلمانوں کا والی بنائے پھر وہ لوگوں کے اور اپنے درمیان اس طرح دیبان  
حائل کر دے کر وہ اپنی حاجات و ضروریات اس تک نہ پہنچا سکیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ  
مجھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا، حضرت معاویہ نے یہ حدیث سن کر فرمادیک آدمی صرف  
اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ لوگوں کی حاجات ان تک پہنچائے لے

ایک اور صحابی ابو مریم حیفیزت معاویہ رضہ کے پاس گئے، اس سے قبل مجھی وہ ایک دو تریخ  
ان سے ملنے کی کوشش کر چکے ہتھے لیکن دربان کی ہمراں فی کی وجہ سے شرف باریاں کا موقود  
نہ مل سکا، اس دفعہ حبیب یہ موقع ان کو میسر آگیا تو انہوں نے حضرت معاویہ رضہ سے کہا دیں  
اپ کے پاس کسی حاجت کی بنا پر نہیں آیا، میں آپ کو صرف یہ حدیث رسول سنانے آیا ہوں  
کہ آپ نے فرمایا مہجو شخص ضرورت مندوں لور مختا جوں سے اپنا دروازہ بند کر لے، اللہ تعالیٰ  
مجھی اس کی ضرورت و حاجت کے وقت اسماں کے دروازے بند کر لیتا ہے، «حضرت معاویہ  
حدیث سن کر وہ پڑے۔ پھر حدیث دوبارہ سننے کی خواہش کی، ابو مریم نے یہ حدیث  
دوبارہ سننا ٹیکرہ حضرت معاویہ رضہ نے اسی وقت اپنے دربان کو بیلا کر اس کو حکم دیا کہ آج  
کے بعد جو بھی تم سے مجھ سے ملنے کی اجازت مانگے، اسی وقت اس کو اجازت  
دے دو۔»

یہ واقعہ پسے مجھی گذر چکا ہے کہ ایک مقام پر آپ کی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے

جو گئے تھے۔ آپ نے ان کو اسی وقت اس بنا پر رُوك دیا تھا کہ اس سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے،

سائب بن اخْتَنَ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضیٰ کے عقیدہ خلافت میں یا یک دین تھے میں نے ان کے ساتھ جھم کی نماز پڑھی، جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر سنیں پڑھنی شروع کر دیں۔ بعد میں حضرت معاویہ رضیٰ نے مجھے بلا یا اور کہا کہ وہ آئندہ اس طرح درکشا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس جگہ فرض نماز پڑھی جائے اسی مقام پر کھڑے ہو کر دوسرا نماز خرچو شروع کر دی جائے، یا تو جگہ بدیل یعنی چاہیئے یاد رہیا میں لفظ کو لینی چاہیئے۔<sup>۱۶</sup>

حضرت معاویہ رضیٰ کی نماز کے متعلق جلیل القدر صحابی ابوالحدیفارہ کہتے ہیں وہ میں نے تمہارے اس امام سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاہد نماز کسی اور کی نیزی پر بخوبی پڑھے

ان کا یہ بتیا دی نقطۂ نظر پر بیان کیا جا چکا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی رضا اور دوسرے مفادات میں کسی ایک کوچن لیتے کا جب بھی موقع آ کیا ہے، ہمیشہ ہمارا میں نے اللہ کی رضا کو پسند کیا ہے!!

ایسے شخص کے متعلق یہ باور کیا مشکل ہے کہ اس نے بالقصد ایسا طرزِ عمل اختیار کیا ہوا جس سے صریح طور پر قرآن و حدیث کی خلاف دلنشی ہوتی ہو۔ البته یہ ممکن ہے کہ ان کے کسی طرزِ عمل سے شریعت کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو، ان دونوں بالتوں میں بہت فرق ہے۔ ٹرا نظم کرے گا وہ شخص جوان دونوں کو ایک درستی میں رکھ کر یہ کہ کہ فلاح خلاف مقام پر معاویہ رضیٰ نے صریح طور پر قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کی کیا یہی احمد از بیان حضرت عمر فاروق رضی اور عثمان غنی رضی کے متعلق بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ابھ کل کے متعدد دین

ایک طویل فہرست حضرت عمر فاروق رض کے ایسے اجتہادات کی پیش کرتے ہیں جو بظاہر قرآن و حدیث سے متصل ہیں اکٹھی لوگ جنی میں مولانا بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان رض کے ایسے کئی افعال پیش کرتے ہیں جو بظاہر شریعت سے متصل ہیں، یہاں کیوں نہیں کہا جاتا کہ ان حضرات نے بھی صریح طور پر قرآن و حدیث کی خلاف فہری کی، یا سیاسی اغراض کی خاطر شریعت کے مسئلہ قاعدوں کو پس پشت ٹھوک دیا۔ ان کے افعال کو اجتنباد کرنے کی غلطی کہ کہیں بات ختم کردی جاتی ہے، تاقون کی بالآخری کا اصول توڑنے کا الزام کیوں ان پر نہیں لگایا جاتا؟ برعکال حضرت معاویہ رض کے اقدامات کی، جو بظاہر شریعت سے متصل نظر آتے ہیں، یہی توجیہ کی جائے گی کہ اس سے میں ان کی رائے اپنے ذائقہ اجتہاد پر بنیتی، اصل مسئلہ کا یاد نہیں کیا ہے بلکہ امکن فرم تھا کہ ان عقول پاتوں کا صد وہ اور کبھی کئی جلیل القدر سماں اب سے ہوا ہے خود حضرت عمر فاروق رض کے متعدد اقدامات ایسے گھٹے جا سکتے ہیں جن کی عورت بظاہر ویسی ہی نظر آتی ہے جو صورت مولا فاطمہ حضرت معاویہ کے اقدامات کی تبلیغی ہے۔ اگر حضرت معاویہ رض کے اقدامات سے فی الواقع قانون کی بالآخری کا اصول ٹوٹ گیا تو اس اصول کو توڑنے والے اولین شخص حضرت عمر فاروق رض ہیں لہذا کہ معاویہ یہہ تاقون شکنی "ملوکت" کا تتجدد نہیں بلکہ اس کا وجود صریح طور پر شعلافتی راشد و میں بھروسیا جاتا ہے۔

### ۱۔ کافر اور مسلمان کی دراثت:

اس کے بعد اب ہم ان واقعات کا تجویز پیش کرتے ہیں جو مولانا نے حضرت معاویہ رض کی شریعت کی خلاف ورزی کے ثبوت میں پیش کئے ہیں۔ پہلا واقعہ مولانا نے یہ بیان کیا ہے۔

”اما از ہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلق اُن راشدین کے عہد میں ست یہ حقی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا تھا از مسلمان“

لعل چنانچہ اسی نقشبندی رشیعہ کی صدیاں قبل ایک قابلی رفعی حضرت عمر فاروق رض کے علم کو بدال قویۃ، کا علم بھی لکھا ہے بغیر تکمیل اللہ مہماج السنۃ، ج ۲، ص ۱۳۹ اگر مولانا حضرت معاویہ رض پر اس ادراز کے اذمات لگانے میں احت بجا بسی ٹوکوئی وجہ نہیں کہ وہ شیعہ حضرت عمر پر ایسے اذمات لگانے میں احت بجا بسی ہے

کافر کا حضرت معاویہ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا۔ لیکن کافر مسلمان کا وارث قرار نہ دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے آگر اس بدعت کو موقوف کیا، مگر ہشام بن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا، (ص ۳، ۱)

ادالا مولانا نے امام زہری کے ہام سے روایت بشرد ع کی، پھر آخر میں البلا یہ کاحوالہ دیا، لیکن حضرت معاویہ کے اس فعل کو زمانہ امام زہری نے بدعت سے تعبیر کیا اور ابن کثیر نے اسے بدعت کا مہولانا نے حضرت معاویہ رضی کے اس فعل کو اس انداز سے بدعت سے تعبیر کیا ہے جس سے محسوس یہ ہو کہ بدعت تراشی کا یہ الزام خود امام زہری نے یا ابن کثیر نے معلم کیا ہے دنیاں حمالیک ایسا نہیں ہے۔ امام زہری نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ پڑی سنت یہ حق احیثت معاویہ رضی نے اپنے زمانہ حکومت میں یہ کیا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اگر پھر مسلمانوں کی طرف بر اجتہاد کی، راجح استدلال بخواہ ہے امام زہری نے شرف صحابت کے تعاضے کو پوری طرح بخواہ رکھا ہے، ان کے زندیک یہ طرز عمل الچیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافتے راشدین سے مختلف تھا۔ لیکن انہوں نے اسے بدعت سے تعبیر کیا، انہوں نے صحابی کو اجتہاد کے حق سے محروم نہیں کیا اور مسلمان کی اجتماعی رائے سمجھا۔ لیکن مولانا نے ایک صحابی کو حق اجتہاد سے محروم کر کے ان کی اجتماعی رائے پر بدعت کا فتویٰ صادر کر دیا، دراں عالمیکار اجتہاد کا یہ حق دہ اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، ائمہ اور ائمہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں اور ائمہ اور بعد کے تمام اجتہادات کو بحق سمجھتے ہیں حالانکہ ان میں بہام شرید اختلافات پائتے جاتے ہیں، ایک چیز ایک کے زندیک سنت ہے، وہ مرے کے زندیک نہیں، کوئی چیز کسی کے یہاں فرض ہے، اور دوسرا اس کی قریبیت کا قائل نہیں حتیٰ کہ بعض چیزیں کسی کے یہاں حلیل ہیں تو دوسرے امام کے زندیک تقطیع اسلام، اس کے باوجود مولانا المأمور بالجه میں سے کسی پر بدعت کا الزام عائد نہیں کرتے، چاروں کی رائیں بیک وقت درست مانتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اجتہاد و نظر کا نتیجہ ہیں جن میں کوئی نہ کوئی نفس الامر میں خلاف شریعت ہوتے ہوئے بھی درجہ بدعت سے باہر ہے۔ لیکن کتنی متضم ظریفی ہے

کو حضرت معاویہ رضی کی اجتہادی رائے کو کھٹ سے بدعت سے دربدعت کا معنو ان دے دیا گیا۔  
دوسرا سے مولا فانے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی «سیاسی عرض» تھی جس سے پورا کرنے کے  
لئے یہ بدعت الگھڑی گئی؟ پس طریقے سے ان کے اقتدار کو کوئی ساختہ لاختہ تھا؛  
اور اس بدعت کے نافذ کرنے کے بعد خود حضرت معاویہ رضیا ان کی حکومت کو کیا فائدہ  
حاصل ہوا؟

ظاہر ہے یہ شالص علمی نویت کا مسئلہ ہے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔  
حضرت معاویہ رضی نے اگر اس کیا تو اس کا بینی کوئی ذاتی و سیاسی عرض نہ تھی ان کا اپنا اجتہاد خاص  
ایک اور بیلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی اس مسئلے میں حضرت معاویہ  
کے ہم رائے تھے، بلکہ بعض کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی کا نام بھی اس سلسلے میں  
ہے۔ ان کو علمی ریاض سے لگی کہ اسلام اور کفر و مستقل ذہب اور مختلف نظم حیات یہیں  
مسلمان دو کافر کا وارث ہونے کا فرمساناں کا، اس صورت میں تو دو فوں نظام حیات۔ عیشیت  
ذہب کے درجہ میں پر اب چھو تئے ہیں حالانکہ اسلام کا نظام حیات دنیا کے تمام ایمان سفلیت  
ہے کوئی اسلام کی بندی کے اس نقطہ نظر نے ان کے ذہن کو اس طرف موڑ دیا کہ  
کافر کو مسلمان کا وارث نہیں ہونا چاہیئے لیکن مسلمان کو کافر کا وارث فسر وہ ہونا چاہیئے  
جس طرح مسلمان کو تیرہ عورت (کافر) سے نکاح کر سکتا ہے لیکن کوئی مسلمان لا کی کسی  
کافر کے جبارہ عقد میں نہیں دی جاسکتی لہ ان کا استدلال اپنے اندر لکھن قوت رکھتا ہے  
اس سے یہاں بحث نہیں مقصود یہ دکھاتا ہے کہ ان کو علمی کہاں سے لگی؟ اکابر تعالیٰ میں  
میں سے بھی کئی حضرات حضرت معاویہ رضی و معاذ بن جبل کے ہم نو اتنے۔ محمد بن  
حنفیہ (حضرت علی رضی کے صاحبزادے) علی بن الحسین (حضرت عصیر حسین کے صاحبزادے) سعید بن  
سیب (مسروق و عبد الرزاق بن معتل (امام شعبی، امام نجی (امام ابو حنفیہ کے استاد)

یہی بن معراو رام اسمیت ان سب حضرات کی بھی یہی راستے تھے لہ  
اگر ان حضرات کی طرف نسبت صحیح ہے تو اس کی بنائی فاقی و سیاسی عرض پر نہ ممکنی،  
یہ ان کا اجتہاد تھا جس میں ان سے فکر و نظر کی چورک ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضوی اس میں متفرد نہیں  
کہ اس مسئلے میں صرف ان کو مورد طعن بنایا جائے ان کے علاوہ دس اور چیل انقدر حضرات  
ان کے ہم تو ایں۔ اگر اجتہاد نظری بھی شریعت کی خلاف ورزی اور قانون کی بالاتری کا اعلو  
توڑنے کے مترادف ہے تو اس کے مجرم یچار سے ایکیلے معاویہ رضوی نہیں یہ سب مذکورہ  
حضرات بھی ہیں۔

مزید برآں، بعض حضرات نے سرے سے ان حضرات کی طرف اس نسبت کو ہی بغیر معتبر  
قرار دیا ہے جیسا کہ ابن ت罕یہ نے مذکورہ نام گنانے کے بعد صاف طور پر کہہ دیا ہے اور یہ  
ثوق یہ عنم، ان حضرات کی طرف اس کی نسبت معتبر نہیں ہے۔

#### ۴۔ مسلمان اور معاہد کی دیت

دوسری مثال مولا گانے یہ دی ہے۔

محدث ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ رضوی نے سنت کو بدل  
دیا۔ سنت یہ ممکنی کہ معاہد کی دیت مسلمان کے برائے ہو گی اگر حضرت معاویہ رضوی نے  
اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی۔

اولاً اس عبارت سے بھی یہ غلط تاثر نکلتا ہے کہ ابن کثیر نے حضرت معاویہ رضوی پر سنت  
کے بدلتے کا الزام عائد کیا ہے۔ مولا گانے اسے صرف نقل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے حضرت  
معاویہ رضوی نے سنت کو بدل دیا، مولا گانے کے اپنے الفاظ ہیں، جسے مولا گانے ابن کثیر کے  
کھاتے میں ڈال دیا ہے، دراصل یہ بھی زہری کا بیان ہے، ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے  
اصل الفاظ یہ ہیں جنہیں خود مولا گانے بھی خاص شیہ میں نقل کیا ہے، کان معادیتہ اول  
من قصر حالی التصف و اخذ النصف لنفسه، معاویہ رضوی پختہ وہ شخص ہیں جنہوں نے

سلہ دیکھتے حوالہ جات مذکورہ

ویت کے دو حصے کر کے نصف مقتول کے دارثوں کو اور نصف خود لینی شروع کر دی، اس میں کہیں بھی مددست کے بدل عینے کے الفاظ نہیں ہیں۔

ثانیاً، زہری کی اس روایت میں، نصف خود لینے کے بخلاف ہیں اور بسم ہیں ایں کثیر تر روایت کو اتنے اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے جس سے بظاہر وہی مفہوم نکلا ہے، جو مولا نافری لیا ہے، لیکن امام زہری کی یہ روایت حدیث و فقرہ کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باقی نصف ویت حضرت معاویہ رضیؑ نے بطور خاص اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ بیت المال کے لیے مقرر کی تھی، بدایۃ الجہد و فقرہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں امام زہری کی یہ روایت ان الفاظ میں موجود ہے۔

درزہری نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضیؑ عمار عثمان رضیؑ اور علی رضیؑ کے عہد میں معاہد کی ویت مسلمان کے برابر، سنت صحیحی جاتی تھی، حضرت معاویہؓ<sup>رض</sup>  
جب خلیفہ ہوئے، انہوں نے نصف ویت بیت المال کے لیے مقرر کر دی اور  
نصف مقتول کے دارثوں کو دی۔ فجعل فی بیت المال نصفہ واعلیٰ اہل المقتول  
نصفہ، پھر جب عمر بن عبد العزیز کا دورہ خلافت آیا، انہوں نے صرف نصف  
ویت کے ساتھ تفصیل کیا، اور وہ نصف ویت جو معاویہ رضیؑ نے بیت المال کے  
لیے مقرر کی تھی، ساقط کر دی۔<sup>رض</sup>

حدیث کی مشہور کتاب مد السنن الکبریٰ، از امام بیقیٰ میں بھی یہ روایت نقش ریبا ان ہی الفاظ میں موجود ہے۔<sup>رض</sup> حدیث و فقرہ کی متبرک کتابوں میں جب ایسی صحیح روایت موجود ہے، جس سے حضرت معاویہ رضیؑ کو قائم عائد تھیں ہوتا، اس کے بعد تاریخ کی بھل و بہم روایت کو بنیاد پر حضرت معاویہ رضیؑ پر اذام تراشی متعول طریقہ تھیں ہے۔<sup>رض</sup>

سلسلہ بدایۃ الجہد و نسایۃ المقصد، ج ۲، ص ۲۴۳، طبع ثالث، مکتبۃ اللہ

سلسلہ السنن الکبریٰ ج ۲، ص ۲۶۱، دائرۃ المعارف، حیدر آباد۔

سلسلہ میلان مکتبہ ندوی حاصلہ فتح عالم دہلوی کے نقد نظر کی حادیث میں یہ کتبہ اکثری کی ہے (باتی صفحہ آئندہ)

نہ اتنا۔ اہم ازہری کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ رضانک سے معاویہ کی دیکت ایک یعنی مسلمان کے برابر ہی رہی اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے معاویہ کی دینیت مسلمان کے برادر کھی اور بعض میں ان سے کم۔ اس بنا پر اس سئیے میں عہد صحابہ رضے سے کہ کوئی اور محمد شیعہ تک باہم اختلاف رہا ہے، خود حضرت عمر رضاء رضیت اخیر حنفیان رہ نے یہودی و نصرانی دینیت نصف کی۔ جیسا کہ اس سے بھی کم، (جنت دینیت) کا نیصلہ کیا، اور مجوہی کی دینیت آمٹھ سودا ہم کا فیصلہ کیا۔ ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے۔ امام راکح اور عرب بن عبد العزیز رضیت دینیت کے، امام شافعی رضیلث دینیت (تہائی کے اندر امام ابوحنیفہ رضیلث دینیت کے قائل ہیں، چھڑان میں سے ہر لیک کے ساتھ علماء و فقہاء کا ان کے ہم خیال ایک ایک گروہ ہے ہر گروہ کے پاس احادیث و آثار کا ذخیرہ ہے جن پر ان کے استدلال کی بنیاد ہے یہ مقام تفصیل کا متحمل نہیں ہے۔

دنیہ مخصوصاً اکر بعض رہایات میں اگر بیت المال کی نیاحت بھی پہنچے تو یہ بھاجا جائے گا کہ بیت المال سے مراد خود حضرت معاویہ رضیت ذات ہی ہے، اگر وہ ان کے قدمیں بیت المال کی اسلامی حیثیت ختم ہو گئی تھی اور خلیفہ مکن مانے طبقہ سے بیت المال میں تصرف کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ اور بیت المال ایک ہی "سلکی" کے دو نام ہیں لیکن یہ مکن اُفریقی اس وقت سمجھ ہو سکتی تھی جب مولانا کا یہ دعویٰ درست ہو جاؤں تھے بیت المال کی اسلامی حیثیت کے عالم ہو جانے کے متعلق کیا ہے۔ ہم پھر اس کی دساخت کرائے میں کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ حضرت معاویہ رضیت کے ذریعہ میں بیت المال کے امانت ہونے کا تصور ہو ہو دعا اور اس کی اسلامی حیثیت اسی طرح برقرار رکھی جس طرح اس سے پہلے تھی۔ بلا خطرہ ہواں کتاب کا صفحہ ۲۸۳-۲۸۴

حوالہ صفحہ ۲۹۱۔ لاء امام شافعی، حکام القرآن، عن امام، ۲۸۴، طبع مصر

مع تفصیلات کے یہ دیکھیے، حکام القرآن، جصاص، ۲۹، ص ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، تغیر المظہری، ج ۶، ص ۱۹۵-۱۹۶، تغیر المثمار، ج ۵، ص ۳۴۶-۳۴۷، المنشی شرح مؤلف

نام دو ایک قول ذکر کیے جاتے ہیں۔ قاعنی شناہ التہ پانی پتھی لکھتے ہیں۔

دراس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ معاہدگی و بیت مسلمان کے برابر ہو۔ لفظ و بیت محل ہے جس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طور پر مردی ہے، اسی طرح مردوادت اور آزاد غلام کی دیت کے بارے میں اختلاف ہے اسی طرح کافر اور مسلمان کی دیت کے بارے میں بھی اختلاف جائز ہے یہ صاحب تفسیر در المنار " لکھتے ہیں۔

حدیغہ مسلم کی دیت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کیونکہ روایات بجا مختلف ہیں احمد راول کے لوگوں کا عمل بھی مختلف رہا ہے.... حاصل بحث یہ ہے کہ قول عمل روایات مختلف و متنازع ہیں، جس کی بنیاد پر فقہاء میں بھی اختلاف ہے آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد عرف اور باہمی رضا مندی پر ہے سلف کا اختلاف بھی اسی بنیاد پر محتاط ہے۔

جب اس مسئلے میں تو سچ ہے اور سفت رسول اور خلفا۔ مئے راشدین کے طرزِ عمل سے کوئی ایک حدود متعین نہیں ہوتی تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس مسئلے میں اجتہاد نیکخواش ہے، اسی حق اجتہاد کو استعمال کر کے حضرت معاویہ رضوی نے اپنے نقطہ نظر سے جسکو صحیح سمجھا، اسے نافذ کر دیا انکے اجتہاد کی بیان دیر لقطعہ نظر متعاقب کی خود انہوں نے وفاحت کو دی تھی کہ معاویہ کا قتل اگر اسکے گھر والوں کے یہے باعث مصیبت ہے تو وہ سری طرف اس سے خوب مسلمانوں کے بیت المال کی آمدی بھی متاثر ہوتی ہے ایسی پڑھی در بیت وصول کر کے نصف اس کے والوں کو دی جائے اور نصف بیت المال میں جمع کر لی جائے۔ ان کا ان احتمال اصلی بر اب نقداً مسیب بہ بیت مال،  
المسیبین نما جعلوا البیت مال المسلمين النصف ولا هله النصف، اللہ

نحو المقطبی، ج ۱۷، ص ۱۹۳

نحو المنار، ج ۵، ص ۲۳۷، ۲۴۳

تمہاراں ایسی داد دیں جسہا جسہ رائق تھت السبقی، ج ۸، ص ۱۰۷، ۱۳۶

اپ کو یہ حق فردو حاصل ہے کہ حضرت معاویہ رض کے اس اجتہاد سے علمی اختلاف کریں اور اسے حرج یا غیر صحیح قرار دیں لیکن یہ اندازِ فکر تھیں اغیر صحیح ہے کہ غیر صحابی فقہاء والملک کے اجتہادات کو با درجہ دان کے قرآن و حدیث سے صریح متصاد ہونے کے «بدعت» سے یا درست کو بیل ڈالنے سے تعمیر نہ کیا جائے لیکن ایک نقیبہ صحابی کے اجتہاد کو «بدعت» کہنے پر امر اور کیا جائے یا اسے بالفروض سنت کے بدلتے کا مجرم سمجھا جائے۔

مولانا کو اپنا یہ بنیادی اصول بھی ذہن نشین نہیں رہا کہ چاروں ائمہ حق پریس اور ان کے تمام اجتہادات اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس سلسلے میں مولانا نے «درست» کو مرغ حقیقی نقطہ نظر میں محصور کر دیا ہے کیونکہ مرغ امام ابو عینیفؓ کے نزدیک مطہری کی دینیت مسلمان کی دینیت کے سادی ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک اس طرح نہیں، اب مرغ اسی ایک نقطہ نظر کو «درست» بھاگنا اور دوسرے نقطہ نظر کو «مخالف الفاظ» میں «درست» کے بدلتے، سے تعمیر کرنا، اس کے مساوا اور کیا معنی رکھتا ہے کہ اس سلسلے میں ائمہ اور بعض میں سے تین ائمہ کا نقطہ نظر شلافی سنت ہے۔

### ۳۔ حضرت علی پر سبتو ششم؟

تیسرا شان مولانا نے جو دلایا ہے وہ یہ ہے۔

وایک اور زیارت مکر، بدعت حضرت معاویہ رض کے عمد میں یہ شروع ہوئی کہ دونوں داد، اور ان کے حکم سے ان کے قسام گورنر، خلیلوں میں بر سر نہبر حضرت علی رضا اللہ عنہ پر سبتو ششم کی بوچاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ سجد بنوی ہیں نہ سر ر رسول مسلم پر عین رہمنٹ، بنوی کے سامنے حضورؐ نے محبوب ترین عزیز کو گالسیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی رضا کی اولاد اور ان کے قریب ترین دشمنے دار اپنے کاؤں سے یہ گالسیاں سنتے تھے۔ کسی کے مرحلے بعد اس کو گالسیاں دینا، شریعت تو دکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جو سے کے خطبے کو اس گندگی سے آلوڑہ کرنا تو دین و اخلاق

کے لحاظ سے سخت گھنٹا نا فعل تھا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کے روابیت کو بدل دیا (ص ۱۲۴)

گویا حضرت معاویہ رضا اور وہ سرے ان کے کئی اول صحابی گورنرا دینا ادا خلق اور شریعت تو درکشانہ انسانی اخلاق سے بھی عاری تھے، انا نہ را ایسا ایسا راجعون افسوس اتنا سنگین اور گھنٹا زام عائد کرنے سے پہلے جن مفہوم دلائل کی ضرورت تھی اس کا انتظام ہیں کیا گیا اور انتہائی مبالغہ تیزی کے ساتھ رانی کا پہاڑ بنادیا گیا ہے۔  
مولانا نے اس مقام پر جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ ان میں کوئی اتفاق اشارہ بھی اس امور کے شعبت میں نہیں ملتا کہ حضرت معاویہ رضا بھی برسر منبر حضرت علیؓ پر سرت شب و شتم کی وجہاں گوتے تھے۔

لہ ملک غلام علی صاحب نے بھایہ تیم کیا ہے کہ مولانا مودودی کے گھوٹکہ مقامات میں تراخایہ نہ کو رہنیں کہ امیر معاویہ خود سرت شب و شتم کرتے تھے بلکہ اتنی بات بیان کی گئی ہے کہ گورنروں کو اس کی بیانیت کی گئی تھی، در ترجمان القرآن، جو لائی، ج ۴۹، ص ۳۰۰۔ ۴۹ میکن ملک صاحب سے یہاں چہرہ ہی چوک ہو گئی ہے جس کا وہ مولانا کی طرف سے اعزاز کر رہے، ان مقامات میں گورنروں کو بھی اس کی ہدایت دیے جائے کی مراجحت نہیں ہے۔ صرف ایک گورنر کو ایسی بیانیت دیے جانے کا دہانی ذکر ہے آگے ملک صاحب کہتے ہیں ”یہاں اتنی کتابیں کے بعض وہ سرے مقامات پر اسی معاویہ علاوہ کا اپنا یعنی نہ مقول ہے“ تفعیل نظر اس بات کے حضرت معاویہ رضا کی طرف نسب اس فعل کی حقیقت کیا ہے، یہاں ملک صاحب سے یہ سوال ضروری ہے کہ وہ کہا کہ غوئے ”خطبہ میں برسر منبر سرت شب و شتم کی بوجھاڑ“ سہے اور ملک صاحب کے دیتے ہوئے سوالوں کے باوجود یہ دعویٰ اقتنہ دلیل ہے، اگرچہ ملک صاحب نے خود اس کا احساس کر کے یہ جواب دیتے ہی کوئی کیا ساخت جس کا وہ سرے کوئی مقول وہی نہیں کہ اس کا ترکیب موقنہ نہ ہو، پاسداری کے مترادفات میں باز پر اس کی جائے کوئی مقول وہی نہیں کہ اس کا ترکیب موقنہ نہ ہو، پاسداری کے مترادفات میں باز پر اس کی جائے کوئی مقول وہی نہیں کہ اس کا ترکیب ربانی بسوخایہ (۱۹)

دوسرہ ادرام کر انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا  
یہ بھی اقتزاد کے ضمن میں آتا ہے اس کا بھی کوئی ثبوت محدود صحفات میں نہیں  
مولانا کے دیتے ہوئے حوالوں میں تین افسر اراد کا نام ملتا ہے جو ایسا کرتے تھے  
ان میں سے ایک گنبد نر والیسہ بن عبد الملک کے زمانے کے ہیں جو میں کے  
گورنر تھے میر قادر شفیعی حضرت معاویہ رضا کی وفات سے ۳۲۷  
بعد کا ہے انہیں بھی حضرت معاویہ رضا کے گورنریں میں شمار کرنا  
تعجب نہیں امر ہے ایز ان صاحب کے متعلق میں یہ صد احت بھی ہے  
کہ انہوں نے اپنے ماتحت سو بے کے ایک حاکم کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا  
لیکن اس نے ایسا کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ پر علاوہ "جو علی رضا پر تعمیل ہو تو  
ہے وہ خود ملعون ہے" ۱

دوسرے صاحب جو ایسا کرتے تھے وہ مراد ہیں اجودا نقی حضرت معاویہ رضا  
کے مقرر کردہ گورنر تھے لیکن محلہ صحفات میں کہیں بھی نہیں ہے  
کہ حضرت معاویہ رضا نے انہیں حضرت علی رضا پر سب و شتم کا حکم دیا  
ہے اما یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے زمانہ گورنری میں حضرت علی رضا پر سب و  
شتم کرتے تھے ظاہر ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ حضرت معاویہ  
کے حکم سے نہیں بلکہ از خود ایسا کرتے ہوں گے جس پر واعظ قریب  
یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضا نے انہیں معزول کر کے ان کی بجلی سعید بن الحارث

ربقیہ صور سابق، کسی سے بالپر شیئی حضرت معاویہ کے جس واقع ہے یہ اتدال کیا گیا ہے اس ماذ پر میں:

کا یہ مطلب نہیں چوناک صاحب ہادر کو ناچاہتے ہیں علمائے اہل سنت نے اس کا وارث غلام یہاں کیا ہے جسے  
ہم نے آگے تقدیم کیا ہے ہمایہ کسی پر ٹیکوت محیس میں اور واسطہ بارکوں میں کسی شخص کو نہ فکر ادا فنا نہیں یاد کر لیجئے  
میوب ہی ہے بلکہ اس پر کا تذکرہ بربر میر خطبے کی حالت میں اس کی تباہت کچھ اور ہی ہے مولانا کا یہی درست و  
بے جیں کی کوئی دلیل غلطیت و طوکیت میں بھی نہیں ہے اور مولانا کوئی دلیل صفائی بھی نہیں دعویٰ کے اثبات سے قاصر ہے جیا

کو مقرر کیا، انہوں نے کبھی حضرت علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کیا۔ اگر حضرت معاویہؓ کی طرف سے  
گورزوں کو یہ حکم دہتا تو یہ بھی ایسا کرنے پر مجبود ہوتے۔

خاتیا، بعض علمائے اہل سنت نے صراحت کی ہے کہ مردان کے متعلق جو اس قسم کی روایا  
آتی ہیں کہ وہ حضرت علیہ السلام یا اہل سنت پر سب و شتم کرتے رہتے، ان میں سے کوئی بھی صحیح  
نہیں، لم یصحح شیعی "من و مکمل" ہے۔

خاتا ہے اس کی صحت اگر کسی درجے میں تسلیم کر لی جائے اتب یہ پیغز و مناحث طلب ہے کہ  
سب و شتم کی نو شیعیت کیا ہے، سب سب و شتم ایک عام اتفاق ہے جو کئی موقوف ہے استعمال ہوتا ہے  
اس کے حقیقی معنی کمالی دینے کے میں، اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، کسی کو کمالی تو دد دی  
جائے، لیکن اس پر تاریخی تنقید کی جائے یا اپنے مخالفین کی پالیسیوں کو مذکور بحث بتایا جائے  
اس پر بھی سب سب و شتم کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، خود مولا نانے صاحبہ کرام کے اقدامات کو بخوبی<sup>۱</sup>  
نشانہ تنقید بنایا ہے، اہل سنت کے علماء میں تو اس کو صاحبہ پر سب سب و شتم قرار دیا ہی گیا  
ہے، خود شیعوں نے بھی اس سے صاحبہ پر سب سب و شتم قرار دیا ہے تھے، ظاہر ہے مولا نانے صاحبہ کو

سلسلہ البدایۃ والتسلیۃ، ج ۲، ص ۸۲ - ۸۳

سلسلہ تلہییر الجنان، ص ۵۲ - ۵۳

سلسلہ جربہ میں موجودی ماحب کی نزدیکی محدث کتاب "بیرونی مجموعہ بالاقساط" ترجمان القرآن میں شائع ہوئی تھی،  
اس وقت ایک فہید ارگن نے کھا تھا۔

ہات یہ ہے کہ شیعوں کی تنقید کو سب سب و شتم قرار دیا جاتا ہے مالا کلسی حضرات بھی صاحبہ  
کرام کو تنقید سے بچاتر نہیں سمجھتے۔ "ترجمان القرآن" کے تازہ شماروں میں مولانا برطانی  
کے قلم سے "شاعت راشدہ" سے ملکیت تک "کام تعالیٰ شائع ہوا ہے۔ مولانا نے اس  
مقالہ میں صاحبہ کرام پر ہی نہیں بلکہ صاحبہ کرام کے سر نیلی یعنی شفعتی ماذدین پر بھی تنقید  
فرماتی ہے۔ اگر یہ تنقید ایک شیعیوں کے قلم سے شائع ہونی تو یقیناً صاحبہ کرام پر سب سب و شتم  
قرار دی جاتی۔ کیا مولا نا موجودی صاحب پر بھی صاحبہ کرام پر سب سب و شتم کرنے کا فتنہ بی صاحبہ

کھلیاں نہیں دی ہیں اُن کے بہت سے آقا مات کو غلط کہا ہے، بالکل یہی کیفیتِ مروان کے  
مغلن سمجھنی چاہئیے، کتب قواریخ میں اگر اس کی صراحت ہوتی تب تو اس کی فوجیت بالکل  
 واضح ہوتی، کتب تو بیخ اس بارے میں خاموش ہیں تو یہی سمجھنا چاہئیے کہ وہ حضرت علیہ  
صلوٰۃ اللہ علیہ رحمۃ الرحمٰن رحمۃ الرحمٰن اُنہیں اپنے خود ملانا نے حضرت عثمان بن  
حضرت شریف بن العاص صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖۤ وَسَلَّمَ عَلیْہِ اجھیں کے اقوالات  
پہلی ہے، یادوں ان کا ہام اس عورت و احترام کے ساتھ نہ لیتے ہوں گے جس کے فی الواقع  
وہ مستحق تھے، جیسے خود ملانا نے ان صحابہ کو کہیں عورت و احترام کے لفظ سے یاد نہیں کیا  
جیسیں حضرت عثمان رضی نے گورن پتا یا حتا۔ ظاہر ہے یہ بھی ان کی ایک گورنامہ نت ہے  
جس کو سبتو ششم سے بھی تیرکاریا جاسکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ذیل کی روایت سے حضرت  
مروان رضی کے سبتو ششم کی یہ فوجیت معلوم ہوتی ہے۔

ایک آدمی حضرت سهل بن صفیہ کے پاس آیا، اور کھنے لگا، فلاں یا میر دینہ بربر  
تیر حضرت علیہ کا ذکر غیر متأبب الفاظ میں کرتا ہے، حضرت سهل ہونے اس سے  
بچھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا صد و انہیں بلوڑاب لگتا ہے، حضرت سهل  
یہ سک کہش پڑے لطف را م بخدا، یہ ہام تو ان کا خود بنی عصی اللہ علیہ وسلم نے  
رکھا ہو، اپنے کو ان کے اس ہام سے نیادوں اور کوئی نام پہلا نہ تھا۔  
اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا تیر بردار خدا اللہ عاصی  
کو ہام کی عورت و ناموں کا انہیں بخوبی احسان تھا، لکھن لکھن سبتو ششم کو درکنار، ای کہا جائیں  
اگر کوئی اس عورت و احترام کے ساتھ نہ لیتا، جس کے وہ مستحق تھے، تو یہ چیز ان پر گران  
گئی تھی، جس پر وہ نیک فرضی سمجھتے۔

میرے حاجب بھی کی طرف حضرت علیہ فوجیت ملے پڑے پر سبتو ششم کا لام خوب ہے مدد کے

امدادی پیشگوئی تھیں اس کا ثابت فرمادیا تھا مدد و مدد کا راجہ۔ (بر جعلان، مکمل)

لے یعنی بخاری ۱/۱۱ باب متابعہ میں اس - ۵۷۵ - بیچ کراچی۔

دیئے ہوئے حوالوں کی رو سے حضرت مسیح و بن شعبہ رضی اشدا عذر ہیں، ایسا واسد گورنر ہیں۔ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رض نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ روایت کے اہم حصے ملاحظہ فرمائیں، حضرت معاویہ رض نے حضرت مسیح و کوتا کیہ کی۔

صلی پرست اور ان کی مذمت اور حضرت عثمان رض کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتا، حضرت علی رض کے طفاب علی کے عیوب کی نشانہ ہی اور ان کو اپنے سے دور رکھنا، اصحاب عثمان کی تحریف اور ان کو اپنے سے قریب رکھنا... ابو مخسف کہتا ہے اکابر مسیح و کرنے میں سات سالی اور کچھ میئنے گورنر ہے، سیرت وکو ایں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عافیت پسند تھے، البتہ وہ حضرت علی رض کی مذمت اور ان پر تنقید اور تعلیم عثمان رض کی عیوب گیری نیز حضرت عثمان رض کے لیے دعائے رحمت و مغفرت اور ان کے اصحاب کی پاکیزگی بیان کرتا نہیں پھوڑتے تھے۔

ہمیشہ ان کا یہی طرز عمل رہا۔ اپنے آخری دربار امارت میں ایک رتیر دہ کھڑے ہوئے اور علی رضا و عثمان رض کے متعلق وہی کچھ کہا بوج پھٹے کہا کرتے تھے، انہوں نے کہا، آئے اللہ عثمان رضا پر رحم اور ان سے درگز فرم۔ اور ان کو ان کے بہتر عمل کی جزا دے انہوں نے تیر کی کتاب پر عمل کیا، تیر سے بنی کی سنت کی پیروی کی، ہمارے لکھر کو جس کو دیا اور ہمارے خونوں کی حفاظت کی لحد خود مخلوقوں نہ قتل ہو گئے، یا اللہ؛ ان کے درگاؤں، اقواموں، ان سے جنت کرتے والوں اور ان کے خون کا مصالیہ کئے

مالوں پر یتم فرا، اہم اس کے بعد تائیں عثمان رض کے لیے بدمعا کی شے

اس روایت میں مزدیسہ صراحت ہے کہ حضرت مسیح و رض کو حضرت معاویہ رض نے حضرت علی رض پرست و شتم کرنے کی تاکید کی اور حضرت مسیح و رض ایسا کرتے تھے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیئے کہ یہ دونوں حضرات ممتاز صحابی ہیں، دوفوں سے یہ مستبعد ہے کہ وہ اپنے ہمیں ایک جیل القعد سماقی کے ساتھ اور وہ بھی اس کے مرنسے کے بعد ایسا سلوک کرتے تھے، اگر حضرت معاویہ رض

سیاسی کشکش کی بنابر حضرت میخرو رہ کو ایسا کرنے کا حکم دیتے ہیں تو حضرت میخرو ڈیقیقاً ایسا کرنے سے انکار کر دیتے، وہ نظر تا صلح جو اور عافیت پسند تھے، ان کے اس مذاق کی وجہ سے اس روایت میں بھی موجود ہے، اہداس سے قبل مگر ان کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جنگ بھی وضیعیت کی وجہ کے آراء ہوں سے بیرون چلنا ہے، دونوں فریقوں میں سے کسی فریق کا انہوں نے ساخت نہیں دیا۔ ایسے شخص کے متعلق یہ بادر کرنا کہ ایک دم ان کے مذاق میں اتنی تبدیلی آگئی کہ وہ بربر مذہب حضرت علی رضا پر "سبت و شتم کی بوجھاڑا" کرتے رہے، ناممکن ہے۔

دوسرا نے خود اس روایت میں حضرت علی رضا کی مذمت اہدا کی پر سب و شتم کی حقیقت موجود ہے، روایت کے آخری خط کشیدہ فقرے راوی نے اسی طرزِ عمل کی وجہ احت میں ذکر کئے ہیں، جو انہوں نے حضرت علی رضا و حضرت عثمان رضہ کے متعلق اختیار کئے رکھا اس میں کہیں حضرت علی رضا پر سب و شتم نہیں ہے، صرف حضرت عثمان رضا اور ان کے طرفداروں کا ذکر ہے اور آخر میں قاتلین عثمان رضا کے لیے بددعا ہے۔

تسیسرے اتفاقیں عثمان رضا کے سلسلے میں حضرت علی رضا نے جو شیر و نیخ طرزِ عمل اختیار کیا تھا، اکابر صحابہ کی ایک معمول قعادا سے پسند نہیں کرنی تھی، جبکہ میں اتم المؤمنین حضرت عائشہ رضہ حضرت طلحہ رضہ و زبیر رضہ اور حضرت معاویہ رضہ نمایاں تھے اسی حضرت معاویہ رضہ نے اگر قیامتی یہ حکم دیا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ حضرت علی رضا کی اس پاکیسی کی وفات کرتے رہتا، اسی لیے ساتھ چھپی انہوں نے حضرت علی رضا کے طرفداروں کے عیوب کی نھانندی کرنے کے بھی تاکید کی کیونکہ ایک شر پسند گردہ حضرت علی رضا کا نام نے کامیاب تحریک کی روشن اختیار کئے ہوئے تھا، جو دو حضرت علی رضا کی حیات میں ان کی خلافت پر ہو لوگ چھائے ہوئے تھے، وہ دبی با غی مخفی، جنہوں نے حضرت عثمان رضا کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ پونک حضرت علی رضا کی زندگی میں بھی ان سے متعلق اسے بے اہدا کی طہادت کے بعد بھی ناکامی کی مقتدرت و محبت کا حجم بھرتے تھے اس بنابر ان کی مذمت کو راویوں نے حضرت علی رضا کی مذمت کو مستلزم کیجیا یا۔

---

سلہ عزیز مرکب غلام ملکی اصحاب نسبت علی رضا کے اس سلسلے میں سودا ماسعدی کی ذکالت میں ہے، اس سلسلے

دعا شیعہ تقدیم صفوی گذشتہ ہستق طویل بحث کی ہے جس میں انھیں نے اس مدد کے اثاثت میں پہنچا دیا تھا مرفکیلیے کہ سماپت کلام کے بہترین معاشر میں یہ گھنٹہ ناطق قرآن پور سے شدود مدد کے چاری سہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک صاحب نے کتب احادیث و تواریخ سے جتنی بھی حدایات ذکر کیں، ان میں سے کسی سے سب سے بختمنی فوتیت معلوم نہیں ہوتی، جیسا تک کسی حدایت سے یہ باد جذب کیا جائے کہ یہ سب سے بختمنی و اخیز طور پر اسی گھنٹے اور نیتیت کا ہستق جو اس کا ہام من درم یا چاتا ہے، اس وقت تک سب سے بختمنی کے الفاظ کا دہنی خود کم سمجھا جائے گا اس کی ہم نے دعا سنت کی ہے، حضرت سید بن الجوزی مدرس کا بہردا نقشی صحیح مسلم نبیو سے ملک صاحب نے فتنہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہ، اس نکل انتہت اپنے اباب، آپ کو کس پیر علما ہے کہ آپ اپنے ارباب دعوات میں ہی یہ سب سے بختمنی کیون؟ اس کی تشریح میں ہام نہیں نے اُڑھا اُن سنت کے یہ کافی ہے کی وفات اس طرح کی ہے ہو، نے کہا ہے کہ وہ حدیث جس کے نام پر انتہا کے کسی معاون کی قیادت میں ہو، اس کی تاویل موصی ہے ایز علاد فہ کہ چکر ثناں راویوں کی بیانی کیونہ اس اعلان کی حدایات میں کوئی روایت ویسی نہیں ہے جس کی تاویل مکمل نہ ہو، مدرس کے بعد حضرت معاویہ کے اس قول کی تین ملوثیں پیش کی ہیں، اولًا «صلوبیۃ کا یہ قول اس بات میں مرجح نہیں کہ انہوں نے سمعہ کر حضرت ملک پر بختمنی کرنے کا حکم دیا، انہوں نے اس سے سبب کا حوالی کیا جس کی بنیاد پر وہ ملک پر سب سے نبی کرتے تھے کیونکہ ان کا مقصد سماں حرفیہ سلام کرنا تھا کہ ان کا یہ طرزِ عمل فی الواقع تو شرع کی جانب تھا یا کسی خوف دیا گئی نہ سبب کی بنیاد پر اگر ملک زندگی بدل دیتا تو اس قدر ترقی کی جائیسا نہیں کہ تلقین طرزِ عمل دعوت محسوس انسان کے طبقی ہے اور اگر کسی اور وجہ سے دیسا نہیں کرتے تو وہ بات یہ «وَهُرَى تَدْبِيلُ اس طرح کی ہے کہ مدد کی ایسے گوہ بیس گھنٹے ہوں جو سبب کہیا ہو، ان کے ماتحت مدد نے ہیسا دیکھا ہوا کہ وہ جس سے اس پر ملکی بھی نہ کسکے ہوں یا انہوں نے اس کو وہ پنکھ کی ہو، معاویہ نے اسی کے سقط ان سے یہ دعا سنت چاہی ہو، تیسرا تاویل یو جملہ ہے اُن سنت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ حضرت ملک پر کے اجنباد تھے اُندر کو قطط اور سارے اجنباد کو صحیح کیوں نہیں کھلتے ملکی صحیح مسلم (۷۸۶، ج ۲، باب فضائل علی، عن ۷۸۶) آتوالذکر تیسرا توجیہ سیاقی کلام کے تبدل سے تا سبب تیس رکھتی، غائب اسی یہے ملک صاحب نے یہ تجویز نہ فتنہ کر کے اس پر یہ میار کس دیشے ہو، یہ تو چوہ بالکل یہے محل ہے اس لفظ یا سیاقی کلام میں اس کے یہے (دیقیعہ خاشیہ لعلی صفوی پر)

مزید بیان اسرالاوم کی تخلیط خود حضرت علی رضہ کے قریب تین اعواد و اقارب کے طرز عمل سے ہو جاتی ہے، تاریخ میں نایاں طور پر موجود ہے کہ حضرت حسن رضہ، حضرت حسین رضہ، حضرت علی رضہ کے صاحبزادگان، حضرت عبد اللہ بن جعفر، اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضہ وغیرہ حضرت معاویہ و یزید سے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کے باقاعدہ سالانہ دخلائٹ لودہ کامروفت کے موتحضر پر الگ مطیارت و تھائیں وصول کرتے تھے، حضرت علی رضہ کے ایک اور صاحبزادے محمد بن حنفیہ، یزید کے پاس جا کر قیام کرتے، عبدالمطلب بن پیغمبر مشئون میں ہی جا کر آنکست پذیر ہو گئے تھے، ان کے اور یزید کے اپنی نوشگوار تعلق کا اندازہ اس بات سے بخوبی لکھایا سکتا ہے کہ وقت انہوں نے یزید کو اپنا وصی بنایا جحضرت عسینی رضہ کے صاحبزادے دنیہ الحابدین، کا یزید کے ساتھ تعلق کا یہ حال تھا کہ یزید کے ساتھ ایک ہی دستخواہ ان پر پڑھ کر کھا تناول فرماتے، اسی طرح ان کا تعلق یزید کے بعد بنسنے والے محقق اور وادی اور عرب لک بیرون اس کے ساتھ رہا، یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ یہ تمام حضرات ایمانی خیرت اور

دینیہ دینیہ صفوگ رخصت اکنی جھاتل نہیں، لیکن اس سے تبلیغ و دلچسپیں کی گئی ہیں لہو کو تکمیل اس بھی حلال نکل حضرت معاویہ کے اس قول کی ان دو تجھوں میں سے ایک نہ تیک توجیہ ہے اس انی کی جا سمجھی جو بحوالہ حدیث احادیث و تاریخ سے اس لہر کا ثبوت تو تھا ہے کہ حضرت معاویہ رضہ کے عہدیں اس کے بحق گرد حضرت علیہ پرست کرتے تھے، لیکن اس سب کی ذمیت وہ ہے جس کا ہم نے مذاہت کی ہے اور اس کے مطابق ہے البتہ مولا نامودودی انسان کے رفقاء کا امراء یہ ہے کہ سب و شتم کا دہی بیانی مفہوم لینا چاہیئے جو مدنالیا جاتا ہے ماب یہ ہر شخص کی اپنی رخصی ہے کہ وہ اہل سنت کے مذاہج کی پیش نظر کتھے ہوئے اس تو توجیہ کو مجھ سمجھے جس سے احترام صاحبیت کے تقاضے موجود نہیں ہوتے یا پھر مولا نامودودی کی اس نفعیہ کوئی کو مجھ سمجھے جو کسی طرح صاحبیت کی اس رخصت کی طرح سے ملا جاتے نہیں رکھتا جس کی منظر کشی قرآن نے کی ہے۔

لہ تفصیلات کیسے دیکھے الہمایت والہمایت حق ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ -

خاندانی حیثیت سے عاری تھے اُن کے خاندانی کے سر بدلہ اور ممتاز ترین فوج حضرت علی رضا پر پوری حملت میں سب و شتم کی بو چھاڑ ہوتی رہی، لیکن ان میں سے کسی نے حضرت معاویہؓ سے جا کر یہ نہ کہا کہ آپ کے حکم سے کیری کیا ہے مودع گی ہو سر ہی ہے یا کم از کم بطور احتجاج خان سے اپنے تعلقات متقطع اور فضائیل یعنی سے انکار کر دیا ہوتا۔ کچھ اور نہیں تو یہ تو وہ کہ رہ سکتے تھے اور ایسی صورت میں ان کے ایمان، کدار اور خاندانی خیرت کی طرف سے ایسا کہنا غرض تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اب دو ہی صورتیں میں یا تو یہ لوگ ہی اخلاقی درجات، ایمانی خیرت اور خاندانی عصوبیت و حیثیت سے خود پاشد عاری تھے، یا یہ تمام افشاء ہی طبع زاد ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں، پہلی صورت میں کو قبول ہو، وہ سب و شتم کا افسانہ سمجھ سکتا ہے، ہمارے نزدیک تو دوسرا صورت ہی قابل قبول اور قریبی صحت ہے۔

اللهم حفاظت کے باوجود اس الزام کی صحت پر ہی اگر کسی کو اصرار ہو، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا آغاز دو روایت سے نہیں، خلافت راشدہ سے ہوا ہے۔ حضرت معاویہؓ کے طرز عمل سے نہیں، خود حضرت علیؓ نے سب سے پہلے اس مکروہ بدعت "کا آغاز" کیا ہے۔ کتب تواریخ میں موجود ہے کہ علیؓ کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ و مطر و بن العاص و عیو و پرمخت کی "بو چھاڑ" کر دی، صحیح کی نہایت میں حضرت علیؓ بائیں طور دوڑھائے قوت پڑھتے "اسے اشد معاویہ، عقر بن العاص، ابو الاعور اسلئی اجیب، عبدالرحمن بن خالد، مفتاح بیت نہیں اور ولید اُن سب پر لعنت فرماء حضرت معاویہؓ کو جب یہ اصلاح پیشی کر اس کے چونکے میں انہوں نے قوت دیں حضرت علیؓ بیان جاس، اختر، صن و حسین پر لعنت لکھی شروع کر دی۔

سلسلہ الجبری، ج ۵، ص ۱۶، الکامل، ج ۲، ص ۲۰۰، تاریخ بغدادی، ج ۲، ص ۱۱۱۔ مشهور محدث ابن الجبیر نے بھی یہ مطابق اپنی "مصنفہ" میں ذکر کی ہے اگر یہ روایت، جس سے اس مکروہ بدعت کا آغاز خلافت راشدہ پر حضرت علیؓ کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے، اس روایت سے قوی تر ہے جس سے مذکور ایام حضرت معاویہؓ پر عائد کی ہے (ج ۱، ص ۲۰۰، طبع جیدہ آباد ایکی) شیخ الاسلام ابی القاسم شافعی اس روایت کو صحیح تسلیم کر کے کہا ہے، لہٰذا علیؓ دو طرز سے ہوا ہے جس طرح جگہ میں "لغت فرقہ" تو

ظاہر ہے یہ روایت مولانا کے نزدیک صحیح ہوئی چاہیے اس کے بعد یہ کروہ بعثت ہلوگیت کا تیجو نہیں تو  
جیسا کہ اس کا نام یاد ہوتا ہے مغل و خلافت راشدہ میں بھی پاپیہ باتا ہے یہ مولانا کے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے  
کہ یہاں سی غرض کی خاطر حضرت علیؓ نے مذکور یعنی عائشہؓ کو ہوئی پاپا کی تو تیرٹہ اتنے اخ دا سکنی بازی ہوئی جو کہ  
بماند جانے میں کوئی تباہ نہ کیا اور حرام و ملال کی کوئی تینڑا ہوہل نے روانہ کی ہے "اگر مولانا تاریخ کی بعض صفحہ  
دیلیات کو نہیا درنا کہ حضرت معاویہؓ کے لیے اس قسم کے اتفاق استعمال کرنے میں کوئی جھگجھ محسوس نہیں  
کرتے تو وہ سرے حضرات یہی المفاذ خود خلافت کے حق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مالاں کو اس  
سے ہو کشکی کوئی معقول ولیل نہیں بدی جاسکتی۔

### ۳۔ مالاں غیبت کی تقسیم میں تبدیلی ہے؟

پوچھی شوالی جو دی گئی ہے اور یہ ہے کہ

مالاں غیبت کی تقسیم کے محاصلے میں بھی حضرت معلویہ رضہ نے کتاب اللہ و سنت رسول  
اللہ کے مترجم احکام کی خلاف درزی کی۔ کتاب درست کی وجہ سے پڑے مالاں غیبت  
کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہوتا چاہیے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم  
ہونے چاہیں جو لڑائی میں شرکیہ ہوئی۔ لیکن حضرت معلویہ رضہ نے حکم دیا کہ مالاں غیبت میں  
سے چاندی سونا ان کے لیے اگر نکال لیا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے طبق  
تقسیم کیا جائے ॥ (ص ۱۶۲)

مولانا کا یہ دعوے ہے بھی کسی مضمون بندی پر بنی نہیں، تاریخ کی کسری وہ ترین روایت سے  
بھایہ ثابت نہیں کہ حضرت معاویہ رضہ نے فی الواقع ایسا کرنے کا حکم دیا  
ہو۔ اصل صورتِ واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ عراق کے گورنر ازیادہ کے تحت

(بیتہ سالیہ صفوگز شدہ) ہوتے (منہاج السنۃ، ج ۱۷ ص ۲۷۷) نیز خیال رہے کہ مرف اسی روایت میں  
"اویح طوبہ پر مفت" کا لفظ ہے جس کی وجہ سے اس کا آغاز حضرت علیؓ کی خلاف سے معلوم ہوتا ہے، محمد صدیق  
سے ملت جتنی بھی روایات اس ضمن میں مذکوریں، انہیں کسی بھی اس قسم کے "اویح اتفاق" ہماں نظر سے نہیں گزرے  
لیں جو اتفاق اُن مفتیوں کی بُسانی کا تابیں کی جاسکتی ہے لیکن اسے اور مفاد نہ کرے۔

خواسان میں حضرت حکم بن عزروہ غفاری حاصل تھے، انہوں نے دہائی کفار سے جہاد کیا جس میں ان کو فتح حاصل ہوئی اور بہت سامالی غنیمت ہاتھ لگا، انہوں نے گورنر عراق نیاد کو اس کی مدد کیا، زیاد نے ان کو غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں لکھا ایں ایمرومنی خداوندین قلعہ کتابہ ان پرستھی کے لئے کل ہفتہ ہبھیٹا، ریعنی الذہب والفضیل تھم کہہ من مذکور الغنیمة بیت المال دامیر المؤمنین کی طرف سے یہ خط آیا ہے کہ مالی غنیمت میں سے ان کے لیے سوتا چاندی الگ کر لیا جائے اسوتا چاندی سب بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اس خط میں نیوں نے اس حکم کو حضرت معاویہ رضیؑ کی طرف ہزار شریف کیا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں کہ حضرت معاویہ رضیؑ نے فی الواقع ایسا کوئی حکم بھی دیا تھا؛ نیوں نے حکم نیاد نے حضرت معاویہ رضیؑ کے حوالے سے از خرد یا تھا، قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر الواقع حضرت معاویہ رضیؑ نے یہ حکم دیا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس حکم کو ان جعلی قائلین پر ناقہ کرتے ہو گئے انہوں نے مرکز سے مختلف علاقوں میں جہاد کے لیے بیجے بھے تھے۔ دوسرے ہمارے گورنر کو اس کی پدالیت کرتے تک اگر فرایک ہی گورنر کو تیسرا سب سے بڑا قریب اس ہر کا کہ یہ حکم حضرت معاویہ رضیؑ نے نہیں دیا تھا یہ ہے کہ حضرت حکم بن عزروہ جی کو سوتا چاندی الگ کرنے کا سکھ بنا گیا تھا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور تمام مالی غنیمت اس فسح پر تقسیم کر دیا جو لامی میں شرک کے ہوئی تھی، صرف بنا پچھلے حصہ بیت المال کے لیے الگ نکال کر دکھ بس کا شریعت نہ سکم دیا ہے، اور نیاد کو انہوں نے کیا مالی کتاب اللہ مقدم کی کرتا ہے ایمرومنی، اللہ کی کتاب کا حکم ایمرومنی کے خط سے مقدم ہے۔ اب یہ کثیر مکتبہ میں اختلاف زیاد اُغیا اکتب الیہ علی معاویۃ، انہوں نے نیوں کے اس حکم کی خلافت کی جو اس نے معاویہ کا ہم کے کران کیا تھا، "حکم بن عزروہ کی اس جو اتنے سے اپنے اندازہ رکھ لیتے ہیں کہ نیوں نے یہ حکم از خود اپنے طور پر ان کو دیا تھا، لہاگا اس میں حضرت معاویہ رضیؑ کو دعما خاص ہوتی تو نیاد اپنے ماتحت عمل سے اپنے جزو پر دکھ

خاک میں ملتا ہوا نہ دیکھ سکتا تھا۔ قورآن کے خلاف کارروائی کر کے یا کم از کم ان کو مل کے جسد سے سے پٹا کر اپنی خلافت کا بدلہ لے لینا، لیکن اس کو ایسا کرنے کی جرأت نہیں ہوئی وہ اس کے بعد بھی بدستور پا پتھر میں اپنی وفات تک اس جسد پر رہ ہے۔

علاوه برین «المبایت»، کی روایت میں یہ الفاظ صاف طور پر موجود ہیں ہی یہ چاندی سوتا بیت المال میں جمع کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود مولا تایہ کہہ رہے ہیں کہ حق معاویہ رضہ نے یہ حکم دیا کہ چاندی سوتا المانی کے لیے اگر نکال لیا جائے، یہ مفہوم تاریخی کی دوسری کتابوں کی بیان کردہ روایات سے تو نکل سکتا ہے لیکن اب کثیر کی روایت اس ابام کی وقاحت ہو جاتی ہے۔ اس بناء پر واقعیت کو تعبیر ہو مولانا نے کہ ہے مناسب نہیں۔

جزید بر آں اس حکم پر ایک روز کے لیے بھی عمل نہیں ہوا، لیکن اس کو مولانا نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ گویا پدری مملکت میں اس پر عمل ہو رہا تھا اور حکم خدا کرائی سقت کی خلاف دنی کی جاہلی عتی انا لله وانا الیہ راجعون، حضرت عمر رضہ کے متعلق ایک فتوحہ پڑا شور ہے، مولانا نے بھی اس کو صفات پر ذکر کیا ہے کہ "ایک مرتبہ انہوں نے جھوک کے خلیے میں اس ناٹے کا اظہار کیا کہ کسی شخص کو فکار میں چار سو دہم سے زیادہ مہر پیدا ہے"

لہ حضرت خلیل علی صاحب نے صدر رک حاکم کیلئے سید دامت ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے حضرت مصلحتیہ کا درج تصور بخطیں حکم کی عتی نفت کی توحضرت معاویہ نے اپنے زستوں میں کاشی متفقہ کر لیا اور اسی حکم میں اندھہ سفلہ اس روایت کی صحت کی صورت میں ہماں تو جیہے غیر صحیح معلوم ہوتی ہے بلکہ صدر رک کی روایت یہ لذت ایک دیشترست بتایا ہے میں پرہیز ہو کر حضرت میر خان نے قید کا اس کلکی دفات اشارہ کیا ہے کیا انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد پرستور دعہ خواہان کے حکم رہتے تاکہ وہ پیدا میں اونکا استقلال ہو کیا ہے یعنی مراقبہ بہر تقدیم ہوئیں ذکر کے یہ چیز ہی بات کو تقریباً کمزیاہ دیا ہی خلافت کی ہمہ عتابات میر خان نہیں کیا ہے جس سے میں سخت بیخ ہو اور انہوں نے دعا اُلیٰ و جن کے لفظوں کو مخوب نہیں طرح دکر رکھتے ہیں، پس اُلریجے سیتیرے پس خیر ہے تو مجھوں نے اٹھا لے ہو اُسی مکا کے بعد کا کھنڈا ہو اُلریجے کہ مادر و ملک کو ہمہ عتابات پڑھنے اور اصحاب (الاصغر) میں ۳۰ اور ایک عقال ۱۰ سال کے بعد کا ہمہ سپر ہے

اجازہ نہ دی جائے ایک حضرت نے انہیں میں تو کیا کہ آپ کو ایسا حکم دینے کا حق نہیں پڑتا کہ تیر مدد و فضیل اور مال مریں دینے کی اجازت دیتا ہے آپ اسکی حد مقرر کرنے والے کوئی ہوتے ہیں حضرت عمر رضی عنہ نے فرما دیا ہے واقعہ ہم نے یہاں ماسیلے ذکر کیا ہے اکتوبر میں محقق، اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت عمر رضی پر بھی وہی الزام عائد کر سکتا ہے جو مولانا نے حضرت معاویہ رضی پر کیا ہے کہ اس واقعے میں بھی حضرت عمر رضی نے ایسا حکم دیا ہے جس سے کتابہ اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف مذکور ہوتی ہے اور وہ "محقق" صاحب اس بات سصرف نظر کر لیں کہ انہوں نے تو اس سے رجوع کر لیا تھا اور ایک بعد بھی اس پر عمل نہ ہوا۔ ہم اب اضاف سے سوال کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان یابھے کہ حضرت مولیٰ یسوع ہنسونا چاندی اٹک کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جن صاحب کو حکم دیا گیا تھا جب اس نے صاف طور پر یہ کہ کہ اس پر عمل کرنے سے انکار کیا کہ یہ حکم قرآنی یا حدیث کے خلاف ہے، اور حضرت معلیٰ شستہ رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف مذکور ہے تو کیا اس کے بعد بھی حضرت معاویہ رضی پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف مذکور ہے کہ الزام عائد کرنا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو تمہارا اس الزام سے حضرت عمر رضی کو کس طرح بچایا جائے گا؟ پیغامبر ﷺ اور جو

## ۵۔ استحقاق زیاد

پانچویں مثال بود کہ گئی ہے وہ یہ ہے۔

دنیا بھی سیئہ کا استحقاق بھی حضرت معاویہ رضی کے الہام مخالف میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی ہوازن کے لیے شریعت کے ایک سلم قاعدے کی خلاف مذکور کی تھی، زیاد طائف کی ایک فونڈی سسکیتی نامی کوئی ثقہ سے پیدا ہوا تھا، لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہ رضی کے والد جناب ابوسفیان رضی نے اس فونڈی سسکتا کا ارتکاب کیا تھا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت ابوسفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے

نطفہ سے ہے... حضرت معاویہ رضہ نے اس کو اپنا حامی بنانے کے  
لیے اپنے والدہ ابجد کی زنا کاری پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت بھم  
پہنچایا کہ زیادتیں کا ولد المحرم ہے۔ پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا جماعتی الحاضر  
خاندان کا ایک خود قیادوں سے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کہ مکرہ  
ہے وہ تو ظاہر ہے ہے مگر قیافی حیثیت سے بھی یہ ایک مردی  
نامہ اور فعل مختصر... امام المؤمنین حضرت امام جعیہ رضہ نے اس کو جسہ گس کوپنا  
جہاں قسمیں کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا ہے (ص ۱۶۵)

اس واقعہ کی بتا پر حضرت معاویہ رضہ کو بلا مطلع کیا جاتا ہے، لیکن وہ کتنی نیوں پر چاہی  
کہ اگر فی الواقع ان کی نظریں میں اس کے کوئی معقول وجہ نہ ہوتے تو وہ اس قسم کی حرکت  
کبھی نہ کرتے، وہ ایک جیلیں القدح صاحبی اور کاتب وحی تھے۔ پھر اس وقت وہ اتنے  
عزم منصب پر فائز تھے جو ایک طرح سے نیا بہت رسول کی حیثیت رکھتا تھا اس کو  
اپنا حامی و مردگار بنانا ہی ال مقصد تھا تو کیا اس کے علاوہ اور کرتی ایسی صورت نہ تھی،  
کہ جس سے ان کی یہ سیاسی غرض پوری ہو سکتی؟ ظاہر ہے ایک شخص جب خود ہی حامی و  
مدگار بنت کے پلے تیار ہو تو اس کو اپنے سامنہ ملانے کیلئے اور بھی بہت سی صورتیں ہو  
سکتی ہیں، الحدیب کل شخص خود ہی کسی مدد نہ ہو تو اس کو فسیلہ میں  
اپنے سامنہ ملانے کا کیا فائدہ؟ وہ اس کے بعد نبھی، جانے تو اون کے مخالفت کا راستہ  
اختیار کر سکتا ہے، حضرت عقیل رضہ، حضرت علی رضہ کے سچے جماعتی تھے، لیکن اس نسبی تعلق  
کے باوجود انہوں نے اپنے برادر حقیقی کے جانے حضرت معاویہ کا سامنہ دیا۔ محمد  
بن الحنفیہ، حضرت حسین رضہ کے برادر حقیقی تھے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت  
حسین رضہ کے سامنہ تعاوی نہیں کیا، بالا اسطر حضرت حسین رضوی کی حالت اقتطع نظر کے دلوں کو  
تقویت پہنچائی، یہ چیز بہاری سمجھ سے بالا ہے کہ زیاد کو حامی و مردگار بنانے کے لئے آخر  
یہ ایک صورت ہی کیوں نکرہ کتنی تھی۔

دوسراتاں نور نکتہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضہ نے یہ استخلاف بالاتفاق الشیعیہ میں

کیا جب کہ حضرت معاویہؓ کو خلیفہ بننے ہوئے چار سال گذپکے تھے۔ حضرت معاویہؓ کے  
 علیفہ بننے پر اگر بعض لوگوں کے ذہنوں میں تلفی کے کچھ اثرات رہے سمجھو جو  
 تو وہ یقیناً اب تک نہم ہو چکے ہوں گے، چار سال کے طویل عرصہ میں ان کی  
 خلافت بھی ہر جگہ مضبوط ہو چکی تھیں، ماضی طور پر پوری مملکت ہر قسم کے انتشار  
 و افزائش سے محفوظ تھی، مملکت میں کمل امن و امان تھا، اسی حالات میں زیاد کو حامی و مددگار  
 بننا نہیں مزولت ہی کیا تھی؟ وہ کتنا بھی استثناء درجہ کا تدبیث مسلم، فوجی لیڈر اور غیر  
 عمومی قابلیتوں کا ماک ہوا لیکن اس کی حمایت کے بغیر اگر حضرت معاویہؓ کی خلافت سلطنت  
 نہ ہو سکتی پھر یا حضرت معاویہؓ کو اپنے آپ پر اس معاطلے میں اعتماد نہ ہوتا تو وہ اس کو آغاز  
 خلافت پھی میں اپنے ساتھ ٹوٹنے کی کوشش کرتے نہ کر چار سال کا طویل عرصہ گذر جانے کے  
 بعد اس کے بر جانہ اپنی آغاز خلافت میں حضرت معاویہؓ نے اس پر سختی پر قیامی حضرت  
 علیؑ کی دست میں سے وہ فارس کے علو قدر پر حاکم تھا، بیت الملک کی کچھ رقم خدیدہ کرنے والاس پر  
 دوام تھا، حضرت معاویہؓ نے آغاز خلافت اللہؐ میں اس کو لکھا کہ اگر اپنی صفائی پیش کرو،  
 اس بیرونی المال کی رقم چوتھے نے لے دیجی ہے وہ لدا کرو، اس پر زیاد نے لکھ دیا ہے پاس  
 اب کو اپنے رقم نہیں ہے، تھوڑی سی رقم میں نہ اس بیٹھ پس اعتماد کر کے رکھی جوئی ہے کہ  
 مسیبیت کے وقت لوگوں کے لام آئتے باقی تمام مال میں تسبیح امیر المؤمنین کے پاس  
 پہنچ دیا تھا، حضرت معاویہؓ نے اس کو پھر لکھا کہ اچھی بات ہے تو تم پاڑے پاس کو  
 ہم تمہارے معاطلے پر خود کریں گے اگر تمہارا حساب صاف ہو تو مشکل ہے، لیکن یا یا نہ  
 ہوا تاب بھیا ہم تمہیں روکیں گے نہیں تمہیں واپس بالائے کی اجازت دے دیں گے، لیکن  
 زیاد حاصل نہ مدد نہ ہوا، حضرت معاویہؓ نے عامل بعزم بُسر بن اطہا  
 کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ بُسر نے زیاد کو لکھا ہے یا تو تم امیر المؤمنین کے  
 پاس ہماضر ہو جاؤ درجنہ تمہارے بال بچوں کی خیس نہیں، اس پر  
 بھی زیاد نہ آیا، بُسر نے اس کے بچوں کو گفتار کر لیا، زیاد کے بھائی  
 ابو بکر نے حضرت معاویہؓ کے پاس اگر زیاد کے بھائی میں کی لدن زیاد کے بچوں کو اتنا کہتے

کی سفارش کی چنانچہ آپ نے بُسریٰ ارطاطہ کے نام درجہ لکھا اور نیاد کے پھولوں کو چھوڑ دے۔ اس طرح ابو بکر کی سفارش پر اس کی گلخانہ می ہوتی تھی اگرچہ اتنا ہی باشہ تھا کہ حضرت معاویہؓ کا اس کو ناجائز طریقے سے ملا شے بغیر کام ہی نہ پڑتا تو اس کو اپنے ساتھ بٹانے کا سچھ وقت تو یہ تباہ وہ اس پر ایک ایسے معلمے میں سختی کر دے ہے مخفی جس کا تعلق پچھلے خلیفہ سے تھا، اس موقع پر زمیں سے کام لیتے ہوئے اس کو جائز طریقے سے اپنے ساتھ یا سافنی مل سکتے تھے۔ سیکھنے انہوں نے ایسا نہیں کیا، چار سال بعد جبکہ استلحاق کی توابہ ہم اس کے سوا اور کی کہ سکتے ہیں کہ یہ استلحاق کسی سیاسی خوف من کی بنا پر نہیں مقابکہ فی الواقع حضرت معاویہؓ کے سامنے پھر ایسے دلائل و دووجه ہوئی گے اجتن کی بہت اپری استلحاق اُن کی نظر میں جائز ہو گا۔

مزید پر آن حضرت معاویہؓ کے سامنے دس اُدمیوں نے اس امر کی ہدایات دی کہ زیادابوسقیانہ رہنا کا بیٹا ہے۔ ان گواہوں میں جلیل القدر مجاہی حضرت ملک بن ربیعہ سلسلی اور خود حضرت ابو سقیانہ رہنے کی صاحبزادی، بُجُرَّیزہ بھی جزو شامل ہیں۔ گواہوں کے بعد نیاد نے کہا: گواہوں نے جو شہادت دی ہے، وہ حق ہے تو الحمد للہ اور اگر بیان ہے تو یہ سے احسانہ کے دلیل جواب دہی کی ذائقے داریں انجام دیں گے کام عاملہ تھے۔ خود حضرت معاویہؓ نے، استلحاق نیاد پر جب بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی، اس پر اس طرح تبصرہ فرمایا۔

در پختہ: عرب جانشے میں کریم نباد جاہلیت میں بھی معزز ترین محنت۔

اسلام نے بھی میری حضرت میں کمی نہیں، اضافہ ہی کیا ہے اُنیاد کی وجہ سے میری حکمت اکثرت میں لوثکت، حضرت میں نہیں بدل گئی، یات ہرف یہ ہے جب مجھ پر اس کا سحق و اضطراب ہو گیا تو میں نے اس کو اس کا مقام دے دیا۔

تل الطبری، ج ۵، ص ۱۴۸-۱۴۹، الہبلی، ج ۲، ص ۱۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴-۱۷۵۔

تل الصابور، ج ۲، ص ۱۳۲-۱۳۳۔

تل الطبری، ج ۵، ص ۱۶۵-۱۶۶، الکامل، ج ۱۳، ص ۹۷۲-۹۷۳۔

شریعی و اخلاقی نقطہ نظر سے حضرت معاویہ رضی کے نزدیک اس استخلاف کے جواز و  
استحسان پر ان کا یہ فعل بھی بہت پراقریزہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک صاحبزادی نہیں  
کے راستے، محمد اکے جمالہ عقد میں دے دیا۔ اگر یہ استخلاف شخص سیاسی غرض کی وجہ سے کیا  
گیا ہوتا تو ایک بادشاہ نادی کیوں نہ کرایہ ہے لٹکے کے ساتھ سیاسی ہاتھی جاتی جس کا پاپ ایسا کچھ تھا؟ لکھتا  
تو حضرت معاویہ رضی کے اس فعل کو بھی مدینی غرض کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی زبانوں کو کون پکڑ سکتا  
ہے؟ حضرت ام حوثین ام جیبیر رضی کے متعلق بوجیر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کو بھائی مانتے  
ہے اسکے بعد کہیا اور اس سچھ پر وہ فرمایا ایہ بات کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ ان کا انتقال بھائی اسی سال  
۴۳ھ میں ہوا جس سال استخلاف نبیاد ہوا۔ جس میں سب کا اتفاق ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے  
کہ ان کی وفات استخلاف سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ ابن عبد البر نے دفعہ قل و کر کیے ہیں۔ لیکن  
ان کا زیادہ رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام جیبیر رضی استخلاف سے پہلے دفاقت پا  
گئی تھیں، دوسرا سے قل کو انہوں نے، قل اسے تغیر کر کے اس کے ضعف کی طرف اشارہ  
کر دیا ہے، اس لحاظ سے پر وہ والی بات خیر معتبر قرار پاتی ہے، الگان کو زندہ تسلیم کر لیا جائے تب  
جیسی کوئی فرق نہیں پڑتا، ملکی ہے استخلاف کے وجہ پر جو اپنے طبقہ پر ان کے ساتھ ہے  
وہ ہو سکے ہوں، اور ان کی نگاہ میں یہ فعل نامناسب قرار پایا ہو، صحابہ میں بہت سے ایسے  
سائل میں باہم اختلاف ہے جو کے متعلق فرع مریخ بھی موجود تھی۔ نظر بر طبقہ ان میں  
انخلاف کی کوئی صورت نہیں لیکن ان میں ان کے دو میان پھر بھی بعض دفعہ شدید  
اختلافات پائے جاتے ہیں، مزید بر آں ابن الاشیر کے بیان سے معلوم ہوتا کہ علماء  
امت کے ایک گروہ نے اس بارے میں حضرت معاویہ رضی کو مخدود گردانا ہے، اگرچہ  
ابن الاشیر نے ان ملائی کا جواب دینے کی کوشش کی ہے جس کی بنیاد پر بعض علماء  
انہیں مخدود گروائتے ہیں تاہم اس سے یہ امر تو پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے کہ

امت کا ایک گروہ اس بارے میں حضرت معاویہ رضہ کا ہم جیوال یا انہیں مدد و رسم جھتنا آیا ہے۔ بہر حال حضرت معاویہ رضہ کے اس فعل کو «سیاسی عرض» سے تعمیر کرنا مناسب نہیں، ان کی نظر میں فی الواقع اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو گی جبکہ کی بناء پر انہوں نے ایسا کیا اگرچہ نفس الامر میں کوئی شرعی قباحت اس میں موجود ہو، اس مسئلہ میں مولدتا مدد و رسم اور دیگر بعض علماء نے جواب و لجر انتیار کیا ہے وہ یکسر زانہ اس بہت ہے، انہیں یہ حق تو ہے کہ اس فعل کو اگر غیر مستحسن سمجھتے ہیں تو اس کا انعام کر دیں لیکن اہل سنت کا مزاج اس بات کا متحف نہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر حضرت معاویہ رضہ سے متصل ایسا بہ و لجر انتیار کیا جائے جو شرفِ مصحابیت کی حدود سے متjavد ہو۔

۶۔ گورنر انہا تقاون سے بالاتر۔

چشمی مثال بروکی گئی ہے، ایہ ہے،

”حضرت معاویہ رضہ نے اپنے گورنر کو قانون سے بالاتر قرار دیا۔ بعد ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق عمل کرنے سے صاف لٹکا کر دیا۔ ان کا گورنر عبد اللہ بن عمرو بن غیلان ایک مرتبہ بعرے میں منبر پر خطبہ دے رہا تھا ایک شخص نے دراہن خیڑے میں اس کو کنکر کر دیا، اس پر عبد اللہ نے اس کو گفتار کرایا۔ بعد اس کا ہاتھ گھٹوا دیا۔ حلال اگلے شرعی قانون کی رو سے یہ بیسا جنم دھتا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت للہال سے ادا کر دوں گا۔ مگر میرے عہل سے قصاص میلخے کی کوئی

سبیل نہیں“ (ص ۱۶۵-۱۶۶)

کہ نہیں معلوم کہ بعض دفعہ ماتحت عمال کی زیادتیوں سے اس نیا حشم پڑھی کرنی پڑتی ہے کہ پوری صورت حوالہ و اتفاق نہیں ہوتی یا کچھ شہمات اس کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں۔ اس کو اس بات سے تعمیر کرنا کہ

حضرت معاویہ رضوی نے اپنے گورنمنٹ کو قانون سے بالاتر قرار دے دیا تھا۔ خطاب ہے۔  
 حضرت خالد بن ولید کے ہامتوں مالک بن فویرہ کے قتل کا واقعہ بڑا  
 مشہور ہے، جس میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی زیارتی بیان کی جاتی  
 ہے، خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا  
 کہ آپ کے مقرر کردہ جریں خالد رضی نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے  
 ان کے خلاف کارروائی کی جاتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی معاشرے میں پیغمبر علیہ  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سے  
 سے مسترول کر دیا جاتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی نے انہیں نہ کوئی  
 سزا دی نہ ان کو معذول کیا، لطف کی بات بہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی  
 کے اس طرزِ عمل پر ایک شیعہ نے بالکل دہی احتراض کیا ہے، جو  
 مولانا نے حضرت معاویہ پر گورنمنٹ کی نیادتی پر شرعی احکام کے مقابل  
 کا علاوہ کرنے سے انکار کر دیتے کا کیا ہے لہظاً ہر ہے جس طرح  
 شیعہ کا اعتراض بالکل خطا ہے۔ اسی طرح مولانا کا حضرت معاویہ  
 رضی اللہ عنہ پر نہ کوئہ الزام سراسر ناکھا ہے، اسی الزام کی  
 صحت اگر تسلیم کی جاتے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت  
 معاویہ رضوی سے پھر خود حضرت ابو بکر صدیق رضی نے اپنے اپنی کارروائی کو قانون  
 سے بالاتر قرار دیا۔

مزید برآں واقعہ کی دلپڑی تفصیل سامنے رکھی جاتی،  
 جس سے مولانا نے نقل نہیں کیا، تو حضرت معاویہ رضوی کے طرزِ عمل کی پوری وضاحت  
 ہو جاتی ہے، حضرت معاویہ رضوی کے پاس استغاثہ جس الفاظ میں کیا گیا، وہ الفاظ  
 تاریخ کے ان صفات میں موجود ہیں جن کا مولانا نے حوالہ دیا ہے ماہرین نے

اگر حضرت معاویہ رضا سے کہا، ان ناٹبک قطعہ یہ صاحبنا فی شبہتہ قادر نامنہ، آپ کے گورنمنٹ  
ہمارے ایک صاحب کا ہاتھ بیٹھے کی وجہ سے کاٹ دیا ہے ارسیں ان سے تعامل ہوا یہی  
ظاہر ہے حضرت معاویہ رضا کے سامنے واقعہ کی وجہ صورت نہیں لکھی گئی جس طرح معتبر میں آیا  
تھا، انہوں نے استغاثہ دار کرتے ہوئے از خود رشید، کالمقک بزم صاحب دیا، جس سے خود بخود  
مقدمہ کر دہو گیا، بیٹھے کی بنابرہ احتکاٹ ڈالنا یقیناً گورنر صاحب کی زیادتی ہمنی روکیا اب  
دبارہ پھر شیخ کی بنابرہ گورنر کا ہاتھ کاٹ ڈالنا اسی فعلی کا اعادہ ہوتا جس کا انتکاب گورنر  
نے کیا اور شریعت نے جس سے صاف طور پر دوکا ہے۔ اس بناء پر ہاتھ کے بدے  
میں ہاتھ کا شنسے کی بجا تھے حضرت معاویہ رضا نے گورنر کو یہ سزا دی کہ اسی وقت اسے اس  
کے عظیم منصب سے معزول کیا، اور بیت المال سے استغاثہ کرنے والوں کو دیت ادا  
کر دی اموالا تا نے معزول کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اس سے مولانا کا یہ دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے  
کہ حضرت معاویہ رضا نے اپنے گورنر کو تباخوں سے ہالتز قرار دے دیا تھا، ظاہر ہے  
اس دعوے سے میں صداقت ہوتی تو انہیں معزول کرنے اور بیت المال سے دیت لواکرنے  
کی کیا ضرورت تھی۔

۷۔ قطعہ یہ کی سزا۔

ساکویں مثال اس طرح ہے۔

منیاد جب پہلی مرتبہ عطیہ بیٹھے کیے کوئی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہوا  
تو کچھ لوگوں نے اس پر لکھ چکھے۔ اس نے فرمادی مسجد کے ھدفان سے بند کر دیتے  
اور لکھ چکھے ہامے تمام لوگوں کو جوہ کی تعداد ۲۰ سے مہ تک بیان کی جاتی ہے اگر قاتا  
کر کے اسی وقت اس کے ہاتھ کٹوادیتے۔ کوئی مقدمہ اس پر نہ چوایا گیا۔ کسی حدات  
میں وہ نہیں کئے گئے۔ کوئی باتاحد تاتفاقی شہادت اس کے خلاف بیش نہ ہوئی  
گورنر نے عفن اپنے اتفاقی حلم سے استسہ لوگوں کو قطعہ یہ کی سزا سے ڈالی جس کے

یہ تعلق کوئی فرمی جواز نہ تھا۔ مگر دربار خلافت سے اس کا بھی کوئی فوٹ  
نہ لیا گیا ॥ (من ۱۶۹)

اوٹو یہ بات ہی خلط ہے کہ ان کے خلاف باتفاقہ قانونی شہادت بھائیش زہوی، اور  
تفصیل کئے بغیر ان کو تقطیع یید کی سزا دے ڈالی گئی۔ روایت میں صاف طور پر موجود ہے،  
مسجد کے دروازے بنڈ کر دیئے گئے ایسا دخواجہ ایک دروازہ پر بیٹھ چاہے، چار چار افراد  
کی صورت میں لوگوں کو باہر لایا جاتا، اگر وہ یہ حقیقت بیان دیتے ہے کہ ہم میں سے کنکھیں والا کوئی  
نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، جو شخص اس بات کا خلفت اٹھاتا اس کو رُک لیا جاتا، گیا رُف  
ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا، اقبالی جرم کے بعد عدالت یا  
قانونی شہادت کی ضرورت ہی کب باقی رہتی ہے؟ البتہ یہ واقعہ اگر صحیح ہے تو اس جرم  
میں تقطیع یید کی سزا اسرار نظر متعار، لیکن واقعہ کی صحت کافی حد تک مشکوک ہے، ایسا داد نے  
کوئی میں سب سے پہلے جو خطبہ دیا تھا وہ یہ نہیں ہے، جس میں اس پر کنکھیکے لگتے  
بلکہ وہ ہے جس میں حجرت کھڑے ہو کر زیاد کی نذمت اور اس پر لعنت بیسی تھی، جس کی  
اہمیت زیاد نے حضرت معاویہ رضوی کو دی اور از خورد ان کے خلاف کارروائی کرنے سے  
گزی کیا تھا، یہ پوری تفصیل پہلے گزیکی ہے لیکن اس یہی واقعہ ہی سرسرے خلط ہے ایک  
ہی واقعہ کو راویوں نے دو مختلف واقعہ بنادیتے ہیں اور دونوں کے متعلق ہر راوی نے  
یہی کہا ہے کہ یہ واقعہ اس کے اس مختصر کے وقت کا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کوئی  
کیجاں مسجد میں دیا، خاہ ہے اس صورت میں دونوں باتیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتیں  
۸۔ پُرسنیں اڑطاة کے ظالمانہ افعال۔

ہمیشہ مثالی یہ دی گئی ہے۔

ہمارے سے پڑھ کر ظالمانہ افعال پُرسنیں اڑطاة تھے کئے جسے حضرت معاویہ

نے پسلے جہاز دیمین کو حضرت علی رضا کے قبضہ سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا اس شخص نے میں ہیں حضرت علی رضا کے گورنر یید الشد بن عباس کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اس صدرہ سے دیوانی ہو گئی اس کے بعد اسی خالق شخص کو حضرت محاویر رضا نے ہمدان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جو اس وقت حضرت علی رضا کے قبضہ میں تھا۔ وہاں اس نے دوسری نیا دیوبند کے ساتھ ایک نظم غلطیہ کیا کہ جنگ میں جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھیں، انہیں لوگوں کے ساتھ ایک نظم غلطیہ کیا کہ جنگ میں جو مسلمان عورتیں پکڑی گئی تھیں، انہیں لوگوں  
بنایا ہے (ص ۱۶۴ - ۱۶۵)

یہ واقعات دوسری طویلت کے نہیں، اس وقت کے ہیں جب حضرت علی رضا خلیفہ تھے۔ ان واقعات کا تذکرہ اس بحث میں کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے جو طویلت کے نتا پر مشتمل ہے؟ یہ واقعات اگر صحیح ہیں تو اس نظم کی ذمہ داری حضرت علی رضا پر پہنچے ہائی ہوتی ہے کہ حضرت محاویر پر بعد میں، مسلمانوں کے جانہ والی کی حفاظت فلیقۃ المسلمين کا فرض ہے ہی نیز بسیروں نے اپنے اس طوفانی دودھ سے میں جو نظم ڈھایا، مولا نامے اس کی پوری تفصیل نہیں دی، احراف دو بچوں کے قتل کا ذکر کر کے رہ گئے، ممکن ہے مولا نا سمجھتے ہوں پوری تفصیلات سے ظاہر اس کامن گھرت ہونا دا صحیح ہو جائے احتیقت بھی یہی ہے، اس کی پوری تفصیل بوسودتی میں شہریان کی ہے اس پر کوئی سوچھر ڈھرد والا آئندی ایمان نہیں لو سکتا۔ اسی یہے بحق مخدومین فتح بصر بن اسطہا کے متعلق شہرت یا فترة واقعات میں مشغول ہوئے ہیں اپنی اپنی ذکر کرنے یا ان سے خط استدلال کرنے سے منع کیا ہے، ولے اخجل شہیرۃ فی الفتن لا یعنی انشا خل بہائے خود اپنی کشیر نے، جن کے حوالے سے مولا نامے مدد بچوں کے قتل کرنے کا واقعہ نقل کیا ہے، دوسرے مقام پر اس واقعہ سمیت تمام تفصیلات کو مشتبہ اور مشکوک

لے، اس کی پوری تفصیل احمدیہ کی حقیقت کے لیے دیکھو، حضرت محاویر کی سیاسی زندگی،

ص ۱۶۱ - ۱۶۲

سلسلہ الاصحابی، ج ۱، ص ۱۵۳ - ۱۵۴

تلقیعیا ہے، هذار ہذا بیج مرشد و عقد اصحاب المغانی والشیراد فی محشر عذر فنظر

مزید پرگان مسلمان عورتوں کو لوٹھی بتائیتے والی بات بھی خوب ہے امید طراہ اس پر یہ کہ مولانا نے اپنے عبد البر کا یقیناً تبصرہ بھی نقل کر دیا ہے کہ وہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی آپس کی بھی گفتار ہونے والی عورتیں لوٹھیاں بنائی گئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی این عبد البر نے بھی مراحت کی ہے کہ ان گرفتار شدہ مسلمان عورتوں کو نزید و قروحت کے لیے منظہ میں لوایا گیا اور ان کے حسن و جمال کے مطابق خود مسلمانوں نے ان کی پریان رکھا ہے۔  
اللهم احفظنا منه۔

یہ ہے دور شیر القردن کے صحابہ کرام اور ان کے تربیت یا فتح تابعین عظام کا کہا جو مولانا آج کے مسلمانوں کے ذہن میں بھٹانا جا ہے تھے ہیں، جماعت اسلامی کے افراد کو اگر ان واقعات کی صحت میں اس پر شک نہیں کریں مولا جامدودی صاحب کے قلم حیثیت نعم نے زیب قرطاس فرمائے ہیں، یہاں کے دین دیماں احمد عقیدت و محبت کا سماں ہے، اجنب کے وہ خود و قی دراہیں، ہمارے نزدیک بہرحال الہ واقعات کی صحت کافی جملہ مطلوک ہے۔ موڑ نہیں نے تو خلافت راشدہ کے فعد کو بھی بے داش نہیں رہنضو یا ہے، اخود حضرت علیہ السلام کے متعلق صاف طور پر آتا ہے کہ حضرت علی رضا نے انہی بسرین ارطاة کے مقابلے کے لیے حضرت ہماریہ بن قدامہ اور وہب بن منصور کو دودو ہزار کا شکر دے کر روانہ کیا، ہماریہ نے بخراج پہنچ کر ایک مظلوم عظیم نیکی کا پیٹ بستی کو جلد کر بھسپ کر دیا اور احمد بہت سے حامیاں عثمان رضا کو الگ تہشیح کر دیا۔ پھر پیغمبر مدینے آئئے، حضرت ابو ہریرہ رضی وہاں نماز پڑھانے میں مشغول تھے، ان کی کہدگی آئی پا تھے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی حالت نماز میں ہی وہاں سے بھائی کھڑے ہوئے، ہماریہ نے حضرت بھرے بھی میں کہا۔ و اللہ لو اندشت ابا سلور لکڑہت عنقر، بخدا، بلی والا ابو ہریرہ

اگر میرے تابویں آجاتا، میں اس کی گردی مار دیتا۔“ انہی صاحب کو حضرت علی رضا نے بھرے  
بھی بھیجا تھا، وہاں انہوں نے یہ درخشم، ”دھایا کہ حضرت معاویہ رضا کے بھیجے ہوئے عبداللہ  
بن الحضرت می کا محاضرہ کر کے ان سمجھتے، مگر کون ذرا استش کر دیا۔“  
اگر حضرت پیر بن ارطاة کے ”خلالہادن افعال“ کی صحبت پر کسی کو اصرار ہے اور اس بنابر  
وہ حضرت معاویہ رضا کو گردی زدنی سمجھتا ہے تو اسے چاہیئے کہ حضرت علی رضا کے فرستاد  
حضرت جباریہ رضا کے ”خلالہادن افعال“ کو بھی صحیح سمجھے، اور حضرت علی رضا پر بھی وہی الزام  
عائد کرے جو اس وجہ سے حضرت معاویہ رضا پر کیا جاتا ہے۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ  
بُسریہ لطفاء کی کارروائیوں کو تو بینا دینا کہ حضرت معاویہ رضا پر یہ حکم لگو یا جائے کہ انہوں  
نے اپنے گورزوں کو قانون سے باہر ترقارو سے دیا تھا، لیکن حضرت علی رضا کے اہل کار  
کی بہت زیادتیوں کے باوجود یہ الزام حضرت علی رضا پر عائد نہ کیا جائے گے۔

سلسلہ الطبری، ج ۵، ص ۱۳۰، البدریۃ والنهایۃ، ج ۸، ص ۳۷۷۔

سلسلہ الاستیعاب، ج ۱، ص ۹۷۔

سلسلہ حضرت ملک صاحب نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ تو حضرت علی رضا کے بھیجے ہوئے کوئی کافی کیا کا کوئی  
جو اپنے اور افغانستان تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ مدافعت کی صورت میں کیا درخشم، کی ابانت ہے؟ وہ سراہوب ایسا ہے  
کہ حضرت علی رضا نے اپنے خاندانی سے لٹکتے ہوئے باری دن تا کید فرمائی تھی کہ ان کی جان و ماں پر کتنی ایسا  
تبدیلی دیکھا جائے جو اسلام میں مندرج ہو، سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضا نے کیا اس کے بر مکن حکم دیا تھا؟  
ظاہر ہے یہ جواب اسی صورت میں صحیح مانا جاسکتا ہے جب حضرت معاویہ رضا کا حکم لٹکر علی اس کے بر مکن ثابت  
کیا جائے، تیسرا جواب ملک صاحب نے یہ دیا ہے کہ حضرت علی رضا کا تنی محدث ہی زرعی سکی کہ آپ اس  
پر مطلع ہو کر باز پرس کرتے، حضرت جباریہ رضا کی واپسی سے پہلے ہی آپ شید کر دیئے گئے، لیکن اس  
جواب میں بھایہ دیکھتے ہوئے کچھ دن حضور مسیح نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضا اپنے پولیس نے ہر حکومت  
میں با اقتدار ہونے کے باوصفت عملاء بے اختیار رہے اور کچھ چاہتے تھے، اور کر سکتے تھے بعد میں  
چاہتے تھے اسے وہ بخود غلط لوگ کر گزرتے تھے جو ان کی حکومت پر چاہتے ہوئے تھے خدا جلد حضرت  
(باقی حادیہ لائل صفحہ پر)

حقیقت یہ ہے کہ ان چند بھم اور مشکوک الحصوت واقعات سے مولانا نے جو یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ "یہ کارروائیاں گویا اس بات کا حملہ اعلان ہیں کہ اب گورنر ہوں اور سپر سالاروں کو ظلم کی کھلی چھوٹ ہے اور سیاسی معاملات میں شریعت کی کسی حد کے وہ پابند نہیں ہیں" یہ غیر صحیح ہے، تاریخ میں اس کے بعد اس ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جو مولانا کے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ بنا بری یہ کوئی صحیح ادراز نہیں کہ ایک خلائق کے تاثم کر کے تاریخ سے چند واقعات اخذ کر کے اس کو عمومی اور یقینی کا نتگ و سے دیا جائے اس ادراز نکل کر سے تو، جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا ہے، خلاف گئے راشدین پر بھی اس ذمہ کے نتیجیں اطاعت کا سافی عائد کئے جا سکتے ہیں۔

(بقیہ راشیہ صفوگز رشتہ) نے، جس کے حوالے ملک صاحب نے متعدد مقامات پر دیے ہیں، واحد طور پر لکھا ہے کہ حضرت علیہ رضے کے گورنر حضرت علیہ رضے کے اطاعت گزارہ تھے اہداں کی خواہشات کے علی الرحمہ، ابتری چیزوں پر ہے تھے حتیٰ کہ ان کے قریب ترین رشتہ دار عمال کا بھائی ہی حال تھا۔ عالمیہ ہرگز مطیع و مستعد حضرت امیر ہم بودند کا ردا ابتری سانستہ دار ہر طرف شکست خوردہ و ذلیل شدہ با درستی خیانت و ظلم دو سیاہی عدیں حاصل کر دیجیں یعنی دو حمال اقارب و بنا امام حضرت امیر ہم ہیں بود پھر جائے دیگران (اد تخفہ اشنا مشریعہ، ص ۳۰۷، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵) اسی حالات میں ملک صاحب کی یہ قوی کہ حضرت علیہ رضے کو الگ موقع ملتا تو وہ فرود باز پر کرتے اپنے بنیاد خوش فہمی سے زیادہ یثیت نہ رکھتی۔ ملک صاحب نے حضرت علیہ رضے کے اس قول کی بھائی رجیہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علیہ رضے کے عمال فی الواقع یہ سے تھے بلکہ اپنے اپنے عمال کو خیرت دلانے کے لیے یہ اہل ایک خاص عدد مخصوص میں استعمال کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ میرزا علیہ رضے کی کیا تو بھی کسی جائے گی کہ اسی ریاست میں کوئی گے حضرت علیہ رضے اثر سے دھا کر کے ہیں یہ میں اس سے تکمیل اگلی ہوں یہ مجرم ہے۔ میں انہیں بلا سمجھتا ہوں یہ مجھے انہیں مجرم ہے آلام دیدیے اسے بھی ان سے ہے اگر صحن خیرت دو نام تصور تھا تو انتہائی دل گز فکی کے عالم میں انہوں نے ترک دیتا کیا کیا افراد (بیتیجا فیلکے مرضیں)

۹۔ لاشوں کے ساتھ غیر انسانی اور وحشیات سلوک ۔

لئیں مثال مولانا نے اس طرح بیان کی ہے ۔

دوسرا کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھنے اور انتقام کے جوش میں لاشوں کی سیکھ رسمی کرنے کا وحشیانہ طریقہ بھی، ابوجاہاڑت میں دالجھ تھا اور جسے اسلام نے مٹا دیا تھا، اسی دور میں مسلمانوں کے اندر شروع ہوا ۔

سب سے پہلا سر بھوز مادر اسلام میں کاٹ کرنے جایا گیا وہ حضرت عمار بن یاسر کا مرتع ۔

جنگِ صفين میں حضرت عقبہ کا سر کاٹ کر حضرت مظہیر رضا کے پاس لایا گیا اور دو کمی

اس پر جگڑا رہے تھے، ہر ایک کتاب تھا کہ حارہ کوئی نے قتل کیا ہے؟ (من، ۲۸)

اول یہاں پر بھی یہ دعویے کہ دوسرا کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھنے اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا طریقہ بھی دورِ ملوکیت میں شروع ہوا ہے اور حضرت حارہ سے پہلے جنگِ جمل میں حضرت زبیر رضا کے سر کے ساتھ بھی سلوک ہو چکا ہے، ان کا قاتل ان کا سر کاٹ کر حضرت علی رضا کے پاس لے کر آیا۔ خود حضرت عمار رضا کے سر کی جو شال مولانا نے دی ہے، مولانا کو شوقِ اذام میں خیال ہی نہ رہا، کہ یہ بھی دورِ ملوکیت کا نہیں، انہا فتنہ راشدہ کے دور ہی کا واقعہ ہے، جنگِ صفين آخر خلافتِ راشدہ میں ہی ہوئی ہے۔ لاش کی بے حرمتی کے اس طریقے کو ملوکیت کا تیجہ کیونکہ کہا جا سکتا ہے؟

غایباً، حضرت عمار رضا کا دوسرا کاٹ کر حضرت معاویہ رضا کے پاس لایا گیا، اس سے حضرت معاویہ رضا پر کس طرح اذام عائد کیا جا سکتا ہے انہوں نے تو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اب یہی ہی بعض لوگوں نے اپنی منگدی کا مظہر ہو کر ابھی اس طرح اس سے پہلے حضرت زبیر رضا کے ساتھ حضرت علی کے بعض مادھوں نے کیا، حضرت علی رضا نے اس طریقے پر انہما پر خفگی فرمایا، حضرت معاویہ رضا نے بھی بالیقین اس طرزِ عمل کی مذمت ہی کی ہوگی،

(باقی مباحثہ مندرجہ ذیل تھی؟ دل کا گہرائیوں سے کلی جوئی مدد، ایسا کبھی بولنے کا سی سہنہ اپ کو شہادت اور تھوڑی بھگتی ملے گا)

ان کا حکم تو مذکور المثل بخواہ ان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے حضرت عمارہ رضوی کا سر لائے والوں کو احمدئٹ کہا ہو ؟ جب حضرت زیرینہ کے سر کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر ہم حضرت علی رضوی کو ہدفِ تنقید نہیں بناتے تو حضرت معاویہ رضوی کو اس بنا پر مودود طعن بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔ مزید برآں مخلافتِ راشدہ کے ان واقعات کو صحیحان تباہج میں شامل کرنا جو مولانا کے زعم میں «ٹوکیت» کے آجائے سے اسلامی حاشر سے میں پیدا ہوئے۔ انتہائی عجیب ہے۔

اس کے بعد مولانا نے حضرت معاویہ رضوی کے کوہیکی دوستا لیں اور حضرت معاویہ رضوی کے بعد کی کئی ٹھیکیں بوش کی ہیں ایر تمام بحایات مشکوک ہیں، ان میں محنت کے لحاظ سے کوئی بھی قابلِ اطمینان نہیں، بالخصوص ملن کمزور بحایات کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ رضوی کی ذات ستو دو صفات کو مجموعاً کرتا اور ان پر اتنا بڑا اکواہم ہائند کرتا کہ انہوں نے قانون کی بالائزی کا خاتمہ کر دیا اسراہلم احمد غیر منصفانہ طرزِ فکر عالم کر دیا جائے تو پھر اس الامام سے خود خلاف تسلیمان شد اشیون کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، ہم نے مثالوں سے اس کی خوب و مناحت کر دی ہے، ہماں و مناحت کے بعد بھی کسی شخص کو حضرت معاویہ رضوی کے بعض اقدامات خلافِ شریعت نظر آتے ہیں تو انہیں اسی طرح اجتنابی غلطیاں کھٹا چاہیئے جس طرح ہم حضرت عمر رضوی و حضرت عثمان رضوی اور حضرت علی رضوی کے کئی ایسے اقدامات کے متعلق کہتے ہیں جو بظاہر شریعت کے مطابق نہیں، ان پر کوئی بھی سیاسی انعام کی خاطر احکامِ شریعت کی یہی حرمتی کا الامام عائذ نہیں کرتا لیکن انسوسِ مولانا بدل تکلف حضرت معاویہ رضوی پر ایسے گھٹاؤ نے اذام عائد کرتے چلے گئے ہیں، ایسا کرتے ہوئے انہوں نے در و تخت نظر سے کام لیا تھا شرفِ محابیت کا کچھ احترام کیا، ان چیزوں کا اگر وہ ذرا بھی اہتمام کر لیتے تو حضرت معاویہ رضوی کے ساتھ وہ کبھی ایسا فلم روانہ رکھتے کہ حضرت معاویہ رضوی کو تیری کی زبان میں کھٹا پڑتا ہے۔

ہر زخم بجلگدارِ حشر سے چارا۔ الفاف طلب ہے تیری بیدار گی کا

بہر حال صحابہ رضوی کام اس سے بلند ہیں کو محض ذاتی مقادیا ایسا سی انعام کی ساطر شریعت کے احکامات کو پس پشتست ڈال دیں، حضرت معاویہ رضوی کتبت وحی کے شرف سے

سرفراز ایک جلیل القدر صحابی رسول اور ابو بکر رض و عمر رض کے معتمد علیہ شخص تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ان کا شیع اجتہاد و تفقہ مختصر، جس میں انسان قابل موافقة نہیں  
مددور ہے اور گنگار نہیں، مابھر ہے۔

ابن حجر ہبستی لکھتے ہیں۔

وَ حَفْرَتْ مَعَاوِيَةُ رَضِيَّتِهِ عَنْهُمْ تَرِينَ مُحَمَّدَ (مِنَ الْعَلَمِ الْمُجْتَمِدِينَ) أَوْ فَقِيهَةُ تَرِينَ  
عَلَى رَفِعَ عَرْبِيِّينَ الْعَاصِمِ رَضِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّةُ بُشْرِيِّيِّينَ إِلَيْهِ فَقِيرَ أَوْ إِلَيْهِ تَرِينَ  
مِنْ كُرْدَاتْتِيَّةِ تَرِينَ، حَبْ وَاقِعِيَّةُ تَرِينَ هُوَ تَرِينَ فَعَ مَاطْعَنَ كُلَّ طَاعَنْ صَلِيلٌ وَ لَطْلُلٌ  
سَائِرُ الْفَقَالُصِ الْمَتَسْوِيَّةِ الْمِيَّرِ .. فَهُوَ اعْرَفُ بِحَكْمَةِ اللَّهِ فَيَا يَفْعَدُ مِنَ الْمُتَعَذِّلِينَ

ہر طعن کرنے والے کاظمن آپ سے آپ دفع اور ان کی طرف تمام منسوب تقاضاں  
باطل ہو گئے۔ انہوں نے جو کچھ کیا، اس کے متعلق وہ مفترضیں سے زیادہ  
الله کے حکم کو جانتے والے تھے۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے جو کچھ  
کیا، اس پر اتفاق ہوتی کا کوئی شخص مجاز نہیں، انہوں نے وہی کیا جس سے  
حق سمجھا، وہ مجتہد تھے اور مجتہد کا اجتہاد جب تک اجماع یا نصیحت جلی  
کے مخالف نہ ہو اقبال نیکر نہیں، اور معاویہ رض نے نہ کسی اجماع کی مخالفت  
کی نہ ان کا اجتہاد کسی نصیحت جلی کے خلاف ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان  
کے اجتہاد پر مبنی ان کی راستے ذکر کو کوئی شخص نہ اپناتا تھا کوئی شخص ان  
کے پیچے لگتا، لیکن واتھ ایسا نہیں ہے، ان کی اکارے سے مجتہدین اقتت  
کے ایک گروہ نے موافقت کی ہے جو میں کئی صحابہ بھی شامل ہیں اور ایک  
جم غیر نے ان کی متابعت کی ہے۔<sup>۱۰</sup>

حضرت معاویہ رض کے بعد

یہاں تک ہم نے ان الزامات کی وضاحت کر دی ہے جو مولانا نے حضرت

معاویہ رضا پر سیاسی انحراف کے یہ سے شریعت کی حدیں توڑ دالنے کے ضمن میں لگائے ہتھے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا کے دلائی بودھے اور کمزور اور ان سے مستبطن تباہی سلطھی یا مبدأ الفرق آمیز ہیں۔ مزید برآں مولانا کے اس طرزِ عمل و طرزِ فکر سے عدالت صحابہ کے باجماعی عقیدے کو بوضعف پہنچا، وہ اس پر مستلزم اور۔

اس کے بعد مولا نا چرید روح اور ان بن الحکم اور دیگر علما میں بنی مروان اور اس کے بعد علما میں عباس کے چند جزوی جزوی واقعات اس ضمن میں ذکر یکی ہیں ہمارا یہاں تک کہ تبصرہ ہی توقع سے کہیں زیادہ طبیل ہو گیا ہے۔ ان تمام واقعات پر مزید تبصرہ ہی کیا جائے تو اور زیادہ طوالت ہو جائے گی، ہم نے بہر حال صحابہ کرام پر اپنے چونکہ ایسا کی نونفیقہ تعالیٰ صحیح حقیقت واضح کر دی ہے اور مولا نا کی یہ زیاد بھی توڑدی ہے کہ حضرت معاویہ رضا کے ذریں میں خلافت کی تمام خصوصیات ختم ہو کر رہ گئی تھیں اور یہ دو دھمکی ایک ایسی بادشاہت، اکا دور تھا جس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ علاوہ میں ہمیں اس حقیقت کے تسلیم کرنے سے بھی انکار ہے کہ حضرت معاویہ رضا کے بعد اسلام کی نظام حکومت کسی جاہلی نظام بادشاہت میں تبدیل ہو گیا، یہ صحیح ہے کہ بنی مروان میں سے چند ایک خلفاء ایسے ہوئے جو ننگ اسلام ثابت ہوئے لیکن ان کی اکثریت بہر حال جھوٹی حیثیت سے اسلامی مشریعیت و اخلاق کی پابند اور اسلامی عدل و سعادت کا نمونہ تھی، ان کا تصور حکومت وہی تھا جو اسلام نے عطا کیا اور جس پر خلافت کے راشدین کا بندیر ہے۔

پہنچری پر مستشر قین کے انکار کی صدائے بازگشت ہے کہ دولتِ اموی ایک خالص دینیوی حکومت تھی جس کا مقصد صرف استعماریت اور کشور کشانی تھا، اور وہ اپنی عالم زندگی میں چالیت کے پیر و مختہ، اسلامی آداب زندگی سے وہ نا آشنا تھے، چنانچہ شہنشہ مستشر ق گولڈنیزیر نے ہی اموی خلفاء کے متعلق یہ تبصرہ کیا ہے "خلافت و ملوکیت" میں اسی نقطہ نظر کو تعمیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مستشر قین کے اس دعوے کے متعلق شامی فاضل ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی مرحوم لکھتے ہیں۔ ہذا افتخار

علی الواقع والتأریخ دیے ایک افترا رہے جس کی واقعات اور تاریخ بتا شد نہیں کرتے) اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ کتب تو اور یعنی جو عصر اُمُوی کے حالات پر مختص ہیں، دوسرے عباسی کی مرتب کردہ ہیں، عباسیوں کی اُمُویوں کے ساتھ خاص و مشتمل تھی اس کے علاوہ بہت سے راوی غایی شیعہ اور لا فضیل تھے، اُمُوی خلفاء کے خلاف عباسیوں نے اور ان لاویوں نے بہت سے حقوقی مسخر کر دیتے اور وہ بلا تحقیق آج ٹھکنے پڑے اکھے ہیں۔ بنابریں اُمُویوں سے متعلق روایات بغیر تحقیق کے قابل اعتقاد نہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں یہ کہ ان حقوق کے باوجود وہیں بہت سا ایسا ماد مذابحہ ہے جس سے اس مستشرق کے اس دعوے کی تکذیب ہوتی ہے کہ خلفاء نے بنی امیہ شرعین اسلامیہ سے مخفف اور اپنی ذاتی امراض کے پروردگار تھے۔ "بعد از این طلاقہ سباعی مرخوم نے اس امر کے ثبوت میں مثالیں پیش کی ہیں کہ اُمُوی خلفاء کا طرزِ زندگی اسلام کے خلاف نہ تھا، اُمُوی شہزادے خوب سہر مقام پر گفار سے بر سر پیکار اسلامی فوجوں کی قیادت کرتے تھے لہ

ان کا جو تصور حکومت تھا، اس کے متعلق ہم بطور نمونہ صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں، ایزید بن الولید نے خلبیہ بنی کے بعد جو پلا خطبہ دیا، وہ ان کے تصور حکومت کی خوب و ضاہت کر دیتا ہے۔ اس نے کہا

آن بعد، لوگوں سن رکھو، میں را و خلافت میں کسی نکبر و ازا ہب، یاد بیادی جو من مغلب  
ہو کر یا شوق بادشاہت کی وجہ سے نہیں آیا ہوں! میں پڑا ذنقیصہ ہوں، تکبرُ سب بہتر  
میر سے یہ جائز ہو سکتا ہے۔ مجھے میر سے رب نے اگر دامی درجت میں نہ ڈھانپا  
تو میر سے حقیقے میں سوائے ہلاکت کے اور کیا ہے۔

میں نے اس لامہ میں ہر ہفت الشہادت کے رسولؐ اور اس کے دین کی حیثیت کی  
تحاط قدم رکھا ہے میرا مقصد الشہادت اس کی کتاب کی طرف اور اس کے بنی

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے۔

لوگوں جب تک میں اس شہر کی مردوں کو دشمنوں سے محفوظ اور یہاں کے باشندوں کو ان کی ضروریات زندگی سے بے نیاز رکھ دیں میں یہ ایمان یہ کوئی بخوبیں کھو رہا ہوں گا، زکر کسی کو ضروری عطا یات دیتے جائیں گے، یہاں کامال کسی اور شہر میں منتقل کیا جائے گا۔ یہاں کے باشندوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اگر کچھ ماں پنجھ لھے گا۔ تو وہ پھر ان علاقوں میں بیچھے دیا جائے گا جو اس کے ضرورت مند ہونگے میں کی کوچوا تجوہ مردوں پر بدل کوونکا کہ جس سے وہ خواں اور اس کے گھروڑے پر ایشان ہوں یہ میرا دروازہ کسی کیلئے بند نہ ہو گا ان تم میں سے کوئی پانچ سو سارے مدد و مدد مدت حلالی نہ کر سکے، میں ہم جزیرہ پر اتنا بوجھٹہ اونچا جسکی وجہ پر انہیں شہر یہ ہونا پڑے میر خدا تمہارے سالا عطا یا اور یہاں دھن پیں تاکہ تم اسلاموف کے بعد یہاں اسیاں میں کوئی تھیں؟ انکا بعید ترین یاد ہمی تھی تریخیں اُدمی بڑھو۔ میں اگر ان پیزروں کو بھی کامیں نے تم سے دعہ کیا ہے، پورا کروں تو تم پر ضروری ہے کہ یہ سکھ و اطاعت اور مدد کرو۔ اور اگر میں ان وعدوں کو پورا نہ کروں تو تمہیں حق ہے کہ میری اطاعت سے انکا کار کرو یا مجھ سے تو پر کرو اُس اگر میں تو میر کر لول تو میٹی ہے۔

تمہاری صلاح و اہل دین میں سے کسی کے متعلق یہ محسوسیں کو کوہ بھی تمہیں وہ حقیق دلہایا ت دے سکتا ہے جو مجھ سے تمہیں حاصل ہیں اور تم اس کی بیعت کرنا چاہو تو یہ دشوق ایسا کر سکتے ہو میں پہلا دشخیص ہوں گا، جو تمہارے بذباٹ کا سامنہ دیتے ہوئے، اس کی بیعت کر دیں گا اور اس کی اطاعت میں داخل ہوں گا۔

لوگوں مخلوق کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک اس سے خالت کی معصیت نہ لازم آئے، جہاں اور جب ایسا ہو دیاں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں۔ اطاعت صرف اللہ کی ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے، تم اس کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ اطاعت خداوندی سے تجاوز نہیں۔

نہ کرے۔ جب وہ خدا کی نافرمانی کرے یا معمقیت کی دعوت ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کا انکار اور اس کے حکم کو پایہ استحقاق سے ٹھکلہ دیا جائے۔ بلکہ ہر کسے تو اسے قتل یا ذیل و رسو اکیا جائے۔ اقول قولی ہذا واستغفار  
لی و لکم لی

خلافتِ معاد یعنی اور دولتِ اُمُوی پر علمائے امت کے تبصرے۔  
اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضیٰ کے دورِ حکومت کو "خلافت" سے تعبیر کیا جائے یا در طورِ "لوگیت" سے اس سے کوئی فرق نہیں  
پڑتا، ان کا دورِ حکومت بحیثیت مجموعی خلافت کی خصوصیات کا آئینہ دار نفخا۔ نیز  
لوگیت کے آتے ہی خلافت کی خصوصیات کا خاتمہ نہیں ہو گیا۔ بلکہ بتدریج میں زوال آیا ہے، حضرت معاویہ رضیٰ کے دور کو جو در بدترین امرتیت "کے روپ  
میں پیش کیا گیا ہے، اسے کذب و مبالغہ کے علاوہ دوسرا عنوان نہیں دیا جا  
سکتا۔ ایسی کیفیت تو حضرت معاویہ رضیٰ کے بعد بھی با وجود بہت سی کوتاہیوں  
کے، پسیدا نہیں ہوتی، جس طرح کروڑنا حلت کی جا چکی ہے۔ مزید  
چند تبصرے علمائے امت کے ملاحظہ ہوں۔ مسلمانہ ابن حسلد بن  
لکھتے ہیں۔

"بادشاہت ان کے نزدیک اسی طرح جائز ہے، جس طرح  
مال و دولت کا جمع کرنا اس وقت جائز ہے، جب اس میں اسراف و  
تبذیل سے احتراز کیا جائے، بادشاہت اور جلسے کو اتوں نے لا جائز  
امور (باعظی) میں صرف نہیں کیا اور نہ اس کی وجہ سے وہ دیانت اور  
حق کے مقاصد سے روگردانی کے مرتکب ہوئے.....  
بادشاہت حاصل ہو جانے کے بعد اس کا استعمال صحیح صحیح

اور دلاد حق میں کیا جائے تو وہ قابلِ نکیر نہیں، حضرت سلیمان اور دادا و د  
علیہما السلام بنی اسرائیل کے «بادشاہ» ہی تھے، اس کے باوجود  
وہ را و حق پر گامزد اور نبوت سے سرفراز تھے.....

اسی طرح حضرت معاویہ رضوی اور نیزید کے بعد مردان بن الحکم اور ان  
کے صاحبزادے عبد الملک، یہ بھی اگرچہ «بادشاہ» تھے، لیکن ان  
کی بادشاہت وہ نہ تھی جو سرکش اور برخود غلط لوگوں کی ہوتی ہے  
مقاصدِ حق ہدیشان کے پیش نظر ہے اور ان سے انہوں نے اخراج  
نہیں کیا، بعض دفعہ جو ایسی صورت پریدا ہوئی، اس کی وجہان کا یہ  
مقصد تھا کہ افتراتق سے امت کو بچایا اور اتحاد کو فنا نہ رکھا جائے  
یہ مقصد ان کے تزوییک دیگر سب مقاصد سے اہم تھا۔

ہمارے اس دعوے کے ثبوت میں ان کا جذبہ اتباع رسول اور آپ  
کی اقتداء کے واقعات نیزان کے جو حوالات و مقاصد علمائے  
سلف و خلف نے بیان کئے ہیں کافی شاہد ہیں۔ امام مالک اپنی  
کتاب «الموطا» میں عبد الملک بن مردان کے طرزِ علی کو بطور زیلین  
پیش کرتے ہیں۔ مردان تابعین کے طبقہ اول میں سے ہیں اور ان  
کی عدالت معروف ہے۔ پھر یہ خلافت خلیفہ عبد الملک کی اولاد  
کی طفیر منتقل ہو گئی اورہ بھی دین کے لحاظ سے اونچے مقام پر فائز  
تھے۔ ان ہمیں سے عمر بن عبد العزیز رہ ہوئے اپنے اپنے  
طاقت کے مطابق پہلے خلافت اُریجس اور صحابہ رضوی کے طریقے  
پر چلنے کی کوشش کی۔ ان کے بعد پھر ایسے بادشاہ ہوئے  
جنہوں نے «بادشاہت» کو دنیوی انحرافی و مقاصد کے لیے  
استعمال کیا اور اپنے سلف کے اس منہاج کو انہوں نے چھوڑ دیا  
جو انہیں ہر وقت حق سے اور اعتدال سے مبتدا نہ ہونے دیتا تھا۔

ان کے اس کھار نے ان کو لوگوں کی نظر وہ سے گردیا اور بادشاہت کو عبادیوں کی طرف منتقل کر دیا۔

نیر عبادیوں میں بھی بہت سے بادشاہ ایسے ہوئے جنہیں عدالت میں ایک خاص مقام حاصل تھا، انہوں نے بھی بادشاہت کا حسین سلطنت میں صحیح استعمال کیا اور اس کا رخ حق کی طفرہ موڑ دیا۔ ان کے بعد بنوال شید سر بر آرا نے خلافت ہوئے، بھی میں اچھے بھی تھے اور برے بھی۔ پھر اس خلافت سے میں ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے فی الواقع «بادشاہت» کو اس کے حقیقی معنوں میں استھان کیا اور دنیا اور باطن امور میں منہک ہو گئے اور دین کو پس پشت ٹال دیا، جس کی اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ خلافت کو عربوں سے چین کر دوسروں کو دے دیا۔ واللہ لائق متعلق خودتہ ۷

صدری فاضل علامہ محب الدین الخطیب نے حضرت معاویہ بن ابی ذئب کی سیاسی زندگی پر تبصرہ کیا ہے، اس کے کچھ حصے ملاحظہ ہوں، لکھتے ہیں۔

«خلافت، بادشاہت اور امارت یہ صلحانی عنوانات ہیں اجنبی کی اصل کیفیت انکے مدلول کے طرزِ عمل سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، آدمی کی سیرت اور اس کا طرزِ عمل ہی ہمیشہ معتبر ہوتا ہے۔ معاویہؓؒ سلسہ ۲۰ سال خلافتِ راشدہ میں شام کے گورنر رہے، پھر بیعتِ حسنؓؒ کے بعد ۳۰ سال پوری اسلامی تحریر کے خلیفہ رہے دو قویں حالتوں میں انہوں نے عدل و انصاف کے علم کو سر پر ہند رکھا تمام طبقات کے ساتھ نیک سلوک ان کا مقصد اور شرف اور کی تکمیل اور جہاد سے عفو و درگذران کا شیوه رہا، تمام امور میں

پورے حرم و احتیاط اور ایمان و استقامت کے ساتھ شریعت محمدیہ کے احکام کی پابندی کرتے، لوگوں کو نماز خود پڑھاتے، ان کی مجالس و مخالفی میں شریک ہوتے اور جنگ کے موقع پر خود ان کی قیادت کرتے.....

جو شخص بھی حضرت معاویہ رضوی کی سیاسی زندگی پر غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ شام میں ان کی حکومت عدل و انصاف با ہم جم و شفقت اور ہمدردی و اخوت کے لحاظ سے بے مثال تھی چالیس سال تک جس نے اس طرح مسلمانوں کی حمدلت کی ہوا اور اس دوران میں مسلمان مجھی ان سے خوش رہے ہوں، وہ بلاشک خلیفہ ہے، اور جو شخص انہیں درباد شاہ ۴ کئی پر مصر ہوا وہ بھی اس حقیقت سے انکار کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ تمام اسلامی ہادشاہوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور صائم ترین تھے۔

ہم زمانہ طالب علمی میں، طلباء کی ایک مغلیل میں، معاویہ رضوی کی سیرت اور ان کی خلافت کے موضوع پر آپس میں بحث کر رہے تھے، یہ سلطان عبد الحمید کی خلافت کا درود تھا۔ بحث کے دوران میرا ایک شیعہ دوست احمد کھرا چھاؤ کہنے لگا یہ تم ہمارے اس سلطان (عبد الحمید) کو بلا جمک خلیفہ کہتے ہو، میں باوجود شیعہ ہونے کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ زید پانچ پاکیزہ سیرت اور شرع محمدی کی متنا بعثت کے لحاظ سے ہمارے موجود خلیفہ سے نیزادہ، خلیفہ کھلا ٹے جانے کا حق دار اور اس کا مصداق ہے اتم اس کے باپ معاویہ رضوی کے متعلق یعنی کمی بحث کرتے ہو۔ اس کے بعد علامہ محب الدین الخطیب نے علماء و محدثین کے کتب تواریخ سے وہ تبصرے نقل کئے ہیں، جو انہوں نے حضرت معاویہ کی سیرت بد کار کے متعلق کہے ہیں، انہیں نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں۔

میر شالیں ہم نے اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ معاویہ رضا کی حقیقی صورت اس جھوٹی صورت سے کس قدر مختلف ہے جس کی تصویر کشی حضرت معاویہ رضا کے دشمن اور اسلام کے دشمن کرتے ہیں، اس کے بعد ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ معاویہ رضا کو خلیفہ اور امیر المؤمنین کہے، یا ان کے ساتھ اس لقب میں بخل رہتے۔ معاویہ رضا اپنے عدل، حلم، جماد اور عمل صاحب کی فرمادی میں کہ خدا کے حضور چاچکے۔ وہ ہماری دنیا کی اس بحث سے بے نیاز ہیں کہ انہیں خلیفہ سے ملقب کیا جائے یا بادشاہ سے، وہ اپنی آخرت میں اس پھریز سے کہیں زیادہ بے رنجیت ہوں گے جتنے وہ اپنی دنیوی زندگی میں پیٹر ہے ہوں گے۔

خلافت بنی امیہ میں بحیثیت مجموعی اسلامی سادگی کی جو کیفیت کا فرار ہی، اسے حافظ ابن حزم کی زبان میں ملاحظہ فرمائیں، وہ بنی امیہ کی خلافت پر تبصرہ کرتے ہوئے قحطان میں:-

دولت بنی امیہ عربی طرز کی حکومت تھی، اس کا کوئی خامن تقاضہ نہ تھا، ان میں سے ہر شخص نے اپنی رہائش اسی باحول اور اسی گھر میں رکھی جو خلافت سے پسے انہیں بیسر تھا، مال دولت کے سیئٹے اور خلافت کی تعمیر میں انہوں نے زیادہ توجہ نہ کی، اور مسلمانوں کو انہوں نے اپنے لیے یا سید اور ہمواری جیسے شناختہ القاب استعمال کرنے کی اجازت دی، انہوں نے اپنے فرمانیں میں بادشاہ یا خلیفہ کی اصطلاح استعمال کی۔ انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ شرف باریابی کے وقت وہ نہ میں بوسی، قدم بوسی یا وست بوسی کریں۔

مسعودی نے حضرت معاویہ رضا کے یہ میر سیاسی معمولات کی جو تفصیل پیش کی ہے

اوج محل کے جمہوری حکمران مجھی ایسا جمہوری طرزِ عمل پیش کرنے سے قاصر ہیں  
سعودی لکھتا ہے۔

”حضرت معاویہ رضا وزانہ نماز فخر کے بعد مقامی فوج داریا کپتان پولیس  
کی روپورٹ سننے، اس کے بعد وزراء اور مشیران و معاجمیون خاص، امور  
سدھنست اور مہاتِ ملکی کی سر انجام دہی کے لیے حاضر ہوتے۔ اسی مجلس میں  
پیش کارڈریا اور حکمرجات کے ناظم صوبجات سے آئی ہوئی روپورٹیں اور تحریریں  
سناتے، ملکہ کے وقت نماز ظہر کی امامت کے لیے دعویٰ محل مسجد باہر نکلتے اور نماز  
پڑھا کر مسجد ہی میں بیٹھ جاتے۔ وہاں لوگوں کی زبانی فریادیں سننے، عصیان  
لیتے، اس کے بعد محل میں واپس آکر رئیسوں کو شرفِ ملاقات پختہ تھے، پھر  
دپر کا کھانا کھاتے اور مخصوصی درپر قیلول کرتے۔ نماز عصر سے فارغ ہو کر وزیریں  
معاصیوں اور مشیروں سے ملاقات کرتے، راشم کے وقت سب کے ساتھ دبایا  
میں کھانا کھاتے اور ایک مرتبہ پھر لوگوں کو ملاقات کا موقع دے کر آج  
کام ختم کر دیتے۔

عبدِ معاویہ اور خلافتِ راشدہ میں فرقی کی نوعیت۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضا کے بعد حکومت کی اگر یہی صورت تھی جو ہم  
نے بیان کی ہے تو ان کے عبدِ حکومت کو خلافتِ راشدہ میں اور خود انہیں خافر راشدین میں  
یوں شمار نہیں کیا جاتا؟ اولہ، اس تصور کی بنیاد حضرت معاویہ رضا اور ان کے عبدِ حکومت  
سے متعلقی وہ خیالات نہیں جن کا انہما رسول نما و دوی صاحب نے کیا ہے بلکہ وہ ایک  
مدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میر سے بعد خلافت ۳۰ سال رہے گی،

لہ مروج الذہب، ج ۲، ص ۱۷-۲۰: المطبعة الہٹی مصر ۱۳۴۴ھ سعید بیان قدسے تفصیل  
کے ساتھ پیش کیا ہے، اختصار کے پیش نظر ہم نے اس کا دو علم صورتیہان تقلیل کیا ہے جو اکبر شاہ خان بخوبی بدلنا  
نہ پہنچ سکتے ہیں ذکر کیا ہے (تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۵۷)

اس حدیث کے پیش نظر بعض علماء نے خلافت کے دو دلائل کو تجدید کر دی ہے جس کا  
طلب لینا کہ خلافتِ راشدہ کے بعد کا دور سر اسرائیل اسلامی اور جاہلی حکومت کا فرق  
جس طرح مولانا کا منشا ہے، یقیناً غیر صحیح ہے، ہمارے خیال کی حد تک علماء  
اتمت میں سے کسی نے یہ مفہوم نہیں لیا ہے۔ کم و بیش کے پھر فرق کے ساتھ وہ بھی  
بڑھاں ایک صحیح اسلامی حکومت تھی، خود خلافتِ راشدہ کا پہلا عہد بھی یکسان نہ  
مولانا کی تعریفات کے مطابق ہی اس کا نصف اول اپنے نصف آخر سے کمیٰ ہے تو  
میں محتاہز ہے، اس فرق کی وجہ سے ان میں کوئی تغیری نہیں کی جاتی، اسی طرح خلافتِ راشدہ  
کے بعد دور حکومت کا سر رشتہ خلافتِ اسلامیہ کے تسلیم سے کار باد دینا بالکل  
غیر مناسب ہے۔ ہمیں اس بات پر اصرار نہیں کہ حضرت معاویہ رضہ کے کوئی حکومت کو  
”خلافتِ راشدہ“ میں شامل کیا جائے البتہ اس بات کے مانند میں ہم سخت ترائق  
ہے کہ خلافتِ راشدہ میں شامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جمیلیت کی تینوار اور اس  
خصوصیات سے عاری حکومت تھی۔ حضرت معاویہ رضہ کے عہد حکومت کی صحیح و ممتاز  
سے ہمارا مقصد صرف اسی تصور کی تردید ہے۔

خواصیاً بعض علماء، المخواضت بحدی شکا ثور سنتر، والی روایت کی محنت کے بھی قائل ہیں  
جیسے تاضی ابو بکر ابن العربی اور ابن خلدون ہیں ہم تمام علماء کی اکثریت اس کی تائیں پہنچی  
اور اسی بناء پر اس کی توجیہ کرتی آئی ہے، خاکہ ولی اللہ صاحب نے اس کی ایک تازیہ  
اس طرح کی ہے کہ خلافتِ خاصہ منتظر دروس فنون سے مرکب ہے۔

اول، خلیفہ خاص کا وجود۔

دوم، اس کا تصرف نافذ اور تمام مسلمانوں کا اس پر اعتماد، واجماعت ہو  
کسی خلیفہ کے دو یا ہمیک وقت دلوں و صرف معدوم ہوں یا ایک ایسے  
میں اس کی خلافتِ خاصہ نہیں رہے گی۔ پھر شاہ صاحب نے ہم کو حکمت

ہر کام میں تدریسی رجح کی مقصودی ہے۔ یہکہ تنہ ایک حالت سے اس کی دوسری بالکل متناہی حالت پیدا نہیں ہوتی بلکہ ابھی تبدیلی تدریسی رجح ہوتی ہے۔ بنابریں حضرت علی رضی میں دو صفات تو پوری طرح موجود تھیں جو خلافتِ خاصہ کے لیے شرطِ اول ہے لیکن اجتماعِ علماء مسلمین اور انتظامِ ملک کی دوسری شرط نہیں پائی جاتی جو اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے وہ میں مسلمانوں میں افتراق رہا اور ان کا فرق اقطارِ ارض میں اخذ نہیں ہوا۔ اور ان کے بعد والے دوسرے میں خلیفہ خاص و الی صفات تو نہ رہیں لیکن دوسری شرط اس دور میں پائی جاتی ہے، اس سب ایک خلیفہ پر جمعت ہو گئے تھے اور انتشارِ افتراقِ ختم ہو گیا۔ اس طرح تدریسی بجا خلافت کا نام تھا ہوا۔ شاہ صاحب کی اس توجیہ سے ہمارے اس نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے جن کا اظہار ہم اس سے قبل متعدد جگہ کرچکے ہیں کہ وغشہ نام کی تبدیلی ضرور مانی جا سکتی ہے لیکن خلافت کی جگہ ملوکیت۔ لیکن حصنِ ملوکیت ہی کام تبدیلیوں اور بگاڑ کا سبب نہیں۔ اسلامی خلفاء میں بگاڑ تدریسی رجح آیا ہے اور میں ملوکیت کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ خلافتِ مبدل یہ ملوکیت نہ ہوتی تب بھی خلافتِ زوال آشنا ضرور ہوتی جس طرح خود خلافتِ راشدہ کا دور اس پر شاہد ہے اور میں مذکور اس حضرات نے بھی حضرت معاویہ رضی کے دور کو ملوکیت سے تحریر کیا ہے ان کے ذریکے بھی اس کا دور مفہوم نہیں جو خلافت و ملوکیت "میں بیان کیا گیا ہے انہوں نے اس لفظ کا اطلاق باقیا رہا قبیل کیا ہے، لیکن خلفاء و راشدین کے طرزِ عمل کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی کے طرزِ عمل کو شایلی نہیں کہا جا سکتا اور ان کے اجنبادی احکامات نفسِ الامر کے اعتبار سے اس طرح صحیح نہیں تھے جو ان سے ما قبل خلفاء کے تھے۔

**شاملًاً** بعض علماء نے صراحتہ اس تفریق کی خلافت کی ہے جو حضرت معاویہ رضی اور ان

کے مقابل خلفاء میں کی گئی ہے اور وہ انہیں اسی طرح راستِ نبوغ علیفہ مانتے ہیں جن طرح خلفاء راشدین کو ماتا جاتا ہے، جیسے ابی خلدون ہیں۔ ابی خلدون نے اپنے اس نقطہ نظر کے ساتھ اس امر کی بھی وضاحت کی ہے کہ عام موڑخین نے انہیں خلفاء راشدین میں شامل کر کے ان ہی کے ساتھ ان کے حالات بیوں ذکر نہیں کئے؟ اور کس بنا پر ان کا تذکرہ ان سے الگ کیا جاتا ہے؟ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

مناسب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضا کی حکومت اور ان کے حالات ان سے مقابل خلفاء کی حکومت و واقعات کے ساتھ تو کئے جائیں کیونکہ شرق و غرب عدالت اور صفاتیت میں وہ ان ہی کے بعد ہیں۔ اور اس بارے میں حدیث المحدثۃ بعدی ثلاثوں سنتوں کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پیشہ و خلفاء کے ساتھ شامل ہیں۔ موڑخین نے اپنی کتابوں میں بھو ان کا ذکر خلفاء سے الگ کیا ہے اس کی دو وجہ ہیں۔

اول یہ کہ ان کے بعد میں خلافت میں مخالفہ کی صورت پیدا ہو گئی تھی اس سے قبل وہ ایک اقتصادی اور اجتماعی چیز تھی، چنانچہ موڑخین نے دونوں حلقتوں میں فرق کر دیا۔ پس معاویہ رضا کی خلفاء میں سے بھی کئے جن میں مخالفے اور عصیت کا پہلو شام ہے اسی چیز کو "اہل الاہوا" ملوک سے تعبیر کرتے ہیں، اور انہیں بھی عام بادشاہوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں حالانکہ اس بات سے اللہ کی پناہ ہے کہ انہیں ان کے ما بعد بادشاہوں میں سے کسی

لہ اس سے مراد نہیں کردہ بنو نعلیفہ بیٹے تھے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعد میں لٹایا ہوئی چیز کو بھی لوگوں نے حصہ خلافت کی کوشش قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ اپنی سنت کے ملاع نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ لٹایاں فضائلِ ختمی رضا سے متعلق اجنبیاً اختلاف کا شرط تھیں، مسئلہ خلافت سے اس کا تعلق نہ تھا۔

کے ساتھ قتبیہ دی جائے، وہ خلافتے راشدین میں سے ہیں اور ان کے بعد خلفاء بنی مردان اور خلفاء عباسی میں سے بہتر و فضل اور دینداری میں ان کے مثل ہیں وہ بھی اسی صفت میں شامل ہیں۔ ہادشاہت زندگی میں خلافت سے کثر نہیں۔

دوسری وجہ اس بات کی کہ انہیں خلفاء را بعد کی بجائے خلفاء بنی ابیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا، یہ ہے کہ اموی خلفاء سلسلہ نسب کی ایک ہی کوئی سے منسلک تھے اور اسی میں سب سے نایاب حضرت معاویہ رضتؑ بتا بیریں انہیں ان کے ہم نسبوں کے ساتھ بدل دیا گیا۔ اور پھر خلفاء را بعد چونکہ مختلف الافتادب تھے، اس لیے اتنیں ایک سلسلے میں ذکر کر دیا، حضرت عثمان رضتؑ اگرچہ اموی تھے لیکن شرف و فضل میں قربت کی وجہ سے اتنیں انہی کے ساتھ شامل کیا گیا۔

لہ دو خلفاء راشدین، کا یہاں مطلب یہ مزدھی نہیں کہ وہ بالکل اسی طرح دو خلافتے راشدین تھے جس طرح اولیئی خلفاء ابیہ تھے ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لوٹیں بلکہ راست نہ خلیف تھے، گویا انہی پر اس لفظ کا اطلاق اصطلاحاً نہیں، مفہوم کے اعتبار

— سبے —

لہ تاریخ ابن تحدیل، انعامتہ جلد دعوم۔

## فصل دوم

### سوالات اور جوابات

خاتمہ کتاب پر مولانا لکھتے ہیں -

«اس بحث کو نہیں کرنے سے پہلے میں معتبر من حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے نزدیک میرا استدلال اور وہ مoad جس پر میرا استدلال مبنی ہے اور مبتداً صحیح ہوئیں نے اس استدلال سے اخذ کئے ہیں اسپ کچھ فلاط ہے تو خوشی اس کی نقی کر دیں اگر صرف نقی کر دینے سے کام نہیں چل سکتا۔ ان کو خود مثبت طبقے

سے صاف صاف یہ بتانا چاہئے کہ:

۱۔ قرآن و سنت کی رو سے اسلامی دیانت کے قواعد اور اسلام کے اصول حکمرانی فی الواقع کیا ہیں؟

۲۔ خلافتِ راشدہ کی وادِ اصل خصوصیات کیا ہیں جبکہ کی بتا پردہ خلافت علی منهاج النبوة قرار دی جاتی ہے؟

۳۔ اس خلافت کے بعد مسلمانوں میں ملوکیت آئی یا نہیں؟

۴۔ اگر ملوکیت نہیں آئی تو کی بعد کی حکومتوں میں خلافت علی منهاج النبوة کی خصوصیات موجود تھیں؟

۵۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ ملوکیت آئی تو وہ کی اسباب سے کس طرح آئی؟

۶۔ کس مرحلہ پر آپ یہ کہیں گے کہ خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی؟

۷۔ خلافتِ راشدہ اور اس کی ملوکیت میں دجوہ امتیاز کیا ہیں اور ایک کی جگہ دوسری کے آئنے سے فی الواقع کیا فرق فاصلہ ہوا؟

۸۔ کیا اسلام میں خلافت اور ملوکیت دو قوی یکسان ہیں یا الی میں سے ایک نظام اس

کی نگاہ میں مطلوب ہے اور دوسرانظام صرف ایسی حالت میں قابل برداشت ہے جبکہ کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش زیادہ بڑے سے نتیجے کی وجہ نظر

(آتی ہو، ص ۳۴۸ - ۳۴۹)

یہ سوالات اس سے قبل مولانا نے اپنی کتاب کے عنیریہ «سوالات و اعترافات» بسلسلہ بحث خلافت میں بھی کچھے ہیں، ان کی بہت کچھ وضاحت ہماری کتاب کے مختلف مقامات پر ہو چکی ہے ایسا مختصر طور پر ان کی مزید وضاحت کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص ان سوالات سے مخالفتی میں نہ پڑ سکے۔

بہماں تک پہلے دو سوالوں کا تعلق ہے، پہلے سوال کی وضاحت مولانا نے اپنی کتاب کے باپ دوم میں کی ہے وہ بحیثیت مجموعی ایک قابل قدر کوشش ہے، اسی طرح باپ ہوم میں خلافتِ راشدہ کی جو سات خصوصیات مولانا نے بتائی ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کیا ہا سکتا، یہ حصہ ہماری نظر میں پونکہ قابلِ احترام نہیں اس لیے اس پر اگر سے بحث کرنا ہمارا کیسے فروزی نہیں، البتہ خلافت کی پہلی خصوصیت قابلِ نقد تھی اس کی ہم وضاحت کر آئے ہیں۔  
تمیسراً چوتھا اور چھٹا سوال

«ملوکیت» سے مراد اگر باپ کے بعد بیٹے کا جانشین بنا ہے تو یہیں تسلیم ہے کہ خلافت کے بعد ملوکیت آگئی، لیکن اس کی ابتداء حضرت علی رضا کی وفات کے بعد ان کے صاحزادے حضرت حسن رضا کی جانشینی سے ہوئی ہے۔ اس کی ابتداء اگر مغض اس بنا پر ان سے نہیں کی جاتی کہ ان کے بعد خلافت ان کے اپنے گھر میں نہ رہی بلکہ حضرت معاویہ رضا کی طرف منتقل ہو گئی، تو بالکل یہی کیفیت حضرت معاویہ رضا ویزید کی ہے، حضرت معاویہ رضا کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کے بعد اس کا بیٹا جانشین ہوا، لیکن وہ حضرت حسن رضا کی طرح خلافت سے از خود دست بردار ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مروان غیظ بن گھٹے، ان کے بعد سے خلافت بنی مروان کے ساتھ خاص منصبی تبا آنکہ خلافتِ عباسیہ تمام ہو گئی۔ یہ حال حضرت علی رضا و حضرت حسن رضا کے بعد جس طرح خلافت ان سے نکل کر دوسرا سے خاندان میں منتقل ہو گئی، اسی طرح حضرت معاویہ رضا ویزید کے بعد بھی

خلافت خاندان معاویہ میں نہ رہی، خاندان بنی مردان کی طرف منتقل ہو گئی۔ ملوکتیت کی ابتداء یا تو حضرت حسنؑ سے کرنی چاہیئے مگر نہ پھر اس کی ابتداء حضرت مردان کے بعد عبد اللہ بن مردان کی خلافت سے کرنی چاہیئے۔ ایک خاندان کے ساتھ اختصاصی اقتدار بیان سے شروع ہوا ہے۔

اور اگر ملوکتیت مسے مراد یہ ہے کہ حضرت حسنؑ کے بعد، بشمول حضرت معاویہؓ جو نظام حکومت قائم ہوا وہ اسلامی خصوصیات سے مادہ اور ایک صالح غیر اسلامی حکومت کی خصوصیات کا آئینہ درست۔ جس طرح مولانا نے پہلی پھٹکا بات کرنے میں سنی تھا اور فرمائی ہے۔ تو یہ نقطہ نظر پر تو تسلیم کیے جانے کے لائق ہیں۔ ہمارا نے تو دیکھ حضرت معاویہؓ کا ددھ حکومت اسلامی حکومت کی اقیازی خصوصیات کا آئینہ دار تھا خلافت ماشیدہ کے مقابلے میں اس قدر میں کچھ خالی میاں ضرور نظر آتی پس میں اس کے باعذ کے اختبار سے حضرت معاویہؓ کا ددھ حکومت بھی اسلامی تاریخ کا درشن ترین دور ہے، وہ بیشتر خرابیاں ہمارے تو دیکھ بیج زادیاں مبالغہ اکیزیں۔ جو مولانا نے بشمول حضرت معاویہؓ کے ددھ ملوکتیت کے لیے ثابت کیا ہے۔ ان کا علطہ ہوتا ہم دلائل کے ساتھ اس سے پھٹکا بات کر آئے ہیں۔

ہمارے نقطہ نظر سے خلافت کی خصوصیات پہلی تکمیل ملوکتیت کے آئندے ہی ختم ہیں ہو گیں۔ ملوکتیت کے بعد بھی وہ بدستور اسلامی حکومتوں میں موجود گرد ہیں ہر یا جو حصہ حضرت معاویہؓ کے قدر میں ان پر کچھ کچھ نفع کیا ہے۔ وہ بندیریخ آکیا ہے۔ تسلیم ملوکتیت کے نتیجے میں نہیں آیا ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت معاویہؓ کے ددھ میں بھی ایسا ہونا چاہیئے تھا۔ لیکن ہم واضح کرتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کے ددھ میں وہ خرابیاں نہیں پائی جاتیں جو مولانا خان کی طرف منسوب کی میں۔

حضرت معاویہؓ کے بعد بھی پہلی تکمیل وہ صورت حال پیدا نہیں ہوئی جس کی منظکری مولانا نے اپنی قوتِ مُخْلِیک کے ذریعے کی ہے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اپنا تسلیم کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے خلفاً کے بھی ایسے کاموں کا ذکر کیا ہے جو

خلاف کی اکثریت کو سبی اسلامی عدل و مساوات کا نور قرار دیا ہے اور ان کی طرف نسبت  
نست و فحمدکی دانتا نوں کو سراسر حمد و قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ نتھی ہیں۔

دعوی کوں جمیع الخلاف کافوا مشتعلین بعا ذکرہ من التحور والغور کذ بعلیہم  
والحكایات المنقولۃ فی ذلك فیہما مأمور کذب و قد علمه ان فیہما العدل  
والزائد کعمر بن عبد العزیز والمهتدی بالله والکثرة له ولکن مظہراً  
لهمۃ المذکور من خلفاء بنی أمیة و بنی العباس ان كان احدهم قد یتبیع بعض الذنوب  
تمام خلافہ کے متعلق یہ دعوی کہ وہ شراب و کباب اور فتنت غیرہ میں اور  
نخے ان پر سراسر حمبوث ہے اس بارے میں ان کے متعلق جو حکایات ہن تو  
میں وہ بھی حد دیکھ لیں ہیں یہ واضح ہے کہ ان میں عمر بن عبد العزیز  
پہنچی با اللہ بھیسے مادل وزید خلفاء بھی ہوئے اُموی اور عباسی خلفاء  
کی اکثریت سے ان پر ایسیں کا ظہور نہیں ہوا۔ لکھ جو ان میں سے چند لیک  
بعض ان ہوں میں ضرور مبتلا ہوئے ۔

### پانچواں سوال

خلافت کی جگہ «ملوکیت» کے آنے کے اسباب کیا ہیں؟ یہ آج تک مام سوال  
ہے جو ہر شخص بلا سوچ سمجھے اپنی زبان سے ادا کرتا رہتا ہے مولانا شمسی یہ سوال کیا ہے  
یہ سوال بیشادی طور پر سوال کرنے والے کی اس ذہنیت کی غواڑی کرتا ہے جو مغل  
تعمیر جہودیت سے متاثر اور اسلام کے نظام حکومت کو بالکل جھوڑت کے ہم شکل سمجھتے  
ہے۔ اور اس کے بال مقابل «ملوکیت» کا نام سختی ہی اس کی جیسیں لشکن آکروڈ یونیورسٹی سے ملائی  
یہ نظریہ ہی بیشادی طور پر ملاط ہے اسلام کی نظر میں ان اصطلاحات کی اتنی اہمیت نہیں اصل  
اہمیت اس کی نظر میں جس پیزی کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب اقتدار نے اقتدار پانے کے  
بعد خلاصہ رسول کی مرضی و مشادر کا کس حد تک حیال رکھا ہے اگر اس نے ان اصولوں کی  
شیک شیک پاسداری کی جس کی پہايت اسلام کے کی ہے تو وہ سکر ان اسلام کی نظر میں بحال  
ہے چاہے وہ عوام کی آزاد نہ مرضی سے شلیفہ بنا ہو یا مدد و مشادرت سے اپنے بات یا کسی

احد قریبی رشتہ وال سکران کی جانشینی اختیار کی ہو۔ البتہ یہ منوری ہے کہ اقتدار سے پھر  
بھی صحن حصول اقتدار کی خاطر کسی امیر ناجائز کا ارتکاب اس نے نہ کیا ہو،  
اس حقیقت کے مبان یعنی کے بعد اس کے اسباب کا کوچھ لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا  
حقیقت صرف اتنی ہی ہے جو ہم نے بالکل ابتداء میں بیان کردی ہے اس کے اسباب اتنے  
گہرے اور پوچھنیدہ نہیں ہیں کہ اس کے لیے طویل و بعدی اور جان و خلق کی تلاش کی جائیں  
یہ صرف ان حضرات کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ جو صاحبہ کرام کی حضرت مدحت تو کجا سرے  
سے ان کے ایمان کے ہمیں تاکل نہیں، ان میں سے بعض اس کی کڑی مانع طبع پر سخیفہ بنی  
سادوہ کے فیصلے سے ملاتے ہیں احمد کوئی اگر کچھ زیادہ ہمی منصف مزاد ہو ا تو وہ اس  
کا آغاز حضرت عثمانؓ کی خلافت سے کرتا ہے۔ افسوس کریمہ دوسرے رجحان اہل سنت میں  
عامم پر تا جارہ ہا ہے، یہ دو سو لا انداز نکل جسی حضرت عثمانؓ کی شہادت کو سبتوڑا کرنے  
کے سے... جس کا منزہ یوتی ثبوت کتاب مدح خلافت و ملوکیت، ہے، اور جو  
شخص جسی اس انداز سے بحث اٹھائے گا۔ اس کے ژرکشی تحقیق کا پہلا تیر عثمانؓ کے بگرا  
کا نشاہ ہو گا۔

یہ بحث یہ ہے کہ اس کے پس پورہ کوئی خلقی ہاتھ کا کہ فرمائنا تھا۔ حضرت معاویہؓ نے  
افراق و اقتشار سے امت کو بچانے کے لیے نیزیک دلی چدی کا اقدم کیا تھا۔ پھر شریعت  
کی رو سے اس اقامہ کے مقدم جوانہ کی چونکہ کوئی معقول و برجہ موجود نہ تھی۔ اس یہ حدی  
چدی کا سلسلہ سلسلہ ہو گیا، اور اس طرح بادشاہتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا نیزیہ  
خیال رہے کہ خلافت کے بعد جو در ملوکیت، آئی وہ وہ در ملوکیت، نہیں تھی جس کی  
تصور کئی مولانا کی ہے۔ بلکہ وہ ابن خلدون کے افاظ میں صرف ظاہری شکل کا فرق بنتا  
اپنی تحقیق اندروج کے اعتبار سے وہ خلافت سے مختلف نہ تھی، ابن خلدون کے نقطہ نظر  
سے یہ کیفیت حضرت معاویہؓ، مروانؓ، عبد الملک بن سرمیان اور خلافت بنی عباس کے ابتدائی  
دور، خلیفہ بارون الرشید بارس کی بعض اولاد قلم قائم رہی اور بادشاہت اپنے حقیقی معنوں میں  
خلافت بنی انتیر میں عبد الملک بن مروان کے بعد اور خلافت بنی عباس میں بارون الرشید کے بعد

شروع ہوئی ہے، اور اس نکد میں بھی «بجکہ باوشاہت کی بہت سی خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھیں، خلافت کی بعض خصوصیات ان میں موجود ہیں گویا یہ ذرہ خلافت ملوکیت کا آہنگہ تھا بالکل بیباوشاہت کا بعد وہ جس میں خلافت کی کوئی خوبی موجود نہ ہی اس کے بھی بعد شروع ہوتا ہے۔»

### ساقیوں سوالی

خلافت و ملوکیت میں وجوہ احتیاز کیا ہیں۔ اور ایک کی جگہ دوسری کے آئے ہے فی الواقع کیا فرق واقع ہوا ہے

اس کا سید صاحب صاف ہو اب یہ ہے کہ «ملوکیت» سے مراد اگر اس کا دو تصور ہے جو کہ کل ہمارے ذمہوں میں پایا جاتا ہے جس کی بنیاد انقلاب فرانس سے پہلے کی خدا نا اکشنا باوشاہتیں میں نیز جس کی خصوصیات خود مولانا نے بتلائی ہیں، ہم ان وجوہ احتیاز کو تسلیم کرنے پڑیں لیکن اگر یہ باعث کریمہ جانے کہ حضرت معاویہؓ کی «ملوکیت» بھی ایسی ہی خدا نا اکشنا اور اسلامی روح سے مادی حق تقریباً تقابل قائم ہے۔ این خلدون کا نقطہ نظر ہم اور ذکر کو بچھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علیؓ کے بعد «خلافت» کی بجائے صرف نام میں بتلیا ہوئی کہ اسے «ملوکیت» کہا جائے گا، اس کے علاوہ اس میں خلافت کی خصوصیات موجود ہوں گا اسی خلدون کی مبینہ خواہیوں سے وہ پاک حق، حضرت معاویہؓ کی «ملوکیت» اور عیسیٰ پاک اس کی ملوکیت، پھر ان شیوں، ایک دوسرے حکمت ہے دوسری از سرتاپا زست، ایک اضللی و شرمی قید کی پابند ہے دوسری، اس سے قطعاً نا اکشنا، ایک خدا کے عطا کردہ مدد و رحمتیا رات میں محدود ہے۔ اور دوسری خود خدا کی احیات کی دھونے دارہ بہمن قعادت را از کی است تابر بجا طیا ہی ظلم ہے وہ شخص جو ان دونوں کو کیساں تصور کرتا ہے اور حضرت معاویہؓ کی «ملوکیت» کو بھی ایسی ہی خواہیوں کا سامنہ کر دے جو کافرا باوشاہتوں کا حکرہ اقتیاند ہی ہیں۔

جب ہمیں حضرت معاویہؓ کی «ملوکیت»، میں وہ خرابیاں قائم ہی شیوں میں چو مولانا نے باور کرانے کی کوشش کی ہے تو اس سے دوسرے صفحی سوال کا جواب کہ پس اپل جاتا ہے کہ شخص خلافت کی جگہ ملوکیت مدنامہ رکھ دیتے ہے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہے اسلامی مذاہجے میں بچکنے والی

کیا ہے وہ صرف ملکیت، کے بعد ملکیت کے نتیجے میں نہیں آیا، اس کے اسباب ہی میں جن کی ہم نے شروع میں نشانہ ہی کی ہے جس کی وجہ سے بکار کا آغاز بھی ملکیت سے کیا پھر پھر بکار

بکار نہماں تملکیت کا تیجہ پوتا تو خلافت راشدہ کے بعد کو اس سے محظوظ رہنا چاہیے تھا۔ لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے۔

### آنکھوں سوال

گیا اسلام میں خلافت ملکیت دلوں یکسان ہیں یا ان میں سے ایک نظام مطلوب ہے اور دوسرا باہر مجہودی قابل برداشت۔

ہماری گذشتہ وحادتوں کو سامنے رکھا جائے، تو اس سے اس سوال کا جواب بھی پاسانی مل جاتا ہے یہ سوال بھی بینہادی طور پر محرابی تصویر ہو رہی کہ تاثر پری کا تیجہ ہے اسلام میں ملکیت بجائے خود بھی نہیں، اس کا استعمال اس کو مطلوب بھی بناتا ہے اور نامطلوب بھی جس طرح ذاتی ملکیت، بجا کئے خود اسلام میں مستوجع اور ناممددیدہ ہیں چاہے اس طرح اکرمی الحضرتی تو کہ ورثتی ہو جائے نامطلوب اس وقت ہوگی جب مال و دولت کی یہ فراہمی انسان کو جادہ مستقیم سے ہٹا کر امراف و تبدیل زکوٰۃ و صدقات سے اخراج من افاد غریبوں کی خون اشتامی کی صفات مذموم اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ فراہمی عام طور پر انسان کے لیے ہٹک ہیں ہوا کہ ہے اور مشکل ہی اکرمی رضا کاران طور پر اس کے دو حقوق ادا کرتا ہے جو امشتمل تعالیٰ نے اس کے مال میں دوسروں کے رکھ ہوتے ہیں، اسی بناء پر مشتمل ہے ذائقی ملکیت، کوئی بجا کئے خود منداد کا بنیع قرار دے کر اسے افراد و معاشروں کے لیے ناجائز قرار دیتا ہے، اس کے مقابل اسلام اس فقط نظر کو صحیح قسمیت نہیں کرتا وہ داخلی اصلاح کے دریں بالدوں دوست کے طبعی فضائل نہ انسان کو بجا نہیں کو کوشش کرتا ہے اس کے لیے اس نے مال و دولت کے سیٹھے کی بے پایا خواہش کی سخت مدت اور آخرت میں اس کے لیے حساب شدید کی دعید ہی فرمائی ہے، لیکن ذائقی ملکیت پر اس نے قدمنہیں لگائی، مصحابہ کرام میں سینکڑوں ایسے جلیل العذر حضرات غیر جنہیں آج محل کی اصطلاح میں الحضرتی اور کرڈنیزی کہا جاسکتا ہے لیکن اس چیز نہیں اسراف و تبدیل پر یا زکوٰۃ و صدقات اغراض پر نہیں ابھار اس بیحان کی پرسایہ داری وہ اسلام میں مطلوب دلپسندیدہ ہے داداں حوالیکہ، مساید داری، کی اسلام نے عالم طور پر مدت ہی کی ہے،

اسی طرح ملوکیت کو پہنچنے خود فاسد قرار دینا مغرب کے پر پیش کیا گیجے ہے اسلام  
میں اس کی بیانیت نہیں اسلام نے اگر کمیں مذمت کی ہے تو وہ اس کے اس فلسفہ استعمال  
کی وجہ سے کی ہے جو مام طور پر بادشاہ کیا کرتے ہیں کوئی بادشاہ اگر اس کا صحیح استعمال کرے ملوکیت  
کو وہ خدا کے احکامات کو ناقدر کرنے مثکرات کو بعد گئے احمد خدا کے بندهوں کو بندهوں کی خلافی ہے  
آنکہ خدا کے صرف خدا کے واحد کا بنده بنا نہیں استعمال کرے تو یہ ملوکیت مذموم نہیں بالکل ہی  
طرح مطلوب ہے جس طرح کا اسلام میں ابو بکر صدیق تاول شہزادی علیؑ صراحتی داری مذموم نہیں  
مطلوب ہے کہ ملا مسا ابن خلدون اسی نکتہ کی دضاحت کرنے ہوئے لکھتے ہیں،

وہ بادشاہت جو خلیفۃ الرسل مصلحہ ما مرادہ لوگوں کو دین حق پر پہنچنے کی خاطر  
ہو، شارع کی نظر میں مذموم نہیں شارع نے اس کی جو کمیں مذمت کی ہے وہ  
اس پہلو سے ہے جب اصحاب اباظہ کے نگہ کریں اور لوگوں کو اپنی افرادی نسبت  
کے مطابق کرنے کے لیے استعمال کیا جائے کوئی بادشاہ اگر مغلیم ہادہ بادشاہت کا  
مقصد غرض رہنا کے لئے اس طریقوں کی بھلائی ان کو اخشد تعالیٰ کی حیادت کی طرف  
بلکہ اداہ اشکے دشمنوں سے بھادڑنا ہو تو یہ مذموم نہیں، سلیمان علیہ السلام نے  
ایسی بادشاہت کے حصول کے لیے دعا ملی ہے دیت ہب لی مُنْهَلًا لَا يَنْبَغِي  
لَا حَمِينَ بَهْرَوْيَ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت ملا ہڑا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے کیونکہ  
وہ جانتے تھے کہ میری نیوت دباو شاہت کا صرف باطل نہیں ہو سکتا، وہ

ایک درسرے مقام پر لکھتے ہیں،

ثیجیل رہے صحابہ کرام کی خدا داد ڈروت کو ہم نے حسن بات کو سمجھنے کی خاطر سماں یہ داشتہ تغیریل کیا چکھ جعل  
سریا یہ داری رکیپیچیل ازمن کا جو مفسری مفہوم رائج ہے اس عالم کا کتنی  
تمنی یہ اصلاح یہاں بطور مفہوم استعمال کی گئی ہے آج محل سریا یہ داری کا جو مفسری نظام نافذ ہے وہ اسلام کے  
نزدیک سراسر باطل ہے اور اس نظام کے ذریعہ جو لوگ سریا یہ داری سے ہیں وہ بھی ایمانی نور حادہ اسلامی جذبہ  
اخت دلتعاق سے عاری ہیں۔

کے مقدمہ ابن خلدون، فصل انقلاب الخلافة الالٹک،

فما فوجہ ہے کہ شریعت نے بذاتِ ملکیت کی نہادت کی بچے نہ اس کے قیام سے  
منع کیا ہے، البتہ اس کے ان مقاصد کی نہادت کی ہے جو اس سے ظہور پر یعنی  
پس جیسے قبڑ و ظلم اور تشعیل و لذات یہ اس کے قواب یہیں جو بلاشبہ منوع ہیں  
اسی طرح اس نے مدلول و الفاظ دین کے شعار و مراسم کا قیام اندھا اس  
نام کی رکاوتوں کو دود کرنے کے تصریحیں ہے نیز بھکے بدالے میں تواب کی بشدت بھی  
دی ہے یہ چیزیں بھی بادشاہت کے قواب یہیں پس شریعت جب بادشاہت کی  
نہادت کرتی ہے تو اس سے مراد اس کی وہ پہلی حالت ہے نہ کہ یہ دوسری بادشاہی  
کی فرض شریعت نے نہادت کی ہے نہ اس کے ترک کر دینے کا مطالبہ کیا ہے،  
اس نے بعض چیزوں کی جو نہادت کی ہے اس کا مقصد اس سے اس چیز کا  
بالکلی ترک نہیں، اس سے اس کا اصل مقصد اس کا رخ ترقی طرف محفوظ ہے  
ملکیت کے متعلق یہ دعویٰ کہ وہ صرف اس وقت قابل برداشت ہے پسکہ اس کو قبول  
کرنے کی کوشش زیادہ بڑے نقطے کی وجہ نظر آتی ہو یعنی شریعت ہے اسلام کی اس جماعت  
کیاں غلط مفہوم یا گیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے بعض محدثوں میں وہ خلافت بھی نامطلوب  
ناپسندیدہ ہو سکتی ہے جو طریقہ دلی جہد کی بجائے مولانا کے ہتھ لئے ہوئے طریقے سے قائم  
ہو لیکن خلیفہ کا کروار اس سے مختلف ہو جس کا اسلام یہیں سے تھا تاکہ تباہی اس کے  
بر جس ملکی طریقہ دلی جہد سے قائم ہونے والی بادشاہت کا حکمران ٹھیک ان اصولوں کے  
طابقوں سکھائی کرتا ہے جس کی اسلام نے ہدایت کی ہے جس کی نہیں تین مثال خود مولانا کے  
 نقطہ نظر سے حضرت عمر بن عبد العزیز کی ہے اسی «ملکیت» میں قابل برداشت نہیں، میں  
مطلوب ہے یا مطلوب و نامطلوب اور یہاں بعد غیر یکسان کی بحث ایسی ہے مخالف اتفاقی  
ہے جیسے آجکل اشراکیت نہ ہو حضرات موجودہ سرمایہ داروں کا کرد اور پیش کر کے سوال کریں کہ  
اسلام میں البند کا «قرقر» مطلوب ہے یا قارب دن کی سرمایہ داری یا یہ دلوں ہی مسلمان میں یکسان  
ہیں، اظاہر ہے موالی کی یہ تکمیل فریض پر مبنی ہے ایک عالم شخص اس کا ہی جواب نہ کاکہ اسلام میں

مطلوب و اپنے دیدگار ہے جو اس حالت کی سرایا یہ واروں میں سب قائد نہیں ہیں، ان میں عثمان احمد  
ابو کعبہ بھی پس عبد الرحمن بن عوف مددگار و ذریعہ بیانیں امیا در حضرت علیؑ بھی میں ان کی مدرسیا یہ واری  
کو کون نہ موم کر سکتا ہے؟ اسلام کی نظر میں ان حضرات کی سرایا دلمی صلی میں مطلوب اور اپنے دیدگار ہے  
اسی طرح حضرت معاذ رضیٰ اور حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے بادشاہوں کی مذکوکیت اسلام میں ناپسندیدہ  
نہیں ہوتی وہ بادشاہت ناپسندیدہ ہے جو انسان کو خود سرا در خدالی ہدایات و احکامات سے بے پرواہ بھائی  
بس طرح سرایا داری نہ مطلقاً نہ موم ہے نہ محمود اس کا استعمال اسے نہ موم بھی نا سکتا ہے۔ اور  
قابل تعریف بھی نا سکتا ہے۔ اسی طرح دلکشیت، نہ مطلقاً نہ موم ہے نہ محمود اس کا استعمال اسلام  
کی نتائج میں اسے مطلوب بخوبی نا سکتا ہے اور نہ موم و نامطلوب بھی،  
ہمارا نقطہ نظر اور اس کے ثمرات حسن۔

الحمد للہ و مخلافت مذکوکیت یہ پر بہاری تنقید یہاں حتم ہوگئی اس بحث میں ہمارا ہر چیز فقط نظر  
ہے اسے ایک مرتبہ پھر ذہن فتنہ کر لیجئے۔

خلافت کی وہ خصوصیات جو مولانا نے بتالی میں، ما سو اپنی خصوصیات کے سلسلہ ہے اس  
کے ساتھ ہی سہما دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی یہ خصوصیات مذکوکیت کے آخری ہی اس طرح حتم  
نہیں ہو گئی تھیں جس طرح سورج کے طور ہوتے ہی رات کی تائیکی مدد و مہم ہو جاتی ہے بلکہ یہ خصوصیات  
دکھنے کو کیتے بالتفہیں حضرت معاذ رضیٰ کے کور میں بھی بدستور موجود رہیں اور تاریخ اسلام میں  
بیسمیں ایسے در باو شاہ ہو ہوئے ہیں جن کی دلکشیت، اپنی خصوصیات  
و تفصیل کے لیے دیکھیے مقدمہ ابن خلدون، خلیل، انقلاب المخلافۃ الی المکمل حضرت علیؑ کے فقر کی داستان میں  
بہت مشہور ہیں۔ لیکن معتبر دیا یات اس کے بر مطسیں ہیں وہ بھی اپنے مراوح و طبیعت کی سادگی مذہب کے باصف  
سرایا دلکشیت میں مختلف مقامات پر لیے رہے ہیں میں تھیں جن میں سے چار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے اسی عطا فرمائی تھیں اور بعد میں یہی حضرت علیؑ نے عطا کی تھی حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان  
نینوں کی سالانہ آمد فی ایک ملاکہ دینار تھی، اس کے علاوہ اور بھی نہ آئی آمد فی تھنہ آمد فی کی سالانہ زکوٰۃ  
خود حضرت علیؑ کے بقول چالیس ہزار دیساں نکلتی تھی ملاحظہ ہو، سنن کبریٰ، ہبتو رو جہنمی سہما نہ بخراج  
بیکھیں بن ادم ص ۴۳۸ فتح الجہان، ص ۲۰، الہدایۃ النبیۃ، حجج عاصی

کی آئندہ وار سبق جو صفات نے خلافت کی تھی ہیں، ملوکیت میں جو کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ عرف ملکیت کے  
کنٹرولرین شہریوں کا کوہ تائب و ذہن کی اس تبدیلی کا نتیجہ تھا جس سے عیشیت جنوں پورا مسلمانوں  
سلطنت و حکومت پر چالہ ہوا اور جس کی وجہ سے اسلامی دنگی کے ہر شعبوں میں کچھ بگام پیدا ہوا  
کرنے لگے جبکہ بھی اس حالت پر باقی نہ رہا، جس پر وہ زمانہ رسالت یا حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ  
کے عہد میں تھا، البتہ ہر دو میں اللہ تعالیٰ کے نام سے بندے ہوتے رہے ہیں جنہیں خاص  
طور پر اس نے تلب و ذہن کی اس تبدیلی سے محفوظ رکھا اور انہیں اصلاح و تجدید کی  
سلطانی ہمارا تباہ و نیت بخشی۔ مصلحتیں کایہ گروہ ہر صورت کے افراد پر مشتمل تھاں  
مدد و مصروفیاں بھی ہیں، جنہوں نے اسلامی معاشرے کی نہاد پر اقدار کر کر اس پر جیاتی تھاں  
بخشش اور خرک و دہ دعوٰت کے گھٹا ٹوپ اور میرون میں پھر سے توحید و سفت کی تفہیمیں  
روشنیں کیں، ان میں فتحا نے حدیثی بھی ہیں جنہوں نے علم حدیث کی حفاظت میں اس کی  
سلطانیت تدوینی اور ذہنی اور انسانی پہاڑ کا انباطاً کیا اور اس کے ساتھ ہمیشہ احمد  
کی خواتیں ہر صورت و رعایات سے قطعیت کی۔ ان میں امراء و ملوك بھی ہیں جنہوں نے سیاست  
نے اس بگاڑ کی اصلاح کی جو خود ان کے پیشوورہ بادشاہوں " کے ملک طرزِ محل کی وجہ  
بھیجا ہے، جاتارا۔ اگر ملکیت " خود فساد کا منبع ہوئی تو کسی بادشاہ " کے انتہا  
اصلاح و تجدید کا کام کیسی سراجام نہ پاتا، لیکن ماقصری ہے کہ ایسا ہوا جس سے کوئی شخص  
اکٹھنیں کر سکتا۔ بادشاہوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا کام لیا، اس سلطنتیہ نے خود  
مولانا نے حضرت میر بن عبدالمعزیز زرخ کی مثال دی ہے، یا مسلمانی مسٹروں میں سہلو شاہ  
ہے۔

حضرت معاویہ و میرہ کے متعلق کتب تواریخ کی بعض خلاہری روایات سے جو یہ تاثر  
دیا گیا ہے کہ ہم کے دور میں اسلامی حکومت کی تمام امتیازی خصوصیات کو ہٹا کر کھینچا  
گیا تھا، یعنی لوہا ملک خلاہ ہے، اس پنیاد پر یہی دعوی ایک دسر اشخاص خدا فتنہ مانند  
کے لئے آخر کے متعلق بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کی وجہت گورپلی ہے، تحقیق  
کیا ہے وہیں تکہ تو تباہ تحقیق کی عشورہ طرزیوں سے حضرت عثمان رضو و حضرت علی بن ابی طالب رضی

بھی شکل بوجائے گا۔

ہمارے نقطہ نظر کے جتنا صحیح نکل سکتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

صحابہ کرام کے مشاہرات اور حضرت عثمان و حضرت معاویہ وغیرہ کے اتمامات کی ایسی مقولوں تو جیسے ممکن ہے، جن سے ان کا شرفِ صاحبیت محروم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ان سے جو تقدیت اور حسنِ نفع ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر قرآن و حدیث نے ان کی جو صفات بتائی ہیں، ان کی نفع نہیں ہوتی ارضی اللہ منہم و رحمۃ الرحمہن موجودہ نسل کے ذہن میں اپنے اسلام سے فرقت کی بجائے محبت و تقدیت پیدا ہو گی اور ان کی نگاہیں اپنے حال مستقبل کوتا بنا کے لیے ہیروں کی طرف نہیں بلکہ اپنے ان اسلامی ہی کی طرف اٹھیں گی، جو اپنی بعین کوتا ہیوں کے باوصاف مسلمان اور اسلامی علما کے ہمپردار رہتے، جو ہمیشہ اسلام کی طرف ہر اٹھتے واسطے ہاتھ کو قلم لہدا سن کی طرف اٹھتے واسطے قدموں کو ٹھیل کر دیتے رہے۔ رحمہم اللہ رحمن رحیم و راضی

اور اس سب سے بڑھ کر اسلام کا نظام حکومت و متفاصلت «نہیں رہتا کہ جس کی جگہ دنیا نے ۳۰ سال بلکہ حرف ہوا تو ۳۰ سال ہی عمر قاروی رہ کی شہادت تک» (ویکھی ہو) اس کے بعد وہ شیعوں کے امام غائب کی طرح ایسا روپ و شیوه ہو گیا کہ جس کو دوبارہ منتظر ہا پر جیخے کے بیٹے تیرہ صدیاں بیت گئیں اور دیکھتے دیکھتے تمام مسلمانوں کی آنکھیں بھی پتھرا گئی ہوں بلکہ اسلام کا نظام حکومت ایک متک، جاحدار اور دوسرے میں قابل عمل نظر رہتا ہے، ایک دوسرے ذریعات کے ساتھ ساتھ وہ ہر قدر میں اپنی صبح و روح کے لئے تذویریہ محل رہا، حتیٰ کہ اس دوسرے بھی وہ سعودی عرب میں روپہ عمل، اپنی قوت اور تازگی کی شہادت دے رہا ہے، مختلف دو قرون میں باوشا ہوں کے نہ طڑیز عمل کے نتیجے میں اسلامی حکومت کی خصوصیات کے بہت سے نقوش و صندل لائے مزدور۔ یہیں تاہم ان کی کچھ نہ کچھ چھاپ پھر بھی ہر دوسرے میں قاییاں رہی ہے، زوال و تغیر ایک نظری عمل ہے، جس سے دنیا کی ایسی کوئی چیز بیشتر نہیں ہو سکتی جس کا وجود معنی چند ہونے نہیں بلکہ صدیوں تک رہتا ہے، دنیا کا کوئی کا نہ ہو یا لکھا رہا، پیغام نہیں کیا جا سکتا جس پر مسروراً ایام فی زوال و تغیر کا کچھ نہ کچھ نہ سایہ نہ ڈالا

ہو، اسلامی نظام حکومت نے پوری بارہ صدیاں دنیا پر حکمرانی کی ہے، یہ کوئی محتوا عرصہ نہیں وڑا طویل راستہ ہے جو قطع کے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قطعاً ناممکن مقاکر کرتی طویل صدیوں میں اس پر تغیر کا کوئی دارث ہوتا یا اگر دارث ہوتا بھی قوہ اسے سنبھالتا ہو اس کا کوئی اثر قبول نہ کرتا، اس پر بڑے بڑے تغیرات آئے، متعدد مرتبہ اس کی زندگی تک خطرے میں پڑ گئی، لیکن پھر کوئی مرد ہدویش آنا ادا اس کی عروقی مردہ میں تائی خون دوڑا کہ اس کو حیات فوجنکش دیتا۔ پس اس کی کوتا ہیوں اور خامیوں کو بنیاد بنا کر یہ دسوی کر دیتا کہ اسلامی نظام حکومت صرف ۳۰ سال ہی پڑا، اس کے بعد سے آج تک روئے زمین پر کہیں (سوائے عمر بن عبد العزیز کے غصہ تریبی وحدت کے) یہ اپنی اصلی صورت میں قائم نہ ہو سکا، یا اس انگیز طرزِ عمل ہے جس سے مسلمانوں کی موجودہ نسل کے دل و دماغ سے اسلامی حکومت کے قیام کے جذبے کا ہی سرے سے منقوص ہو جانتے کا خطرو ہے۔ اس کے برعکس ہمارے نقطہ نظر سے وہ اب یعنی اسی طرح قابض علی ہے جس طرح پہلے اور دار میں وہ وقتی فوکٹا رہے زمین پر اپنی روح کے ساتھ جلوہ گردہ ہے اس سے قوم کے اندر ایسا نبی کی نہیں بلکہ ان کے اندر امیدوں کے چوانع روشن ہوں گے مان کے جذباتِ عمل مشتمل گئے نہیں بلکہ اہم امیر گے اور اسلامی حکومت کا قیام نہیں ناچکی نہیں بلکہ میں مکن نظر آئے گا۔

«خلافت و ملوکیت» اور اس کے نتائج۔

«خلافت و ملوکیت» میں چون نقطہ نظر میش کیا گیا ہے وہ مختصر یہ ہے:-

(الف) اسلام کا نظام حکومت (خلافت) محتوا سے ہی ہو سے بودہ ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، اور اس کا آغاز بھی حضرت ختنی رضا کے ان اقدامات سے ہجا جو انہوں نے اکابر صحابہ کو معزول کر کے ان کی بجائے قربی رشته داروں کو خائز کیا، منیزہ پر اس کے ساتھ خصوصی دراعات بر تین مسلمانوں کے مشترکہ بیت المال سے اپنے رشته داروں کو خاص طور پر عطا دیئے۔ حضرت علی رضا نے اپنے دو نوجوان فیتیوں مولیٰ عاصم کے سرخان کو، جس کی بنیاد حضرت ختنی رضا کو گھٹ ساختہ، بعد نکھن کی بڑی کوشش کی، لیکن

۲۷۔ یہ مادر حضرت معاویہؓ کے خلیفہ بنت ہی نظامِ خلافت ختم ہو گیا۔

اب، حضرت معاویہؓ نے اپنے قدرِ حکومت میں دشمنوں تک اسلام کا سعی کیا۔ انہم دشمنیاں خصوصیات کوٹ کر کر دیا، اور اس کی پلکاں ایک آہر از دشمنی کا نام ہے۔ انہم کی وجہ سے اسلامی عصموصیت سے ماری ہوئی ہر جا ہی مادر دینیوی حکومت کی خصوصیات کا پیشہ وار ہتا، اس سے لے کر آج تک، واستشارہ مکانی جب المعزی زادہ المسکن میں یعنی نظامِ ملوکیت پہنچا رہا ہے۔

(۱) مزید برآں اس ضمن میں مولانا محمد ولد صاحب نے حضرت شاہ، حضرت مخدوم، حضرت میرزا بن شعبہ، حضرت معاویہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت عائشہؓ و زینہؓ و زینہؓ و خواں اللہ میلیم، جیسیں کے کوشاں جس طرح سبھ کے کوشاں کیا ہے۔ مگر لیکن وہ ارشاد و استنان ہے، جس کی تفصیل کا شیخ کتاب پڑھ چکے۔ مولود کے اس نظر، مکار اور مژاہیں کے جو نشانات پر نکل سکتے ہیں مذکور ہوں یہاں پر درج ڈیلیل ہیں۔

۱۔ صحابہؓ کرام کی روائی تقدیس و ملت کا تاریخ ہو گئی، تلقیدت و مسلمانوں کی نفرت و سووچی نے سے لی، وہ سرے لفظوں میں لوں جھی کر کھینچنے اور تسلیم کو لیک مضمون پیارا فراہم ہو گئی ہے اب یہ ٹیکوئی صرفہ شیعوں کی بھی نہیں رہی کہ وہ صحابہؓ کام کو پرا کیں، اہل سنت میں سے جبی اب پر کردہ حضرت مسیح دیغیرہ ہم پر اس طرح تلقید کرنے لگا ہے جیسے وہ یا کسی انسان کو تھوڑی سی خوبی کی دعوتی، البتہ براہمیں کا وہ مجموع سخت۔ صحابہؓ کرام کے اسی کو اس سے قرآن و سعیوٹ نے پیلان کیا ہے، اس کو طالب میں، بھت اولاد نے اپنی ذہانت اور دروت تعلیق سے پرکریو جو حد عطا کیا ہے، تعلیق ہاں کی وجہ سے ایک لکھیج اسخن کی سنت میں لازماً وہ سرے کی تکمیل کرنی ہے، لہذا پرکریو جو حدود کی محنت کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ جب اسلام کے نظامِ حکومت کو خود حضرت شاہ، حضرت مخدوم،

خدا ختم کر دیا سارو دادرسے تمام صحابہؓ نے اسی پر کامیابی حاصل کی۔  
کریم پیغمبرؐ سلام کے ترجیح یافتہ اصحابہؓ میں کوئی بزرگ ترین حاصل نہیں  
اپنی اصل صفت میں قائم درکٹ کے، حضرت علیؓ (علیہ السلام) کی پیغمبریؐ اور  
تو صحابہؓ کرام رہ نے ان کا ساتھ دیا، بلکہ حضرت مسیح رسالت پر بھل گئے  
میں کو دیشے، اور اس کے بعد سے اپنی تکمیل اسلام کے پر کامیابی حاصل کی۔  
بے جرم یہی اسلامی حکومت کی کوئی خوبی موجود نہیں بھے، اسی حاصل نہیں  
یہ اساس مالیوسی ذہنوں میں اچھتا ہے کہ اب اسلامی حکومت کو یہم کتنا  
چاہکا ہے، جب صحابہؓ کرام ایک دفعہ خدا کا ہدف نہیں کر دیکھ دیکھ کے  
کتاب وہ کون سمجھا نفس ہے جو اس دفعہ کا از برخود مولانا علیؒ ہے۔  
۴۔ اس سے ان تحدیدیں و مستشرقین کے اس ساتھ ذہنوں کا تائید ہوتا ہے جو  
یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا فلاح حادِ صحت ایک سماں میں مددیکی کرنے کا عمل  
کے لیے تھا۔ جو اپنی زندگی کے مہور سالی پر یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا فلاح  
اس کے احیاد کی آذروں کو سینہوں سے جتنا ہے ملکہ اس کا فلاح نہیں کاہل  
اس دادرسے کے مطابق مسلمانوں کی پہلی اپنی دفعہ مدد و مزیدگی کا اعلان ہے۔

### لیکن مزدوروی و حناخت

ملک ہے یہاں کوئی شخص یہ حال واقع نہ کر سکتا۔  
یہ لکھا ہے کہ نہایم عدالت مرفت ۳۰۰ سال جو کامیابی حاصل کی۔  
شیکھ ہے، یہ خود پڑی کتاب میں یہ نظر میں آتی ہے کہ مدد و مزیدگی کا  
کتاب کوئی شخص کیا اس سے مختلف تاثر لے کر اس کا فتح ہے جو کسی شخص کے  
کتاب پر متنے کے بعد بھی اگر ہمارے خدا سے اتفاق و کامیابی اسکی کوئی کامیابی  
نہ ہے خود مولانا کے ذہن میں یہ لکھ کر پہلا بھائی ہے۔ اور انہوں نے یہ مدد و مزیدگی  
لکھا ہے کہ یہی کتاب سے کوئی شخص یہ مدد و مزیدگی سے سکتے ہے۔  
لکھ کر لکھتے ہیں۔

یہ پے متصور رواداں تغیرات کی جو مخلافت، راشدیہ کی جگہ نوکریت کے آجا نے نے رہنا ہوئے... لیکن یہ خیال کرنا سخت غلط ہو گا کہ ان سماں تغیرات نے سرے سے اسلامی نظامِ زندگی ہی کا خاتمہ کر دیا بعضی لوگ بڑے سے ٹھی انداز میں تاریخ کا مطالعہ کر کے بتتے تخفیف و فصلہ کر داتے ہیں کہ اسلام تو یہ تیس سال پہلا اور پھر ختم ہو گیا۔

مولانا خلیفی فنکارانہ مہارت سے مسئلے کی وجہت بدلتی ہے ایہ آج محل کیسے ہے کہ ۳۰ سال کے بعد اسلام، ہی ختم ہو گی؟ "اسلام" کے مانندے کی تہذیب اور ڈھونڈنے کی تعداد میں ہر دوسرے ہے ہیں، اسلامی نظامِ زندگی کے عمل پیکر بھی ہر قدر میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے ہیں، اس سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے، ان کا دھوی صرف یہ ہے کہ اسلام نے جو نظامِ خلافت مسلمانوں کو عطا کیا تھا وہ صرف ۳۰ سال پل کر ختم ہو گیا، اس یہے اسلام کا نظامِ حکومت کا بدل نہیں ہے۔ وجلہ مولانا کی کتاب بھی اسی محور کے تحدیح و گھوم ہی ہے کہ نظامِ خلافت معاشرہ کے خیفہ بنتے ہی ختم ہو گیا اور اس کے بعد سے آج تک وہ دوبارہ نافذ نہیں ہو سکا، اس یہے مولانا نے دعوے کی وجہت ہی بدل دی ہے، حالانکہ اسلام کے خاتمہ کا دھوی نہ کیا ہے، نہ کوئی ہوش مدد کوئی کر سکتا ہے، الجنة اور کاجرد دھوی ہے، مولانا نے یہ کتاب کہہ کا اور آخر میں دعوے کی وجہت بدل کر اس پر ہر قدر یقینی ثابت کر دی ہے۔

کیا اب اس کے بعد اس امر میں کوئی چیز رہ جاتا ہے کہ یہ کتاب بدینشیت بھروسی مسلمانوں کو اسلامی نظام حکومت کے قیام سے تا امید کرنے والی ہے اگرچہ خود مسلمانوں کی وجہتی اور اپنی عدویتی وجہتی کو خوب کہا جائیں گے۔

**لِكَتَبِ الْحُكْمِ لِلْأَنْجَانِ**

۹۱-۹۰ءے مال ماؤں ۱۹۷۰ء

۰۷۴۶۱

# مصادرو ما نخذل

## تلميذ درسته

تلميذ للحكم والملوك - ابن جرير الجيزي

البداية والنتهاية - حافظ ابن كثير

الكلال - ابن الأثير

الطبقات الجيزي - ابن شد

تلميذ ابن حذرون

مقدمة ابن حذرون

الناسف والشرافت - بلاطى

فتواج البگدادان -

مرودح الذهبي - المسعودي

اللامامة والسياسة - ابن تقي الدين

تاریخ بغداد - الخطيب البغدادي

تهذیب تاریخ ابن حصار - ابن هشان

رسیر اعلام البلاط - الفزی

الأخیثة - الباقعی

بهرام من السیرة - ابن حزم

ضئی الاسلام - احمد بن مصری

الاستیعاب - ابن عبد البر

الادساتی اصحاب الرضا - حافظ ابن حجر

شرح فتح البلاطفة - ابن الجوزی

## تفسیر

القرآن العظيم

تفسير المثل - داشیدر شناسی

تفسير ابن حجر الجيزي

تفسير ابن كثير

تفسير الرؤوف المنثور - السيد طلي

تفسير المثلثي راغبی (قامی شاه، اندیشه اندیشه)

احکام القرآن - الجھانم

احکام القرآن - ابن الحجر

احکام القرآن - امام شافعی

## احادیث

صحیح بخاری

صحیح مسلم

سنن ترمذی

المسنون الجیزی - امام بیهقی

مشکوحة المصایح

الأقاوم - امام شافعی

مسنون ابن الکثیر

مجموع الرؤوف - حافظ شیخی

الموضوعات الجیزی مکمل علی فتاوى

### شروح وأدبيات

كتاب العروض - حافظ ابن حجر

العقدة المسارين - محمد بن عبد الله المساري

المساورة لشرح المسألة - ابن القاسم

المفصل - حافظ ابن حزم

روايات الفتاوى - شاهد ابن الصادق دهوك

منقول بالمعنى - شيخ الإسلام ابن تيمية

العواصم من القوائم - ابن العربي نافع

تعيقات على العواصم لجعفر الدين الشفيف

تعيقات فخر الدين عاصم بن مسلم

كتاب العروض (كتاب) شاهد عبد الرحمن

البراءة المحرقة - ابن حجر العسقلاني

كتاب العروض - حافظ ابن حجر

كتاب العروض - ملخص حديث مسلم

كتاب العروض - حافظ ابن حجر

الدرر الكريمة - درر العلامة

كتوبات هولاكو حسين - محمد بن

سيف الدين (كتاب تحف)

حضرت معاذ بن جبل سيبسيان (كتاب راجح بن

تدريح الإسلام (كتاب شاهندر) حبيب كباري

تاريخ العامتة - شاهد جعفر الأبياني

كتاب صفات دعوانا أبو اليام (كتاب أزاد)

رسائل وسائل بخصوص القرآن (كتاب نور الدليل)

تحريك تجديد حماستان -

بابن الاستير - العبور (كتاب العبور)

تحتی قہاڑیہ رہ میں ایک گرانقدر اضافہ

# خلافت ملوکیت

تاریخی و شرعی حیثیت

آئیعت : حافظ صلاح الدین روز

مولانا مرود دوی صاحب کی کتاب "خلافت و ملوکیت" کے  
چوبیں اب تک کمی تلقید میں کتابیں شائع ہو چکے ہیں لیکن، تازہ کتاب  
کمی جذبات سے منفرد ہے :-

- ۱ - اسلام کے اجتماعی نظام میں تدابی بھی میں کہ اسلام برب کی تحقیق
- ۲ - خلافت و ملوکیت کتاب کی تحقیق تحریر ہلی مرتب تفصیل و تحقیقی تحریر
- ۳ - اس کتاب نہ کوئی تحریریں کئے نئے آئندہ ایام کے ہلی اخذ  
جو ایسا نیستے گئے ہیں۔
- ۴ - ملوکیت بخوبی حضرت معاویہ پیر عابد کراہ ایزamat کا اچھوٹے  
انداز میں وضاحت

۵ - خلافت اور ملوکیت کی شرعی تاریخی میثمت پر مدل بحث

۶ - مدرج بحث بھی چھیقت افراد و احوال سے مزید اور علم عقائق کی آئینہ اور

۷ - اسناد اور مدد و مدد صحتی، معیاری کتب، وغایہ

۸ - مجدد خواصیورت و مسالہ کوئی میثمت یہ فاعل ہے۔ ایک بڑا نزد ۱۰۵

حوالہ میثمت: المکتبۃ النسافیۃ۔ شمس محل وظول الہبیو ۲